



طبقات ابن سعد

جلد چہارم

مُصَنَّفٌ
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ
(المتوفى ۲۳۰ھ)

سیرت الکبریٰ



نفس اکبر بازار کراچی طبعی

طبقات ابن سعد

حصہ ہفتم

دورِ آخر کے صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین و فقہاء رحمۃ اللہ علیہم

اہل بصرہ، بغداد، شام، مصر اور دیگر اسلامی شہروں کے صحابہ رضی اللہ عنہم،
تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء رحمۃ اللہ علیہم کے حالات
ملاحظہ فرمائیے۔

مصنف

محمد بن سعد (التونی ۲۲۰ھ)

ترجمہ

محمد راغب رحمانی

نقیس اکیسی
اُردو بازار کراچی طبعی

طبقات ابن سعد

کے اردو ترجمہ کے دائمی حقوق طباعت و اشاعت

چومدری طارق اقبال گامندری

مالک ”نفیس اکیسی“ محفوظ ہیں

نام کتاب طبقات ابن سعد (حصہ ہفتم)
مصنف علامہ محمد بن سعد التوفی ۲۳۰ھ
مترجم محمد راغب رحمانی
اضافہ عنوانات و حواشی مولانا عیدالمنان صاحبؒ
ناشر نفیس اکیسی اردو بازار کراچی
قیمت /- روپے

نفیس اکیسی
اُردو بازار کراچی

فہرست مضامین

طبقات ابن سعد (حصہ ہفتم)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۷ رافع بن عمر وغفاری رضی اللہ عنہ	۲۹ قبل از مطالعہ
// جاشع بن مسعود رضی اللہ عنہ	۳۰ بصرہ میں بس جانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم
// خالد بن مسعود سلمی رضی اللہ عنہ	// تابعین، علماء اور فقہاء رضی اللہ عنہم
۳۸ عائذ بن عمرو مزی رضی اللہ عنہ	// حضرت عقبہ بن غزو ان رضی اللہ عنہ
// عبد اللہ بن عمرو مزی رضی اللہ عنہ	۳۱ بصرہ کی وجہ تسمیہ
// عبد اللہ مزی رضی اللہ عنہ	۳۲ بریدہ بن حبیب رضی اللہ عنہ
// قرہ بن ایاس بن حلال بن رباب رضی اللہ عنہ	۳۳ ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ عنہ
// قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ کے بھائی	// عمران بن حصین بن علی رضی اللہ عنہ
۳۹ حمل بن مالک بن نابعہ ہذلی رضی اللہ عنہ	۳۴ محجن بن اورع اسلمی سہمی رضی اللہ عنہ
// عباس بن مرداس بن ابی عامر رضی اللہ عنہ	// اُمیہ بن خشعی خزاعی رضی اللہ عنہ
// جاہد بن عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ	۳۶ عبد اللہ بن مغفل بن عبد نجم رضی اللہ عنہ
// عبد اللہ بن شخیر بن عوف بن کعب رضی اللہ عنہ	// معقل بن یسار رضی اللہ عنہ
۵۰ معاویہ بن حیدرہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ	۳۷ حارث بن نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ
// مالک بن حیدرہ رضی اللہ عنہ	// عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ
// قیس بن خارق رضی اللہ عنہ	// ابو بکرہ رضی اللہ عنہ
// عیاض بن حماد بن محمد بن سفیان رضی اللہ عنہ	۳۸ براء بن مالک بن نضر بن ضمیمہ رضی اللہ عنہ
// قیس بن عاصم بن سنان بن خالد رضی اللہ عنہ	۳۹ انس بن مالک بن نضر بن ضمیمہ رضی اللہ عنہ
۵۱ زبیر بن عبد ربیع بن امرؤ القیس رضی اللہ عنہ	۴۵ ہشام بن عامر بن اُمیہ بن زبیر رضی اللہ عنہ
// اقرع بن حابس بن عقیال بن محمد رضی اللہ عنہ	// ثابت بن زبیر بن قیس رضی اللہ عنہ
// عمرو بن اہتم بن کمی بن سنان رضی اللہ عنہ	۴۶ بشیر بن ابی زید رضی اللہ عنہ
۵۲ ضحصہ بن ناجیہ بن عقیال بن محمد رضی اللہ عنہ	// ابو زید عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ
// صعصعہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرزدق شاعر کے چچا	// حکم بن عمرو بن مجدع بن حذیم رضی اللہ عنہ

۵۹ عداء بن خالد بن ہوذہ بن خالد رضی اللہ عنہ	۵۲ نمر بن تولب بن اقیش رضی اللہ عنہ
۶۰ اولاد وازن تمیمی کا عشی	۵۳ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ
۶۱ ابو مریم سلولی رضی اللہ عنہ	// حکم بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ
// عباد بن شریحیل بکری رضی اللہ عنہ	// حفص بن ابی العاص رضی اللہ عنہ شاعر
۶۲ بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ	// مالک بن عمرو عقیلی رضی اللہ عنہ پھر قشیری
// قبیصہ بن وقاص رضی اللہ عنہ	۵۴ اسود بن سمرج بن حمیری بن عبادہ رضی اللہ عنہ
// جاریہ بن قدامہ سعدی رضی اللہ عنہ	// تکیب بن زید بن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
// سعد بن اطول بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	// قتادہ بن ملحان سدوسی رضی اللہ عنہ
۶۳ حریش بن حسان شیبانی رضی اللہ عنہ	۵۵ ابو جری سلیم بن جابر جہمی یا جابر بن سلیم جہمی رضی اللہ عنہ
// حرملہ بن عبداللہ کعھی رضی اللہ عنہ	// ابو سلیمان مالک بن جویرث لثی رضی اللہ عنہ
// عبداللہ بن سبرہ رضی اللہ عنہ	// اسامہ بن عمیر ہذلی رضی اللہ عنہ
// عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ	// عرفجہ بن اسعد بن کزب عطاردی تمیمی رضی اللہ عنہ
۶۴ عبداللہ بن ابی الحسماء رضی اللہ عنہ	۵۶ انس بن مالک رضی اللہ عنہ
// عبداللہ بن ابی الحجد عامر عبدی رضی اللہ عنہ	// کہس ہلالی رضی اللہ عنہ
// ابو بذیل میسرہ الفجر رضی اللہ عنہ	// ماعز بکائی رضی اللہ عنہ
// طلق بن خشاف قیس رضی اللہ عنہ	// قرہ بن دعویم نیمی رضی اللہ عنہ
// ابو صفیہ رضی اللہ عنہ	۵۷ خشاش بن حارث غمیری رضی اللہ عنہ
۶۵ ابو عسیب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام	// احمر بن جزء سدوسی رضی اللہ عنہ
// نمیر خزاعی رضی اللہ عنہ	// سوادہ بن ربیع جرمی رضی اللہ عنہ
// قتادہ بن اعور ساعدہ رضی اللہ عنہ	// علاشہ بن شجار سلطی تمیمی رضی اللہ عنہ
۶۶ قتادہ بن اونی بن موالہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ	// عقبہ بن مالک لثی رضی اللہ عنہ
// قیس بن حارث بن یزید بن شہل رضی اللہ عنہ	۵۸ خزیمہ بن جزء اسدی رضی اللہ عنہ
// مسیح بن حصین بن یزید بن شہل رضی اللہ عنہ	// سرہ بن جندب بن ہلال رضی اللہ عنہ
۶۷ حارث بن عمرو سہمی رضی اللہ عنہ	// حرملہ غمیری رضی اللہ عنہ
// عبدالرحمن بن حمیش رضی اللہ عنہ	۵۹ تہیشہ ہذلی یا تہیشہ الخیر رضی اللہ عنہ
// سہل بن صحز بن واقد بن عصمہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ	// طلحہ بن عبداللہ نضری، لثی، کنانی رضی اللہ عنہ

۷۵	ابو نصر عاصم بن عاصم لیشی رضی اللہ عنہ	۶۷	ابو عبید رضی اللہ عنہ
//	اصرم رضی اللہ عنہ	۶۸	میمون بن سباز اسلم رضی اللہ عنہ
//	جرموز نجیحی رضی اللہ عنہ	//	زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام
۷۶	سوید بن ہبیرہ رضی اللہ عنہ	//	ابو سود رضی اللہ عنہ
//	فضالہ لیشی رضی اللہ عنہ	//	ابو جیحہ تمیمی رضی اللہ عنہ
//	سلیمان بن عامر ضعی ابو عزمہ ہذلی رضی اللہ عنہ	//	حارث بن اقیش رضی اللہ عنہ
//	ابو مسلم اہبان بن صفی غفاری رضی اللہ عنہ	//	عمرو بن تغلب نمری رضی اللہ عنہ
//	مضر بن اسمرز ہبیر بن عمرو رضی اللہ عنہ	//	عبداللہ بن اسود سدوسی رضی اللہ عنہ
//	سلطہ بن محبت خدش رضی اللہ عنہ	۶۹	أسیر صحابی رضی اللہ عنہ
۷۷	ابو سلطہ رضی اللہ عنہ	//	عروہ بن سمرہ مخزومی رضی اللہ عنہ
//	عبدالرحمن بن سلطہ خزاعی کے چچا	//	ابورقاع عدوی رضی اللہ عنہ
//	قیس بن اسلم انصاری رضی اللہ عنہ	۷۰	نافع بن حارث بن کلدہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
//	حالس تمیمی رضی اللہ عنہ	۷۱	ابی بن مالک رضی اللہ عنہ
//	ابو ہبیشہ رضی اللہ عنہ	//	حدیم بن حنیفہ تمیمی رضی اللہ عنہ
//	عبادہ بن قرص عسسی رضی اللہ عنہ	۷۲	عمارہ بن احمر مازنی رضی اللہ عنہ
//	ابو جیحہ بابلیہ رضی اللہ عنہ یا ان کے چچا	//	اسمر بن مضر رضی اللہ عنہ
۷۸	ابو السوار عدوی رضی اللہ عنہ کے ماموں	//	عمرو بن عمیر رضی اللہ عنہ
//	حسانہ بنت معاویہ صرمیہ کے چچا	۷۳	عکراش بن ذویب بن حرقوص رضی اللہ عنہ
//	ابو جرہ رقاشی کے چچا	//	برز (ابورقاع عطاردی کے والد)
۷۹	ابوالعشر اءدارمی کے والد	۷۴	قطبہ بن قنادہ سدوسی رضی اللہ عنہ
//	ابن عبدالقیس رضی اللہ عنہ	//	حکم بن حارث سلمی رضی اللہ عنہ
//	چارود رضی اللہ عنہ	//	عباس سلمی رضی اللہ عنہ (یہ ابن مرداس نہیں ہیں)
۸۰	صحار بن عباس عبدی رضی اللہ عنہ	//	فاکہ بن سعد، بشیر بن زید ضعی رضی اللہ عنہ
//	ابو ثمرہ صباحی رضی اللہ عنہ	//	علقمہ بن حویرث غفاری رضی اللہ عنہ
۸۱	ابان بخاری رضی اللہ عنہ	۷۵	عبداللہ بن مضر بن باہلی رضی اللہ عنہ
//	زارع بن وازع عبدی رضی اللہ عنہ	//	عبدالرحمن بن خباب سلمی رضی اللہ عنہ

۱۰۴	ابو فراس <small>رضی اللہ عنہ</small>	۸۱	جاہر بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	غنیم بن قیس کعمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سلمہ جرمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۵	شبان بن سلمہ بن حقیق ہذلی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۸۲	سہلا طبقہ
//	عمیر بن عطیہ لہثی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو مریم حنفی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۶	عباد عصری <small>رضی اللہ عنہ</small>	۸۳	کعب بن سور <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حصین بن ابی الحر بن مالک <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	احنف بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالمہلب جرمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۸۴	ابوعثمان نہدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	غاضرہ بن عروہ بن سرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۸۷	ابوالاسود دؤلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبداللہ بن شقیق عقیلی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۸۸	زیاد بن ابی سفیان بن حرب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سیب بن دارم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن حارث <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۷	شولیس بن جہاش <small>رضی اللہ عنہ</small>	۸۹	ابوصفرہ عتکی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حصین بن جریر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالجفاء سلمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوسعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۹۰	سائب بن اقرع ثقفی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حطان بن عبداللہ رقاشی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ججیر بن ربیع عدوی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ایاس بن قتادہ بن اوفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حریث بن ربیع عدوی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۸	جاہر یا جوہیر عبدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	اقرع <small>رضی اللہ عنہ</small> مؤذن عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	جراد بن شہیط <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ضبہ بن محسن عنزی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	فضیل بن زید رقاشی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عامر بن عبداللہ بن عبدالقیس عنزی تیمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مہلب بن ابوصفرہ عتکی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالعالیہ ریاحی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بجالہ بن عبدہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۹۷	ابوامیہ <small>رضی اللہ عنہ</small> حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کے آزاد کردہ غلام
//	ابوقتادہ عدوی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۰۱	سیرین انصاری <small>رضی اللہ عنہ</small> انس بن مالک <small>رضی اللہ عنہ</small> کے آزاد کردہ غلام
//	ابوالدہاء عدوی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ارطبان <small>رضی اللہ عنہ</small> مولیٰ عبداللہ
//	ابوزینب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۰۲	ابورافع <small>رضی اللہ عنہ</small> صاحب (شار)
۱۰۹	ابوکنانہ قرشی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۰۳	اقرع <small>رضی اللہ عنہ</small> فاروق اعظم <small>رضی اللہ عنہ</small> کا مؤذن
//	قیس بن غباوقسی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۰۴	
//	ہرم بن حیان عبدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	

۱۲۳	زیاد بن مطرب بن شرح عدویؓ	۱۱۱	صلہ بن اشیم عدویؓ
//	والان بن قرفہ عدویؓ	۱۱۲	ابو رجاء عطاردی تمیمیؓ
//	عبداللہ بن ابی عقبہؓ	۱۱۵	دغفل بن حظلہ سدوسیؓ
//	عقبہ بن اوس سدوسیؓ	//	شہاب مغیریؓ
//	عمرو بن وہب ثقفیؓ	۱۱۶	ایاس بن قنادہ بن اوفیؓ
//	ابو شیخ ہنائی ازدیؓ	۱۱۷	
//	حسین بن منذر رقاشیؓ، عمران بن حطان سدوسیؓ		
//	ابوالعلاء یزید بن عبداللہ بن شخیرؓ	//	مطرف بن عبداللہ بن شخیرؓ
۱۲۵	حسن بن ابوالحسنؓ	۱۲۰	عتی بن زید بن ضمیرہؓ
۱۲۶	سعید بن ابوالحسنؓ	//	عقبہ بن صہبان راسبیؓ
۱۲۷	ابوالشعاع جابر بن زید ازدیؓ	//	حمید بن عبدالرحمن حمیریؓ
۱۲۸	ابوقلابہ جرمیؓ	//	صفوان بن محرز مازنی تمیمیؓ
	ابوعبداللہ مسلم بن یسارؓ، مولیٰ طلحہ بن عبید اللہؓ	۱۲۱	حمران بن ابان، مولیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
۱۲۹	تمیمی قرشیؓ	//	ابوالاحلال عتکیؓ
۱۳۰	جبیر بن ابوجہؓ	//	عمیرہ بن یثربیؓ
//	ابوالعلاء حیان بن عمیر قیسؓ	//	غلاس بن عمرو جرمیؓ
//	ابو یزید سدوسیؓ	۱۲۲	ہیان بن عمران بجمی تمیمیؓ
//	خالد بن غلاق عسبیؓ	//	زرارہ بن اوفی حرضیؓ
//	مضارب بن حزن مازنیؓ	//	ہشام بن ہبیرہ ضعیؓ
//	عبداللہ بن ابی بکرہؓ	//	ابو السوار عدویؓ
//	عبید اللہ بن ابوبکرہؓ	۱۲۳	ابو تمیمہ ججمی تمیمیؓ
//	عبدالرحمن بن ابوبکرہؓ	//	قسامہ بن زہیر مازنی تمیمیؓ
۱۳۱	عبدالعزیز بن ابوبکرہؓ	//	قاسم بن ربیعہؓ
//	مسلم بن ابوبکرہؓ	//	میمون بن سیاہؓ
//	رواد بن ابوبکرہؓ	//	ابوغلاب یونس بن جبیر یاملیؓ
//	یزید بن ابوبکرہؓ، عقبہ بن ابوبکرہؓ	//	ابوصفرہ عمس بن سلامہؓ

۱۶۴	حظلمہ بن سوادہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۷	نضر بن انس بن مالک <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۵	ابو کبیر رفیع <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۸	عبداللہ بن انس بن مالک <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۶	عمر بن جاوان <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۹	موسیٰ بن انس بن مالک <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۷	ابونعامہ حنفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۰	مالک بن انس بن مالک <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۸	ابونعامہ سعدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۱	ابوبکر محمد بن سیرین <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۹	ابونعامہ سعدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۲	معبد بن سیرین <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۰	ابومصعب مازنی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۳	یحییٰ بن سیرین <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۱	ابوحمرہ ضحیٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۴	ابوحزہ انس بن سیرین <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۲	ابوالخلیف ہذلی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۵	ابونضرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۳	یزید بن ہریر فارسی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۶	سعد بن ہشام بن عامر انصاری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۴	عمیر بن اسحاق <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۷	عائقہ بن عبداللہ حمرنی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۵	ابویزید مدنی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۸	بکر بن عبداللہ حمرنی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۶	ابوایاس معاویہ بن قرہ بن ایاس <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۹	ابوعبداللہ حمرنی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۷	عبداللہ بن بریدہ بن حصیب اسلمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۰	سنان بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۸	سیمان بن بریدہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۱	موسیٰ بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۹	یوسف بن مہران <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۲	عبداللہ بن رباح انصاری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۰	ابوالحجلہ جونی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۳	ابواضر عبداللہ بن صامت <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۱	ابوحسان اعرج <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۴	ابوسعید رقاشی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۲	ابوالسلیب قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۵	سکرم بن اعرج <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۳	بشیر بن کعب عدوی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۶	ابوالعریان انیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۴	بشیر بن نہیک سدوسی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۷	ابولبید <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۵	خالد بن سمیر <small>رضی اللہ عنہ</small> ابوالجوزاء ربیع <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۸	ابوالمعتمر مروق بن مشرجم عجلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۶	عبداللہ بن غالب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۹	ابوجبلز <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۷	ابونہار عقبہ بن عبدالغافر <small>رضی اللہ عنہ</small> ازدی پھر عوذی	۱۹۰	عبدالملک بن یعلیٰ لیش <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۸	ابوالتوکل ناجی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۱	غزوان بن غزوان رقاشی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۹	ابوالصدیق ناجی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۲	علاء بن زیاد بن مطرب بن شمرخ عدوی <small>رضی اللہ عنہ</small>

۱۷۳	ابو حجاب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۸	ابو بیدہ عدوی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۴	ابو مرایہ عجل <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۹	ابو ایوب <small>رضی اللہ عنہ</small> ازدی پھر مراغی
۱۷۵	ابو الوائز ع راسی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۰	ابو الحرب <small>رضی اللہ عنہ</small> بن ابواسود دوی
۱۷۶	ابو ماویہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۱	ابو الورد بن شامہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۷	ابو العالیہ براء <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۲	ابو صالح بصری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۸	ابو المیزری <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۳	ابو صالح <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۹	ابو بشامہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۴	واقع بن حبان <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۰	ابو الخلیل <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۵	ابو الحلأ حیان بن عمیر قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۱	ابو بیدہ مازنی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۶	ابو الزینب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۲	ابو غالب راسی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۷	کتابہ بن نعیم عدوی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۳	ابو ذوقل بن مسلم بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۸	طلح بن حبیب عنزی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۴	ابو عمران جونی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۹	عبدالرحمن بن جوشن غطفانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۵	ابو التیاح ضعی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۰	طلحہ بن عبید اللہ بن کریم خزاعی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۶	ابو المہزم <small>رضی اللہ عنہ</small>	تیسرا طبقہ	
۱۸۷	ابو یحسانہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۱	ابو الخطاب قتادہ بن دعامہ سدوسی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۸	محمد بن زیاد <small>رضی اللہ عنہ</small> شامہ بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۲	ابو نصر حمید بن ہلال عدوی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۹	ثقی بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۳	ابو محمد ثابت بن اسلم بنانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۰	عبداللہ بن مسلم بن یسار <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۴	ابو عمرو ندب بن بشر بن حرب ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۱	عبداللہ بن محمد بن سیرین <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۵	ابو الولد اباس بن معاویہ بن قرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۲	ابو الحواری زید بن حواری <small>رضی اللہ عنہ</small> عمی	۱۸۶	ازرق بن قیس حارثی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۳	بدیل بن مبسرہ عقیلی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۷	عاصم جدری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۴	غیلان بن جریر عتکی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۸	ابو حجرہ ضعی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۵	عمرو بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۹	ابو المنہال <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۶	عبداللہ بن حارث <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۰	ابو القموص <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۷	ابو المورع توبہ عنزی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۱	ابو المہزم ہاز عجل <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۸	محمد بن واسع بن جابر <small>رضی اللہ عنہ</small>		

۱۸۲	ربیعہ بن ابوالحلال عتقیؓ	۱۷۸	اسحاق بن سوید عدویؓ
..	یحییٰ بن عتیقؓ	..	ابویعقوب فرقد بن یعقوب سجیؓ
..	یحییٰ بن ابی اسحاق حضرمیؓ	..	ابویحییٰ مالک بن دینارؓ
..	ابان بن ابوعمیاش شنیؓ	..	کثیر بن شظیر مازنیؓ
۱۸۵	مطر بن طہمان وراق خراسانیؓ	..	واصل مولیٰ ابوعمینہ بن مہلبؓ
..	ابوالعشر اء دارمی تمیمیؓ	..	ابوالحسن ہارون بن ربابؓ
..	ابوبکر زید بن حازم ازدی پھر جمہمیؓ	..	کلثوم بن جبرؓ
..	ابوبکر داؤد بن ابی ہندؓ	..	عبداللہ بن مطرفؓ
..	ابوالحکم علی بن حکم بنانیؓ	۱۷۹	یحییٰ بن سلم رکاءؓ
..	ابوعبدالرحمن عاصم بن سلیمان احوولؓ	..	عطاء بن ابی میمونہؓ
۱۸۶	ابوالحسن حفص بن سلیمانؓ	..	یزید بن رشک ضعیؓ
..	ابونعام عدویؓ	..	یزید بن ابان رقاشیؓ
..	ابومسلمہ سعید بن یزیدؓ	..	عبدالحرز بن صہیبؓ
..	ابوقرہ سعید بن ابی صدقہؓ	..	ابوہارون عبدیؓ
..	ابوروح عمارہ بن ابی حفصہؓ	..	ابوجہضم موسیٰ بن سالمؓ
..	ابوعمر و عثمان بنیؓ	..	ابورجاہؓ
..	منصور بن عبدالرحمن عذری غدانیؓ	..	
..	عسل بن سفیان تمیمیؓ	۱۸۰	چوتھا طبقہ
..	ابورجاہ ازدیؓ	..	ابوبکر ابوب بن ابومیسرہؓ
..	ابوسہل عوف بن ابو جمیل اعرابیؓ	۱۸۳	ابوعبیدہ حمید بن ابی حمید طویلؓ
۱۸۷	زیاد علمؓ	..	علی بن زید بن جدعانؓ
..	خلیف بن عقبہ بن ربیعہؓ	..	ابوعبداللہ شقریؓ
..	ابوزبیرانؓ	۱۸۴	عبدالکریمؓ
..	ابودلان حیان بن یزیدؓ	..	ابولمختار سلیمان بن طرخان تمیمیؓ
..	ابوايوبؓ	..	ابوصالح شعیب بن حجابؓ
..	ابوالمبارک خالد بن مہران حذاءؓ	..	ابوشر جعفرؓ

۱۹۶	ابو حمزہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۷	ابو عبد اللہ یونس بن عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عثمان، عمرو بن عبید بن باب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۸	ابو بشر، سلمہ بن علقمہ تمیمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۷	پانچواں طبقہ	//	سوار بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو انضر، سعید بن ابی عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو مروان غنوی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اسماء بن عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو مسعود سعید بن ایاس جریری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو اسحق، اسماعیل بن مسلم کنی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عون، عبد اللہ بن عون بن ارطبان <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۸	ابو الاشہب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۳	عمران بن مسلم قصیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو خلدہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد المؤمن بن ابوشراحہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	علی بن علی رفاعی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	غالب بن مہران تمار <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو حمزہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد العزیز بن قدیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سعید بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد الملک بن قدیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو خالد قرہ بن خالد سدوسی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حجاج اسود قسامل ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	صخر بن جویریہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حجاج بن ابی عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ربیعہ بن کلثوم بن حمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عباد بن منصور ناجی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو ہانی، اشعث بن عبد الملک حرانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حوشب بن مسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۹۹	مبارک بن فضالہ بن ابی امیہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۵	ابو یونس حاتم بن ابی صغیرہ قشیری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو امیہ، عبد الرحمن بن فضالہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حسین بن ذکوان معلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو حفص، ربیع بن ضحج <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	کبش بن حسن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو الہشتم، سری بن یحییٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حسین شہید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یزید بن ابراہیم تستری <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمران بن حدیر سدوسی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو انضر، جریر بن حازم بن زید جہضمی ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو المعلی عطار <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو بلال راسی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	غالب بن خطاف راسی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۰۰	ابو المقدام ہشام بن ابو ہشام <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ہشام بن حسان فردوسی ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عقبہ بن ابو الصہبہ <small>رضی اللہ عنہ</small> ، ابو عقیل ذورقی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمیدہ بن عبد الرحمن بن جوش عطفانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حسن بن دینار <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۶	عمر بن عامر <small>رضی اللہ عنہ</small> ، صالح بن ابوالاخضر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//		//	جراد بن محالد <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۰۳	عبد اللہ بن حسن <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۰۰	صلت بن دینار <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۰۴	چھٹا طبقہ	//	ہشام بن عبد اللہ دستوائی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو اسماعیل حماد بن زید بن درہم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوسعید سلیمان بن مغیرہ قیسی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سعید بن زید بن درہم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابویحییٰ مہدی بن میمون ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوبکر وہیب بن خالد بن عجلان <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۰۱	ابولسطام شعبہ بن حجاج بن ورداذی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۰۵	ابوعوانہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	جویریہ بن اسماء بن عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوسلیمان، جعفر بن سلیمان ضحی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	صالح مری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	نوح بن قیس طاحی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعبد اللہ ہمام بن یحییٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۰۶	ابوشرف عبد الواحد بن زیاد ثقفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۰۲	ابوالمنذر سلام بن سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوعبیدہ عبد الوارث بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوسلمہ حماد بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابومعاویہ یزید بن زریج <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالمغیرہ قاسم بن فضل حدانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابومحمد عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	الودوح سلام بن مسکین <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابواسماعیل بشر بن مفضل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سلیمان اسود ناجی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوہمام عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ قرشی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمارہ بن زاذان صیدلانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابومعاویہ عماد بن عماد بن حبیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد العزیز بن مسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابومحمد معتز بن سلیمان تمیمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالفضل بحر بن کثیر سقاء عابلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سفیان بن حبیب <small>رضی اللہ عنہ</small> ، سلیم بن احضر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ایان بن یزید عطار <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۰۷	ابوحفص عمر بن علی مقدمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۰۳	حزم بن ابی حزم قطعی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوعثمان خالد بن حارث جمہی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حسام بن مصک <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابومحمد عرعرہ بن برند <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالعوام قطان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حکم بن سنان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حسین بن ابی جعفر جعفری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوعمر و محمد بن ابی عدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سلمہ بن علقمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوخالد یوسف بن خالد بن عمیر سمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	معاویہ بن عبد الکریم الضال <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۰۸	ابوسعید یحییٰ بن سعید قطان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عثمان بن مقسم برسی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالہشبیٰ معاذ بن معاذ بن نصر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوجری نصر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//		//	ابوعبیدہ ناجی <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۱۱	ابو عامر عقدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۰۸	ابو محمد صفوان بن عیسیٰ زہری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو اہل عبد الصمد بن عبد الوارث <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو سعید حماد بن مسعدہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو ایوب سلیمان بن حرب واسطی ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو بکر ازہر بن سعدمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو محمد بشر بن عمر زہرائی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عبد اللہ محمد بن سواء بن عتیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو الولید طیا سی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محمد بن عبد اللہ بن ثقی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو محمد حجاج بن منہال انماطی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد اللہ بن داؤد ہمدانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابراہیم بن ابی سوید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۰۹	ابو عامر نبیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	أمیہ بن خالد قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو وہب عبد اللہ بن بکر باہلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو خالد ہدبہ بن خالد قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عبد اللہ محمد بن بکر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۱۲	ابو عبد الرحمن عدید اللہ بن محمد بن حفص تمیمی قرشی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عبد اللہ غنڈر محمد بن جعفر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سہل بن ایکاہ <small>رضی اللہ عنہ</small> اسحاق بن عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو محمد سعید بن عامر عینی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو محمد روح بن عبادہ قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو قتیبہ مسلم بن قتیبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عثمان بن عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو حاتم روح بن اسلم <small>رضی اللہ عنہ</small> مولیٰ ہاہلہ	//	یکار بن محمد بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن سنان عوفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو بکر عباد بن صہیب کلینی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد اللہ بن سنان عوفی <small>رضی اللہ عنہ</small> حرمی بن عمارہ بن ابی		
//	حفصہ <small>رضی اللہ عنہ</small> حرمی بن حفص <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۱۰	ساتواں طبقہ
//	ابراہیم بن حبیب بن شہید <small>رضی اللہ عنہ</small> ابراہیم بن یحییٰ بن حمید	//	ابو سعید عبد الرحمن بن مہدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	طویل <small>رضی اللہ عنہ</small> عبد اللہ بن یونس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو العباس وہب بن جریر بن حازم جہضمی ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	داؤد بن شمیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو داؤد طیا سی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	علی بن عثمان بن عبد الحمید بن لاحق <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو الاسود بہز بن اسد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد الرحمن بن مبارک ابو بکر طفاوی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عثمان عفان بن مسلم صفار <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عمرو مسلم بن ابراہیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو حبیب حبان بن ہلال باہلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو حذیفہ موسیٰ بن مسعود ہندی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عصمہ ریحان بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۱۳	ابو محمد یعقوب بن اسحاق حضرمی مقبری <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو بکر حنفی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو اسحاق احمد بن اسحق حضرمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۱۱	عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۱۶ علی بن بریؓ	۲۱۳ عمرو بن مرزوق باہلیؓ
.. سلیمان بن شاذکونیؓ ابو عمر محمد بن عرعرة بن برندؓ
۲۱۷ واسط کے علمائے کرام اور محدثین کا تذکرہ ابو انعمان عارم بن فضل سدوسیؓ
.. ابو ہاشم رباعیؓ حجاج بن نصیر فساطیؓ
.. یعلیٰ بن عطاءؓ ابو عثمان عمرو بن عاصم کلابیؓ
.. ابو عقیلؓ محمد بن کثیر عدویؓ
.. ابو خالد دالانیؓ ابو عمر حوضیؓ
.. قاسم بن ابی ایوبؓ	۲۱۴ ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیلؓ
.. ابونجیحؓ محمد بن عبداللہ قاشیؓ	
.. منصور بن زاذانؓ ابو ایوبہؓ، معالیٰ بن اسدؓ، بھز بن اسدؓ کے	
۲۱۸ ابو عیسیٰ عوام بن حوشبؓ بھائی
.. سفیان بن حسین سلمیٰؓ ابو محمد یحییٰ بن حماد بن ابی زیادؓ
.. ابو الحلاء قتصابؓ عیاش بن ولید ترسیؓ، عبداللہ بن سوارؓ
.. یزید بن عطاء بزازؓ	۲۱۵ آٹھواں طبقہ
.. ابو عبداللہ اصح بن زید وراقؓ ابو الحسن مسدد بن مسددؓ
.. ابو احمد خلف بن خلیفہؓ عبداللہ بن عبد الوہاب حنبلیؓ
.. ابو معاویہ ہشیم بن بشیرؓ ابو الریح سلیمان بن داؤد زہرائیؓ
.. خالد بن عبداللہ طحانؓ عبداللہ بن محمد بن اسماء بن عبیدؓ
۲۱۹ ابو الحسن علی بن عاصمؓ محمد بن ابی بکر بن علیؓ
.. عبدالحکیم بن منصورؓ عبداللہ بن ابوبکرؓ
.. ابو سعید محمد بن یزید کلابیؓ ابن معمر مقرئؓ
.. ابوسفیان حمیری حذاءؓ ابوظفرؓ
.. قرہ بن عیسیٰؓ ابو الحسن علی بن عبداللہ بن جعفرؓ
.. ابو خالد یزید بن ہارونؓ ابو اسحاق ابراہیم بن بشار رمادیؓ
.. ابو محمد اسحاق بن یوسف ازرقؓ ابراہیم بن محمد بن عرعرةؓ

۲۲۳	ابو حنیفہ نعمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۱۹	محمد بن حسن <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۲۴	ابو معاویہ نجوی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو الحسن، فضل بن عنبسہ خزازی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو اسحاق، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۰	صلہ بن سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عبد اللہ، عبد العزیز بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سرور بن مغیرہ بن زاذان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو طاہر، عبد الملک بن محمد بن ابوبکر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	رحمہ بن مصعب <small>رضی اللہ عنہ</small> ، بشر بن بشر <small>رضی اللہ عنہ</small> ، عاصم بن علی بن عاصم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو الیسیر، محمد بن عبد اللہ بن علاشہ کلابی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عاصم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	زیاد بن عبد اللہ بن علاشہ کلابی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عثمان، عمرو بن عون بن اوس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو المہذّب، اسماعیل بن عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>		
//	عبید بن ابی قرہ <small>رضی اللہ عنہ</small> ، ابو جعفر، محمد بن سابق <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۱	مدائن کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر
۲۲۵	سعید بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ
//	ابو محمد، عبد الرحمن بن ابوالانناد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
//	ابو عبد اللہ، محمد بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>		
//	ابو معاویہ، ہشیم بن بشیر واسطی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۲	مدائن کے محدثین و علماء کا بیان
//	ابو بشر، اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو جعفر مدائنی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو زیاد، اسماعیل بن زکریا <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عبد الرحمن، عاصم احول بن سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۲۶	عنبسہ بن عبد الواحد قرشی <small>رضی اللہ عنہ</small> ، ابو سعید مودب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ہلال بن خباب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو اسحاق، اسماعیل مودب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ہذیل بن بلال فزاری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو معاویہ، عباد بن عباد بن حبیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	نعیم بن حکیم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو فضالہ، فرج بن فضالہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو یحییٰ، نصر بن حاجب قرشی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اسماعیل بن جعفر بن ابوشیر مدنی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۳	ابو عمرو، شبابہ بن سوار فزاری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبید الرحمن اشجعی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو صالح، شعیب بن حرب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۲۷	ابو الیقظان، عمار بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	علی بن حفص <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	طلحہ بن یحییٰ، انصاری <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	بقرہ میں علمائے کرام و محدثین عظام
//	مروان بن شجاع <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	اسماعیل بن سالم اسدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عبد الرحمن، عبیدہ بن حمید تمیمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو المہذّب، ہشام بن عروہ بن زبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو حفص، ابا زعمربن عبد الرحمن اسدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عبد اللہ، محمد بن اسحاق بن یسار <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۳۱	ابو محمد یونس بن محمد مؤدب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۲	ابو عبیدہ حذافہ عبد الواحد <small>رضی اللہ عنہ</small> ابو عبد اللہ مروان بن معاویہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو علی حسن بن موسیٰ اشیب خراسانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو بکر عباد بن عوام <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو احمد حسین بن محمد بن بہرام مروزی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو الحسن علی بن ثابت <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عمرو ححیر بن شعیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	قاضی ابو یوسف <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۲	علی بن جعد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۸	ابو عبد اللہ حسین بن حسن بن عطیہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو الاشہب ہوزہ بن خلیفہ بن عبد اللہ بن ابو بکرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو المنذر راشد بن عمرو بجلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو ایوب یحییٰ بن سعید بن ابان بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عافیہ بن یزید اودی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوزکریا یحییٰ بن اسحاق بجلی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عصمہ بن محمد انصاری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عثمان سعید بن سلیمان واسطی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو سعید مسیب بن شریک <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۳	ابو نصر تمار <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۹	قاضی ابو بشری دہب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو احسین شریح بن نعمان <small>رضی اللہ عنہ</small> موتیوں والے	//	ابو محمد حجاج بن محمد اعور <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یحییٰ بن غیلان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو نصر عبد الوہاب بن عطاء علی خفاف <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عمرو معاویہ بن عمرو ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو بدر شجاع بن ولید بن قیس سکونی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو یعلیٰ معالی بن منصور <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو ہمام ولید بن شجاع بن ولید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو جعفر محمد بن صباح بزاز دولابی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد اللہ بن بکر سہمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۴	ابو نصر بشر بن حارث خراسانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو بکر کثیر بن ہشام <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو احمد ہشام بن خارجہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۵	بکر بن الطویل <small>رضی اللہ عنہ</small> ابو عبد اللہ محمد بن عمرو اقداسلمی
//	اسحاق بن عیسیٰ الطباع <small>رضی اللہ عنہ</small> ابو اسحاق سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو النصر ہاشم بن قاسم کنانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو یونح قراد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو ایوب سلیمان بن داؤد بن علی بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو قطن عمرو بن ہشام بن قطن بن کعب قطعی <small>رضی اللہ عنہ</small> شاذان
//	ابو تمام قران بن تمام اسدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	اسود بن عامر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو حفص عمر بن حفص عبدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عثمان عفان بن مسلم بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۵	ابو عبد اللہ مصعب بن عبد اللہ بن مصعب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عبد اللہ محمد بن الحسن <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو الحسن نصر بن زید بن مجمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۶	قاضی یوسف بن یعقوب بن ابراہیم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو خالد عنینہ بن سعید بن ابان بن سعید بن العاص <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو کامل مظفر بن مدکر خراسانی <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۳۸	ابو محمد نعیم بن ہاشم <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۵	ابو سلمہ منصور بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوزکریاء یحییٰ بن عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو سہل نصر بن باب <small>رضی اللہ عنہ</small> ، انحرسانی
//	ابواسحق ابراہیم بن زیاد سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعبداللہ موسیٰ بن داؤد ضعی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوعثمان بشار بن موسیٰ خفاف <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابواسحق ابراہیم بن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small> المعروف بسامری
//	ابوالاحوص محمد بن حیان ہنسی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوصالح حکم بن موسیٰ بزاز <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالفضل شجاع بن مخلد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۶	ابواحمد ہشام بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small> بزاز
//	ابواحمد مہدی بن حفص <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوجعفر محمد بن حجاج مصفر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو محمد عباد بن موسیٰ انخلی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابومعاذ سعد بن عبد الحمید <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۹	ابوجعفر احمد بن محمد بن ایوب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالہشتم خالد بن خدش بن عجلان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سہل بن نصر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابونصر منصور بن بشیر بن ابو حرازم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابویعقوب اسحق بن ابراہیم بن کاجار <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعبداللہ محمد بن یکار <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوزکریاء یحییٰ بن معین <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعمران محمد بن جعفر ورکانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوخشمہ زبیر بن حرب بن اشتال نسائی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوزکریاء یحییٰ بن یوسف رقی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو محمد خلف بن سالم خزرمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو محمد خلف بن ہشام بزاز <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوعبداللہ احمد بن محمد بن جنبل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعلیٰ حسین بن ابراہیم بن حرب بن زعلان <small>رضی اللہ عنہ</small> الملقب بہ اشکاب
۲۴۰	ابوعلیٰ ہارون بن معروف <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ثابت بن ولید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوعبید قاسم بن سلام <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۷	ابومعاویہ عسان بن مفضل غلابی <small>رضی اللہ عنہ</small> ابوسلیمان داؤد بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بشر بن ولید کندی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	داؤد بن رشید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالسری سہل بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	فضیل بن عبدالوہاب قتاد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوعبداللہ محمد بن سلیم عبدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوطالب عبد الجبار بن عاصم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بشر بن آدم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوسعید عبید اللہ بن عمر بن میسرہ نواری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابومسلم عبدالرحمن بن یونس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعبداللہ محمد بن ابو حفص معطلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۱	ابوزکریاء یحییٰ بن ایوب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عیسیٰ بن ہشام نخاس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالقاسم زوجہ بنت ابومسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابواللیث سلم بن قادم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابواسحق ابراہیم بن حاتم بن عبداللہ ہروی <small>رضی اللہ عنہ</small> ابو محمد	۲۳۸	
//	عبداللہ بن عون خزاز <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	

۲۴۳	یوسف بن موسیٰ قطان <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۴۱	ابو الحارث شریح بن یونس مروزی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عبد اللہ مرویہ <small>رضی اللہ عنہ</small> ، صانع	//	ابو سعید احمد بن داؤد حداد واسطی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوزکریا یحییٰ بن اسماعیل واسطی <small>رضی اللہ عنہ</small> ، ابو عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small> ، مقرئ	//	ابو ابراہیم اسماعیل بن ابراہیم بن بسام <small>رضی اللہ عنہ</small> ، ترجمانی ...
۲۴۴	محمد بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small> ، تلمیذ واقدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عثمان عمرو ناقد بن محمد بن بکیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	خراسان کے غازی اور اس میں فوت ہونے والے	//	محمد بن عباد کی تلمیذ سفیان بن عیینہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	//	ابو احمد حاجب بن ولید اعور، معلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عبد اللہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ	۲۴۲	ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم بن معمر ہروی ہذلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ	//	ابو عبد اللہ محمد بن حاتم بن میمون مروزی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۵	حکم بن عمرو بن مجرد بن حذیم رضی اللہ عنہ	//	احمد بن حاتم طویل <small>رضی اللہ عنہ</small> ، ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن عرعہ
//	عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ	//	بن برند <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	قثم بن عباس رضی اللہ عنہ	//	ابو حفص احمد بن محمد صفار ابو محمد عبدالرحمن بن صالح
//	عبدالرحمن بن عمر دکنی رضی اللہ عنہ	//	ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	خراسان کے محدثین کرام اور علمائے عظام	//	ابو علی احمد بن ابراہیم موصلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یحییٰ بن یعرب لیث کنانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابواسحاق ابراہیم بن ابواللیث تلمیذ اشجعی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۶	ابو یحییٰ لاحق <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابویوسف یعقوب بن ابراہیم بن کثیر عبیدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یزید بن ابوسعید <small>رضی اللہ عنہ</small> ، نحوی	//	ابو عبد اللہ احمد بن ابراہیم بن کثیر <small>رضی اللہ عنہ</small> ، ابو عبد اللہ عبدالمعتم
//	ابویوسف محمد خنقی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	بن ادريس بن سنان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالقاسم ضحاک بن مزاحم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوجعفر محمد بن مصعب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عطاء خراسانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۴۳	ابوالفضل محرز بن عون بن ابوعون <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالمنیب عیسیٰ بن عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو محمد ولید بن صالح نخاس
//	ابوجزیر عبدالرحمن بن حسین <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عباس بن غالب وراق <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ربیع بن انس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالولید رباح بن جراح <small>رضی اللہ عنہ</small> ، موصلی
۲۴۷	ابراہیم بن میمون صانع <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوہمام ولید بن شجاع بن ولید <small>رضی اللہ عنہ</small> ، سکونی
//	محمد بن ثابت عبیدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو محمد نوح بن یزید مؤدب تلمیذ ابراہیم بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یعقوب بن قحطاع <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالعزیز بن بحر مؤدب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	منصور بن ابوسریہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابویحییٰ کامل بن طلحہ جدری بصری <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۵۰	ابو بشر، سہل بن مزاحم <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۷	حسین بن واقد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو وہب، محمد بن مزاحم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	خارجہ بن مصعب <small>رضی اللہ عنہ</small> سرخسی
//	عتاب بن زیاد مروزی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عصمہ، نوح بن ابومریم <small>رضی اللہ عنہ</small> ابو حمزہ سکری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابراہیم بن رسم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عمرو، حفص بن عبدالرحمن بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سفیان بن عبدالملک <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۸	عبید اللہ سجزی
//	سلمہ بن سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	نہشل بن سعید بن وردان <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۵۱	عبداللہ عیاذ بن عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	فضل بن موسیٰ <small>رضی اللہ عنہ</small> سینانی
//	محمد بن فضل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو عبدالرحمن، عبداللہ بن مبارک <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عمارہ بن مغیرہ سرخسی <small>رضی اللہ عنہ</small> اور آپ کے بھائی قاسم بن	//	نضر بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small> مروزی
//	مغیرہ سرخسی <small>رضی اللہ عنہ</small> ، ابوسعید صغانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالسکن، مکی بن ابراہیم <small>رضی اللہ عنہ</small> بلخی
//	عصام بن یوسف بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	نضر بن شمیل <small>رضی اللہ عنہ</small> مروزی
//	ابواسحاق ابراہیم بن سلیمان زیات <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مقاتل بن سلیمان بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابورجاء قتیبہ بن سعید بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۹	ابو مطیح، حکم بن عبداللہ بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابومعاذ نخوی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمرو بن ہارون بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عمرو، ہبیر بن بشر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابومحرم، سلم بن سالم بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small>
	ری کے علمائے کرام و محدثین عظام	//	ابومعان، مقاتل بن حیان بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//		//	ابوسعید، خلف بن ایوب بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوجعفر، عیسیٰ بن مابان رازی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعثمان، شداد بن حکیم بلخی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یحییٰ بن زریں <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو تمیمہ مروزی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سعید بن ستان شیبانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالعلاء، حسن بن سوار مروزی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۵۲	ابوعبداللہ جریر بن عبدالحمید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالصمد بن حسان <small>رضی اللہ عنہ</small> مروزی
//	حکام بن سلم رازی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	علی بن حسن بن شقیق، تلید ابن مبارک <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوعبداللہ سلمہ ابشر بن فضل <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۵۰	عبدالحریز بن ابوزمہ مروزی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابویحییٰ اسحاق بن سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوہبل، نضر بن باب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اسحاق بن اسماعیل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	علی بن اسحاق دارکافی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ہمدان کے علمائے کرام	//	ابوعبداللہ حسین بن ولید <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۶۳ عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ	۲۵۲	اصرم بن حوشب ہمدانی رضی اللہ عنہ
۲۶۴ عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان رضی اللہ عنہ	۲۵۳	قم کے محدثین عظام
۲۶۵ ابو نوح، عمرو بن عیسیٰ بن خالد رضی اللہ عنہ	۲۵۴	اشعث بن اسحاق رضی اللہ عنہ، یعقوب بن عبداللہ اشعری رضی اللہ عنہ
۲۶۶ حارث بن ہشام بن مغیرہ رضی اللہ عنہ	۲۵۵	انبار کے محدثین عظام
۲۶۷ عکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ	۲۵۶	ابو جعفر، محمد بن عبداللہ حذاء رضی اللہ عنہ
۲۶۸ ابو یزید، سہیل بن عمرو بن عبد شمس رضی اللہ عنہ	۲۵۷	ابو محمد، سوید بن سعید انباری رضی اللہ عنہ
۲۶۹ ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ	۲۵۸	ابو یعقوب، اسحاق بہلول رضی اللہ عنہ
۲۷۰ یزید بن ابوسفیان بن حرب بن امیہ رضی اللہ عنہ	شام میں آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	
۲۷۱ ابو عبد الرحمن، معاویہ بن ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ	۲۵۹	ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ
۲۷۲ ابو ہاشم بن عقبہ رضی اللہ عنہ	۲۶۰	ابو عبد اللہ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، مولیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ
۲۷۳ عبداللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ	۲۶۱	ابو الولید، عبادہ بن صامت بن قیس رضی اللہ عنہ
۲۷۴ ضرار بن خطاب رضی اللہ عنہ	۲۶۲	ابو عبد الرحمن، معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس رضی اللہ عنہ
۲۷۵ ابو قرقظہ، واثلہ بن اسقع بن عبد العزیٰ رضی اللہ عنہ	۲۶۳	ابو ثابت، سعد بن عبادہ بن دلیم بن حارثہ رضی اللہ عنہ
۲۷۶ ابو قرقظہ، تمیم داری رضی اللہ عنہ	۲۶۴	ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، عویمیر
۲۷۷ بسر بن ابوارطاة رضی اللہ عنہ	۲۶۵	ابو عبد اللہ، شریح بن حسنہ رضی اللہ عنہ
۲۷۸ حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ	۲۶۶	ابو سلیمان، خالد بن ولید بن مغیرہ رضی اللہ عنہ
۲۷۹ ضحاک بن قیس بن خالد اکبر رضی اللہ عنہ	۲۶۷	عیاض بن غنم بن زہیر بن ابو شداد رضی اللہ عنہ
۲۸۰ قباث بن اشیم رضی اللہ عنہ	۲۶۸	سعید بن عامر بن حذیم بن سلمان رضی اللہ عنہ
۲۸۱ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ	۲۶۹	ابو محمد، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ
۲۸۲ ابو نوح، عمر باض بن ساریہ سلمیٰ رضی اللہ عنہ	۲۷۰	ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ
۲۸۳ عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ	۲۷۱	ابو عمرو، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ
۲۸۴ عقبہ بن ندر سلمیٰ رضی اللہ عنہ	۲۷۲	ابو عبد اللہ، ثوبان رضی اللہ عنہ، مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۲۸۵ عقبہ بن عبد سلمیٰ رضی اللہ عنہ	۲۷۳	سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ
۲۸۶ ابو صفوان، عبداللہ بن بسر مازنی رضی اللہ عنہ	۲۷۴	شداد بن اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ
۲۸۷ ابو حوالہ، عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ	۲۷۵	فضالہ بن عبید بن نافذ بن قیس رضی اللہ عنہ

۲۷۶ مازن بن خثیمہ رضی اللہ عنہ	۲۷۱ کعب بن مرہ بہزری رضی اللہ عنہ
// ابو حش اشعری رضی اللہ عنہ	// کعب بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ، کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ
// ابو یحیٰ بن مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کندی	// ابو یحییٰ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کندی
// ذومر رضی اللہ عنہ نجاشی کا بھتیجا	// عبد اللہ بن قرظ ازدی پھر شمالی رضی اللہ عنہ، حکم بن عمیر شمالی
۲۷۷ ابو خیرہ صحابی رضی اللہ عنہ	// ازدی رضی اللہ عنہ
// عبد اللہ صناعی رضی اللہ عنہ	// عبد اللہ بن عائد شمالی رضی اللہ عنہ
// قیس جذامی رضی اللہ عنہ	// ابو ثعلبہ حشنی رضی اللہ عنہ
// بسر بن جاش قرشی رضی اللہ عنہ	۲۷۲ ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ
// سلمہ بن نفیل حضرمی رضی اللہ عنہ	// عبد الرحمن بن قتادہ سلمی رضی اللہ عنہ
۲۷۸ یزید بن اسد بن کرز رضی اللہ عنہ	// نعیم بن بہتار غطفانی رضی اللہ عنہ
// غطفیف بن حارث کندی رضی اللہ عنہ	// عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ عنہ حزنی
// ابو ایمان بشیر بن عقر بہ رضی اللہ عنہ ہجینی	۲۷۳ ابو سیارہ مہمی رضی اللہ عنہ
۲۷۹ جراح (غالبا) بن اشد رضی اللہ عنہ	// وحشی بن حرب حبشی رضی اللہ عنہ، قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ
// عطیہ بن عمرو سعدی رضی اللہ عنہ	۲۷۳ عثمان بن عثمان ثقفی صحابی رضی اللہ عنہ
// عقبہ بن عمرو سلمی رضی اللہ عنہ	// مسلم بن حارث رضی اللہ عنہ
// نو اس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ معصمہ صحابی رضی اللہ عنہ	۲۷۴ مالک بن ہبیرہ سلمی رضی اللہ عنہ
// غرفہ بن حارث کندی رضی اللہ عنہ	// عبد اللہ بن معاویہ غاضری رضی اللہ عنہ
// شرحبیل بن اوس رضی اللہ عنہ	// عمرو بکالی رضی اللہ عنہ
۲۸۰ حابس بن سعد طائی رضی اللہ عنہ	// سنان بن عرفہ صحابی رضی اللہ عنہ
// جبلہ بن ازرق صحابی رضی اللہ عنہ	۲۷۵ ابو ہند داری رضی اللہ عنہ
// ابن مسعدہ رضی اللہ عنہ، صاحب جیوش	// معاویہ ہذلی رضی اللہ عنہ
// عمارہ بن زکمرہ رضی اللہ عنہ	// شہیک بن صرم سکونی رضی اللہ عنہ
// ابو سلمیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا چرواہا	// سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ عنہ
// عرب رضی اللہ عنہ	// ابو الجحیر رضی اللہ عنہ
۲۸۱ ابو رھم بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ	۲۷۶ ابو الاسد رضی اللہ عنہ، سلمی کے دادا
// سہم بن عمرو اشعری رضی اللہ عنہ	// ثوبان بن یمرہ صحابی ذوالاصابع رضی اللہ عنہ

۲۸۴	ابوعزبہ حضرمیؓ	۲۸۱	عمرو بن مالک علیؓ
۲۸۵	عمیر بن اسودؓ	//	رقاعہ بن زید جذامیؓ
//	ابوخریہ کنڈیؓ	//	قروہ بن عمرو جذامیؓ
//	عمرو بن اسود سکونیؓ	۲۸۲	عبداللہ بن سفیان ازدیؓ ابوعمیرہ خولانیؓ
//	عاصم بن حمید سکونیؓ	//	ابوسفیان مدلوکؓ
//	غضیف بن حارث کنڈیؓ	//	ہانی ہمدانیؓ
۲۸۶	ابوعبداللہ صناحیؓ	//	ابومریم عسانیؓ
//	معدان بن ابوطیہ بصریؓ	//	ابومریم اسدیؓ صحابیؓ
//	عمرو بن حارث عقیؓ	۲۸۳	عبدالرحمن بن عائش حضرمیؓ
//	حارث بن معاویہ کنڈیؓ	//	ابورنیم بیہقیؓ ربیعہ بن عمرو جرشیؓ
//	یزید بن اسود جرشیؓ	//	عبداللہ بن سیدان سلمیؓ
//	شرحیل بن سمطؓ	//	خالد بن حواتریؓ
//	ابوہام اسودؓ	//	عمیر بن جابر بن غاضرہؓ
۲۸۷	ابواسحاق کعب بن احبار بن ماتعؓ	//	حشر بنؓ
//	یزید بن شجرہ زہاویؓ	//	صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد شامیوں کا پہلا طبقہ
//	حارث بن عبدالزدی سلوکیؓ	//	
۲۸۸	دوسرا طبقہ: شام کے تابعین عظام	//	جنادہ بن ابوامیہ ازدیؓ
//	عبداللہ بن محرزؓ	//	ابوالعقیفؓ
//	ابواسحاق قبصہ بن ذویب بن حلقہ خزاعی قمریؓ	//	ابوعبدالرحمن جبر بن نفیر حضرمیؓ
//	ابوشجرہ کثیر بن مرہؓ حضرمیؓ	۲۸۴	سفیان بن وہب خولانیؓ
//	ابومسلم عبداللہ بن ثوبؓ خولانیؓ	//	ذوالکلاعؓ
//	ابوادریس عائد اللہ بن عبداللہؓ خولانیؓ	//	یزید بن عمیرہ زبیدیؓ
//	یعلیٰ بن شداد بن اوس بن ثابت انصاریؓ	//	عبدالرحمن بن غنم بن سعد اشعریؓ
۲۸۹	عبدالرحمن بن عمرو سلمیؓ	//	غنم بن سعدؓ
//	شہر بن حوشب اشعریؓ	//	مالک بن یحناجر الہانیؓ
//		//	اوسط بن عمرو بجلیؓ

۲۸۹	ابوخرمہ سعدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبداللہ بن عامر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۸۹	ابوایوب سلیمان بن موسیٰ اشدرق	ابوعبدالرحمن قاسم بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۸۹	ابوراشد <small>رضی اللہ عنہ</small> حمیرانی	مسلم بن مشکم <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۸۹	عبداللہ بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small> نجفی	مسلم بن قرظہ اشجعی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۸۹	ابوزرعہ یحییٰ بن ابوعمرو شیبانی <small>رضی اللہ عنہ</small> علی بن ابوطلمحہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابوعثمان سعید بن ہانی خولانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۸۹	یحییٰ بن جابر طائی <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابوالزاہرہ حضری (بعض کے نزدیک) حمیری
۲۸۹	شمصم ابوالکشمی الطوکی <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبداللہ بن ثمر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۰	یونس بن سیف <small>رضی اللہ عنہ</small>	حجاج بن عبدالشمالی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۰	عبدالرحمن بن عریب حمیری <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابوسہل کلثوم بن ہانی کنڈی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۰	عمر بن قیس کنڈی <small>رضی اللہ عنہ</small>	حکیم بن عمیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۰	ابوطلمحہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابوعبید (یا) ابو عامر نوف بکالی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۱	ابوعنبنہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	تبیح اہلبیہ کعب احبار کے فرزند
۲۹۱	ابوعتبہ کنڈی <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابوحسنہ مسلم بن کنیس (یا) کنیس
۲۹۱	یزید بن سہمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	
۲۹۱	مہاصر بن حبیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	
۲۹۱		تیسرا طبقہ
۲۹۱		مکحول دمشقی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۱		رجاء بن حیوہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۲	عروہ بن رویم نجفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	خالد بن معدان کلاعی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۲	عطیہ بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر حضری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۲	ازہر بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small> حرازی حمیری	راشد بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small> حمیری
۲۹۲	سعید بن ہانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبادہ بن نسی <small>رضی اللہ عنہ</small> کنڈی
۲۹۲	اسد بن وداعہ <small>رضی اللہ عنہ</small> طائی حمصی	سعید بن مرعمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۲	بلال بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>	نمیر بن اوس اشعری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۲	ابوالعباس ولید بن ابوما لک ہمدانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	سلیمان بن حبیب محاربی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۲	یزید بن ابوما لک ہمدانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبداللہ بن ابوزکریاء خزاعی دمشقی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۹۲	خالد بن عبداللہ بن حسین <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبدالرحمن بن میسرہ حضری <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۹۹	صفوان بن عمرو سلکی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۹۵	نعمان بن منذر غسانی دمشقی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سعید بن عبدالعزیز <small>رضی اللہ عنہ</small> تنوخی	۲۹۶	عمرو بن مہاجر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عبدالرحمن سعید بن بشیر ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حجیر بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالعباس ہشام بن غازی بن ربیعہ بن عمرو جرشى <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابولقمان حضرمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبداللہ بن علاء بن زبر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عامر بن ابوالحشیب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	شعیب بن الہجرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	علاء بن حارث <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو عبدالرحمن یحییٰ بن حمزہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یحییٰ بن حارث ذماری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	صدقہ بن خالد سمین <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حسین بن جابر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سلیمان بن سلیم کنڈی <small>رضی اللہ عنہ</small> ابو فضالہ فرج بن فضالہ	//	صقر بن نسیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حمصی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سلیم بن عامر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۰۰	چھٹا طبقہ	۲۹۷	ابوعبید اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابومحمد بقیہ بن ولید، حمصی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حاتم بن حریش حمصی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابومحمد سوید بن عبدالعزیز <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ضمرہ بن حبیب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالزرقاء عبدالملک بن محمد برسی حمیری <small>رضی اللہ عنہ</small> ابو عبداللہ	//	ربیعہ بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن حرب ابرش خولانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعبدرب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالعباس ولید بن ابومسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوبشر <small>رضی اللہ عنہ</small> مسجد دمشق کے مؤذن
//	عمر بن عبدالواحد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۹۸	پانچواں طبقہ
۳۰۱	ابوعبداللہ ضمرہ بن ربیعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محمد بن ولید زبیدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابواسامیل، بشر بن اسماعیل حلبي <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یحییٰ بن یحییٰ غسانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	شعیب بن اسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو کنانہ و صین بن عطاء کنانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۰۲	ساتواں طبقہ	//	عبدالرحمن بن یزید بن جابر ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالمغیرہ حمصی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یزید بن یزید بن جابر ازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالیمان، حمصی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یونس بن میسرہ بن جلس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حسن بن واقع <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو خالد ثور بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small> کلاعی، حمصی
//		۲۹۹	ابوبکر بن عبداللہ بن ابومریم غسانی <small>رضی اللہ عنہ</small>

۳۱۲	ابوزکریاء عطارؓ	//	معر بن سلیمان رقیؓ، نخعیؓ
۳۱۳	مصر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	//	ابویزید خالد بن حیانؓ، خزازؓ
	ابوعبداللہ عمرو بن عاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن	//	ابوعبدالرحمنؓ، عبداللہ بن جعفر بن خیلانؓ
//	سہم رضی اللہ عنہ	//	ابوسعیدؓ، یحییٰ بن عبداللہ بن ضحاک بن بابت حرائیؓ
	عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن	//	ابوجعفرؓ، عبداللہ بن محمد بن علی بن نفیل حرائیؓ
//	سہم رضی اللہ عنہ	//	مغیرہ بن زیادؓ، معانی بن عمران بن محمدؓ
۳۱۳	سہم رضی اللہ عنہ	۳۱۰	دار الخلافہ کے اور سردوں کے محدثین و علماء
//	خارجہ بن حدافہ بن غانم رضی اللہ عنہ	//	ابوعمر وادزاعیؓ
۳۱۵	عبداللہ بن سعد بن ابوسرح رضی اللہ عنہ	//	ابواسحاق فزاریؓ
//	حمیہ بن جزء بن عبد یغوث رضی اللہ عنہ	//	ابوعمر و عیسیٰ بن یونس بن ابواسحاقؓ، سعیدیؓ، ہمدانیؓ
//	عبداللہ بن حارث بن جزء بن جیری رضی اللہ عنہ	//	ابومحمدؓ، مخلد بن حسینؓ
//	ابوعمر و عقبہ بن عامر بن عیسیٰؓ، جہنی رضی اللہ عنہ	//	ابویوسفؓ، محمد بن کثیرؓ
۳۱۶	نبیہ بن صواب مہری رضی اللہ عنہ	//	ابومحمدؓ، حجاج بن محمد عمورؓ
//	عائقہ بن رمث بلوی رضی اللہ عنہ	//	ابوعبداللہؓ، محمد بن یوسف فریابیؓ
//	ابوزمعه بلوی رضی اللہ عنہ	۳۱۱	حسینی مدنیؓ
//	ابوخراش سلمی رضی اللہ عنہ	//	ابوالحسن آدم بن ابویاسؓ
//	ابولصرہ عقیاری رضی اللہ عنہ	//	یشم بن جمیلؓ
۳۱۷	بصرہ بن ابولصرہ رضی اللہ عنہ	//	ابوالحسنؓ، علی بن بکار بصریؓ
//	جمیل بن بصرہ بن ابولصرہ عقیاری رضی اللہ عنہ	//	ابوعبداللہؓ، حارث بن عطیہ بصریؓ
//	ابوبردہ رضی اللہ عنہ	//	خلف بن حمیم کوفیؓ
//	عبداللہ بن سعد صحابی رضی اللہ عنہ	//	ابوعبداللہؓ، محمد بن عیینہ فزاریؓ
//	خرشہ بن حارث رضی اللہ عنہ	//	ابوعثمانؓ، سعید قاریؓ، زیادؓ
//	جنادہ ازدی رضی اللہ عنہ	//	ابوالموفقؓ
//	سعید بن یزید ازدی رضی اللہ عنہ، ابوسعدؓ، خیر انماری رضی اللہ عنہ	۳۱۲	ابوالمختارؓ
۳۱۸	معاذ بن انسؓ، جہنی رضی اللہ عنہ	//	ابولحسنؓ، منصور بن ہارونؓ
//	ابوالیقظان صحابی رضی اللہ عنہ	//	

۳۲۳	ابوقبیل معافریؓ	۳۱۸	معاویہ بن حذافہؓ
//	عبداللہ بن سبیرہ سبائیؓ	//	زیاد بن حارث صدائیؓ
۳۲۴	شفی بن ماتعؓ اصمعی حمیری	//	ابومعمر مسلمہ بن مخلد بن صامتؓ
//	شعیب بن یثبانؓ	۳۱۹	سرقؓ
//	ابومصعبؓ مشرح بن ہاعانؓ	//	سندرؓ موی رسول اللہ ﷺ
//	ابواہیشمؓ	۳۲۰	ابوفاطمہ ازدیؓ
//	تیسرا طبقہ	۳۲۱	ابوجعہؓ
//	اورجاءؓ یزید بن ابوحیبؓ	//	ابوسعادؓ
//	جعفر بن ربیعہؓ	//	عبدالرحمن بن عدیس بلویؓ
//	عبید اللہ بن ابوجعفرؓ	//	ابواشموس بلویؓ
//	بکر بن سوادہ جدامیؓ	۳۲۲	مصر میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد پہلا طبقہ
//	عبداللہ بن رافع غافقیؓ حمیریؓ	//	ابوعبداللہ عبدالرحمن بن عسیلہؓ ضناحیؓ حمیری
۳۲۵	ولید بن ابوعبدہؓ	//	ابوتمیم حیشانیؓ
//	سعید بن ابولہلالؓ	//	عبداللہ بن زریر غافقیؓ
//	ابوعقیل زہرہ بن معبدؓ	//	وہبؓ حیشانی کے بھائی
//	چوتھا طبقہ	//	عبدالرحمن بن شماسہؓ
//	عمرو بن حارث بن یعقوبؓ انصار کے آزاد کردہ	۳۲۳	دوسرا طبقہ
//	غلام	//	ابوالخیر مرہد بن عبداللہ زینیؓ حمیریؓ
//	ابوزید حیوہ بن شرحؓ تمیمیؓ	//	ابوعبدالرحمنؓ بجلیؓ حمیریؓ
//	موسیٰ بن علی بن رباحؓ نخعیؓ	//	ابوقیسؓ موی عمرو بن العاصؓ
//	سعید بن ابویوبؓ	//	ابوعبید اللہ وردانؓ موی عمرو بن العاصؓ
//	عبدالرحمن بن شرحؓ	//	قسیرؓ موی عمرو بن العاصؓ
//	عیاش بن عباسؓ قتیبائیؓ یحییٰ بن یوب	//	علی بن رباحؓ نخعیؓ
//	غانقیؓ	//	ابوعشائہ معافریؓ

۳۲۶	ایلیہ کے محدثین و علماء	۳۲۶	پانچواں طبقہ
۳۲۷	طلحہ بن عبد الملک ایلی رضی اللہ عنہ	۳۲۷	ابو عبد الرحمن، عبد اللہ بن عقبہ بن لہیعہ، حضرمی رضی اللہ عنہ
۳۲۸	عقیل بن خالد رضی اللہ عنہ	۳۲۸	ابو الحارث، لیث بن سعد رضی اللہ عنہ، مولی قیس
۳۲۹	ابوصخر، ایلی رضی اللہ عنہ	۳۲۹	مفضل بن فضالہ، قیس رضی اللہ عنہ
۳۳۰	زریق بن حکم رضی اللہ عنہ	۳۳۰	رشدین بن سعد، قیس
۳۳۱	حسین بن رستم رضی اللہ عنہ، یونس بن زید ایلی رضی اللہ عنہ	۳۳۱	غوث بن سلیمان، حضرمی رضی اللہ عنہ
۳۳۲	ابو الصباح، عبد الجبار بن عمرا ایلی رضی اللہ عنہ	۳۳۲	بکر بن مضر رضی اللہ عنہ، نافع بن یزید رضی اللہ عنہ
۳۳۳	عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ اور ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مفری	۳۳۳	چھٹا طبقہ
۳۳۴	وغیرہ	۳۳۴	عبد اللہ بن وہب رضی اللہ عنہ
۳۳۵	افریقہ کے محدثین و علماء	۳۳۵	ابوصالح، عبد اللہ بن صالح، جہنی رضی اللہ عنہ
۳۳۶	افریقہ کے محدثین و علماء	۳۳۶	سعید بن عفیر رضی اللہ عنہ، سعید بن ابومریم رضی اللہ عنہ، یحییٰ بن
۳۳۷	خالد بن الوعران رضی اللہ عنہ	۳۳۷	بکیر رضی اللہ عنہ
۳۳۸	اندلس کے محدثین و علماء	۳۳۸	عبد اللہ بن عبد الحکم رضی اللہ عنہ، عمرو بن خالد رضی اللہ عنہ
۳۳۹	معاویہ بن صالح، حضرمی رضی اللہ عنہ	۳۳۹	نعیم بن حماد رضی اللہ عنہ

قبل از مطالعہ

اس کتاب کے مطالعہ کرنے سے قبل مندرجہ ذیل امور کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ہم نے سند کو مختصر بیان کرنے کے لیے چند اصول وضع کر لیے ہیں انہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

- ① تجدیدت فلاں یعنی فلاں نے ہم سے بیان کیا، اس میں سننے والے لگی ہیں۔
- ② بحدیث فلاں یعنی فلاں نے مجھ سے بیان کیا، اس میں سننے والا ایک ہے۔
- ③ باخبار فلاں یعنی فلاں نے مجھے خبر دی بتایا، اس میں خبر دیئے جانے والے بہت ہیں۔
- ④ شخب فلاں یعنی فلاں نے مجھے خبر دی یا بتایا، اس میں خبر دیئے جانے والا ایک ہے۔
- ⑤ بحدیث از فلاں یعنی فلاں سے یہ صیغہ مجہول کا ہے۔
- ⑥ بسماع از فلاں یعنی فلاں سے یہ بات سنی گئی یعنی میں نے یا ہم نے سنی یہ صیغہ بھی مجہول کا ہے۔
- ⑦ از فلاں یعنی فلاں سے۔
- ⑧ ہم نے عربی لفظ عن کا ترجمہ زیادہ فارسی لفظ کے از سے کیا ہے لیکن کہیں کہیں اردو کے لفظ (سے) سے بھی کر دیا ہے۔
- ⑨ کتاب کے آغاز میں ابتدائی سندیں تفصیل ترجمہ سے دے دی گئی ہیں تاکہ قارئین کرام کو شروع میں سمجھنے میں دقت نہ ہو اور پھر سندیں مختصر حسب اصول موضوعہ لکھی گئی ہیں۔
- ⑩ ترجمہ شگفتہ، سلیس اور معنی خیز ہے۔

حق تعالیٰ قبول فرما کر ہمیں بھی اپنی عنایتوں، مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے نوازے۔ آمین!





بصرہ میں بس جانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم

تابعین، علماء اور فقہاء رضی اللہ عنہم

حضرت عتبہ بن غزو ان رضی اللہ عنہ:

بن جابر بن وہیب بن سہیب بن زید بن مالک بن الحارث بن خوف بن مازن بن منصور بن عكرمه بن حصفہ بن قیس بن عبلان بن مضر کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔

فرماتے ہیں: میں نے بعض حضرات سے سنا کہ وہ انہیں ابو غزو ان کی کنیت سے بھی پکارتے تھے آپ طویل القامت، خوبصورت اور قدیم مسلمان ہیں آپ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی اور جنگ بدر میں شریک ہوئے۔

فرماتے ہیں: ہمیں محمد بن عمر نے خبر دی کہ مجھ سے جبیر بن عبد اللہ اور ابراہیم بن عبد اللہ نے جو اولاد عتبہ میں سے ہیں بیان کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا لہذا آپ ہی اس علاقہ کو فتح کرنے والے ہیں اور آپ ہی نے یہ شہر بسایا اس سے پہلے یہاں ایک خاندان آباد تھا اور آپ ہی نے بانسوں سے بصرہ کی جامع مسجد بنوائی لیکن آپ نے یہاں اپنا گھر نہیں بنوایا۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: ہم سے روایت کی جاتی ہے کہ عتبہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مکتوب کی ہدایات کے مطابق آپ نے انہیں حکم دیا کہ بصرہ کا رخ کریں۔

فرماتے ہیں: ہمیں محمد بن عمر نے خبر دی کہ ہم سے ابراہیم بن محمد بن شریحیل عبد ریی نے مصعب بن محمد بن شریحیل یعنی ابن حسنہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں: عتبہ سعد ہی کے پاس تھے جب آپ نے عجیبوں کو شکست دی ہے پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ کو فہ کو اپنا فوجی اڈہ بنا لیں اور عتبہ کو سرزمین ہند کی طرف بھیج دیں کیونکہ عتبہ اسلام کے ایک بلند و عزت والے مقام کے مالک ہیں آپ بدر کے غازیوں میں سے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو مسلمانوں سے ایک حصہ ملے گا (یعنی آپ مسلمانوں کے ایک شہر کے بانی ہوں گے) اس وقت اس علاقہ کو ارض ہند کے نام سے پکارا جاتا تھا (فاروق اعظم لکھتے ہیں) عتبہ رضی اللہ عنہ وہاں بس جائیں اور اس علاقہ میں مسلمانوں کی چھاؤنی بنائیں اور احتیاط رکھیں کہ میرے اور مسلمانوں کے درمیان سمندر حائل نہ ہو۔

یہ خط پڑھ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر آپ کا خط سنایا حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً کوفہ سے آٹھ سو آدمی لے کر روانہ ہو گئے اور جہاں آج بصرہ آباد ہے آپ وہاں ٹھہر گئے۔
بصرہ کی وجہ تسمیہ:

چونکہ اس علاقہ میں کثرت سے سیاہ پتھر پائے جاتے ہیں اس لیے اسے بصرہ کہا جاتا ہے پھر جب حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ یہاں پہنچ گئے تو آپ نے یہاں اپنی فوجی چھاؤنی قائم کی اور آپ یہاں ٹھہر گئے اور تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے کیمبلوں کا ایک خیمہ نصب کر دیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ادھر بھیج دیا اور یہاں لوگ کافی ہو گئے پھر جب مسلمان بہت ہو گئے تو ان میں سے ایک جماعت نے کچی اینٹوں سے سات محلے بنا لیے، دو محلے خربہ میں ایک زاہقہ میں دو، بنو تمیم میں اور دوازہ میں بنائے گئے، پھر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے دریائے فرات سے بصرہ تک ایک نہر کا افتتاح کیا، بصرہ والے بصرہ کے پہاڑوں کے آس پاس کے علاقہ کے کافروں سے جہاد کرتے رہتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عقبہ کو خط لکھا کہ بصرہ میں مسلمان بساؤ تاکہ مجاہد قریب ہی سے دشمنوں پر حملہ کر سکیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک پر مغز تقریر کی، یہ بصرہ میں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی تقریر ہے آپ نے اس میں فرمایا: ہر طرح کی تحریضیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اللہ ہی کی بڑائیاں بیان کرتا ہوں اور اسی سے اپنے تمام کاموں میں مدد مانگتا ہوں، میرا اس پر ایمان و بھروسہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگو! دنیا اپنی انتہائی تیز رفتار سے پیٹھ پھیر کر بھاگی جا رہی ہے اور دنیا والوں میں اعلان کر رہی ہے کہ سب اپنا اپنا پورا یا بستر باندھ لیں لہذا دنیا محض تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے جیسے برتن کے پیندے میں تھوڑا سا پانی باقی رہ جاتا ہے، دیکھو تم سے دنیا تو لامحالہ چھوٹ جانے والی ہی ہے لہذا اسے اپنی موجودہ بہتر حالت پر چھوڑو، جہنم کی حیرت انگیز گہرائی پر غور کرو اگر کسی بھاری سے بھاری پتھر کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ ستر سال میں اس کے پیندے میں پہنچے گا، اللہ کی قسم جہنم انسانوں اور جنوں سے بھری جائے گی، اب جنت کی حیرت انگیز فراخی پر غور کرو کہ جنت کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کی چوڑائی پچاس سال کی مسافت ہے، اللہ کی قسم جنت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ لوگوں سے پٹی پڑی ہوگی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ تھا اور ساتواں مسلمان تھا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، ہم بلسان کے پتے اور جھاڑیوں کے کانٹے چھایا کرتے تھے حتیٰ کہ ہمارے سوڑھے زخمی ہو جایا کرتے تھے اس وقت مجھے ایک چادر ملی، میں نے وہ درمیان سے پھاڑ دی اور ایک ٹکڑا سعد رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور ایک اپنے پاس رکھ لیا، اے سات قبیلو! اس کے بعد ہم نے اپنے میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی شہر پر امیر ہی پایا، دیکھو ہر نبوت کے بعد ملک جہنم لے لیا کرتا ہے ایسے زمانہ سے اللہ کی پناہ جس میں سلطان بادشاہ بن بیٹھے اور اس سے بھی اللہ کی پناہ کہ میں اپنے آپ کو عظیم سمجھوں اور لوگوں کی نگاہوں میں حقیر نہ ہوں، تم لوگ جلدی ہی ہمارے بعد والے امراء کو آزما لو گے اور انہیں آزمانے کے بعد ان میں اچھی باتیں بھی دیکھو گے اور بری باتیں بھی۔

راوی کہتا ہے: حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ خطبہ ہی فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک ثقفی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک خط آپ کو لا کر دیتا ہے جس میں امیر المؤمنین لکھتے ہیں: اما بعد! مجھے ابو عبد اللہ ثقفی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بصرہ میں ایک گھوڑا پالا

ہے جب کہ آج تک کسی نے بصرہ میں گھوڑا نہیں پالا آپ یہ خطا دیکھتے ہی ابو عبد اللہ کا خیال رکھیں اور وقت ضرورت ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں ابو عبد اللہ وہ پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بصرہ میں گھوڑا پالا۔ پھر حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ یلسان اور آرز قباد کی طرف بڑھے اور انہیں فتح فرمایا آپ کے مقابلہ کے لیے ایک بہت بڑی فوج لے کر ایک رئیس (صاحب المدار) نکلا آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے شکست فاش دی رئیس زندہ گرفتار کر لیا گیا اور آپ کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی آپ نے اس کے لباس اور پٹکے پر قبضہ کر لیا جس میں سونا اور جواہرات تھے اور اسے آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں روانہ فرما دیا جب اس رئیس کے جسم کا یہ سامان مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ والوں نے بڑی بے تابی سے اسلامی فوج کا حال پوچھا پہنچنے والے قاصد نے کہا: مسلمانو! کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے لوگوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کے پاس سونے چاندی کی ریل پیل اور گن کر نہیں بلکہ مٹھیاں بھر بھر کر خرچ کرتے ہیں یہ سن کر مسلمان مسرت کے مارے پھولے نہیں سمائے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تقریباً ۱۵۰ مجاہدوں کا ایک دستہ مرتب کر کے حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ فرما دیا حضرت سعد حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کو جو آپ کے ماتحت بصرہ کے حاکم تھے احکامات لکھتے رہتے تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے احکامات سے حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچتی تھی حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملنے کی درخواست کی اجازت مل گئی حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً ۱۵۰ مجاہدوں کا ایک دستہ مرتب کر کے حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ فرما دیا حضرت سعد حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ پر خلیفہ فرما کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تشدد کی شکایت کرتے ہیں فاروق اعظم شکایت سن کر خاموش ہو جاتے ہیں لیکن عتبہ بار بار شکایت کرتے ہیں آخر کار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عتبہ! تم ایک قرشی صحابی کی اہارت قبول کرنے سے کیوں جی جراتے ہو؟ سعد رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو شرف و سعادت کا اعزاز بھی حاصل ہے عتبہ عرض کرتے ہیں: کیا میں قرشی نہیں؟ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: قوم کا حلیف قوم ہی میں سے ہے اور رحمت عالم ﷺ کی پرانی صحبت کی سعادت سے میں بھی مشرف ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بلاشبہ تمہاری فضیلت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ عتبہ: اگر یہی فیصلہ بحال رہا تو اللہ کی قسم میں بصرہ نہیں جاؤں گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ جانے پر مجبور کر دیا۔ عتبہ تعمیل ارشاد فاروقی کے لیے بصرہ کی طرف چل پڑے اور راستہ ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے آپ کے پیٹ میں خرابی پیدا ہوئی اور معدن بنی سلیم میں ۱۰ اھ میں انتقال فرما گئے سوید جو آپ کے غلام تھے آپ کا سامان اور ترکہ لے کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ ۵ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور چھ ماہ بصرہ کے گورنر رہے۔

بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ:

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے اور آپ کے دادا کا نام عبد اللہ بن حارث بن اعرج بن سعد بن زراح بن عدی بن اسلم بن مازن بن حارث بن سلمان بن اسلم بن اسلم بن اسلم ہے۔

جب نبی ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو راہ میں آپ کے پاس سے گزرے آپ اسی وقت سعادت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس ٹھہرے رہے اور جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ

پہنچ گئے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے حتیٰ کہ رحمت عالم ﷺ اپنے رب سے جا ملے اور بصرہ کا علاقہ فتح ہو کر بصرہ آباد ہوا پھر آپ بصرہ کی طرف منتقل ہو گئے اور بصرہ ہی میں گھر بنا لیا پھر آپ عہد عثمانی میں جہاد کی غرض سے خراسان تشریف لے گئے اور جہادوں میں شامل ہوتے رہے، حتیٰ کہ عہد یزید میں ۶۲۳ھ میں مرو میں وفات پا گئے، خراسان میں آپ کی اولاد باقی رہی، آپ کی کچھ اولاد نے بغداد میں بھی رہائش اختیار کر لی تھی اور وہ بغداد ہی میں فوت ہوئی۔

ابن سعد: ہمیں ابوالنضر ہاشم بن قاسم خبر دے دیتے ہیں ان سے شعبہ بیان کرتے ہیں ان سے محمد بن ابی یعقوب ضعی بیان فرماتے ہیں ان سے وہ بیان فرماتے ہیں جنہوں نے نہر لُح کے پیچھے بریدہ اسلمی سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے: اصل لذت گھوڑوں کے دوڑانے ہی میں ہے۔

ابن سعد: ہمیں عفان بن مسلم خبر دیتے ہیں ان سے حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں انہیں عاصم احوال خبر دیتے ہیں ان سے مورق کہتے ہیں کہ بریدہ اسلمی نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر پر کھجور کی دو شاخیں گاڑھی جائیں، آپ ادنیٰ خراسان میں فوت ہوئے۔

ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام (جیسا کہ ہمیں محمد بن عمر نے اور ابو برزہ کے بعض بچوں نے بتایا) عبداللہ بن نصلہ ہے لیکن ہشام بن محمد بن سائب کلبی وغیرہ علماء نے نصلہ بن عبداللہ بتایا ہے اور بعض نے نصلہ بن عبید بن حارث بن جیال بن ربیعہ بن ذعلیل بن انس بن خزیمہ بن مالک بن سلمان بن اسلم بن انصی بتایا ہے۔

ابن سعد: ابو برزہ شروع ہی میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے اور فتح مکہ کے دن لشکر اسلام میں شامل تھے پھر برابر رحمت عالم ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک رہے حتیٰ کہ رحمت عالم ﷺ دنیا سے سدھار گئے رحمت عالم ﷺ کی وفات حسرت آیات کے بعد آپ بصرہ میں بس گئے اور وہیں گھر بنا لیا بصرہ میں آج تک آپ کی اولاد ہے، پھر آپ خراسان میں جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ مرو میں فوت ہو گئے۔

ابن سعد: ہمیں مسلم بن ابراہیم خبر دیتے ہیں ان سے مبارک بن فضالہ بیان کرتے ہیں اور ان سے سیار بن سلامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو برزہ کو دیکھا ان کا سر اور داڑھی سفید تھی۔

ابن سعد: ہمیں مسلم بن ابراہیم خبر دیتے ہیں ان سے ابو عمر زیاد بن ابی مسلم بیان کرتے ہیں ان سے امیہ بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا کہ ابو برزہ اور ابو بکرہ بھائی بھائی بنے ہوئے تھے۔

عمران بن حصین بن عبید رضی اللہ عنہ:

بن خلف بن عبدنہم بن خزیمہ بن جمہ بن غاضرہ بن حبشیہ بن کعب بن عمرو۔ آپ کی کنیت ابو جہد ہے، آپ معہ اپنے والد محترم اور ہمشیرہ کے شروع میں اسلام کو سینہ سے لگا چکے تھے، آپ رحمت عالم ﷺ کے ساتھ شریک جہاد رہے مگر اپنی قوم ہی میں رہے، کثرت سے مدینہ منورہ آتے جاتے رہتے تھے حتیٰ کہ رحمت عالم ﷺ داغ مفارقت دے گئے اور بصرہ شہر بسایا گیا آپ نے بھی بصرہ میں رہائش اختیار کر لی اور بصرہ ہی میں فوت ہوئے۔ بصرہ میں آج تک آپ کی اولاد باقی ہے جن میں خالد بن طلح بن محمد بن

عمران بن حصین بصرہ کے قاضی بھی ہوئے ہیں۔

ابن سعد: ہمیں محمد بن اسماعیل بن ابی فدیق خبر دیتے ہیں ان سے ہشام بن سعد بیان کرتے ہیں ہشام سعید بن ہلال سے اور وہ ابوالاسود دؤلی سے بیان کرتے ہیں کہ ابوالاسود کہتے ہیں: کہ میں بصرہ میں آیا وہاں ابو نجد عمران بن حصین تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرہ والوں کو دین سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔

ابن سعد: ہمیں یزید بن ہارون خبر دیتے ہیں انہیں ابراہیم بن عطاء عمران بن حصین کے آزاد کردہ غلام اپنے باپ عطا سے خبر دیتے ہیں کہ عطا کہتے ہیں: عمران کی انگوٹھی پر گلے میں تلوار ڈالے ہوئے آدمی کی تصویر کندہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں مٹی پر ایک انگوٹھی کی مہر دیکھی میرے والد نے فرمایا یہ عمران کی انگوٹھی ہے۔ ابن سعد: ہمیں عفان بن مسلم اور معلیٰ بن اسد نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عربان نے بتایا اور ان سے ابو عمران جونی نے بیان کیا کہ میں نے عمران کو ریشمی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا۔

ابن سعد: ہمیں یزید بن ہارون خبر دیتے ہیں انہیں ابراہیم بن عطاء اپنے باپ سے خبر دیتے ہیں کہ عمران نے ایک شخص کے خلاف فیصلہ صادر فرمایا وہ بولا آپ نے مجھ پر فیصلہ میں ظلم کیا حالانکہ میں حرم نہیں پوچھا: کیوں؟ بولا میرے خلاف جھوٹی گواہی دی گئی ہے فرمایا: جو کچھ میں نے تمہارے خلاف فیصلہ کیا ہے وہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا اور آئندہ اللہ کی قسم کبھی فیصلہ نہیں کروں گا۔

ابن سعد: ہمیں روح بن عبادہ خبر دیتے ہیں ان سے شعبہ بیان کرتے ہیں ان سے مفضل بن فضالہ قرشی ابورجاء عطاردی سے بیان کرتے ہیں کہ ابورجاء فرماتے ہیں: عمران ریشمی چادر اوڑھ کر ہمارے پاس آئے یہ چادر ہم نے آپ کے اوپر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ کبھی بعد میں دیکھی آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب حق تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اپنے بندے پر اس کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔

ابن سعد: ہمیں محمد بن عبیدطافسی خبر دیتے ہیں ان سے اعمش ہلال بن یساف سے بیان کرتے ہیں کہ ہلال کہتے ہیں کہ میں بصرہ گیا اور ایک مسجد میں داخل ہوا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بزرگ جن کی داڑھی بھی سفید ہے اور سر بھی ایک حلقہ میں ایک ستون سے ٹیک لگائے ہوئے باتیں فرما رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ عمران بن حصین ہیں۔

ابن سعد: ہمیں وہب بن جریر نے خبر دی کہ مجھ سے میرے والد نے بیان فرمایا کہ میں نے حمید بن ہلال سے سنا وہ مطرف سے بیان فرماتے تھے کہ مطرف نے کہا: میں نے عمران سے کہا: میں آپ کی حالت دیکھ کر آپ کی بیمار پرسی کو نہیں آتا فرمایا نہ آئیے کیونکہ جو اللہ کو محبوب ہیں وہ مجھے بھی محبوب ہیں۔

ابن سعد: میں نے محمد بن سیرین سے سنا فرماتے تھے عمران کو تیس سال تک استسقاء کی بیماری رہی ہر سال طیب آگ سے داغنا تجویز کرتے تھے لیکن آپ یہ تجویز قبول نہیں فرماتے تھے لیکن وفات سے دو سال قبل آپ نے یہ تجویز منظور کر لی اور داغ سے علاج کرایا۔

ابن سعد: ہمیں عبدالوہاب بن عطاء نے بتایا کہ ہمیں عمران بن حدیر نے لاحق بن حمید سے خبر دی کہ عمران داغنے سے منع

فرمایا کرتے تھے پھر ایک بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے اور انہوں نے یہی علاج کرایا پھر بلند آواز سے فرما رہے تھے میں نے آگ سے دغوا لیا لیکن افسوس! اس سے نہ تو تکلیف رفع ہوئی اور نہ بیماری گئی۔

ابن سعد: ہمیں وہب بن جریر بن حازم نے خبر دی کہ ہم سے ہمارے والد نے بیان فرمایا کہ میں نے حمید بن ہلال سے سنا وہ مطرف سے بیان فرماتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے عمران نے فرمایا تمہیں معلوم ہے مجھ پر سلام کیا جاتا تھا لیکن جب میں نے داغ لگوا لیا تو سلام بند ہو گیا؟ میں نے پوچھا: کیا سزا ہے؟ فرمایا سزا ہے؟ میں نے دل میں کہا: آپ کی موت سے پہلے سلام پھر لوٹ آئے گا، پھر کچھ دنوں کے بعد عمران نے مجھ سے کہا: کچھ خبر بھی ہے سلام مجھ پر لوٹ آیا؟ (فرماتے ہیں) پھر اس کے بعد آپ چند دن ہی زندہ رہے۔

ابن سعد: ہمیں اسماعیل بن ابراہیم اسدی نے سلمہ بن علقمہ سے انہوں نے حسن سے خبر دی کہ عمران بن حصین نے وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد جب تم میرا جنازہ لے کر نکلو تو تیز رفتار سے چلنا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح آہستہ نہ چلنا اور میرے پیچھے آگ لے کر چیختے ہوئے نہ چلنا اور آپ نے اغبات الاولاد کے بارے میں کچھ ہدایتیں فرمائیں جن میں ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ جو خاتون مجھ پر نوہ کرے گی وہ مذکورہ بالا رعایتوں کی حق دار نہ ہوگی۔

ابن سعد: ہمیں یزید بن ہارون نے بتایا کہ ہمیں ابراہیم بن عطاء بن ابی میمونہ آل عمران کے آزاد کردہ غلام نے اپنے والد سے بتایا کہ عمران نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے پیچھے چیختے ہوئے نہ جائیں اور آپ نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ میری قبر جو کور بنائی جائے اور قبر تقریباً چار انگل بلند رکھی جائے۔

ابن سعد: ہمیں مسلم بن ابراہیم اور عبید اللہ بن محمد بن حفص قرشی ثمی نے بتایا کہ ہم سے حفص بن نصر سلمی نے بیان کیا کہ میری والدہ نے اپنی والدہ بنت عمران سے بیان کیا کہ جب عمران کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ میری نعش کو پگڑی سے باندھ دینا اور جب تم مجھے دفن کرنے کے بعد گھر آؤ تو اونٹ نحر کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا۔

محمد بن عمرو وغیرہ فرماتے ہیں: عمران کی کنیت ابو بجد ہے، آپ حضرت ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں آپ بصرہ میں زیاد بن ابی سفیان کی وفات سے ایک سال قبل فوت ہوئے، زیاد عہد معاویہ رضی اللہ عنہ میں ۵۳ھ میں فوت ہوئے۔

حج بن اورع اسلمی سہمی رضی اللہ عنہ:

محمد بن عمرو وغیرہ: آپ قدیم الاسلام ہیں آپ ہی نے بصرہ والوں کے لیے بصرہ میں مسجد کی نشان دہی کی، آپ اپنی قوم میں تیروں کی مشق فرما رہے تھے کہ رحمت عالم ﷺ آپ کے پاس سے گزرتے ہیں اور فرماتے ہیں تیروں کی مشق کرو، میں ابن اورع کے ساتھ ہوں، پھر حج بن بصرہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ ہی میں عہد معاویہ میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔

أُمیہ بن حنشل خزاعی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: مجھے یحییٰ بن سعید قطان سے بتایا گیا کہ انہوں نے فرمایا: ہم سے جابر بن صبح نے بیان کیا کہ مجھ سے یحییٰ بن عبد الرحمن خزاعی نے کہا جب کہ میں واسط تک ان کے ہم سفر رہا، یحییٰ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے اور سب سے پچھلے

نوالہ پر فرماتے بسم اللہ اولہ و آخرہ میں نے کہا کھانے کے شروع میں تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور آخری نوالہ پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھتے ہیں؟ (اس کا ثبوت کیا ہے؟) فرمایا میں نے اپنے دادا امیہ سے جو ایک صحابی تھے سنا فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی پھر جب ایک نوالہ باقی رہ گیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا شیطان ان کے ساتھ کھانا رہا حتیٰ کہ جب انہوں نے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا سب الٹ دیا۔

عبداللہ بن معقل بن عبدنہم رضی اللہ عنہ:

بن عقیف بن احم بن ربیعہ بن عدی بن ثعلبہ بن ذویب بن سعد بن عدی بن عثمان بن مزینہ۔ ابن سعد: ہمیں یحییٰ بن معین نے بتایا کہ عبداللہ کی کنیت ابو زیاد ہے (فرماتے ہیں) میں نے عبداللہ کے ایک بیٹے سے اس سلسلہ میں پوچھا تو کہا ان کی کنیت ابو سعید ہے آپ اللہ کے خوف سے روتے ہی رہتے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے آپ نے بھی رحمت عالم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی آپ مدینہ منورہ ہی میں رہائش پذیر رہے پھر بصرہ میں رہائش اختیار کر لی اور بصرہ ہی میں فوت ہو گئے۔ ابن سعد: ہمیں ہوزہ بن خلیفہ نے بتایا کہ ہم سے عوف نے خزاعی سے انہوں نے زیاد بن محمد بن عبداللہ بن معقل مزنئی سے بیان فرمایا کہ عبداللہ نے مرض الموت میں گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے متصل میرے دوست ہی رہیں اور ابن زیاد میری نماز نہ پڑھائیں پھر جب آپ فوت ہو گئے تو آپ کے گھر والوں نے ابو برزہ السلمی، عابد بن عمرو رضی اللہ عنہما اور دوسرے بصرہ کے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلوایا انہوں ہی نے آپ کو غسل دیا اور کفن پہنایا (فرماتے ہیں) ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی آستینیں چڑھا لیں اور اپنے کرتوں کے دامن ازاروں میں ٹوم لیے پھر آپ کو غسل دے کر کفنا دیا پھر اس کے بعد وضو کر لیا غسل نہیں کیا پھر جب آپ کا جنازہ گھر سے باہر نکالا تو ابن زیاد اپنے آدمیوں کے ساتھ دروازہ پر منتظر تھے ان سے کہا گیا کہ آپ وصیت کر گئے ہیں کہ ابن زیاد ان کی نماز نہ پڑھائیں (فرماتے ہیں) پھر ابن زیاد ان کے جنازے کے ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ جب بیضاء کے بالمقابل پہنچے تو جنازہ چھوڑ کر بیضاء کی طرف مڑ گئے۔

ابن سعد: ہمیں کعب بن جراح نے ابوالاشہب سے انہوں نے بکر بن عبداللہ مزنئی سے انہوں نے عبداللہ بن معقل سے خبر دی کہ عبداللہ نے وصیت کی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا۔

محمد بن عمر: آپ کی وفات عہد معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخیر میں ہوئی آپ نے بصرہ میں گھر بنا لیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو بھی اہل بصرہ کو دینی تعلیم دینے کے لیے بصرہ روانہ فرمایا تھا۔

معقل بن یسار رضی اللہ عنہ:

بن عبداللہ بن مہر بن خراق بن لائی بن کعب بن عبد بن ثور بن ہذمہ بن لاطم بن عثمان بن مزینہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔

آپ ہی نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم سے نہر معقل کھدوائی آپ بصرہ چلے گئے تھے وہیں بس گئے تھے اور گھر بنا لیا تھا

اور بصرہ ہی میں عہد معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخیر میں فوت ہوئے اس زمانے میں بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد تھے۔
حارث بن نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ:

بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف۔

آپ بصرہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے اور وہیں گھر بنا کر بس گئے تھے، اسی وقت عبد اللہ بن عامر بن کریم بصرہ کے گورنر تھے
آپ عہد عثمان میں بصرہ ہی میں فوت ہوئے بصرہ ہی میں آپ کی اولاد ہے آپ نے میت پر نماز کے بارے میں رسول اللہ ﷺ
سے ایک حدیث روایت کی ہے۔

عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ:

بن حبیب بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصی۔ آپ بھی بصرہ چلے گئے تھے اور وہیں بس گئے تھے اور بصرہ ہی میں وفات
پا گئے آپ بھی رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

ابن سعد: ہمیں وکیع بن جراح نے عیینہ بن عبدالرحمن بن جوشن سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے
عبدالرحمن بن سمرہ کے جنازے میں ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کو ایک شجر پر سوار دیکھا۔
ابوبکرہ رضی اللہ عنہ:

آپ کا اسم گرامی نفع بن مسروق ہے اور بعض حدیثوں میں مسروق کے بجائے مسروح ہے اور آپ کی والدہ سمیہ ہیں اور
آپ سمیہ کی طرف سے زیاد بن ابی سفیان کے بھائی ہیں آپ طائف میں غلام تھے پھر جب رسول اللہ ﷺ نے طائف کا محاصرہ کیا
تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو زاد شخص ہمارے پاس آ جائے گا اسے امن ہے اور جو غلام آ جائے گا وہ آزاد ہے چنانچہ اہل
طائف کے متعدد غلام آپ کی پناہ میں آ گئے تھے جن میں سے ایک ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں رحمت عالم ﷺ نے ان سب کو آزاد کر دیا
تھا ابوبکرہؓ جرحی کے ذریعہ قلعہ کی دیوار سے اترے تھے اس لیے لوگ آپ کو ابوبکرہ کی کنیت سے پکارنے لگے آپ فرمایا کرتے تھے
میں رسول اللہ ﷺ کا آزاد کردہ غلام ہوں۔

ابن سعد: ہمیں ابوغامر عقدی نے بتایا کہ ہم سے اسود بن شیبان نے خالد بن سمیر سے بیان کیا کہ ثقیف نے ابوبکرہ کا دعویٰ
کرنا چاہا ابوبکرہ نے کہا میں تو چھوڑا ہوا (مسروح) ہوں اور رسول اللہ ﷺ کا آزاد کردہ غلام ہوں۔

ابن سعد: ہمیں فضل بن دیکین نے بتایا کہ ہم سے ابوالاحوص نے مغیرہ سے انہوں نے شباک سے اور انہوں نے ایک ثقفی
سے بیان کیا کہ اس نے کہا ہم نے رسول اللہ ﷺ سے ابوبکرہ کو لوٹانے کی درخواست کی جب کہ آپ طائف کا محاصرہ کیے ہوئے
تھے کیونکہ ابوبکرہ ہمارا ایک غلام تھا لیکن آپ نے ابوبکرہ کو لوٹانے سے انکار فرما دیا اور فرمایا ابوبکرہ اللہ کی طرف سے آزاد کیا ہوا ہے
اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی آزاد کردہ ہے۔

ابن سعد: ہمیں یحییٰ بن حماد نے بتایا کہ ہم سے ابوجوانہ نے ان سے مغیرہ نے ان سے شباک نے اور ان سے عامر نے
بیان کیا کہ ثقیف نے رحمت عالم ﷺ سے ابوبکرہ کو جوان کا غلام تھا لوٹانے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا: تمہیں وہ اللہ کا اور

اس کے رسول کا آزاد کیا ہوا ہے۔

ابن سعد: اور ہمیں اسماعیل بن ابراہیم اسدی اپنی ایک حدیث میں جسے وہ ابوبکرہ سے روایت کرتے ہیں بتایا کہ ابوبکرہ نے سکرات کے وقت اپنی بیٹی سے کہا: ابن مسروح حبشی پر رو آپ ایک پرہیزگار و نیک شخص تھے آپ نے اسے اپنے بھائی زیاد کی طرف اپنے دل میں محمول کر لیا تھا پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو اپنے باپ کے نسب میں شامل کرنا چاہا تو ابوبکرہ نے زیاد کو اس الحاق سے منع فرمایا، لیکن زیاد نہیں مانے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہم خیال ہو گئے اس پر ابوبکرہ نے قسم کھائی کہ میں زیاد سے کبھی نہیں بولوں گا چنانچہ بات کرنے سے پہلے فوت ہو گئے، زیاد نے ابوبکرہ کی اولاد کو مقرب بنا لیا تھا اور ان کی عزت کی ان کو جاگیریں دیں اور انہیں مختلف مقامات کا حاکم مقرر کیا پھر حق تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دولت عطا فرمادی اور انہوں نے عرب ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم نفع بن حارث ثقفی کی اولاد میں سے ہیں۔

ابوبکرہ بصرہ میں عہد معاویہ رضی اللہ عنہ میں زیاد کی گورنری میں فوت ہوئے۔

ابن سعد: ہمیں یزید بن ہارون اور محمد بن عبداللہ انصاری نے بتایا کہ ہمیں عیینہ بن عبدالرحمن نے خبر دی کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ انہوں نے ابوبکرہ کو ایک مختش ریشمی چادر جس کا تانا خالص ریشم کا تھا اوڑھے ہوئے دیکھا۔
براء بن مالک بن نصر بن مضمم رضی اللہ عنہ:

بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی النجار آپ غزوہ احد و خندق میں اور ان کے بعد تمام غزوات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک رہے آپ لڑائی میں بڑی بہادری کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور دشمن کو قتل کر کے اس پر غالب آ جایا کرتے تھے۔

ابن سعد: ہمیں عمرو بن عاصم کلابی نے بتایا کہ ہم سے محمد بن عمرو نے محمد بن سیرین سے بیان کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ براء بن مالک کو کسی اسلامی لشکر کا سالار نہ بناؤ کیونکہ وہ اسے ہلاکت گاہ میں لے جائیں گے۔

ابن سعد: ہمیں عفان بن مسلم نے بتایا کہ ہمیں حماد بن سلمہ نے خبر دی (فرماتے ہیں) ثابت کا گمان ہے کہ انس بن مالک نے خبر دی کہ میں براء بن مالک کے پاس گیا آپ گن گنار ہے تھے اور اپنی کمان کی تانت کو بجا رہے تھے میں بولا: یہ کب تک؟ فرمایا: انس! کیا تمہارا خیال ہے کہ میری موت بستر پر آئے گی؟ اللہ کی قسم میں نے نوے سے کچھ اوپر کا فرقل کیے ہیں اور وہ مقتول ان کے سوا ہیں جن میں دوسروں کے ساتھ شریک رہا۔

ابن سعد: اور ہمیں عمر بن حفص نے ثابت سے اور انہوں نے انس بن مالک سے خبر دی کہ جب فارس میں یوم عقبہ پیش آیا اور مجاہد مروج ہو کر سمٹ گئے تو براء بن مالک کھڑے ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے حالانکہ گھوڑے کے کھر گھے ہوئے تھے پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم نے اپنے دشمنوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا بڑا برا کیا پھر آپ دشمن پر ٹوٹ پڑے آخر کار حق تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے دشمن کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی لیکن اس دن آپ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آمین۔

محمد بن عمر: یہ جوان ابن سعد فرماتے ہیں کہ آپ جنگ تستر میں شہید ہوئے یہ تمام علاقہ علماء کے نزدیک فارس ہی کا کہلاتا ہے۔

انس بن مالک بن نصر بن مضمض رضی اللہ عنہ:

بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار آپ کی والدہ کا اسم گرامی ام سلیم بنت ملحان ہے اور ام سلیم ہی آپ کے بھائی براء کی والدہ ہیں۔

ابن سعد: ہمیں یزید بن ہارون نے بتایا کہ ہمیں ابو محمد علاء ثقفی نے خبر دی کہ میں نے انس بن مالک سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے آٹھ سال کی عمر سے رحمت عالم ﷺ کی خدمت کی۔

ابن سعد: ہمیں محمد بن کنناہ اسدی نے بتایا کہ ہم سے جعفر بن برقان نے عمران بصری سے اور انہوں نے انس بن مالک سے بیان کیا کہ انس نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کی دس سال خدمت کی آپ نے مجھے کبھی ایسا کام نہیں بتایا جس سے میں ست پڑ جاتا میرے کام کو آپ نے کبھی برا نہیں کیا اور نہ اسے دہرایا اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے کچھ کہا بھی تو آپ نے یہ فرما کر اسے خاموش کر دیا جانے بھی دو اگر مقدر میں ہوتا تو اس طرح ہو جاتا۔

ابن سعد: ہمیں عارم بن فضل نے بتایا کہ ہم سے حماد بن زید نے ہشام سے اور انہوں نے موسیٰ بن انس سے بیان کیا کہ اگر ہم قبیلہ ازد کے نہ ہوں تو عرب نہیں حماد فرماتے ہیں: یعنی ہم قبیلہ ازد کے ہیں۔

ابن سعد: ہمیں ابو معشر عبداللہ بن عمرو منقری نے بتایا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے ابو غالب بابلی نے ذکر کیا کہ میں عبداللہ بن عمیر لیشی کے جنازے میں شریک تھا اتنے میں میں نے ایک شخص کو ایک چھوٹے سے گھوڑے پر سوار دیکھا جو ایک مہینہ و سیاہ کبیل اوڑھے ہوئے ہے اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے سر پر ایک کپڑا بڑا ہوا ہے جس کے دو کنارے اس کی دونوں آنکھوں کے گوشوں پر پڑے ہوئے ہیں میں نے پوچھا یہ کون دہقان ہے؟ لوگ بولے: یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں (فرماتے ہیں) پھر تو میں بھیڑ کو چیرتا پھاڑتا آپ کے قریب چلا گیا پھر جب جنازہ زمین پر رکھ دیا گیا تو انس نے جنازے کے سر پہنے کھڑے ہو کر درمیانی نماز پڑھائی نہ لمبی کی اور نہ مختصر ہی کی اور چار تکبیریں کہیں۔

ابن سعد: ہمیں وکیع بن جراح نے سلمہ بن وردان سے خبر دی کہ میں نے انس کے سر پر بلا ٹوپی کے سیاہ پگڑی دیکھی جس کا شملہ آپ نے پیچھے لٹکا رکھا تھا۔ ابن سعد: ہمیں وکیع نے ابوطالوت عبدالسلام بن شداد سے بتایا کہ میں نے انس کے سر پر زیشمی پگڑی دیکھی۔

ابن سعد: ہمیں عفان بن مسلم نے خبر دی کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے حمید سے اور انہوں نے انس سے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انگوٹھیوں پر عربی تحریر کندہ کرانے سے منع فرما دیا تھا اور انس کی انگوٹھی میں بھیڑیے یا لومڑی کی تصویر کندہ تھی۔

ابن سعد: ہمیں عارم بن فضل نے بتایا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سے اور انہوں نے محمد سے بیان کیا کہ انس کی انگوٹھی کا نقش گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا شیر تھا۔ ابن سعد: ہمیں بکار بن محمد نے اپنے والد سے بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں انس رضی اللہ عنہ مال میں سب سے زیادہ حریص تھے۔

ابن سعد: ہمیں ولید بن مسلم نے بتایا کہ ہم سے اوزاعی نے بیان کیا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے ذکر کیا کہ میں نے انس

کو دیکھا مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں پھر آپ کوئی چیز گاڑ کر یا رکھ کر اس کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ ابن سعد: ہمیں وکج نے ہشام دستوائی سے اور انہوں نے قادہ سے خبر دی کہ انس وفات سے ایک سال قبل روزے رکھنے کے قابل نہ رہے تھے چنانچہ اس سال آپ نے روزے نہیں رکھے اور تیس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا۔

ابن سعد: ہمیں بکار بن محمد نے بتایا کہ ہم سے ابن عون نے بیان کیا کہ انس نے مرض الموت میں وصیت کی کہ انہیں محمد بن سیرین نہلائیں اور وہی آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں محمد اس وقت قید خانہ میں تھے لہذا لوگ امیر کے پاس جو ایک اسیدی شخص تھے پہنچے اور انس کی وصیت کا ذکر کیا امیر نے ابن سیرین کو تھوڑی سی دیر کے لیے رہا کر دیا چنانچہ ابن سیرین نے آ کر انس کو غسل دیا، کفنا یا اور ان کے جنازے کی قصر انس میں جو طف میں تھا نماز پڑھائی پھر ابن سیرین فارغ ہو کر حسب سابق قید خانہ چلے گئے اور گھر نہیں گئے۔

ابن سعد: ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے عبد العزیز بن صہیب اور انہوں نے انس سے خبر دی کہ جب سرکار رسالت ﷺ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آپ کی خدمت اقدس میں لے گئے اور بولے یا رسول اللہ! انس ایک ہوشیار لڑکا ہے اس لیے یہ آپ کی خدمت کرے گا (فرماتے ہیں) پھر میں سفر و حضر میں آپ کی خدمات کے فرائض انجام دیتا رہا اللہ کی قسم آپ نے میرے کسی کام کو یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام اس طرح کیوں کیا؟ اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا؟

ابن سعد: ہمیں یزید بن ہارون اور محمد بن عبد اللہ انصاری نے بتایا کہ ہمیں حمید طویل نے انس سے خبر دی کہ نبی ﷺ کے مدینہ میں آنے کے بعد ام سلمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ مجھے رحمت عالم ﷺ کے پاس لائیں اور بولیں یا رسول اللہ ﷺ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بچہ لکھنا بھی جانتا ہے انس فرماتے ہیں پھر میں نے آپ کی نو سال خدمت کی آپ نے میرے کسی کام کو کبھی نہیں بسرایا اور اسے برائی کے ساتھ کبھی نہیں ٹوکا۔

ابن سعد: ہمیں سلیمان بن حرب نے بتایا کہ ہم سے حماد بن زید نے سنان بن ربیعہ سے بیان کیا۔ سنان فرماتے ہیں میں نے انس سے سنا فرماتے تھے میری والدہ مجھے رحمت عالم ﷺ کے پاس لے گئیں اور بولیں یا رسول اللہ ﷺ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے آپ اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں آپ نے فرمایا: اے اللہ انس کے لیے مال و اولاد کی ریل پیل کر دے اس کی عمر دراز فرما اور اس کے گناہ معاف فرما۔ انس فرماتے ہیں: میں اپنی صلیبی اولاد ۹۸ یا فرمایا ۱۰۲ دفن کر چکا ہوں اور میرا باغ سال میں دو بار پھل لاتا ہے اور میں آج تک زندہ ہوں حتیٰ کہ زندگی سے اکتا گیا ہوں اور مجھے جو سچی بات کی قبولیت کی بھی امید ہے۔

ابن سعد: ہمیں مسلم بن ابراہیم نے بتایا کہ ہم سے سلام بن مسکین نے بیان کیا کہ ہم سے عبد العزیز ابی جمیلہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ مجھے اپنے بارے میں اپنے مال کے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی دعا یاد ہے۔

ابن سعد: ہمیں محمد بن عبد اللہ انصاری نے بتایا کہ ہم سے میرے والد نے ثمامہ بن عبد اللہ بن انس سے بیان کیا کہ انس کا

انگورستان سالانہ دو بار پھلتا تھا۔

ابن سعد: ہم کو عفان بن مسلم اور ابوالولید ہشام طیلسی نے بتایا کہ ہم سے ابو عوانہ نے ابو عثمان جعد سے اور انہوں نے انس سے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ مجھے یابنی (اے پیارے بچے) کے خطاب سے پکارا کرتے تھے۔

ابن سعد: ہمیں عفان بن مسلم نے بتایا کہ ہمیں معتمر بن سلیمان نے خبر دی کہ میں نے اپنے والد سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے انس سے سنا فرماتے تھے کہ دونوں قبیلوں کی طرف نماز پڑھنے والا بجز میرے کوئی باقی نہیں۔

ابن سعد: ہمیں قبیصہ بن عقبہ نے بتایا کہ ہم سے سفیان نے جابر سے انہوں نے ایک شخص سے اور انہوں نے انس سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے میری کنیت رکھ دی تھی حالانکہ ابھی میں بچہ ہی تھا۔

ابن سعد: ہمیں سعید بن منصور نے بتایا کہ ہم سے سفیان نے زہری سے بیان کیا کہ انہوں نے انس سے سنا فرماتے تھے جب نبی اکرم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں دس سال کا تھا اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا اور میری مائیں آپ کی خدمت کا مجھے شوق دلاتی رہتی تھیں آپ ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے ہم نے آپ کے لیے اپنی پالی ہوئی بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے اس میں گھر کے کنویں کا پانی ملا کر پیا آپ کے بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی تھا اور عمر رضی اللہ عنہ ایک گوشہ میں تھے جب رسول اللہ ﷺ پی چکے تو عمر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ بچا ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے دیجئے لیکن آپ نے دیہاتی کو پکڑا دیا اور فرمایا سیدھی جانب والا پھر اس کے سیدھی جانب والا خنجر ہوتا ہے۔

ابن سعد: ہمیں مسلم بن ابراہیم نے بتایا کہ ہم سے ثنی بن سعید ذراع نے بیان کیا کہ میں نے انس سے سنا فرماتے تھے کوئی ایسی رات نہیں آتی جس میں میں اپنے حبیب کو نہ دیکھتا ہوں پھر آپ زار و قطار روتے۔

ابن سعد: ہمیں عفان بن مسلم نے بتایا کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے ثابت نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کی نماز کے مشابہ نماز ابن ام سلیم (انس بن مالک) سے زیادہ کسی کی نہیں دیکھی۔

ابن سعد: ہمیں محمد بن عبد اللہ انصاری نے خبر دی کہ ہم سے ابن عون نے بیان کیا کہ جب انس رسول اللہ ﷺ سے حدیث بیان فرماتے تو یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے: یا جیسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

ابن سعد: ہمیں حسن بن موسیٰ اشیب نے خبر دی کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے حمید سے اور انہوں نے انس سے بیان کیا کہ انس نے رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث بیان کی تو ایک شخص نے ان سے پوچھا: کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ اس پر انس نے انتہائی غصہ میں بھر کر فرمایا: اللہ کی قسم ہم نے ہر حدیث رسول اللہ ﷺ سے نہیں سنی لیکن ہم آپس میں کسی مسلمان کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔

ابن سعد: ہمیں علاء بن عبد الجبار عطار نے اور عارم بن فضل نے خبر دی کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے علی بن زید سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو میں مدینہ منورہ پہنچا اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: اپنا ہاتھ اٹھائیے کہ میں آپ کے ہاتھ پر انہیں شرطوں کے ساتھ بیعت کروں جن شرطوں

کے ساتھ آپ نے اپنے سے پہلے اپنے ساتھی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یعنی آپ کے احکامات سن کر مقدر بھرا طاعت کرنے پر۔ ابن سعد: ہمیں اسماعیل بن زرارہ نے بتایا کہ ہمیں جعفر بن سلیمان صہبی نے خبر دی کہ ہم سے ثابت بنانی نے بیان کیا کہ انس بن مالک کے کھیتوں کی نگرانی کرنے والے نے کہا کہ بارش نہیں ہوئی ہرے بھرے کھیت سوکھے جا رہے ہیں یہ سن کر انس رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر بارش کی دعا مانگی فوراً ایک بادل اٹھا اور آپ کے کھیتوں پر چھا گیا اور اتنا برساکہ کھیت پانی سے بھر گئے آپ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ یہ بادل کہاں کہاں برسایا غلام نے دیکھا تو بارش انس رضی اللہ عنہ کے کھیتوں سے آگے نہیں بڑھی تھی۔

ابن سعد: ہمیں محمد بن عبداللہ انصاری نے خبر دی کہ ہم سے میرے والد نے ثمامہ بن عبداللہ سے بیان کیا کہ موسم گرما میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے باغ کا مالی آیا اور باغ کے سوکھ جانے کی شکایت کی آپ نے پانی منگا کر وضو کیا اور نماز پڑھی پھر پوچھا کیا آسمان پر کوئی بادل نظر آیا؟ مالی بولا نہیں پھر آپ نے گھر میں جا کر نماز پڑھی پھر تیسری یا چوتھی بار نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کوئی بادل اٹھا؟ مالی بولا اس بار تو ایک پرندے کے پر کے برابر بادل دکھائی دے رہا ہے پھر آپ نماز پڑھ کر دعا مانگنے لگے حتیٰ کہ مالی نے آکر کہا آسمان پر گھٹا چھا گئی اور بارش ہونے لگی فرمایا: اس گھوڑے پر جسے بشر بن شفاف نے بھیجا ہے سوار ہو کر دیکھ کر آؤ کہاں تک بارش ہوئی ہے؟ مالی سوار ہو کر دیکھ کر آیا اور بولا: بارش نے خوشحالوں کے غلوں سے آگے تجاوز نہیں کیا ہے اور نہ غضبان کے محل سے۔

ابن سعد: ہمیں معالیٰ بن اسد نے بتایا کہ ہم سے حفص بن ابی صہبہ عدوی نے بیان کیا کہ میں نے ابو غالب سے سنا فرماتے تھے میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے زیادہ کلام پر کسی کو بخیل نہیں پایا۔

ابن سعد: ہمیں یحییٰ بن خلیف بن عقبہ نے خبر دی کہ ہم سے ابن عون سے عطاء واسطی سے اور انہوں نے انس سے بیان کیا کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک زبان کی احتیاط نہ کرے اور اپنی باتوں پر نہ کڑھے۔

ابن سعد: ہمیں محمد بن عبداللہ انصاری نے بتایا کہ ہم سے ہمارے شیخ ابو الحباب نے بیان کیا کہ میں نے جریری سے سنا فرماتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ذات العرق سے احرام باندھا (فرماتے ہیں) ہم نے حلال ہونے تک ان کے منہ سے مجرد کر اللہ کے کوئی بات نہیں سنی (فرماتے ہیں) پھر آپ نے مجھ سے فرمایا جتنے احرام اسی طرح ہوتا ہے۔

ابن سعد: ہمیں محمد بن عبداللہ انصاری نے خبر دی کہ ہم سے میرے والد نے میرے چچا ثمامہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے انس بن مالک سے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا پیارے بیٹو! علم کو لکھ کر مقید کر لو۔

ابن سعد: ہمیں عقاب بن مسلم اور حسن بن موسیٰ اشیب نے خبر دی کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی سے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے اپنے والد سے درخواست کی: ابا جان! آپ جس طرح دوسرے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اس طرح ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا: ہمارے بچو! جو کثرت سے باتیں کرتا ہے اس کے منہ سے بہت سی فضول باتیں بھی نکل جاتی ہیں۔

ابن سعد: ہمیں علی بن الحمید معنی نے خبر دی کہ ہم سے عمران بن خالد نے ثابت البنانی سے بیان کیا کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اور ان کے رفقاء کی ایک جماعت کے ساتھ تھے کہ آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اللہ کی قسم تم سب مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیارے ہو، الایہ کہ میری اولاد خیر و بھلائی میں تم جیسی ہو۔

ابن سعد: ہمیں عمرو بن عاصم کلابی نے بتایا کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے ابن جریج سے اور انہوں نے زہری سے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی میں محمد رسول اللہ کندہ کر رکھا تھا جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔

ابن سعد: ہمیں فضل بن دکین نے خبر دی کہ ہم سے عیسیٰ بن طہمان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا سیاہ پگڑی باندھے ہوئے حجاج کے پاس تشریف لائے، داڑھی میں زرد خضاب کیا ہوا تھا۔

ابن سعد: ہمیں فضل بن دکین اور عبید اللہ بن موسیٰ نے بتایا کہ ہم سے اسرائیل نے عمران بن مسلم سے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو زرد تہبند میں دیکھا آپ ناگک پر ناگک رکھے ہوئے تھے۔

ابن سعد: محمد بن عبد اللہ انصاری بہ تحدیث ابن عون: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا جسم پر ریشمیں منقش چادر تھی سر پر ریشمیں پگڑی تھی اور ریشمیں ہی جبہ تھا انصاری فرماتے ہیں میرے والد نے فرمایا کہ اس کا تانا کتان کا تھا۔

ابن سعد: باخبار عقیان بن مسلم، تحدیث معتمر بن سلیمان، میرے والد نے فرمایا: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جسم پر ریشمیں زرد چادر دیکھی میں نے اپنے علم میں اس سے زیادہ خوبصورت کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔

ابن سعد: باخبار شہاب بن عبد اللہ تحدیث ابراہیم بن حمید از اسماعیل بن ابی خالد: میں نے انس بن مالک کو ایک یمنی چھوٹی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا اور سر پر پگڑی تھی۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین، تحدیث بدر بن عثمان: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سر پر سیاہ پگڑی دیکھی۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین از خالد بن ایاس از ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا آپ اس (ریشمیں) کپڑے کو اوڑھے ہوئے تھے۔

ابن سعد: باخبار کعب بن جراح اور فضل بن دکین، تحدیث ابوطالوت عبدالسلام بن شداد: میں نے انس رضی اللہ عنہ پر ریشمیں پگڑی، ریشمیں جبہ اور ریشمیں چادر دیکھی لوگوں نے آپ سے کہا: یہ کیا؟ آپ ہمیں تو ریشم سے منع فرماتے ہیں اور خود پہنتے ہیں؟ فرمایا: ہمارے امراء ہمیں یہ لباس دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امراء یہ لباس ہمارے جسموں پر دیکھیں۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین، تحدیث یزید بن ابی صالح: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ پر زرد اور سرخ ریشم دیکھا۔ ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، تحدیث ابوالکعب صاحب حریر: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ پر سبز، منقش اور ریشمیں چادر دیکھی۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن ہشام از اسرائیل از عمران بن مسلم: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کسم میں رنگا ہوا تہہ بند باندھے ہوئے دیکھا۔ ابن سعد: باخبار عمرو بن ہشام، تحدیث اسرائیل از عمران بن مسلم از انس: میں نے آپ پر کسم میں رنگے ہوئے دو

کپڑے دیکھے۔

ابن سعد: باخبار یزید بن حباب، بخیر خالد بن عبداللہ واسطی، بخیر راشد بن معبد ثقفی: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی آستین

پہنچے تک دیکھی۔

ابن سعد: باخبار وکیع بن جراح از سلمہ بن وردان: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سر پر بلا ٹوپی سیاہ پگڑی دیکھی آپ نے

اس کا شملہ پیچھے لٹکا رکھا تھا۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین، بہ تحدیث عماد بن ابی سلیمان: میں نے انس رضی اللہ عنہ کے سر پر سفید ٹوپی دیکھی۔ ابن سعد: باخبار

عبید اللہ بن موسیٰ باخبار شیبان از اعش: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو داڑھی میں زرد خضاب لگائے ہوئے دیکھا۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار اسماعیل بن ابی خالد: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو سرخ خضاب میں دیکھا۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین، تحدیث شریک از ابن ابی خالد: میں نے انس رضی اللہ عنہ کی سرخ داڑھی دیکھی۔ آپ نے

پگڑی کا شملہ پیچھے لٹکا رکھا تھا۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار حمید طویل از بعض اولاد انس: سال وفات میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روزوں پر قادر نہ

تھے۔ لہذا آپ نے تیس مساکین کو گوشت روٹی کھلائی اور ایک یا دو مسکینوں کو مزید بھی۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبداللہ انصاری، بحدیث حمید طویل: میں نے عمر بن انس سے پوچھا: انس رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اور کیا کام

انجام دیے؟ بولے آپ وفات سے ایک سال پہلے روزے نہ رکھ سکے (فرماتے ہیں) آپ نے کٹورے بھر بھر کر روزانہ ایک مسکین

کو کھانا کھلایا اور پورے تیس محتاجوں کی تعداد پوری کی اور مزید مسکینوں کو بھی کھلایا۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبداللہ انصاری، تحدیث ہشام بن حسان از محمد: جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو محمد بن

سیرین کسی قرض کے سلسلہ میں جیل میں تھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ وصیت فرما گئے تھے کہ ابن سیرین انہیں نہلائیں چنانچہ امیر عمر بن

یزید سے اس سلسلہ میں گفتگو کی گئی امیر نے اتنی دیر کے لیے ابن سیرین کو چھوڑ دیا پھر ابن سیرین فارغ ہو کر جیل ہی چلے گئے ابن

سیرین عمر بن یزید کے عمر بھر اس احسان کو نہیں بھولے اور ان کی اولاد کے سامنے ان کا شکر یہ ادا کرتے رہے۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد، تحدیث ابن عون: حضرت انس رضی اللہ عنہ مرنے سے پہلے وصیت کر گئے تھے کہ انہیں ابن سیرین

ہی نہلائیں اور وہی نماز جنازہ پڑھائیں ابن سیرین حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن محبوس تھے لوگوں نے اس سلسلہ میں امیر

سے جو بی اسید میں سے تھا اجازت مانگی اس نے اجازت دے دی ابن سیرین نے آ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کو غسل دیا اور کفنا یا اور

آپ کے جنازے کی قصر انس میں جو طف میں تھا نماز پڑھائی پھر حسب سابق جیل میں چلے گئے اور گھر نہیں گئے۔

ابن سعد: باخبار عبدالوہاب بن عطاء علی، از حمید طویل از انس: میری خوشبو میں مشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور سکہ

(ایک قسم کی خوشبو ہے) ڈالی جائے۔ ابن سعد: میں نے قاضی محمد بن عبداللہ انصاری سے پوچھا: وفات کے دن حضرت

انس رضی اللہ عنہ کی کتنی عمر تھی؟ فرمایا: ۷۰ سال کی عمر تھی۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عمر بن عبد اللہ بن یزید ہذلی۔ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک تھا آپ بصرہ میں عہد ولید بن عبد الملک میں ۹۲ھ میں فوت ہوئے۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عمر بن خنصر خلیل بن دج از قوادہ از حسن: حضرت انس رضی اللہ عنہ بصرہ میں فوت ہونے والے آخری صحابی ہیں۔ ابن سعد: باخبار فضل بن دکین: حضرت انس رضی اللہ عنہ ۹۳ھ میں فوت ہوئے۔

محمد بن عمر: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔
ہشام بن عامر بن اُمیہ بن زید رضی اللہ عنہ:

بن حسان بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار آپ کی والدہ بہراء میں سے ہیں اور آپ کے والد بدر واحد کے مجاہدین میں سے ہیں آپ کے والد نے جنگ احد میں درجہ شہادت حاصل فرمایا: ہشام بن اُمیہ رضی اللہ عنہ کے صحبت یافتہ ہیں اور آپ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بصرہ میں رہنے لگے تھے اور یہیں لا دلد فوت ہوئے۔

ابن سعد: باخبار معطلی بن اسد بن محمد بن عبد العزیز بن مختار از علی بن زید از حسن از ہشام بن عامر: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پوچھا: تمہارا نام کیا ہے میں بولا: شہاب فرمایا: نہیں بلکہ تم ہشام ہو۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از ایوب از حمید بن ہلال: ہشام فرماتے ہیں تم صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے مجھے گراتے ہو صحابہ رضی اللہ عنہم مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے نہ تھے اور نہ مجھ سے زیادہ حافظ تھے میں نے آپ سے سنا فرماتے تھے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنہ سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔

ابن سعد: باخبار عثمان بن مسلم بن محمد بن سلیمان بن مغیرہ۔ محمد بن حمید بن ہلال: قبیلہ کے کچھ لوگ ہشام کو چھوڑ کر عمران بن حصین وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ترجیح دیتے تھے اس پر ہشام نے کہا تم مجھ پر ان لوگوں کو ترجیح دینے ہو جو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے والے نہ تھے اور نہ مجھ سے زیادہ آپ کی حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنہ سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔

ثابت بن زید بن قیس رضی اللہ عنہ:

ابن زید بن نعمان بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج آپ کی کنیت ابو زید ہے۔ ابن سعد: باخبار ابو زید انصاری بصری نحوی (سعید بن اوس بن ثابت بن بشیر بن ابی زید: ثابت بن قیس میرے دادا ہیں اور جنگ احد میں شریک تھے عہد رسالت میں جن چھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن حکیم جمع فرمایا تھا ان میں سے ثابت بھی ہیں آپ بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے اور وہیں گھر بنا لیا تھا پھر عہد فاروقی میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ ہی میں فوت ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: ابو زید! حق تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے بلاشبہ آج دنیا کا سب سے زیادہ امین شخص خاک میں دبا دیا گیا آپ کے صاحبزادے بشیر بن ابی زید ہیں۔

بشیر بن ابی زید رضی اللہ عنہ:

آپ ابو زید کے فرزند ارجمند ہیں جنگ حرہ میں شہید ہوئے اس خاندان کے آج بھی بصرہ میں باقی حضرات مقیم ہیں۔ ابن سعد: باخبار ابو عامر عبد الملک بن عمر و عقدی، محمد یث علی بن مبارک از ابو محمد حسن: میں اور ایک اور شخص دونوں جامع مسجد سے آئے اور ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی ایک ٹانگ جنگ احد میں کام آگئی تھی پھر نماز کا وقت ہوا تو آپ نے بیٹھ کر اذان دی اور بیٹھ کر ہی تکبیر کہی اور ایک شخص کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا۔

ابو زید عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ:

آپ عزرہ بن ثابت کے دادا ہیں۔

ابن سعد: باخبار عبد الصمد بن عبد الوارث، محمد یث شعبہ، محمد یث تمیم بن حویص: میں نے ابو زید سے سنا فرماتے تھے: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر تیرہ لڑائیاں لڑیں، بقول شعبہ آپ عزرہ کے دادا ہیں۔

ابن سعد: باخبار حجاج بن نصیر، محمد یث قرہ بن خالد از انس بن سیرین، محمد یث ابو زید بن اخطب: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق تعالیٰ نے تم کو خوبصورتی عطا فرمائی، یہ ایک خوبصورت نوجوان تھے اور اچھی بیعت کے مالک تھے۔ فرماتے ہیں: میں نے بعض بصریوں سے سنا ہے کہ عمرو بن اخطب عزرہ بن ثابت بن عمرو بن اخطب کے دادا ہیں، آپ سے انس بن سیرین، حسن بن محمد عبدی، ابو نھیک، یزید رشک اور علماء بن احمر روایت کرتے ہیں، بصرہ میں آپ کی طرف ایک مسجد منسوب ہے۔ حکم بن عمرو بن مجدع بن حذیم رضی اللہ عنہ:

ابن حارث بن نعیمہ بن ملیک بن ضمیرہ بن بکر بن عبد منانہ بن کنانہ، نعیمہ، غفار کے بھائی ہیں۔ حکم نبی ﷺ کی صحبت میں رہے حتیٰ کہ نبی ﷺ فوت ہو گئے پھر آپ بصرہ منتقل ہو کر وہیں بس گئے، پھر زیاد بن ابی سفیان نے آپ کو خراسان کا حاکم بنا دیا اور آپ خراسان چلے گئے۔

ابن سعد: باخبار اطلق بن یوسف از رقی، محمد یث ہشام بن حسان از حسن: زیاد نے حکم کو خراسان کی طرف روانہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم کے زیر سرکردگی لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں کو بہت کچھ مال غنیمت ملا پھر زیاد نے حکم کو لکھا: اما بعد امیر المؤمنین نے مجھے لکھا ہے کہ تمام سونا چاندی ان کے لیے روانہ کر دیا جائے اس لیے تم مجاہدوں میں سونا چاندی نہ بانٹنا، حکم جواب میں لکھتے ہیں: آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ نے مجھے اپنے خط میں امیر المؤمنین کے خط کا حوالہ دیا ہے لیکن مجھے اللہ کی کتاب امیر المؤمنین کی کتاب سے پہلے ملی ہے، اللہ کی قسم اگر کسی پر آسمان وزمین مل جائیں اور اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں پاٹوں سے بھی نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ السلام علیک (فرماتے ہیں) پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا جاؤ مال غنیمت بانٹ لو۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون، باخبار ہشام بن حسان از حسن: زیاد نے حکم کو (فوج دے کر) خراسان کی طرف روانہ کیا مسلمانوں نے شاندار فتح پائی اور ان کے کافی مال غنیمت ہاتھ لگا۔

ابن سعد: باخبار علی بن محمد قرشی: پھر حکم خراسان ہی میں رہے حتیٰ کہ ۵۷ھ میں خراسان ہی میں عہد معاویہ رضی اللہ عنہ میں فوت ہوئے آپ کے بھائی رافع بن عمرو وغفاری ہیں جن کا ترجمہ آگے آ رہا ہے۔

رافع بن عمرو وغفاری رضی اللہ عنہ:

آپ نبی ﷺ کے صحابی ہیں اور آپ سے عمرو بن سلیم وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، محمد بن یثمع، بن سلیمان، بسام ابن حکم بن عمرو وغفاری: میرے دادا نے رافع بن عمرو وغفاری رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا: میں بچہ تھا اور پتھر مار کر کھجوریں جھاڑا کرتا تھا آخر کار رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا کہ یہاں ایک بچہ ہے جو کھجوریں پتھر مار کر جھاڑا کرتا ہے چنانچہ مجھے نبی ﷺ کے پاس لایا گیا آپ نے فرمایا لڑکے! کھجوروں پر کیوں پتھراؤ کیا کرتا ہے؟ میں بولا، کھجوریں کھانے کے لیے فرمایا کھجوریں نہ جھاڑا کر ہاں گری ہوئی کھجوریں اٹھا کر کھالیا کر پھر آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ دعا کی اے اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم باخبار سلیمان بن مغیرہ، محمد بن حمید بن ہلال از عبد اللہ بن صامت از ابو ذر: رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: عنقریب میرے بعد میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن پر دھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح شکار سے تیر صاف نکل جاتا ہے پھر دین میں لوٹ کر نہیں آئیں گے یہ لوگ تمام مخلوق میں بد ہوں گے (سلیمان کہتے ہیں میرا غالب گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا: ان کی نشانی سنڈانا ہے عبد اللہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر میں حکم بن عمرو کے بھائی رافع بن عمرو وغفاری سے ملا اور بولا وہ کیا حدیث ہے جو میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنی وہ ایسا ایسا فرماتے تھے اور میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی فرمایا تم کو اس پر کیوں تعجب ہے؟ میں نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔

مجاشح بن مسعود رضی اللہ عنہ:

ابن ثلبہ بن وہیب بن عائد بن ربیعہ بن یزوع بن سمائل بن عوف بن امرؤ القیس بن ہشام بن سلیم۔ ابن سعد: باخبار عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ، محمد بن یثمع، بن فضیل از عاصم از ابو عثمان از مجاشع بن مسعود: میں معہ اپنے بھائی جان کے ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا فرمایا: ہجرت ختم ہو گئی ہم بولے: پھر کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا اسلام پر اور اللہ کی راہ میں جہاد پر فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ سے بیعت کر لی فرماتے ہیں پھر میں مجاشع کے بھائی سے ملا انہوں نے کہا: مجاشع نے تم سے سچ فرمایا آپ کے بھائی خالد بن مسعود سلمیٰ ہیں جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔

مجاشح بن مسعود سلمیٰ رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عقان بن مسلم، محمد بن یزید بن زریع، محمد بن خالد حذاء از ابو عثمان از مجاشع بن مسعود: میں بولایا رسول اللہ آہ مجاہد بن مسعود ہیں آپ ان سے ہجرت پر بیعت لے لیں فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہاں اسلام پر بیعت لے لیتا ہوں۔ ابن سعد: باخبار اسماعیل بن ابراہیم از یونس از حسن: مجاہد قدرے لنگڑے تھے، قرآن ہلکے لنگڑے بن کو کہتے ہیں۔

عائذ بن عمرو مزینی رضی اللہ عنہ:

حسن: آپ چیدہ صحابیوں میں سے ہیں۔ ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم الکلابی بخدیث ہمام بن یحییٰ بخدیث قتادہ: عائذ بن عمرو ریشم پہنا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بخدیث یزید بن زریح بخدیث خالد حذاء از معاویہ بن قرہ: صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں محکم نے بغاوت کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے خلاف تلواریں لے کر اٹھ کھڑے ہوئے جن میں عائذ بن عمرو بھی شامل تھے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بخدیث حماد بن سلمہ از ثابت: حضرت عائذ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ ان کے جنازے کی نماز ابو بزرہ پڑھائیں پھر عبید اللہ بن زیاد سوار ہو کر آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے عبید اللہ جب مسلم کے گھر کے قریب پہنچے تو ان سے کہا گیا کہ عائذ رضی اللہ عنہ وصیت کر گئے ہیں کہ ان کے جنازے کی نماز ابو بزرہ پڑھائیں یہ سن کر عبید اللہ نے اپنی سواری موڑ لی اور واپس لوٹ گئے۔

عبید اللہ بن عمرو مزینی رضی اللہ عنہ:

آپ ابو بکر بن عبد اللہ ہیں اور رحمت عالم کے صحابی ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد آپ بصرہ میں ٹھہر گئے تھے بصرہ میں آپ کی اولاد بھی ہے۔

ابن سعد: باخبار معاذ بن معاذ عمیری باخبار حبیب بن شہید از بکر بن عبد اللہ مزینی: مجھ سے علقمہ بن عبد اللہ مزینی نے کہا کہ آپ کے والد مرحوم کو چار صحابیوں نے نہلایا تھا انہوں نے صرف آستینیں چڑھالی تھیں اور اپنے کرتے اڑس لیے تھے اور نہلانے کے بعد صرف وضو کر لیا تھا۔

عبد اللہ مزینی رضی اللہ عنہ:

آپ علقمہ بن عبد اللہ کے والد ہیں جن سے بکر بن عبد اللہ مزینی روایت کرتے ہیں اور دونوں بھائی بھائی ہیں۔

قرہ بن ایاس بن حلال بن رباب رضی اللہ عنہ:

ابن عبید بن سواۃ بن ساریہ بن ذبیان بن ثعلبہ بن سلیم بن اوس بن مزینہ۔ آپ معاویہ بن قرہ کے والد ہیں۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن عباد بخدیث شعبہ بنشر ابو ایاس معاویہ بن قرہ اپنے والد سے: جب میں دودھ دوہ کر اونٹنی کے تھن

باندھ چکا تو رحمت عالم ﷺ تشریف لائے اور آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میرے لیے دعا فرمائی۔

ابن سعد: باخبار کعب بن جراح از شعبہ از معاویہ بن قرہ اپنے والد سے: نبی ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔

ابن سعد: باخبار معلیٰ بن اسد بخدیث محمد بن ابی عیینہ مہلبی بسماع معاویہ بن قرہ: میں نے اپنے والد کے قاتل کو ابن عباس

کی جنگ میں قتل کیا، فرماتے ہیں: قرہ قاتل کر دیا گیا تھا۔

قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ کے بھائی:

محمد بن سعد فرماتے ہیں: ہمیں آپ کا نام نہیں بتایا گیا۔

ابن سعد: باخبار عبداللہ بن جعفر رقی، متحد بیٹ عبداللہ بن عمرو از عبدالملک بن عمیر از معاویہ بن قرہ اپنے چچا جان سے: میں اپنے بیٹے کو نبی ﷺ کے پاس لایا کرتا تھا آپ اسے اپنے سامنے بٹھالیا کرتے تھے (ایک دن) آپ نے مجھ سے پوچھا: کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ میں بولا: ہاں! انتہائی محبت ہے (فرماتے ہیں) پھر وہ بچہ مر گیا تو مجھ سے نبی ﷺ نے پوچھا: گویا تم کو اس کی موت کا رنج ہے؟ میں بولا: ہاں! یا رسول اللہ! فرمایا کیا تم کو اس سے مسرت نہ ہوگی کہ جب حق تعالیٰ تم کو جنت میں داخل فرمائے گا تو تم اسے جنت کے ایک دروازے پر دیکھو گے اور وہ تمہارے لیے دروازہ کھولے گا؟ میں بولا کیوں نہیں؟ فرمایا اسی طرح ہوگا ان شاء اللہ۔

حمل بن مالک بن نابغہ ہذلی رضی اللہ عنہ:

آپ مشرف بہ اسلام ہو کر اپنے قومی وطن چلے گئے اور وہیں رہ پڑے اور بصرہ میں قبیلہ ہذیل میں گھر بنا لیا پھر آپ کے بعد آپ کا گھر عمرو بن مہران کاتب کے قبضہ میں چلا گیا۔

عباس بن مرداس بن ابی عامر رضی اللہ عنہ:

ابن چاریہ بن عبد بن عیس بن رفاعہ بن حارث بن بہشہ بن سلیم، آپ فتح مکہ سے قبل مشرف بہ اسلام ہوئے اور اپنی قوم کے نوسو شہسوار لے کر فتح مکہ کے لیے اسلامی لشکر میں آئے ان شہسواروں کے پاس نیزے اور مکمل زور ہیں تھیں، آپ نے رحمت عالم ﷺ کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کی پھر اپنے قومی وطن کی طرف لوٹ گئے آپ وادی بصرہ میں اور بصرہ میں کثرت سے آیا جایا کرتے تھے آپ سے بصری روایت کرتے ہیں آپ کی اولاد بصرہ کے نواح میں ہے اور بعض بصرہ میں بھی مقیم ہے۔

جاہمہ بن عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ:

آپ کو بھی سعادت اسلام اور رحمت عالم ﷺ کی صحبت حاصل ہے اور آپ سے کئی حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابن سعد: باخبار حجاج بن محمد از ابن جریج بنخیر محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمن اپنے والد سے اور وہ معاویہ بن جاہمہ سلمی سے: جاہمہ رحمت عالم ﷺ کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ! میں نے جنگ میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ سے مشورہ لینے کی غرض سے حاضر خدمت گرامی ہوا ہوں۔ پوچھا کیا تمہاری والدہ بقید حیات ہیں؟ بولے: ہاں! ہیں فرمایا انہیں چمٹے رہو کیونکہ جنت ان کے پیر کے نیچے ہے پھر آپ نے مختلف مجلسوں میں دوسری اور تیسری بار یہی یا اس کے قریب قریب فرمایا۔

عبداللہ بن شخیر بن عوف بن کعب رضی اللہ عنہ:

ابن وقدان بن حریش بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ۔ آپ مطرف اور یزید کے والد محترم ہیں اور رحمت عالم ﷺ کے صحابی ہیں اور آپ سے روایت کرتے ہیں آپ کے بعد آپ بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے آپ کی اولاد بصرہ ہی میں ہے۔ ابن سعد: باخبار حبان بن مسلم، متحد بیٹ یحییٰ بن سعید، متحد بیٹ حمید، متحد بیٹ حسن از مطرف از عبداللہ بن شخیر: ہم بنوعامر کے ایک وفد میں سرکار رسالت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا میں تم کو سواریاں کیوں نہ دے دوں؟ ہم بولے: ہم راستے میں بار بردار اونٹ حاصل کر لیں گے، فرمایا: مسلمانوں کے کھوئے ہوئے اونٹ (لینا) آگ میں جلنے کا سبب ہیں۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، متحد بیٹ اسود بن شیبان، متحد بیٹ ابوبکر بن ثمامہ بن نعمان راسبی از ابوالعلاء یزید: میرے

والد محترم بنو عامر کے وفد میں شامل ہو کر حاضر خدمت نبوی ہوئے اہل وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے حق میں فیاض ہیں فرمایا: ہائیں ہائیں! اپنی باتیں کرو شیطان تم کو (خلاف شرع باتوں پر) جرأت نہ دلانے پائے سید اللہ ہے سید اللہ ہے۔

معاویہ بن حیدہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ:

ابن قثیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن حصصہ۔ آپ ایک وفد میں شامل ہو کر سرکار رسالت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سعادت اسلام سے بہرہ اندوز ہوئے اور آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے اور آپ سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھ چگھ کی اور آپ سے روایت بھی کرتے ہیں آپ بہر بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ کے دادا ہیں۔

مالک بن حیدہ رضی اللہ عنہ:

ابن معاویہ بن قثیر آپ نے بھی اسلام کو سینہ سے لگا لیا تھا آپ ہی نے اپنے بھائی معاویہ بن حیدہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے سرکار رسالت کی خدمت اقدس میں لے چلے تاکہ میں اپنے پڑوسیوں کو آپ سے رہا کر لوں کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔

قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن شداد بن معاویہ بن ابی ربیعہ بن نہیک بن ہلال بن عامر بن حصصہ آپ بھی ایک وفد میں شامل ہو کر سرکار رسالت کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے اور آپ سے حدیثیں روایت کرتے ہیں پھر آپ بصرہ میں مقیم ہو گئے آج بھی بصرہ میں آپ کی اولاد میں سے محمد بن حرب بن قطن بن قبیصہ موجود ہیں پھر آپ جعفر بن سلیمان بن علی ہاشمی کی طرف سے مدینہ میں محکمہ پولیس کے افسر مقرر ہوئے اور بصرہ میں عبد الصمد بن علی کی طرف سے یہی عہدہ پایا۔

ابن سعد: باخبار ہو ذہ بن خلیفہ متحد ریث عوف از حیان از قطن بن قبیصہ از قبیصہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے جانوروں سے قال لینا زمین پر کنکریاں مار کر قال لینا اور بدفالی جادو میں سے ہے۔

عیاض بن حماد بن محمد بن سفیان رضی اللہ عنہ:

ابن مجاشع بن دارم بن مالک بن حنظلہ بن مالک بن زید مناۃ بن تمیم آپ اسلام لانے سے پہلے ایک وفد میں نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے آپ کے پاس ایک اچھی نسل کی سواری تھی جو آپ نے رحمت عالم ﷺ کو بطور عطیہ کے دی پوچھا: کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ بولے نہیں فرمایا: اللہ نے مجھے مشرکوں کے جھاگ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے کلمہ پڑھ لیا پھر نبی ﷺ نے آپ کا ہدیہ قبول فرمایا آپ نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ اگر میری قوم کا مجھ سے نیچے درجہ کا شخص مجھے گالی دے تو کیا میں اس سے انتقام لے سکتا ہوں؟ فرمایا دو شخص ایک دوسرے کو گالی دینے والے شیطان ہیں اور جھوٹے ہیں آپ سے اس کے علاوہ بھی حدیث مروی ہے پھر آپ بصرہ میں مقیم ہو گئے اور آپ سے بصری روایت کرتے ہیں۔

قیس بن عاصم بن سنان بن خالد رضی اللہ عنہ:

ابن مقرر بن عبید تمیمی قیس نے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی پھر آپ بنو تمیم کے وفد میں شامل ہو کر رحمت

عالم رضی اللہ عنہ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور اسلام کی سعادت لوٹی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیموں والوں کے سردار ہیں آپ اپنی قوم کے چودھری تھے اور بڑے سخی تھے۔

ابن سعد: باخبار و کعب بن جراح، یث سفیان از اغر متری از خلیفہ بن حصین از قیس: میں مسلمان ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ بیری کے پتے پانی میں جوش دے کر اس سے نہاؤ۔

ابن سعد: باخبار خلد بن یحییٰ، یث سفیان ثوری: مجھے ایک شخص سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس سے فرمایا: یہ خیموں والوں کے سردار ہیں۔

ابن سعد: باخبار عبدالوہاب بن عطاء، عجلیٰ باخبار شعبہ از قوادہ از مطرف از حکیم بن قیس بن عاصم، حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی: پیارے بچو! اپنے بڑے کو سردار بناؤ کیونکہ جو بچے اپنے بڑے کو سردار بناتے ہیں وہ ان کے باپ کا خلیفہ ہوتا ہے اور جو چھوٹے کو سردار بنا لیتے ہیں وہ اپنے ہم عمروں میں ذلیل ہو جاتے ہیں اور مال کمانے میں اور اس کے تحفظ میں چھٹے رہو کیونکہ یہ بزرگوں کے لیے موجب جاہ و دبدبہ ہے اور اس کی وجہ سے کج سوسوں سے بے نیازی حاصل ہوتی ہے، خبردار لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ کیونکہ سوال انسان کی سب سے مجبوری کی کمائی ہے اور مجھ پر نوحہ نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا اور مجھے بکر بن وائل سے چھپا کر دفن کرنا کیونکہ ہم جاہلیت میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی تدبیروں میں لگے رہا کرتے تھے۔

زبرقان بن بدر بن امرؤ القیس رضی اللہ عنہ:

ابن خلف بن بہدلہ بن عوف بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم آپ کا اسم گرامی حصین تھا آپ خوبصورت گورے چٹے اور باکمال شاعر تھے اسی لیے آپ کو نجد کا چاند کہا جاتا تھا بنو تمیم کے وفد میں جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا آپ بھی شامل تھے آپ اسلام لے آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی قوم بنو سعد کا صدقہ وصول کرنے پر مقرر فرمایا تھا پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے جب کہ زبرقان اپنے عہدے پر مامور تھے اور عربوں نے صدقہ دینا بند کر دیا اور لوگ مرتد ہو گئے مگر آپ اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم سے صدقہ وصول کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیتے رہے آپ بصرہ کے دیہاتوں میں بنو تمیم کے علاقہ میں اور بصرہ میں کثرت سے آتے جاتے رہتے تھے۔

اقرع بن حابس بن عقال بن محمد رضی اللہ عنہ:

ابن سفیان بن مجاشع بن دارم بن مالک بن حنظلہ بن مالک بن زید مناة بن تمیم آپ بھی بنو تمیم والے وفد میں شامل تھے اور سعادت اسلام کے شرف سے بہرہ یاب ہو گئے تھے اور بصرہ کے گرد و نواح میں بنو تمیم کے علاقہ میں آتے جاتے رہتے تھے۔

عمرو بن اہتم بن سبی بن شان رضی اللہ عنہ:

ابن خالد بن منقر بن عبید بن مقاس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم آپ بھی بنو تمیم والے وفد میں شریک تھے اور سب سے چھوٹے تھے اور سب کے خیموں میں آتے جاتے تھے اور شرف بہ اسلام ہو گئے تھے آپ ایک باکمال شاعر تھے

اور بصرہ کے دیہاتوں بنو تمیم کے علاقہ میں آمد و رفت رکھا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار اسماعیل بن عبد اللہ بن زرارہ جرمی، محمد بن یثمد، یثمد بن حماد بن زید از محمد بن زبیر: رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن اہتم سے فرمایا: مجھے زبرقان بن بدر کے بارے میں خبر دو بولے: وہ اپنی قوم میں واجب الطاعت ہیں اور قوم کے محافظ ہیں زبرقان بولے: یا رسول اللہ انہیں معلوم ہے کہ میں اپنی قوم میں ان کے بیان سے بہت بہتر ہوں لیکن یہ مجھ سے حسد کرتے ہیں عمرو بولے: میرا جہاں تک علم ہے آپ بے مروت ہیں آپ کے اونٹوں کا بازائنگ ہے آپ کے والد احمق ہیں اور آپ کے ماموں کنجوس ہیں پھر بولے یا رسول اللہ میں نے نہ پہلی بات میں جھوٹ بولا اور نہ پچھلی بات میں ان سے خوش تھا اور میں نے ان کی تعریف اپنے بہترین علم کے مطابق عرض کر دی تھی مگر انہوں نے مجھے غصہ دلایا لہذا میں نے اپنے علم کے مطابق ان کا حال بیان کر دیا فرمایا: بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتا ہے۔

صحصہ بن ناجیہ بن عققال بن محمد رضی اللہ عنہ:

ابن سفیان بن عجاج بن دارم بن مالک بن حنظلہ بن مالک بن زید مناة بن تمیم آپ وفد میں شامل ہو کر حاضر خدمت نبوی ہوئے اور مسلمان ہو گئے آپ ہی کی اولاد میں مشہور شاعر فرزدق بن غالب بن صحصہ ہے آپ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ کی اولاد اور آپ بصرہ میں رہنے لگے تھے ہم نے کتاب النسب میں ہشام بن محمد بن سائب کلبی سے آپ کا نسب اسی طرح پایا ہے۔

صحصہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرزدق شاعر کے چچا:

اسی طرح یزید بن ہارون نے اس روایت میں جو وہ حسن سے کرتے ہیں بیان کیا ہے۔ ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار جریر بن حازم یثمد بن حسن از صحصہ: میں سرکار رسالت ﷺ کی خدمت اطہر میں حاضر ہوا آپ نے مجھے آیت: ﴿يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (ذره برابر بھی نیکی اور بدی کا اجر ملے گا) پڑھ کر سنائی میں بولا یہی آیت مجھے کافی ہے اب مجھے کسی اور آیت کے سننے کی ضرورت نہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

نمر بن تولب بن اُقیش رضی اللہ عنہ:

اُقیش، عطل بن عبد بن کعب بن عوف بن حارث بن عوف بن وائل بن قیس بن عوف بن عبد مناة کی صاحبزادی ہیں عطل کو ان کی ایک لونڈی نے پرورش کیا جس سے عوف بن وائل نے اولاد حاصل کی تھی اسی کی طرف یہ لوگ منسوب ہوئے۔ نمر ایک باکمال شاعر ہیں آپ ایک وفد میں شامل ہو کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرف بہ اسلام ہوئے پھر بصرہ میں مقیم ہو گئے اور انہیں نبی ﷺ نے ایک تحریر لکھ کر دی۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم کلابی (اسماعیل بن علیہ نے ہم سے یزید بن شخیر کی جو حدیثیں بیان کیں ان میں سے یہ بھی ایک روایت ہے) ہمارے پاس عطل کا ایک شخص آیا اس کے پاس ایک ٹھیلی میں رسول اللہ ﷺ کی ایک تحریر تھی جو آپ نے اسے لکھ کر دی تھی جس کا مضمون یہ تھا: محمد رسول اللہ (ﷺ) کی طرف سے بنو زبیر بن اُقیش کو لکھا جا رہا ہے یہ شخص مشہور شاعر نمر بن تولب

تھا اور بنو ہبیر بن اقیس عکل کا ایک ذیلی خاندان ہے۔

عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ:

ابن بشر بن عبد دھان بن عبد اللہ بن ہمام بن ابان بن یسار بن مالک بن خطیط بن جشم ثقفی: آپ ثقیف کے اس وفد میں شامل تھے جو مدینہ میں رحمتِ عالم ﷺ کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا تھا اور اہل وفد مسلمان ہو گئے تھے اور آپ نے ان کا ایک جھگڑا چکایا تھا عثمان اس وفد میں سب سے چھوٹے تھے اور سب سے پہلے نبی ﷺ کے پاس آ کر مشرف بہ اسلام ہوئے آپ نے ان کو قرآن پڑھایا پھر عثمان رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھتے رہے پھر جب ثقفی وفد نے طائف کی طرف لوٹنا چاہا تو بولے یا رسول اللہ! آپ ہم پر کسی کو امیر بنا دیں اس پر آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنا دیا اور فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ ہوشیار ہیں اور ان کا سینہ قرآن سے معمور ہے بولے: ہم رسول اللہ ﷺ کے مقرر کردہ امیر کو بدلنے والے نہیں پھر عثمان اسی وفد کے ساتھ طائف پہنچے آپ ہی انہیں نماز پڑھاتے تھے اور قرآن بھی پھر عہد فاروقی میں جب بصرہ بسنے لگا اور اس میں بہت سے مسلمان بس گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ بصرہ کا کوئی مسجد دار سجیدہ اور قابل حاکم مقرر کیا جائے اس سلسلہ میں آپ کو عثمان کی طرف اشارہ کیا گیا فرمایا وہ تو رسول اللہ ﷺ کے مقرر کردہ امیر ہیں انہیں معطل کرنے والا نہیں لوگوں نے آپ سے کہا: آپ ان کو لکھیں کہ وہ طائف کے خلیفہ بن جائیں اور مجھ سے مل لیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور آپ نے انہیں لکھا لیکن انہوں نے اپنے بھائی حکم ثقفی کو خلیفہ بنا دیا اور خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے آپ نے عثمان کو بصرہ کی طرف بھیج دیا پھر آپ نے بصرہ ہی میں گھر بنا لیا اور بصرہ میں بڑی جائداد پیدا کر لی جس میں ایک ساحل عثمان بھی ہے جو آپ کی طرف منسوب ہے اور ابلہ کے بالمقابل ہے اور اس کا علاقہ ہے آج تک آپ کی اولاد وہاں موجود ہے اور اس علاقہ کے شرفاء میں شمار ہوتی ہے ان کو یہاں خاصی آمدنی ہے اور وہ اچھے خاصے مال دار ہیں اور آدمیوں کی بھی کثرت ہے اور عیش و آرام سے ہیں۔ ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل بخدیث ابو ہلال بخدیث قتادہ از مطرف بن عثمان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے اگلی سطروں میں آپ کے بھائی کا ترجمہ ہے۔

حکم بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ:

ہم آپ کا ذکر آپ کے بھائی عثمان کے ذکر میں کر آئے ہیں: ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حکم وفد ثقفی میں شریک تھے یا نہ تھے آپ کی اولاد بھی شرفاء میں گئی جاتی ہے جن میں مشہور شاعر یزید بن حکم ہیں۔

حفص بن ابی العاص رضی اللہ عنہ شاعر:

آپ عثمان کے تیسرے بھائی ہیں مگر آپ کے صحابی ہونے کے بارے میں اور ملاقات کے بارے میں ہمیں کوئی روایت نہیں پہنچی، حفص آپ سے روایت کرتے ہیں لیکن ہم نے حفص کا ذکر ان کے دونوں بھائیوں کے ساتھ کر دیا ہے اور ان کا حال ظاہر کر دیا ہے حفص کی اولاد میں بھی بصرہ میں شرفاء موجود ہیں حسن بصری آپ سے روایت کرتے ہیں۔

مالک بن عمرو عقیلی رضی اللہ عنہ پھر قشیری:

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بخدیث حماد بن سلمہ از علی بن زید از زرارہ بن ابی اوفی از مالک بن عمرو قشیری: میں نے

رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے: جس نے مسلمان گردن آزاد کی وہ آگ سے اس کے لیے فدیہ بن جائے گی آزاد کردہ انسان کی ہر ہڈی آزاد کرنے والے کی ہر ہڈی کا فدیہ بن جائے گی اور جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو پایا اور اسے بخشا نہیں گیا تو اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور جس نے اس یتیم کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اپنے طعام و شراب میں اس وقت تک شامل رکھا جب تک اللہ نے اسے بے نیاز نہیں کر دیا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

اسود بن سرلیح بن حمیری بن عبادہ رضی اللہ عنہ:

ابن نزال بن مرہ آپ سعد بن زید مناہ بن تمیم کی اولاد میں ہیں آپ قصہ گو تھے ابن سعد: باخبار اسماعیل بن ابراہیم اسدی از یونس از حسن: اسود بن سرلیح فرماتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور میں نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم متحد یث سری بن یحییٰ، بسام حسن از اسود بن سرلیح (جو ایک شاعر ہیں اور آپ ہی نے سب سے پہلے اس مسجد میں وعظ فرمایا) میں نے رحمت عالم ﷺ کے ساتھ مل کر چار لڑائیاں لڑیں۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم کلابی متحد یث ابوالاشعث متحد یث حسن: اسود شاعر تھے بولے یا رسول اللہ ﷺ! جن الفاظ سے میں نے اپنے رب کی تعریفیں کی ہیں کیا میں آپ کو نہ سناؤں؟ فرمایا دیکھو! تمہارا رب تعریفوں کو پسند فرماتا ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ حمد سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پیاری نہیں۔ ابن سعد: باخبار اسماعیل بن ابراہیم از یونس از حسن: اسود مسجد کے پچھلے حصہ میں وعظ فرمایا کرتے تھے۔

تلب بن زید بن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن عمیرہ عن زید بن عیسیٰ غلاموں کی آزادی وغیرہ کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل متحد یث غالب بن حجرہ عن زید بن عیسیٰ بلقاسم بن تلب: میں نے نبی ﷺ کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ! میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے آپ نے مجھ سے فرمایا: جب تمہارے لیے اجازت مل جائے یا (یہ فرمایا) یہاں تک کہ تمہارے لیے اجازت مل جائے پھر میرے مقدر میں جو کچھ تھا باقی رہا پھر آپ نے مجھے بلا کر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور تین بار فرمایا یا اللہ تلب کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، تلب بنو تمیم کے اس وفد میں موجود تھے جس نے نبی ﷺ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دی تھی آپ نبی ﷺ سے اس سند سے علاوہ دوسری سندوں سے بھی حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

قتادہ بن ملحان سدوسی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عثمان بن مسلم متحد یث ہمام بن ابی ہریرہ بن سیرین متحد یث عبد الملک بن قتادہ بن ملحان قیسسی از قتادہ بن ملحان قیسسی: نبی ﷺ نے ہمیں ایام بیض (ہر ماہ کی تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخوں) کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا کیونکہ یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے نیز متحد یث سلیمان ابوداؤد طیالسی باخبار ہمام از انس بن سیرین از قتادہ از ملحان قیسسی: حسب سابق روایت ہے۔

ابن سعد: باخبار سلیمان ابوداؤد طیالسی باخبار شعبہ از انس بن سیرین بسام عبد الملک بن منہال اپنے والد سے: نبی

ﷺ نے انہیں ایام بیض کے روزوں کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے۔ محمد بن سعد: گویا حدیث ایک ہی ہے لیکن اس کی اسناد میں اور دونوں حدیثوں میں سب میں ابو داؤد کا اضطراب ہے اصل حدیث عفان والی ہے کیونکہ عفان اچھے راوی ہیں۔

ابو جری سلیم بن جابر جہمی یا جابر بن سلیم جہمی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون، باخبار زیاد بن ابی زیاد، یثمد یث محمد بن سیرین از سلیم بن جابر جہمی: میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ بطور وفد کے حاضر بارگاہ نبوی ہوا۔

ابن سعد: باخبار عبد الملک بن عمرو عقدی وحماد بن مسعد، یثمد یث قرہ بن خالد از قرہ بن موسیٰ الجہمی از سلیم بن جابر: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا آپ دونوں زانوؤں اور پیٹھ پر کپڑا لپیٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ حدیث حماد میں حماد کہتے ہیں قرہ بن موسیٰ کی کنیت ابو الہیثم ہے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم، یثمد یث حماد بن سلمہ از یونس بن عبید از عبیدہ جہمی از ابو تمیمہ جہمی از جابر بن سلیم جہمی: میں رحمت عالم ﷺ کے پاس آیا آپ ایک چادر زانوؤں پر لپیٹے ہوئے بیٹھے تھے اور چادر کے پھند نے آپ کے قدموں پر پڑے ہوئے تھے میں نے پوچھا تم میں سے کون محمد یا رسول اللہ ہیں؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ فرمایا میں بولا: یا رسول اللہ! میں ایک گنوار آدمی ہوں اور میرے مزاج میں گنواروں جیسا تشدد ہے آپ مجھے وصیت فرمائیں فرمایا: ادنیٰ سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔

ابو سلیمان مالک بن حویرث لیشی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب، یثمد یث حماد بن زید از ایوب از ابو قلابہ از مالک بن حویرث: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے اور تقریباً بیس دن آپ کے پاس ٹھہرے ہم نوجوان تھے اور بڑے شفیق و مہربان تھے فرمایا اگر تم وطن واپس جاؤ گے تو تم اہل وطن کو تعلیم دو گے اور انہیں ہدایات کرو گے لہذا انہیں تاکید کر دو کہ وقت پر نماز پڑھیں۔

أسامہ بن عمیر ہذلی رضی اللہ عنہ:

آپ ابوالمسلح ہذلی کے والد محترم ہیں جن سے ایوب وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون، باخبار سعید بن زریبی، یثمد یث ابوالمسلح از اسامہ بن عمیر: میں حنین کی لڑائی میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ موجود تھا کہ بارش ہونے لگی آپ کے حکم سے اعلان کرنے والے نے الصلوٰۃ فی الحال (گھروں میں نماز پڑھ لو) کا اعلان کیا۔

عرفجہ بن اسعد بن کزب عطاردی تمیمی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم کلانی، یثمد یث ابو الاشہب، یثمد یث عبد الرحمن بن طرفہ بن عرفجہ: عہد جاہلیت میں جنگ کلاب میں میرے دادا جان عرفجہ کی ناک ضائع ہو گئی تھی آپ نے چاندی کی ناک بنوائی تھی لیکن وہ متعفن ہو گئی آپ نے نبی ﷺ سے ذکر

کیا آپ نے انہیں سونے کی ناک بنوانے کا حکم فرمادیا۔ ابوالاشبہ، عبدالرحمن نے اپنے دادا عرفجہ کو دیکھا ہے۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ:

آپ اولاد عبداللہ بن کعب کی برداری کے ہیں پھر اولاد عامر بن صعصعہ میں سے اولاد حریش کے ایک فرد ہیں۔

ابن سعد: باخبر و کعب بن جراح و عفان بن مسلم از ابو بلال رابعی از عبداللہ بن سواد از انس بن مالک جو اولاد عبداللہ بن کعب کے ایک شخص ہیں: ہم پر رسول اللہ ﷺ کے سواروں نے حملہ کیا تو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ دو پہر کا کھانا تناول فرما رہے تھے فرمایا قریب آ کر تم بھی کھاؤ میں بولا: میرا روزہ ہے فرمایا بیٹھ جاؤ میں تم سے روزے یا روزے رکھنے کے بارے میں بات چیت کروں گا (عفان والی حدیث میں نماز اور روزے کے بارے میں بات چیت کا ذکر ہے) دیکھو! اللہ نے مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون سے روزے کو یا روزہ رکھنے کو موقوف فرمادیا ہے اللہ کی قسم نبی ﷺ نے یہ دنوں لفظ یا دنوں میں کوئی ایک لفظ فرمایا ہائے افسوس میں نے رسول اللہ ﷺ کے کھانے میں سے کھانا کیوں نہیں کھایا عفان اپنی حدیث میں فرماتے ہیں آپ ہم سے ساری حدیث بیان فرمائیے! فرماتے ہیں آپ نے ساری حدیث آ خر تک بیان فرمائی۔

کہمس ہلالی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبر موسیٰ بن اسماعیل، متحد ریث حماد بن یزید بن مسلم، متحد ریث معاویہ بن قرہ از کہمس ہلالی: میں مشرف بہ اسلام ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے پاس جا کر آپ کو اپنے اسلام کی خبر دی پھر سال بھر تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا سال بھر کے بعد میں نے آپ کو جا کر سلام کیا آپ نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا پر نگاہ نیچی کر لی میں بولا: یا رسول اللہ ﷺ گویا آپ کے ذہن میں میں موجود ہوں فرمایا ہاں تم کون ہو؟ میں بولا: میں کہمس ہلالی ہوں اور ایک سال قبل آپ کے پاس آیا تھا اب میں انتہائی دبلا ہو گیا ہوں اور میرا پیٹ بھی چپک گیا ہے پوچھا: تمہارا اس قدر پتلا حال کیوں ہو گیا؟ میں بولا: آپ سے جدا ہونے کے بعد میں نے دن میں روزہ نہیں چھوڑا اور رات کو جاگنا نہیں چھوڑا فرمایا: تمہیں کس نے حکم کیا تھا کہ اپنے کو عذاب میں مبتلا کر دو؟ ماہ صبر میں پورے ماہ کے روزے رکھو اور ہر ماہ میں ایک روزہ رکھو میں بولا: یا رسول اللہ! اضافہ فرمادیجئے فرمایا: اچھا ہر ماہ میں دو روزے رکھ لیا کرو میں بولا: یا رسول اللہ میں قوی ہوں اور اضافہ فرمادیجئے فرمایا: اچھا ہر ماہ میں تین روزے رکھ لیا کرو۔

ماعز بکائی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبر موسیٰ بن اسماعیل، بسماع جعد بن عبدالرحمن، جعد بن عبداللہ بن ماعز: ماعز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں یہ لکھ کر دیا کہ ماعز بکائی اپنی قوم کا سب سے پچھلا شخص مشرف بہ اسلام ہو گیا ہے اور اس پر اس کا ہاتھ ہی جنایت کر سکتا ہے پھر آپ نے اس پر ان سے بیعت لے لی۔

قرہ بن دعووس نمیری رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبر سلیمان بن حرب، متحد ریث جریر بن حازم: میں نے ایوب کے گھر میں ایک دیہاتی دیکھا جو کبیل کا جبہ پہنے ہوئے تھا جب اس نے لوگوں کو حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا تو بولا: مجھ سے میرے مولیٰ قرہ بن دعووس نے بیان کیا کہ میں مدینہ گیا

میں نے دیکھا نبی ﷺ تشریف فرما ہیں اور آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کے قریب آنا چاہا مگر آنہ سکا میں بولا: یا رسول اللہ! میری غلام کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے، فرمایا: اللہ تیرے گناہ بخش دے نبی ﷺ نے ضحاک کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ جوان اونٹ لے کر آئے، آپ نے ان سے فرمایا: تم ہلال بن عامر، نمیر بن عامر اور عامر بن ربیعہ کے پاس گئے اور ان سے جو اونٹ لے آئے، ضحاک بولے: یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبان سے جہاد کا ذکر سنا تھا لہذا میں نے ایسے اونٹ پسند کیے جن پر آپ اور آپ کے اصحاب سوار ہو سکیں، فرمایا: تم میری پسند کے چھوڑ آئے اور اپنی پسند کے لے آئے جاؤ انہیں لوٹا دو اور ان کے کنارے والے مالوں میں سے صدقہ لے کر آؤ۔

خشخاش بن حارث غنبری رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخباہریشم، باخباہر یونس از حصین بن ابی الحر از خشخاش غنبری، میں معاہدے میں بیٹے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پوچھا: کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، فرمایا: یہ تم پر جنائیت نہیں کرے گا اور نہ تم اس پر جنائیت کرو گے (یعنی ہر مجرم کو اس کے ذاتی جرم کی سزا ملے گی دوسروں کے جرموں کی نہیں اگرچہ وہ قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو)۔

احمر بن جزء سدوسی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخباہر عفان بن مسلم و یعقوب بن اسحق حضرمی و مسلم بن ابراہیم، متحد ریث ابو عبد اللہ، عباد بن راشد، متحد ریث امر صحابی: جب رسول اللہ ﷺ سجدہ کرتے تھے تو اپنے پہلوؤں سے دونوں بازو دوڑ کر لیا کرتے تھے۔

سوادہ بن ربیع جرمی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخباہر مسلم بن ابراہیم، متحد ریث عبد اللہ بن یزید، شعمی، متحد ریث سلم بن عبد الرحمن جرمی از سوادہ بن ربیع جرمی: میں اپنی والدہ کے ساتھ نبی ﷺ کے پاس آیا آپ نے ہم کو بکریاں دینے کی ہدایت فرمائی اور میری والدہ سے فرمایا اپنی اولاد کو ناخن کا نئے کا حکم کیا کرو تا کہ بکریوں کے تھنوں کو ان سے دکھ نہ پہنچے یا وہ ضائع نہ ہو جائیں اور بچوں کو یہ بھی تاکید کر دو کہ جانوروں کے بچوں کو اچھی طرح سے غذا فراہم کریں۔

علاشہ بن شجار سلطی تمیمی رضی اللہ عنہ:

آپ سے حسن روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، فرماتے ہیں: میں نبی ﷺ کے پاس آیا آپ لوگوں کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔

عقبہ بن مالک لیشی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخباہر عمرو بن عاصم، متحد ریث سلیمان بن مغیرہ، متحد ریث حمید بن ہلال: میرے اور میرے ایک ساتھی کے پاس ابو العالیہ تشریف لائے اور فرمایا میرے ساتھ چلو تم دونوں جو جوان ہو اور مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے ہو آخر کار ابو العالیہ چل پڑے اور ہمیں اصحاب سروج کے پاس لے کر پہنچے وہاں نصر بن عاصم لیشی موجود تھے (فرماتے ہیں) ابو العالیہ نے ان سے کہا: اپنی حدیث ان دونوں کے سامنے بیان کیجئے (فرماتے ہیں) نصر بن عاصم نے فرمایا ہم سے عقبہ بن مالک لیشی نے بیان کیا (آپ انہیں

کی جماعت کے ایک آدمی تھے) کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دستہ روانہ کیا جس نے ایک قوم پر حملہ کیا اس قوم کے ایک شخص نے حملہ کیا اس کے پیچھے اسلامی دستہ کا ایک مجاہدنگی تلوار لے کر لگ گیا حملہ آور بولا میں مسلمان ہوں لیکن مسلم مجاہد نے اس کی بات پر غور نہیں کیا اور اسے قتل کر دیا آخر کار یہ قصہ رسول اللہ ﷺ تک بھی پہنچ گیا آپ نے قاتل کے بارے میں بہت کچھ کہا سنا جس کی قاتل کو بھی خبر لگ گئی پھر رسول اللہ ﷺ کے خطبہ کے درمیان میں قاتل نے کہا: یا رسول اللہ اس نے یہ کلمہ قتل سے بچنے ہی کے لیے کہا تھا رسول اللہ ﷺ نے اس سے اور اس کی طرف والے لوگوں سے منہ پھیر لیا اور خطبہ جاری رکھا لیکن اس سے صبر نہ ہوسکا حتیٰ کہ اس نے تیسری بار کہا: اللہ کی قسم یا رسول اللہ اس نے قتل سے بچنے ہی کے لیے وہ کلمہ بولا تھا یہ سن کر رسول اللہ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے آپ کے چہرے سے ملال ٹپک رہا تھا آپ نے تین بار فرمایا: اللہ نے اس شخص کے لیے جو مومن کو قتل کر لے مجھ سے انکار فرمایا ہے۔

خرزیمہ بن جزء اسدی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار محمد بن عمر از حازم بن حسین بصری، متحد یث ابوامیہ عبدالکریم از حبان بن جزء از خزیمہ بن جزء، میں نے رسول اللہ ﷺ سے لومڑی کے کھانے کے بارے میں پوچھا، فرمایا لومڑی کون کھاتا ہے؟ پھر میں نے بھڑیے کے بارے میں پوچھا، فرمایا: کیا کوئی بھلا آدمی بھڑیے کو کھاتا ہے؟ پھر میں نے بچو کے بارے میں پوچھا، فرمایا: بچو کون کھاتا ہے؟ (فرماتے ہیں) اور عبدالکریم حبان سے اور وہ خزیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے گوہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا: میں اسے نہیں کھاتا اور نہ اسے حرام کہتا ہوں۔

سمرہ بن جندب بن ہلال رضی اللہ عنہ:

ابن جریر بن مرہ بن حزان بن عمرو بن جابر بن خشین بن لائی بن عصیم بن شمع بن فزارہ آپ صحابی ہیں اور آپ نے نبی ﷺ کے ساتھ جہاد بھی کیا نیز آپ انصار کے حلیف تھے، آپ کی والدہ مری بن سنان، ابوسعید خدری کے چچا کے پاس تھیں اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ سمرہ احد کے مجاہدین میں سے ہیں پھر آپ بصرہ چلے گئے اور بصرہ میں گھر کے لیے زمین کی حد بندی کر دی پھر کوفہ پہنچے اور بنو اسد میں کناسہ میں گھر خرید لیے اور انہیں درست کر لیا اور ان میں مقیم ہو گئے اور کوفہ ہی میں فوت ہو گئے آپ کی باقی اولاد موجود ہے آپ رسول اللہ ﷺ سے بہت سی حدیثیں روایت کرتے ہیں جب زیاد کوفہ جاتے تو آپ کو بصرہ میں اپنا تاج بنا جاتے۔

ابن سعد: باخبار وہب بن جریر بن حازم، متحد یث جریر بن حازم، بسام ابو یزید مدنی، جب سمرہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کو سخت سردی لگنے لگی لہذا آپ کے لیے آگ جلائی گئی اور آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں انگلیٹھیاں رکھ دی گئیں لیکن ان سے بھی آپ کو فائدہ نہ پہنچ سکا آپ فرماتے تھے کہ میں اندرونی سردی کا کیا علاج کروں آپ آخری سانس تک سردی ہی میں مبتلا رہے حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔

حملہ عمیری رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عبدالملک بن عمرو ابو عامر عمقدی، متحد یث قرہ بن خالد از ضرغامہ بن علیہ بن حملہ اپنے باپ سے اور وہ

ان کے دادا سے: میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی پھر نماز سے فارغ ہو کر میں نے لوگوں کے چہروں کو دیکھا تو میں چہروں سے (اندھیرے کی وجہ سے) انہیں پہچان نہ سکا پھر میں نے اپنے رخصت ہونے کے قریب کہا: یا رسول اللہ! کچھ وصیت فرمائیے، فرمایا: تقویٰ لازم کر لو اور جب تم کسی مجلس سے اٹھو اور مجلس میں ایسی باتیں سنو جو تم کو اچھی معلوم ہوں تو اس مجلس میں پھر آؤ ورنہ اسے چھوڑ دو۔

نیشہ ہندی یا نیشہ الخیر رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم، بحدیث معالی بن راشد ہندی بحدیث ام عاصم ازکیے از ہندی جسے نیشہ الخیر کہا جاتا ہے: فرماتی ہیں: نیشہ ہمارے پاس آئے ہم ایک بادیہ سے کھا رہے تھے بولے: ہم سے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جنہوں نے ایک بادیہ میں کھایا پھر اسے چاٹ لیا (صاف کر لیا) تو وہ بادیہ ان کے حق میں دعائے مغفرت مانگتا ہے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، بحدیث ابو الیمان نبال بحدیث اپنی دادی کے: نیشہ ہمارے پاس آئے (آگے عفان والی حدیث کی طرح حدیث ہے) محمد بن سعد: میرے خیال میں ابو الیمان معالی بن راشد ہندی ہیں۔

طلحہ بن عبد اللہ نصری، لیشی، کنانی رضی اللہ عنہ:

بعض آپ کو طلحہ بن عمرو بھی کہتے ہیں آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔

ابو محمد مسلمہ بن علقمہ مازنی داؤد بن ابی ہند سے اور وہ ابو الحرب بن ابوالاسود سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے طلحہ لیشی صحابی نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ گیا وہاں میرے ٹھہرنے کا کوئی انتظام نہ تھا آخر کار میں مسجد کے چبوترے پر ٹھہرا۔

عداء بن خالد بن ہوزہ بن خالد رضی اللہ عنہ:

ابن ربیعہ بن عمرو بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ آپ وفد میں شامل ہو کر نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے آپ نے ان کو ہنوعمر بن عامر والے چشمے دے دیئے۔

ابن سعد: باخبار ابوسلمہ منہال بن بحر قشیری، بحدیث عبد الحمید بن ابی یزید: یزید بن مہلب کے زمانہ میں میں اور حجر بن ابی نصر مکہ معظمہ گئے ہم ریح نامی چشمہ کے پاس سے گزرے لوگوں نے ہم سے کہا یہاں ایک صاحب ہیں جو رحمت عالم ﷺ کو دیکھے ہوئے ہیں چنانچہ ہم ان کی ملاقات کے شوق میں ان کے پاس پہنچے آپ ایک بہت ہی بوڑھے بزرگ تھے ہم نے پوچھا: کیا آپ نے رحمت عالم ﷺ کو دیکھا ہے؟ فرمایا: جی ہاں آپ ہی نے مجھے یہ چشمہ دیا اور اس کی دستاویز لکھ کر دی پھر آپ نے ہمارے سامنے چہرے کا ایک قطعہ نکالا جس پر رحمت عالم ﷺ کی دی ہوئی دستاویز لکھی ہوئی تھی (فرماتے ہیں) ہم نے پوچھا: آپ کا اسم گرامی؟ فرمایا: عداء بن خالد ہم نے پوچھا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کون سی حدیث سنی ہے؟ فرمایا: عرفہ کے دن میں آپ کی اونٹنی کے سامنے تھا اور وہ چگال رہی تھی آپ نے فرمایا: لوگو! یہ کون سا دن ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اور یہ کون سا شہر ہے؟ فرماتے ہیں: ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا: کیا یہ حرمت والا مہینہ، حرمت والا شہر اور حرمت والا دن نہیں؟ فرماتے ہیں: ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، فرمایا: سن لو تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اس دن کی حرمت کی طرح اس

مہینہ کی حرمت کی طرح اور اس شہر کی حرمت کی طرح تم پر اس دن تک حرام ہیں جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کرواے اللہ! میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے اے اللہ! گواہ رہ!

ابن سعد: باخباہر عثمان بن عمر، محمد بن ابوعمر و عبدالمجید: ہم رنج چشمہ میں پہنچے اور اولاد عامر بن ربیعہ کے ایک شخص سے ملے جن کا نام عداء بن خالد بن ہوذہ تھا، ہم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے ہمیں سلام کا جواب دیا اور فرمایا میں نے بھی حجۃ الوداع کے سال نبی ﷺ کے ساتھ حج کیا تھا میں نے دیکھا عرفہ کے دن رسول اللہ ﷺ دونوں رکابوں میں پیر ڈالے ہوئے اور کھڑے ہوئے اعلان کر رہے ہیں: سن لو! تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر رب سے ملاقات کے دن تک اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے آپ نے تین بار فرمایا: کیا میں نے پیغام حق نہیں پہنچایا؟ لوگ بولے: جی ہاں پھر آپ نے تین بار فرمایا: اے اللہ گواہ رہ!

ابن سعد: باخباہر یحییٰ بن راشد، محمد بن عباد بن لیث، یسکری، یسکری، عبدالمجید بن وہب، محمد بن عداء بن خالد بن ہوذہ! آپ نے ایک خط نکالا اور فرمایا نبی ﷺ نے یہ خط مجھے لکھ کر دیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا یہ وہ سودا ہے جو عداء نے محمد رسول اللہ سے خریدا ہے عداء نے آپ سے ایک غلام یا ایک لونڈی اس شرط پر خریدی تھی کہ اس میں نہ کوئی بیماری ہے نہ دھوکا ہے اور نہ کوئی عیب ہے جیسے ایک مسلمان، مسلمان سے معاملہ کرتا ہے۔

اولادِ مازن تمیمی کا عشی:

ابن سعد: باخباہر ابراہیم بن محمد بن عمر، ہرند قرشی، مخمر ابو معشر، براء، یوسف بن یزید، محمد بن طیسلمہ المازنی، محمد بن عداء بن ہوذہ! قبیلہ ازاعشی: میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہا: اے لوگوں کے مالک اور عرب کے منصف! میں نے ذرب کی بچی سے شادی کی اور میں رجب میں روزی کی تلاش میں باہر چلا گیا پھر اس نے مجھے جھگڑا اور فساد کر کے چھوڑ دیا اور عورتیں غالب آنے والے مردوں پر بری غالب آنے والیاں ہیں فرماتے ہیں: نبی ﷺ وہن شر غالب لمن غلب: بار بار پڑھتے رہے۔

ابن سعد: باخباہر احمد بن محمد بن انس، باخباہر ابو حفص، عمرو بن علی صیرفی، محمد بن عبید بن عبد الرحمن بن عبید خنی، محمد بن جنید بن امین بن ذرہ بن نھلہ بن طریف بن بہصل حرمازی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا نھلہ سے: کہ ان میں سے ایک شخص کے پاس جسے اعشی کہا جاتا تھا اور اس کا نام عبد اللہ بن اعور تھا اسی قبیلہ کی ایک خاتون معاذہ تھی، اعشی رجب میں روزی کی تلاش میں ہجر چلے گئے، ان کے جانے کے بعد وہ خاتون ان کی نافرمانی کر کے بھاگ کر اپنے میکہ چلی گئی اس خاتون نے انہیں سے ایک شخص کی حمایت حاصل کر لی اس کا نام مطرف تھا مطرف نے معاذہ کو اپنی حمایت میں لے لیا جب اعشی گھر پہنچے تو بیوی کو گھر میں نہیں پایا، انہیں بتایا گیا کہ معاذہ ان کے خلاف ہو گئی ہے اور ان کی حکم عدولی کر کے اس نے مطرف کی حمایت حاصل کر لی ہے، اعشی مطرف کے پاس گئے اور بولے: بھتیجے! تمہارے پاس میری بیوی معاذہ ہے اسے میرے حوالہ کر دو۔ مطرف بولا: معاذہ میرے پاس نہیں اور اگر میرے پاس ہوتی بھی تو میں اسے آپ کے حوالہ نہیں کرتا (فرماتے ہیں) مطرف اعشی سے زیادہ معزز تھا آخر کار اعشی نبی ﷺ کے پاس گئے اور آپ کی حمایت حاصل کی اور آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھے:

يا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَانَ الْعَرَبِ اليك اشكو ذرِيَّةً مِّنَ الذَّرْبِ
”اے لوگوں کے سردار اور عرب کے منصف میں ذرب کی بیٹی کی آپ کے پاس شکایت لے کر آیا ہوں۔“

كَالذَّبِيَّةِ الْغَبْسَاءِ فِي طَلِّ السَّرْبِ خَرَجْتُ ابْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبِ
جوہل کی پھوار میں بھوری بھڑن کی طرح ہے میں رجب میں اس کے لیے روزی کی تلاش میں نکلا تھا۔

فَخَلَقْتَنِي بِنِزَاعٍ وَحَرْبِ أَخْلَفْتِ الْعَهْدَ وَأَطَلَتِ الدَّيْبِ
لیکن وہ جھگڑا اور فساد کر کے مجھے چھوڑ گئی اور اس نے وعدہ خلافی کی اور دم موڑ لی۔

تَوَدَّ اُنِّي بَيْنَ غَيْضٍ مُّوتَسَّبِ وَهَنَّ شَرَّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبَ
وہ چاہتی ہے کہ میں ایک گھنے بن میں پھنس جاتا اور عورتیں غالب لوگوں پر بری غالب آنے والیاں ہیں۔“

نبی ﷺ نے فرمایا: اور وہ بری غالب آنے والیاں ہیں، اَعشی نے آپ سے اپنی بیوی کی شکایت کی اور اس نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا تھا اسے تفصیل سے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اب وہ مطرف بن بھصل کے پاس ہے۔ نبی ﷺ نے مطرف کو خط لکھا کہ ان کی بیوی معاذہ کو ان کے حوالہ کر دو جب یہ خط مطرف کو پڑھ کر سنایا گیا تو انہوں نے معاذہ سے کہا: تمہارے بارے میں میرے پاس نبی ﷺ کا خط آیا ہے اب میں تم کو اَعشی کے حوالہ کر دوں گا، معاذہ بولیں: اَعشی سے یہ پکا وعدہ کر لینا کہ وہ مجھے میرے افعال پر سزا نہ دیں، چنانچہ مطرف نے اَعشی سے پختہ عہد لے کر معاذہ کو ان کے حوالہ کر دیا۔ اَعشی نے خوش ہو کر یہ شعر پڑھے:

لَعَمْرُكَ مَا حَسْبِي مُعَاذَةٌ بِالذَّبِيِّ يَغْيِرُهُ الْوَأَشَى وَلَا قَدَمُ الْعَهْدِ
”عمر عطا کرنے والے کی قسم! معاذہ سے میری محبت ایسی نہیں جسے چغل خور یا طول زمانہ بدل دے۔“

وَلَا سُوءَ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذَا زَالَهَا غَوَاةَ الرِّجَالِ إِذْ بِنَا دُونَهَا بَعْدَى
اور نہ محبت کو اس کا برافضل بدلنے والا ہے جب اسے گمراہوں نے ڈگمگا دیا تھا اور میرے بعد اسے بلانے لگے تھے۔“
ابو مریم سلولی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام مالک بن ربیعہ ہے اور آپ ابو یزید کے والد ہیں آپ نبی ﷺ سے یہ حدیث: اے اللہ پیچھے رہنے والوں کو بخش دے روایت کرتے ہیں۔

عباد بن شریحیل یشکرکری رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخباہر یزید بن ہارون باخباہر اشعث بن سعید، محمد بن ابوشرا عباد بن شریحیل: میں عہد رسالت میں مدینہ منورہ گیا اور ایک باغ میں گھس کر کچھ بالیں توڑ لیں باغ کے مالک نے آ کر مجھے مارا اور میرا کبیل چھین لیا، میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا باغ کا مالک میرے پیچھے پیچھے تھا اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا، رسول اللہ ﷺ نے مالک سے فرمایا: یہ جاہل تھا اور بھوکا تھا نہ تو تم نے اسے اسلامی اصول بتائے اور نہ کچھ کھلایا یا پلایا پھر آپ کے حکم سے اس نے مجھے میرا کبیل دے دیا اور آپ نے حکم کیا کہ مجھے ساٹھ صاع یا تیس صاع کھجوریں دے دی جائیں۔

بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام زحم بن معبد سدوسی ہے۔ ابن سعد: باخباہ فضل بن دکین، متحد یث اسود بن شیمان از خالد بن سمیر: زحم بن معبد ہجرت کر کے رحمت عالم ﷺ کے پاس مدینہ منورہ پہنچے نبی ﷺ نے پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ بولے: زحم بن معبد فرمایا: نہیں بلکہ تم بشیر ہو۔ ابن سعد: باخباہ مسلم بن ابراہیم و سلیمان بن حرب، متحد یث اسود بن شیمان، متحد یث خالد بن سمیر، متحد یث بشیر بن نہیک: جاہلیت میں میرا نام زحم تھا جب میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا اور حاضر خدمت نبوی ہوا تو آپ نے میرا نام پوچھا میں نے اپنا نام زحم بتایا فرمایا: نہیں بلکہ تم بشیر ہو۔

ابن سعد: باخباہ عرفان بن مسلم، متحد یث عبید اللہ بن ایاد سدوسی، بسام از ابویاد بن لقیط سدوسی، بسام لیلی زوجہ بشیر: رسول اللہ ﷺ نے آپ کا نام بشیر رکھا اس سے قبل آپ کا نام زحم تھا۔

قبیصہ بن وقاص رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخباہ ابوالولید ہشام طیاسی، متحد یث ابوشام عمار بن عمادہ صاحب زعفران، متحد یث صالح بن عبید از قبیصہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد تم پر ایسے حاکم ہوں گے جو نماز دیر کر کے پڑھیں گے تمہاری نماز ہو جائے گی لیکن تاخیر کا وبال حکام پر پڑے گا لہذا ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہو جب تک وہ تمہیں قبلہ کی طرف نماز پڑھاتے رہیں۔ ہشام: لقیط کو صحبت نبویہ کا شرف حاصل ہے اور یہ حدیث جماعت ہے۔

جاریہ بن قدامہ سعدی رضی اللہ عنہ:

ابن زبیر بن حصین بن رزاح بن اسعد بن بحیر بن ربیعہ بن کعب بن سعد بن زید مناۃ بن تمیم ابن سعد: باخباہ عبداللہ بن نمیر، متحد یث ہشام بن عروہ از عروہ از اخف بن قیس اپنے چچا زاد بھائی جاریہ سے: کہ انہوں نے نبی ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! مجھے ایک مفید جامع اور مختصر بات بتائیے تاکہ میں اسے یاد بھی رکھ سکوں فرمایا: غصہ نہ کرو انہوں نے بار بار یہی سوال دہرایا اور آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کرو فرماتے ہیں: جاریہ ان بزرگوں میں سے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت موجود تھے فرماتے ہیں: ہم سب سے اخیر میں آپ کے پاس پہنچے اور ہم نے آپ سے وصیت کی درخواست کی ہم سے پہلے آپ سے کسی نے یہ درخواست نہیں کی تھی۔

جاریہ کی تواریخ ہے اور لڑائیاں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو بصرہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اس وقت بصرہ کے حاکم عبداللہ بن عامر بن حضرمی تھے جو عبداللہ بن عامر بن کریم کے نائب تھے جاریہ نے ان کا محاصرہ ایک تہمی شخص سنیل کے گھر میں کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی بیعت لینے کے لیے بصرہ بھیجا۔

سعد بن اطول بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن خالد بن واہب بن غیاث بن عبد بن شقرہ بن عدی بن عوف بن عطفان بن قیس بن جہینہ بن زید بن اسلم بن سلم بن الحاف بن قضاہ۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم، محمد بن یثمد، یثمد بن سلمہ، محمد بن یثمد ابو جعفر عبد الملک از ابو نصرہ از سعد بن اطول: میرے بھائی قرضدار فوت ہوئے آپ کے ترکہ میں صرف تین سو درہم تھے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں نے ان کے بچوں پر خرچ کرنا چاہا تو نبی ﷺ نے فرمایا تمہارا بھائی قرض میں محبوس ہے میں بولا: یا رسول اللہ میں نے ان کا قرض ادا کر دیا ہے البتہ دو دینار باقی ہیں جن کا ایک عورت دعویٰ کرتی ہے مگر اس کے پاس ثبوت نہیں فرمایا: دے دو کیونکہ وہ سچی ہے۔

ابن سعد: بخبر از واصل بن عبد اللہ بن بدر بن عبد اللہ بن سعد بن اطول، یثمد بن یثمد از واصل: عبد اللہ بن سعد اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے تستر جاتے تھے اور دو دن (جانے کے دن اور دوسرے دن) ٹھہرا کرتے تھے اور تیسرے دن واپس ہو جایا کرتے تھے لوگ آپ کو مزید ٹھہرانے کی آرزو کیا کرتے تھے آپ فرمانے لگے میں نے اپنے والد سے سنا فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے منع فرمایا یا میں نے آپ سے سنا کہ آپ قیام سے منع فرمایا کرتے تھے اگر کوئی خراج والے شہروں میں تین دن ٹھہر گیا تو اس نے وہاں قیام کر لیا لہذا میں قیام مکروہ سمجھتا ہوں۔

بخبر از واصل بن عبد اللہ بن سعد: جب یزید بن معاویہ فوت ہو گئے تو عبد اللہ بن زیاد کو بصرہ والوں کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے سعد بن اطول کے پاس آدمی بھیج کر درخواست کی کہ وہ انہیں اہل بصرہ سے بچائیں فرمایا: میرا خاندان بصرہ میں نہیں بلکہ شام میں ہے۔

حریث بن حسان شیبانی رضی اللہ عنہ:

آپ بکر بن وائل کی طرف سے ان کے نمائندہ بن کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تھے آپ ہی کے ہمسفر قبیلہ بنت مخرمہ ہو گئی تھیں جب آپ رسول اللہ کے پاس تشریف لارہے تھے یہ دونوں مل کر حاضر بارگاہ رسالت ہوئے رسول اللہ ﷺ کے سامنے دونوں میں بیابان میں جو کچھ باتیں ہوئی تھیں وہ چھڑ گئیں وہ باتیں ہم سے عوفان بن مسلم، عبد اللہ بن حسان، اولاد کعب بلعمر کے بھائی سے اور وہ اپنی دونوں دادیوں صفیہ اور وحیہ دختران علیہ سے اور وہ قبیلہ بنت مخرمہ سے نقل کرتے ہیں۔

حرمہ بن عبد اللہ کعمی رضی اللہ عنہ:

آپ کعب بلعمر کے آدمی ہیں آپ نبی ﷺ کے پاس چلے گئے تھے اور آپ کے پاس اتنے دن رہے کہ آپ کو اچھی طرح سے پہچان گئے اور آپ سے مسائل پوچھے اور آپ سے روایتیں کیں۔

عبد اللہ بن سمرہ رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم کلابی، محمد بن یثمد، معتمر بن سلیمان، محمد بن یثمد ابن نسیب سلمی از مسلم بن عبد اللہ بن سمرہ از عبد اللہ بن سمرہ: میں نے نبی ﷺ سے سنا فرماتے تھے: اللہ تعالیٰ تم کو تین چیزوں سے روکتا ہے کثرت سوالات سے، مال کو ضائع کرنے سے اور قیل قال کے پیچھے لگنے سے۔

عبد اللہ بن سمرہ رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، محمد بن یثمد، محمد بن یثمد، یثمد بن یثمد از عبد اللہ بن سمرہ: میں رحمت عالم ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہوا آپ بیٹھے ہوئے تھے میں گھوم کر آپ کے پیچھے گیا آپ میرا مطلب سمجھ گئے اور اپنی چادر اتار دی میں نے آپ کے بائیں (یادایاں کہا) کندھے کے پیچھے بالائی حصہ پر مہر مٹھی برابر دیکھی جسے تل گھیرے ہوئے تھے گویا وہ ایک بڑا مسہ تھا (فرماتے ہیں) پھر میں آپ کے سامنے آیا اور بولا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، فرمایا: اور تم کو بھی پھر آپ سے کسی نے کہا: یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں اور اللہ تعالیٰ تم کو بخشے اور آپ نے آیت: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ پڑھ کر سنائی، یعنی اے رسول آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی معافی مانگیں۔

عبداللہ بن ابی الحسما رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار معاذ بن ہانی، بہرانی، یحییٰ بن ابراہیم بن طہمان، یحییٰ بن بدیل بن میسرہ از عبدالکریم از عبداللہ بن شقیق از شقیق از عبداللہ بن ابی الحسما: میں نے بحث سے پہلے نبی ﷺ سے ایک معاملہ کیا اور مجھ پر آپ کی کچھ رقم باقی رہ گئی اور میں یہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ میں آپ سے اسی مقام پر آ کر ملتا ہوں اور رقم ادا کرتا ہوں لیکن علیحدہ ہو کر میں بھول گیا دوسرے دن بھی مجھے وعدہ یاد نہیں آیا ہاں تیسرے دن یاد آیا دوڑا ہوا گیا تو آپ کو اسی جگہ منتظر پایا، فرمایا: اے جوان! تو نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا میں یہاں تیرا تین دن سے انتظار کر رہا ہوں۔

عبداللہ بن ابی الحجد عاصم عبدزی رضی اللہ عنہ:

آپ سے عبداللہ بن شقیق عقیلی روایت کرتے ہیں۔ ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم و عمرو بن عاصم کلابی، یحییٰ بن حماد بن سلمہ از خالد حذاء از عبداللہ بن شقیق از ابن ابی الحجد عاصم: میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کب نبی بنے؟ فرمایا: جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔

ابو بدیل میسرہ الفجر رضی اللہ عنہ:

ابن میسرہ عقیلی جو عبداللہ بن شقیق سے روایت کرتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار معاذ بن ہانی، بہرانی، یحییٰ بن ابراہیم بن طہمان، یحییٰ بن بدیل بن میسرہ از عبداللہ بن شقیق از میسرہ الفجر: میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: یا رسول آپ کب نبی بنے؟ فرمایا: آدم روح و جسم کے درمیان ہی تھے کہ میں نبی بن گیا تھا۔ طلق بن خثاف قیسی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، یحییٰ بن سوادہ بن ابی الاسود قیسی، یحییٰ بن ابی الاسود: کچھ صحابی بیمار پرسی کے لیے طلق کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کے لیے دعا مانگتے رہے اے اللہ پسند فرما پھر عزم فرما۔ ابو صفیہ رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم، یحییٰ بن عبدالواحد بن زیاد، یحییٰ بن یونس بن عبید اپنی والدہ سے: میں نے ابو صفیہ صحابی کو دیکھا (فرماتی ہیں) آپ ہمارے ایک پڑوسی تھے آپ روزانہ صبح کو سنگریزوں اور گھلیوں پر تسبیح پڑھا کرتے تھے میں نے ہمیشہ آپ کو

سگرزے لیے ہوئے ہی دیکھا۔

ابوعسیب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام:

(فرماتے ہیں) بعض روایتوں میں ابو عصیم آتا ہے لیکن دونوں ایک ہی شخص ہیں۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون، باخبار ابو نصیرہ، مسلم بن ابی عبید، بسام از ابو عسیب مولی رسول اللہ ﷺ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس بخارا اور طاعون لے کر آئے پھر میں نے بخارا تو مدینہ میں روک لیا اور طاعون شام کی طرف چھوڑ دیا لہذا طاعون میری امت کے لیے شہادت و رحمت ہے اور کافروں کے لیے عذاب ہے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل، محمد یث حازم بن قاسم، بسام از ابو عسیب: جو شخص تندرست ہو اور چلنے پر قادر ہو وہ جمعہ نہ چھوڑے کیونکہ جمعہ فرض حج کی طرح فرض ہے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل، محمد یث حازم بن قاسم: میں نے ابو عسیب کو ایک بھدے کٹورے میں پانی پیتا ہوا دیکھا یہ کٹورہ چھیل کر عمدہ بنا ہوا نہیں تھا ہم نے کہا: کاش آپ ہمارے ان لطیف و عمدہ کٹوروں کو استعمال کریں، فرمایا: مجھے اس میں کھانے پینے سے کون سی چیز مانع ہے میں نے تو اس میں رسول اللہ ﷺ کو پیتا ہوا دیکھا ہے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل، باخبار حازم بن قاسم: میں نے ابو عسیب، خادم رحمت عالم ﷺ کو دیکھا کہ آپ سر، داڑھی اور موچھوں پر زرد خضاب کر لیتے تھے (فرماتے ہیں) اور میں نے ابو عسیب سے سنا فرماتے تھے: جو تندرست ہو اور چلنے پر قادر ہو وہ جمعہ نہ چھوڑے کیونکہ جمعہ حج کی طرح فرض ہے (فرماتے ہیں) ہم ابو عسیب کی موچھوں کو کناروں سے کاٹ دیا کرتے تھے اور ناخنوں کو بھی۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل، محمد یث مسلمہ بنت زبان قریبیہ، بسام از میمونہ بنت عسیب: تین روزے ملا کر لگانا رکھ لیتے تھے اور چاشت کی نماز کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے پھر جب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تو بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ابو عسیب ایام بیض کے روزے بھی رکھا کرتے تھے آپ کی چار پائی میں ایک گھنٹی تھی اگر آواز سے عاجز آتے تو اس کے ذریعہ مجھے بلا لیا کرتے تھے جب آپ اسے ہلاتے تو میں آجاتی تھی۔

نمیر خزاعی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین، محمد یث عصام بن قدامہ، محمد یث مالک بن نمیر جو بصرہ کے باشندے تھے: نمیر نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کو نماز میں (تشہد میں) دیکھا کہ سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر رکھے ہوئے ہیں اور شہادت کی انگلی ذرا خم کر کے اٹھائے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں۔

قنادہ بن اعور ساعدہ رضی اللہ عنہ:

ابن عوف بن کعب بن عبد شمس (اصل میں عبد شمس، عیش شمس ہیں، عبد شمس قریش ہی میں ہیں) بن سعد بن زید مناۃ بن تمیم آپ نے وفد کے آنے سے پہلے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا اور نبی ﷺ نے آپ کو شہدہ مقام میں جو ایک پٹ پڑ میدان میں

قنعدہ اور عمرہ کے درمیان ہے خط لکھا آپ جون کے والد ہیں۔

قتادہ بن اوفی بن موالہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ:

ابن ملاس بن عشمس بن سعد بن زید مناۃ بن تمیم آپ رحمت عالم ﷺ کی صحبت پائے ہوئے ہیں آپ ایاس کے والد

ہیں اور ایاس کی والدہ فارعہ بنت حمیری بن عبادہ بن نزال بن مرہ ہیں۔

قیس بن حارث بن یزید بن شبل رضی اللہ عنہ:

ابن حیان اولاد تمیم سے منقح کے چچا زاد بھائی ہیں نبی ﷺ کے پاس آنے والے تمیمی وفد میں آپ بھی شامل تھے پھر آپ

بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے۔

منقح بن حصین بن یزید بن شبل رضی اللہ عنہ:

ابن حیان بن حارث بن عمرو بن کعب بن عبد شمس بن سعد بن زید مناۃ بن تمیم آپ جنگ قادسیہ میں شریک تھے پھر بصرہ

آ گئے اور وہاں مکان کے لیے جگہ گھیر لی آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام جناح تھا آپ نے اسی پر سوار ہو کر جنگ قادسیہ لڑی

اور یہ اشعار پڑھے:

لَمَّا رَأَيْتُ الْخَيْلَ زَيْلَ بَيْنَهَا طِعَانٌ وَ نَشَابٌ صَبْرَتْ جِنَاحَا

”جب میں نے دیکھا کہ شہسواروں کے درمیان نیزوں اور تیروں نے تفرقہ ڈال دیا ہے تو میں اپنے گھوڑے جناح پر صبر سے جما

رہا۔“

فَطَاعَنْتُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ نَصْرَهُ وَوَدَّ جِنَاحٌ لَوْ قَضَى فَارَاحَا

اور دشمنوں کے نیزے گھونپنے لگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتاری اور جناح کی تمنا تھی کہ وہ مرکزِ راحت پا جائے۔

كَأَنَّ سَيْوَفَ الْهِنْدِ فَوْقَ جَبِينِهِ مُخَارِبِقُ بَرَقَ فِي تِهَامَةَ لَاحَا

گویا اس کی پیشانی پر ہندی تلواریں تہامہ میں چمکنے والی بجلی کے کوڑے ہیں۔“

منقح رحمت عالم ﷺ سے ایک حدیث کے راوی ہیں۔

ابن سعد: باخبار ابو عسان نہدی مالک بن اسلمیل، محمد یث سیف بن ہارون برجمی باخبار عصمہ بن بشیر برجمی بخبر مزرع

(بقول سیف آپ جنگ قادسیہ میں شریک تھے) از منقح: میں نبی ﷺ کے پاس اپنے اونٹوں کا صدقہ لے کر آیا: میں بولا یہ ہمارے

اونٹوں کا صدقہ ہے آخر کار آپ کے حکم سے اونٹوں پر قبضہ کر لیا گیا میں بولا یا رسول اللہ! ان میں دو اونٹیاں آپ کے لیے بطور ہدیہ

کے ہیں اور میں نے ہدیہ والی اونٹیاں صدقہ کے جانوروں سے علیحدہ کر دیں پھر میں آپ کے ہاں کچھ دنوں تک ٹھہرا رہا لوگوں میں

چرچا تھا کہ رسول اللہ ﷺ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رقیق مصر یا مصر کی طرف بھیجنے والے ہیں اور ان سے صدقہ وصول کرنے والے

ہیں میں نے سوچا ہمارے پاس اور ہمارے گھر والوں کے پاس جو کچھ مال ہے ان کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا صدقہ نہیں ادا

کردوں یہ سوچ کر میں نبی ﷺ کے پاس آیا آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ اسود تھے جن کا سر آپ کے سر کے محاذ میں تھا

میں نے ان سے زیادہ کسی کو لمبا ترنگا نہیں دیکھا جب میں قریب آیا تو گویا وہ میری طرف جھکے لیکن ان کو نبی ﷺ نے روک دیا میں بولایا رسول اللہ! لوگ میرے بارے میں ایسا ایسا ذکر کر رہے ہیں اس پر آپ نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند اٹھائے کہ مجھے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آگئی اور فرمایا اے اللہ! میں لوگوں کے لیے اپنے اوپر جھوٹ بولنا حلال نہیں کرتا۔

منقح: لہذا میں نبی ﷺ سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو کتاب و سنت میں موجود ہوتی ہے جب زندگی میں آپ پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تو وفات کے بعد بدرجہ اولیٰ جھوٹ بولنا حرام ہے۔

ابوغسان: منقح اولاد تمیم کے ایک آدمی ہیں آپ کو بنو تمیم کے ایک شخص کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

حارث بن عمرو سہمی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم و ابوالولید ہشام طیلسی، تجدیث یحییٰ بن زرارہ بن سہم بن حارث بصری (آپ طف میں ٹھہرا کرتے تھے) تجدیث زرارہ بن سہم از حارث بن عمرو! میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی آپ اپنی اونٹنی عصباء پر سوار تھے میں بولا: یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان ہوں، میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے، فرمایا: اللہ تمہیں بخش دے، ایک شخص بولا: یا رسول اللہ! فرع اور عتیرہ کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا اختیار ہے فرمایا جو چاہے جانور کا پہلا بچہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے اسی طرح رجب میں جو چاہے جانور اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھلا دے اور اگر نہ چاہے تو نہ کرے اور بھیڑوں میں قربانیاں ہیں پھر فرمایا: سن لو تمہارے خون اور مال آپس میں تمہارے اس شہر کی طرح اور اس دن کی حرمت کی طرح حرام ہیں۔ ابوالولید: یحییٰ بن زرارہ بصری تھے اور طف میں مقیم تھے۔

عبدالرحمن بن خنیش رضی اللہ عنہ:

آپ سے ابو عمران جو نبی ﷺ کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں جس میں شیطان کے شعلہ کا ذکر ہے۔ سہل بن صخر بن واقد بن عصمہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ:

ابن عبدمنافہ بن شیخ بن عامر بن لیث بن مکر بن عبدمنافہ بن کنانہ۔

ابن سعد: باخبار عبد اللہ بن محمد بن ابوالاسود، تجدیث یوسف بن خالد سستی از خالد سستی: مجھ سے میرے مولیٰ سہل بن صخر نے کہا (آپ کے لیے صحبت رسول ثابت ہے) غلام خرید یا (کہا) غلام خرید کیونکہ بہت سے غلاموں کے مقدر میں اتنا رزق ہوتا ہے جتنا سید کے مقدر میں نہیں ہوتا۔

ابوعبید رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم و مسلم بن ابراہیم، تجدیث ابان بن یزید، تجدیث قنابہ از شہر از ابو عبیدہ: میں نے نبی ﷺ کے لیے ایک ہانڈی پکائی آپ نے فرمایا: مجھے ہاتھ کا پارچہ تمہارو (فرماتے ہیں) میں نے آپ کو ہاتھ کا پارچہ دے دیا فرماتے ہیں: پھر آپ نے فرمایا: مجھے ہاتھ کا پارچہ دے دو میں نے دے دیا پھر آپ نے یہی فرمایا: میں بولا یا رسول اللہ! ایک بکری کے کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تو خاموش رہتا تو جب تک میں مانگتا رہتا تجھے ہاتھ

دیئے جاتے رہتے۔

میمون بن سبداؤ اسلع رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، محمد بن یحییٰ بن بدر اپنے والد سے کہ ہم میں سے ایک شخص نے جسے اسلع کہا جاتا تھا کہا: میں نبی ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے سواری کسا کرتا تھا ایک دن آپ نے مجھ سے فرمایا: اسلع اٹھ کر سواری کس۔ میں بولا اے اللہ کے نبی میں ناپاکی میں مبتلا ہوں آخر آپ کچھ دیر خاموش رہے پھر آپ پر حضرت جبرئیل علیہ السلام تیمم والی آیت لے کر اتر آئے فرماتے ہیں پھر نبی ﷺ نے مجھے بلا کر تیمم کر کے دکھایا آخر کار میں نے تیمم کر کے سواری کسى اور نماز پڑھی پھر جب آپ پانی پر پہنچے تو مجھ سے فرمایا: اسلع اٹھ کر غسل کر لے۔

زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام:

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل، محمد بن حفص بن عمر، محمد بن ابوعمر بن مرہ، بسام از بلال بن یسار بن زید بسام از یسار، محمد بن زید۔ میں نے نبی ﷺ سے سنا فرماتے تھے: **بِوَسْتِغْفِرِ اللَّهُ إِلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوهُ بِالْبِرِّ** پڑھ لے اسے بخش دیا جائے گا اگر چلائی سے بھاگ آیا ہو۔
ابوسود رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عبداللہ بن جعفر رقی، محمد بن ابی مبارک از عمر از شیخ بنی تمیم از ابوسود: میں نے نبی ﷺ سے سنا فرماتے تھے: جھوٹی قسم جس سے انسان مسلمان کا مال ہتھیالے رحم کو بانجھ بنا دیتی ہے۔
ابوحیہ تمیمی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار ابوعامر، عبدالملک بن عمرو، عقیق بن علی بن مبارک از یحییٰ بن ابی کثیر، محمد بن حنیہ تمیمی، بھجر ابو حنیہ: میں نے نبی ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: ہدم دشمن کچھ نہیں اور صحیح شگون نیک شگون ہے۔
حارث بن اقیس رضی اللہ عنہ:

آپ نبی ﷺ سے یہ روایت کرتے ہیں: **مَنْ قَدِمَ ثَلَاثَةَ مَنٍ وَوَلَدَهُ (جس نے اپنے تین بچے پہلے بھیج دیئے یعنی جس نے اپنے تین نابالغ مرنے والے بچوں پر صبر کیا) حارث: میں نے نبی ﷺ سے سنا فرماتے تھے: میری امت کا ایک شخص ربیعہ اور مضر جیسوں کے لیے شفاعت کرے گا (یعنی جتنے ان دونوں قبیلوں میں لوگ ہیں اتنوں کی شفاعت کرے گا)۔**
عمرو بن تغلب ثمری رضی اللہ عنہ:

بقول بعض آپ عبدی ہیں۔

عبداللہ بن اسود سدوسی رضی اللہ عنہ:

قتادہ: آپ بارگاہ رسالت میں سدوسی وفد میں شامل ہو کر پہنچے۔

اسیر صحابی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن حماد، یحییٰ بن جواد، یحییٰ بن ابوعوانہ، از داؤد بن عبداللہ از حمید بن عبدالرحمن: جب یزید بن معاویہ خلیفہ بنائے گئے تو ہم اسیر صحابی رسول اکرم ﷺ کے پاس گئے فرمایا: لوگ کہتے ہیں: یزید امت محمدیہ میں اچھا آدمی نہیں، نہ سمجھدار ہی ہے اور نہ زیادہ شریف ہے میں بھی اس کا قائل ہوں لیکن اللہ کی قسم مجھے امت محمدیہ کا اتحاد اختلاف سے زیادہ محبوب ہے بتاؤ تو سہی اگر کوئی دروازہ اتنا وسیع ہو کہ اس میں تمام امت سما جائے کیا اس میں ایک شخص نہیں سا سکتا؟ ہم بولے سما جائے گا، فرمایا: بتاؤ تو سہی اگر ہر امتی یہ عہد کر لے کہ میں اپنے بھائی کا خون نہیں بہاؤں گا اور نہ اس کا مال لوں گا تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہم بولے: جی ہاں فرمایا: میں یہی تم سے کہتا ہوں پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: شرم سے تمہارے پاس بھلائی ہی آئے گی حمید: میرے ساتھی نے کہا: لقمان کے قصہ میں ہے کہ بعض شرم کمزوری ہے اور بعض اللہ کے لیے وقار ہے اس پر شیخ کا ہاتھ کا پٹنے لگا اور بولے تم دونوں میرے گھر سے اور محلہ سے نکل جاؤ میں تم کو اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا، فرماتے ہیں: میں برابر ان کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا رہا حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گئے، فرماتے ہیں پھر میں اور میرا ساتھی دونوں وہاں سے چلے آئے۔

عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون، باخبار عاصم بن ہلال از عاصم بن عروہ از عروہ: ہم نماز کے لیے نبی ﷺ کا انتظار کرتے رہے آخر کار آپ باہر اس حال میں تشریف لائے کہ وضو سے یا غسل سے آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا پھر آپ نے نماز پڑھائی فارغ ہونے کے بعد آپ سے لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا فلاں بات میں ہم پر گناہ ہے؟ فرمایا: لوگو! اللہ کا دین جو ہمیں ملا ہے انتہائی آسان ہے آپ نے تین بار یہی فرمایا۔

ابورفاعہ عدوی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام تمیم ہے اور اسید کے فرزند ہیں جو اولاد عدی میں سے تھے اسید کے والد عبدمنانہ بن اڈ بن طاسخہ بن الیاس بن مضر ہیں۔ آپ نبی ﷺ کی صحبت سے فیضیاب ہیں پھر آپ کے بعد بصرہ میں آ گئے تھے۔

ابن سعد: باخبار عبید اللہ بن محمد بن حفص قرشی تبعی، یحییٰ بن مہدی بن میمون، یحییٰ بن غیلان از حمید بن ہلال از عدوی غالباً ابورفاعہ: جاہلیت میں میرے پاس جن آیا کرتے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد ان کا آنا بند ہو گیا ایک دن میں عرفہ میں قیام کیے ہوئے تھا کہ میں نے جن کی آہٹ محسوس کی جن بولا: تمہیں خبر بھی ہے تمہارے بعد میں مسلمان ہو گیا، فرماتے ہیں: جب اس نے حاجیوں کی بلند آوازیں سنیں تو بولا: سزا چھی طرح منڈوانا کیونکہ نیکی سخت آواز پر نہیں۔

ابن سعد: باخبار عقیان بن مسلم و عمرو بن عاصم، یحییٰ بن سلیمان بن مغیرہ از حمید بن ہلال: ابورفاعہ فرمایا کرتے تھے: میں سورہ بقرہ نہیں بھولا جب سے اسے مجھے رسول اللہ ﷺ نے سکھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے حسب مقدور اور بھی قرآن یاد کر لیا اور کبھی تہجد سے میری کمر میں درد نہیں ہوا۔

ابن سعد: باخبار عقیان بن مسلم، یحییٰ بن سلیمان بن مغیرہ از حمید بن ہلال: ایک شخص نے کہا: میں نے خواب میں دیکھا جیسے

کسی نے مجھ سے کہا: اٹھ جا کیونکہ طاقت والا کھڑا ہے میں اٹھ کھڑا ہوا میں نے سنا تو ابورفاعہ کی آواز تھی اور آپ رات میں نماز پڑھ رہے تھے۔

ابن سعد: باخبر عمرو بن عاصم، متحد ریث سلیمان بن مغیرہ، بسماع حمید بن ہلال: ابورفاعہ جب نماز و دعا سے فارغ ہو جاتے تو سب سے اخیر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب وفات بہتر ہو تو مجھے ایسی وفات دے جو طاهر و طیب ہو اور جس کی عفت، طہارت اور پاکیزگی سن کر میرے مسلمان بھائیوں کو مجھ پر رشک آئے اور مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھے میرے نفس کی طرف سے بے خبر رکھ فرماتے ہیں: پھر آپ ایک ایسے لشکر میں شامل ہو کر نکلے جو عبدالرحمن بن سمرہ کے ماتحت تھا فرماتے ہیں: پھر اس لشکر سے ایک دستہ علیحدہ ہوا جن میں اکثر اولاد حنیفہ کے مجاہد تھے فرماتے ہیں: پھر آپ بولے: میں اس دستہ کے ساتھ جا رہا ہوں (فرماتے ہیں) یہ سن کر ابوقادہ عدوی بولے: یہاں آپ کے بھتیجوں میں سے کوئی نہیں اور نہ آپ کے گھر میں کوئی ہے بولے: اب تو میں پکا ارادہ کر چکا ہوں لہذا میں ضرور جاؤں گا چنانچہ آپ اس دستہ کے ساتھ روانہ ہو گئے اس دستہ نے دشمن کے قلعہ کا یا محل کارات میں محاصرہ کر لیا، آپ رات بھر نماز پڑھتے رہے جب سچھلی رات ہوئی تو آپ اپنی ڈھال سے ٹیک لگا کر سو گئے صبح کو مجاہد مقابلہ کی اور قلعہ میں داخل ہونے کی تدبیریں سوچنے لگے اور آپ کو بھول گئے اور سوتا ہوا چھوڑ دیا دشمن نے آپ کو سوتا ہوا دیکھا اور ان کے تین گنوار آپ کی طرف اتر کر آئے آپ سو رہے تھے انہوں نے آپ کو آپ کی تلوار ہی سے ذبح کر دیا۔ پھر آپ کے ساتھیوں نے کہا جہاں ہم تھے وہاں ہم ابورفاعہ کو جگانا بھول ہی گئے وہ ہنوز جہاں تھے وہیں ہیں چنانچہ آپ کے ساتھی آپ کی طرف لوٹ کر گئے تو دیکھا کہ گنوار آپ کے جسم سے اسلحہ اتارنے کا ارادہ کر رہے ہیں ساتھیوں نے آپ سے گنواروں کو بھگا لیا اور آپ کو کھینچ لیا اور عبدالرحمن بن سمرہ نے کہا: بنو عدی کے بھائی کو شہادت کا احساس بھی نہیں ہوا اور شہادت ہو گئی۔

ابن سعد: باخبر عمرو بن عاصم، متحد ریث سلیمان بن مغیرہ از حمید بن ہلال بقول صلہ: میں نے ابورفاعہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہیں اور میں ایک ست رفتار اونٹ پر ہوں اور آپ کے پیچھے پیچھے ہوں آپ اونٹنی کو میری طرف اس قدر موڑتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اب میں آواز سن لوں گا پھر اس پر زین کس کر چل پڑتے ہیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں (فرماتے ہیں) میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ میں نے ابورفاعہ کی راہ اختیار کر رکھی ہے اور ان کے بعد اب میں خوب دوڑ دوڑ کر رہا ہوں۔

نافع بن حارث بن کلدہ بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن علاء (عمیر) بن ابی سلمہ بن عبدالعزیز بن مغیرہ بن عوف بن ثقیف: نافع کی والدہ سہیہ ہیں جو ابوبکرہ اور زیاد کی بھی والدہ ہیں۔ نافع کا دعویٰ حارث بن کلدہ نے کیا تھا اور انہیں اپنے نسب میں ملا لیا تھا نافع، عبداللہ کے والد ہیں عبداللہ نے سب سے پہلے بصرہ میں گھوڑا پالا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے بصرہ میں ایک قطعہ زمین دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ عبداللہ کو دس جریب ایسی زمین دی جائے جس میں کسی مسلمان کا اور نہ کسی ذمی کا حق ہو حضرت ابوموسیٰ

نبی اللہ ﷺ نے اس حکم کی تعمیل کی اور عبد اللہ بسرہ میں مقیم ہو گئے۔ نافع رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث بھی روایت کرتے ہیں۔ ابن سعد: باخبار ابوالولید خلف بن ولید ازدی، بخدیث خلف بن خلیفہ ازایان بن بشیر از شیخ بصری بخدیث نافع: میں تقریباً چار سو اشخاص نبی ﷺ کے ساتھ تھا آپ نے ہمیں ایک ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں پانی نہ تھا گویا اس جگہ ٹھہرنا لوگوں کو سخت معلوم ہوا لیکن لوگوں نے دیکھا کہ نبی ﷺ اتر گئے ہیں تو لوگ بھی اتر گئے اتنے میں ایک خوبصورت سینگوں والی بکری چل کر نبی ﷺ کے پاس آئی نبی ﷺ نے اس کا دودھ دوہا جس سے تمام لشکر سیراب ہو گیا اور آپ نے بھی پیا پھر فرمایا نافع اس کے مالک بن جاؤ لیکن میرے خیال میں تم اس کے مالک نہ بنو گے تو میں نے ایک لکڑی لے کر زمین میں گاڑی اور ایک تسمہ لے کر اس سے بکری خوب مضبوط باندھ دی سب لوگ سو گئے پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے رسی کھلی ہوئی دیکھی اور بکری کا نام و نشان بھی نہ تھا میں حاضر بارگاہ نبویؐ ہوا اور آپ کو بکری کے چلے جانے کی خبر دی کہ بکری تو چلی گئی، فرمایا: نافع کیا میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم اس کے مالک نہ بنو گے؟ جو اسے لایا تھا وہی اسے لے گیا۔

ابی بن مالک رضی اللہ عنہ:

آپ سے زرارہ بن اوفی حشری روایت کرتے ہیں جو آپ کی قوم کے ہیں۔

حدیث بن حنیفہ تمیمی رضی اللہ عنہ:

آپ اولاد سعد بن زید مناۃ بن تمیم میں سے ہیں آپ صدقہ کے اونٹوں کے بارے میں نبی ﷺ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔

ابن سعد: مجھے ابو مسعود ہانی بن یحییٰ سے خبر دی گئی کہ ہم سے ذیال بن عبید نے بیان کیا کہ میں نے حظلہ بن حذیم بن حنیفہ سے سنا کہ حنیفہ نے اپنے بیٹے حذیم سے کہا: اپنے تمام بیٹوں کو بلا لو میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے سب بیٹوں کو جمع کر کے عرض کیا: ابا جان سب موجود ہیں بولے: میری پہلی وصیت یہ ہے کہ وہ سوا اونٹ جن کو ہم جاہلیت میں مطیہ کہا کرتے تھے میرے اس یتیم کے لیے جو میرے حجرے میں ہے بطور صدقہ کے ہیں اس یتیم کا نام ضر بن قطیفہ تھا حذیم نے اپنے والد حنیفہ سے عرض کیا: ابا جان میں آپ کے بیٹوں میں یہ چرچا سن رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں: اب تو ہم اپنے والد کے سامنے اس کا اقرار کر لیتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد وہ اونٹ ہم آپس میں بانٹ لیں گے اور اپنی طرح یتیم کو بھی حصہ دیں گے، فرمایا: کیا تم نے ان سے یہ بات سنی ہے؟ بولے: جی ہاں، فرمایا میرے اور تمہارے درمیان رسول اللہ ﷺ ہیں، فرماتے ہیں: پھر ہم آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے آپ بیٹھے ہوئے تھے فرمایا: یہ آنے والے کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ اونٹوں والے حنیفہ ہیں جن کے جنگل میں سب سے زیادہ اونٹ ہیں۔ پوچھا: ان کے دائیں بائیں کون ہیں؟ لوگ بولے: دائیں طرف تو ان کے بڑے بیٹے حذیم ہیں اور بائیں طرف نہ معلوم کون ہیں فرماتے ہیں پھر جب یہ حضرات حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تو حنیفہ نے نبی ﷺ کو سلام کیا پھر حذیم نے سلام کیا فرمایا: ابو حذیم! کیسے قدم رنج فرمایا؟ حنیفہ حذیم کی ران پر ہاتھ مار کر بولے یہ مجھے لائے ہیں، فرمایا: کیا یہ حذیم نہیں؟ بولے کیوں نہیں، حذیم ہی ہیں، حنیفہ نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے میرے پاس علاوہ ایک ہزار اونٹوں کے اور چالیس گھوڑوں کے

گھروں میں اور بھی مال ہے مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے پہلے مجھے موت نہ آجائے اس لیے میں نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا اور میں نے ان سواوٹوں کو جن کو ہم جاہلیت میں مطبیہ کہا کرتے تھے اپنے حجرے والے یتیم کے لیے بطور صدقہ دینے کی وصیت کی، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے چہرے میں غصہ کے آثار دیکھے، آپ نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فرمایا: لا الہ الا اللہ صدقہ پانچ ورنہ دس ورنہ پندرہ ورنہ بیس ورنہ پچیس ورنہ تیس ہے اور زیادہ سے زیادہ چالیس ہے، فرماتے ہیں: حنیفہ جلدی سے بولے یا رسول اللہ! اللہ کے لیے مطبیہ میں سے چالیس اونٹ اس یتیم کو دے دیئے جائیں آپ نے چالیس کی اجازت دے دی اور پوچھا: ابو حذیم تمہارا یتیم کہاں ہے؟ بولے یہ ہے جو سوراہے، یتیم بالغ شخص کے مشابہ تھا، فرمایا: یہ یتیم کا ڈنڈا تو موٹا ہے، فرماتے ہیں: پھر حنیفہ اور ان کے بیٹے اٹھ کر اپنے اونٹوں میں چلے گئے، فرماتے ہیں: جاتے جاتے حذیم بولے: یا رسول اللہ! میرے بہت بیٹے ہیں داڑھی والے بھی ہیں اور امر دہ بھی ہیں (حظللہ کہتے ہیں: میں سب سے چھوٹا تھا) یا رسول اللہ! آپ اس (حظللہ) کے حق میں دعائے خیر فرمائیں آپ نے فرمایا: بیٹا! میرے پاس آؤ، حظللہ آپ کے قریب آگئے آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: اللہ تم کو برکت عطا فرمائے، ذیال کہتے ہیں: پھر میں نے دیکھا کہ حظللہ کے پاس متورم چہرے والی اور متورم باکھ والی بکری لائی جاتی تھی اور وہ اپنے ہاتھ پر تھکا کر ہاتھ ورم پر پھیر دیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھ دیا کرتے تھے: بسم اللہ علی الترید رسول اللہ ﷺ اور ورم اتر جایا کرتا تھا۔

عمارہ بن احمر مازنی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: مجھے جراح بن مخلد بزاز سے خبر ملی، متحدیث قبیلہ بنت جمح مازنیہ بحدیث یزید بن حنیف از حنیف بسماح عمارہ بن احمر مازنی: (قبیلہ کہتی ہیں میں انہیں کی اولاد میں ہوں) میں جاہلیت میں اپنے اونٹ چرا رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ ﷺ کے شہسواروں نے ہم پر حملہ کر دیا میں نے جلدی سے اپنے اونٹ جمع کیے اور ایک نرا اونٹ پر سوار ہوا وہ رکا اور ٹانگیں چوڑی کر کے پیشاب کرنے لگا پھر میں نے ایک اونٹنی پر سوار ہو کر نجات پائی اور مسلمان اونٹ ہانک کر لے گئے۔ پھر میں بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا مسلمانوں نے مجھے اونٹ لوٹا دیئے کیونکہ ابھی انہوں نے اونٹ ہانٹے نہ تھے، جواب بن عمارہ کہتے ہیں: مجھے اور میرے بھائی کو وہ خوبصورت اونٹنی ملی جس پر عمارہ اس دن سوار ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے تھے۔ جراح کہتے ہیں: میں نے بعض مازنی حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ عجلو چشمہ پر تھے جو قرہتین سے پہلے ہے۔

اسمر بن مضر رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار محمد بن بشار بصری، بحدیث عبد الحمید بن عبد الواحد، بحدیث جنوب بنت نمیلہ از سویدہ بنت جابر از عقیلہ بنت اسمر بن مضر از اسمر: میں نے نبی ﷺ کے پاس آ کر آپ سے بیعت کی آپ نے فرمایا: جو اس جگہ جہاں پہلے کوئی مسلمان نہیں پہنچا، پہنچ گیا وہ اسی کی ہے یہ سن کر لوگ لمبی لمبی ڈگیں بھرتے ہوئے دوڑ پڑے۔

عمرو بن عمیر رضی اللہ عنہ:

آپ صحابی ہیں اور نبی ﷺ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ حماد بن ثابت از ابی زید مدنی از عمرو بن عمیر: رسول اللہ ﷺ

تین دن تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف نہیں لائے بس نماز کے لیے آتے تھے اور نماز پڑھا کر تشریف لے جاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم بولے: یا رسول اللہ! ہم آپ کو تین دن سے صرف نماز میں دیکھتے ہیں، فرمایا: مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ میرے ستر ہزار امتی بلا حساب کے جنت میں جائیں گے پوچھا گیا: وہ کون ہیں؟ فرمایا: جو دم وغیرہ نہیں کراتے نہ برے شگون لیتے ہیں اور نہ داغ لگواتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں میں بولا: اے رب اس تعداد میں اضافہ فرما: فرمایا آپ کے لیے ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار ہوں گے (یعنی چار ارب نوے کروڑ یا انچاس لاکھ بلا حساب کے جنت میں جائیں گے) میں بولا: اے رب اضافہ فرما: وہ مکمل نہیں ہوں گے فرمایا: تب تو ہم انہیں دیہاتیوں سے پورا کر دیں گے۔

عکراش بن ذویب بن حرقوص رضی اللہ عنہ:

ابن جعدہ بن عمرو بن نزال بن مرہ بن عبید تمیمی آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں اور آپ سے آپ کا سماع بھی ثابت

ہے۔

ابن سعد: مجھے عباس بن ولید زہری سے خبر ملی، متحد بیٹ علاء بن فضل بن عبد الملک بن ابی سویہ از عبید اللہ بن عکراش بن ذویب: مجھے مرہ بن عبید نے اپنے ماٹوں کا صدقہ دے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس مہاجرین و انصار جمع تھے میں نے آپ کے سامنے اونٹ پیش کیے گویا اونٹ ارطلی کی خبریں ہیں پوچھا: کون ہو؟ میں بولا عکراش بن ذویب، فرمایا اپنا نسب بیان کرو میں بولا: بن حرقوص بن جعدہ بن عمرو بن نزال بن مرہ بن عبید کے ہیں آپ نے مسکرا کر دوبار فرمایا یہ میری قوم کے صدقے ہیں پھر آپ نے حکم فرمایا کہ ان پر صدقے کے داغ دیئے جائیں اور صدقہ کے اونٹوں میں شامل کر لیے جائیں۔ پھر آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور پوچھا: کھانا ہو تو لاؤ اتنے میں ہمارے سامنے ایک لگن ٹرید و ذر سے بھرا ہوا لایا گیا ہم اس میں سے کھانے لگے اور میں لگن کے چاروں طرف ہاتھ ڈال کر کھانے لگا آپ نے اپنے ہاتھ سے میرا دایا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: عکراش! ایک ہی جگہ سے کھاؤ کیونکہ کھانا ایک ہی قسم کا ہے پھر ہمارے سامنے تازی یا باسی کھجوروں کا طباق لایا گیا (عبید اللہ کا شک ہے) میں اپنے سامنے سے کھانے لگا اور آپ طباق میں سے جہاں سے چاہتے کھجور اٹھا کر کھاتے رہے اور فرمایا عکراش! اس میں سے جہاں سے چاہو اٹھا کر کھاؤ کیونکہ اس میں کئی طرح کی کھجوریں ہیں پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا آپ نے اپنا ہاتھ دھویا اور اسے اپنے ہاتھ چہرے سر اور بازوؤں سے پوچھ لیا اور فرمایا عکراش آگ سے پکی ہوئی چیزوں کے کھانے کے بعد یہی وضو ہے۔

برز (ابور جاء عطار دی کے والد):

ابور جاء کا نام عطار د بن برز ہے۔

ابن سعد: مجھے سہل بن بکار سے خبر ملی، متحد بیٹ ابو الخلیل عبد السلام: ہم ابور جاء عطار دی کے پاس گئے فرمایا: میں دیہاتی تھا اور بالغ تھا ہم نے نبی ﷺ کے بارے میں سنا تو ہم آپ سے اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے پھر جب ہم مطمئن ہو گئے اور ہمیں خبر ملی کہ آپ سچے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں واپس آ گئے اور میرے والد قبیلہ کے چند آدمی لے کر حاضر بارگاہ رسالت ﷺ ہوئے اور

آپ سے حدیثیں سنیں پھر گھر آ کر کہا: کوئی حرج نہیں آپ تو تم کو اللہ ہی کی دعوت دیتے ہیں چنانچہ ہم مسلمان ہو گئے۔
قطبہ بن قنادہ سدوسی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: مجھے خلیفہ بن خیاط سے خبر ملی، محمد بن عوف بن کہس، محمد بن عوف بن حدیر از مقاتل (جو ہمارے ہی آدمی ہیں) کہ قطبہ نے کہا: میں بولایا رسول اللہ ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں اپنی طرف سے اور اپنے بیٹے حرمہ کی طرف سے بیعت کر لوں اگر میں اللہ پر جھوٹ بولتا تو آپ کو دھوکہ دے دیتا۔

قطبہ: ہم پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مع اپنے سواروں کے حملہ کیا، ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں تو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا پھر ہم نے آپ کے ساتھ ابلہ پردھاوا بولا اور خوب تیر برسائے اور اپنے ہاتھ بھر لیے حتیٰ کہ ان کے کتے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے تھے۔
حکیم بن حارث سلمی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: بخیر از خلیفہ بن خیاط، محمد بن عوف بن کہس، محمد بن علیہ بن دعاء از حکیم بن حارث سلمی: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے (کسی کی) بالشت بھر زمین لی قیامت کے دن اسے معہ ساتوں زمینوں کے لادے ہوئے آئے گا، حکیم بن حارث: میں نے نبی ﷺ کے ساتھ مل کر سات لڑائیاں لڑیں پچھلی لڑائی حنین میں لڑی، میں نبی ﷺ کے ساتھ مقدمہ الجیش میں چل رہا تھا کہ اچانک میری اونٹنی بیٹھ گئی نبی ﷺ میرے پاس سے گزرے جب کہ میں اسے اٹھانے کے لیے مار رہا تھا فرمایا: ہائیں اور آپ نے اسے ڈانٹا وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔

عباس سلمی رضی اللہ عنہ (یہ ابن مرداس نہیں ہیں):

ابن سعد: بخیر از ابوالازہر محمد بن جمیل بحدیث نائل بن مطرف بن عباس سلمی (جو اولاد سلیم میں سے ہیں پھر اولاد رعل میں سے) از مطرف از عباس: میں حاضر بارگاہ رسالت ہوا اور آپ سے دشمنی میں ایک پانی والے کنویں کو حاصل کرنے کی درخواست کی آپ نے مجھے کنواں اس شرط پر دے دیا کہ مسافروں سے بچا ہوا پانی تمہارا ہے۔ ابوالازہر: یہ نائل دشمنی میں مقیم تھے اور وہاں کے امیر تھے آپ نے مجھے ایک ڈبہ نکال کر دکھایا جس میں سرخ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا اور اس میں کنویں کے بارے میں دستاویز تھے۔
فاکہ بن سعد، بشیر بن زید صمعی رضی اللہ عنہما:

ابن سعد: بخیر از خلیفہ بن خیاط، محمد بن عوف بن سواد، محمد بن اشہب ضعی از بشیر (آپ نے عہد جاہلیت پایا تھا) جنگ ذوالقار کے دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج عربوں نے عجم کے ملک کو کم کر دیا۔
علقمہ بن حوریت غفاری رضی اللہ عنہ:

آپ صحابی ہیں۔

ابن سعد: بخیر از خلیفہ بن خیاط، محمد بن فضیل بن سلیمان، محمد بن محمد بن مطرف اپنی دادی سے اور وہ علقمہ صحابی سے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آنکھوں کا زناد کھینا ہے۔

عبداللہ بن معمر بن ابی ہاشم رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: بخبر از خلیفہ بن خیاط، بحدیث محمد بن سعید باہلی، بحدیث فضل بن شمامہ، بحدیث ابویمن عبداللہ بن حمزہ باہلی از حمزہ از عبداللہ بن معمر: میں وفد میں شامل ہو کر حاضر بارگاہ رسالت ہوا آپ نے اونٹوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی اور زکوٰۃ میں اونٹنی لی جائے خواہ اونٹ بہت ہوں یا تھوڑے (پانچ سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں)۔

عبدالرحمن بن خباب سلمی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: بخبر از خلیفہ بن خیاط بحدیث ابوداؤد بحدیث سکین بن مغیرہ بحدیث ولید بن ابی ہشام از ابوطیخہ فرقد از عبدالرحمن بن خباب سلمی: میں حاضر دربار نبوی ہوا تو آپ لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے ابھار رہے تھے عثمان بولے: اے اللہ کے نبی! میری طرف سے سواونٹ معان کی جھولوں اور کجاووں کے اللہ کی راہ میں قبول فرما لیجئے پھر آپ نے جہاد کا جوش دلایا اب کے عثمان رضی اللہ عنہ نے دو سواونٹوں کی پیشکش کی پھر آپ نے شوق دلایا اس دفعہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تین سواونٹوں کی پیشکش کی میں نے نبی ﷺ کو دیکھا آپ میرے اترتے ہوئے فرما رہے تھے اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو عمل بھی کریں ان پر کوئی گناہ نہیں (یہ کلمہ دوبارہ فرمایا)۔

ابونصر عاصم بن عاصم لیشی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: بخبر از ابومالک کثیر بن یحییٰ بصری بحدیث غسان بن مضرب بحدیث سعید بن یزید از نصر بن عاصم لیشی از عاصم: میں مسجد نبوی میں گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہہ رہے تھے: ہم اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں میں بولا: کیا بات ہے؟ لوگ بولے معاویہ اور ان کے والد رسول اللہ ﷺ کو منبر پر چھوڑ کر مسجد سے نکل گئے آپ نے انہیں کے سلسلہ میں ایک بات فرمائی تھی۔

اصرم رضی اللہ عنہ:

نبی ﷺ نے آپ کا نام زرعہ تجویز فرمایا تھا آپ اولاد شقرہ میں سے ہیں۔

ابن سعد: بخبر از بشر بن مفضل باخبار بشیر بن میمون اپنے چچا اسامہ بن اخدری سے: بنو شقرہ کا ایک شخص اصرم جو رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے والی جماعت میں تھا آپ کے پاس ایک جسمی غلام لایا جس کو اس نے حبشہ کے شہروں سے خریدا تھا اور بولا یا رسول اللہ! میں نے یہ غلام خریدا ہے میری تمنا ہے کہ آپ اس کا نام تجویز فرمادیں اور اس کے حق میں برکت کی دعا فرمادیں آپ نے مجھ سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ کہا: اصرم فرمایا: نہیں بلکہ زرعہ ہے فرمایا: اسے کس لیے خریدا ہے؟ اصرم بولے: جانور چرانے کے لیے فرمایا اچھا تو اس کا نام عاصم ہے اور آپ نے اپنا ہاتھ سکیر لیا۔

جرموز جیحمی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: بخبر از ابی عامر عقدی بحدیث عبید اللہ بن ہوذہ قرظی بحدیث شخبہ بلجیم از جرموز جیحمی: میں نے نبی ﷺ سے آ کر پوچھا آپ مجھے کس چیز سے منع فرماتے ہیں؟ فرمایا: میں تمہیں لعن طعن کرنے والا بننے سے منع کرتا ہوں پھر جرموز نے مرتے

دم تک کسی چیز کو برا نہیں کہا۔

سوید بن ہبیرہ رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: بقول روح بن عبادہ از ابو نعامة عدوی از مسلم بن بدیل از یاس بن زہیر از سوید بن ہبیرہ: میں نے نبی ﷺ سے سنا فرماتے تھے: انسان کا بہترین مال فرماں بردار جوان گھوڑا ہے اور وہ شاہراہ عام ہے جس پر بیوندی گھور کے درخت ہوں۔

فضالہ لیشی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار ہشیم از داؤد بن ابی ہند از ابو الحرب بن ابوالاسود از فضالہ لیشی: میں نے بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھے تعلیم دی حتیٰ کہ وقت پر جگانہ نماز کی بھی تعلیم دی میں بولا: ان اوقات میں تو میں مصروف ہوتا ہوں آپ مجھے جامع باتیں بتائیے، فرمایا: دو عسروں میں مصروف نہ ہونا، میں بولا: دو عصر کیا ہیں؟ فرمایا صبح کی نماز اور عصر (شام) کی نماز۔

سلیمان بن عامر ضعی، ابو عزرہ ہذلی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام یار بن عبید ہے۔

ابو مسلم، اہبان بن صفی غفاری رضی اللہ عنہ:

آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے دو کپڑوں میں کفنا یا جائے لیکن تین کپڑوں میں کفنائے گئے دوسرے دن تیسرا کپڑا کھونٹی پر لٹکا ہوا پایا گیا۔

مضر بن اسمر، زہیر بن عمرو رضی اللہ عنہما:

آپ کا گھر بنو کلاب میں تھا مگر آپ اس قبیلہ کے نہ تھے۔

سلمہ بن محقق، خداش رضی اللہ عنہما:

ابن سعد: باخبار عثمان بن عمر باخبار ایوب بن ثابت بن خنجر بحریہ: میرے چچا جان خداش نے رحمت عالم ﷺ سے ایک پیالہ مانگ لیا جس میں آپ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے یہ پیالہ ہمارے پاس تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ پیالہ لے آؤ تاکہ ہم اسے آب زمزم سے بھر لیں۔ ہم وہ پیالہ آپ کو دے دیا کرتے تھے اور آپ اس میں آب زمزم بھر کر پیا بھی کرتے تھے اور اپنے سر اور منہ پر ڈالا بھی کرتے تھے پھر ایک چور نے ہمارے گھر میں چوری کی اور دیگر سامان کے ساتھ وہ پیالہ بھی چرا لیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چوری کیے جانے کے بعد ہمارے پاس آ کر ہم سے وہ پیالہ مانگا ہم نے کہا: امیر المؤمنین وہ تو ہمارے گھر کے دیگر سامان کے ساتھ چرا لیا گیا، فرمایا اللہ اس کے باپ سے سبھے اس نے رسول اللہ ﷺ کا پیالہ بھی چرا لیا، فرماتے ہیں: اللہ کی قسم آپ نے نہ چور کو برا بھلا کہا اور نہ اس پر طعن و تشنیع کی۔

ابو سلمہ رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار اسما عیلم بن ابراہیم اسدی از عثمان بنی از عبد الحمید بن سلمہ از سلمہ از ابو سلمہ: میرے والدین میرے بارے میں جھگڑے اور فیصلہ نبی ﷺ کے پاس لے گئے ان میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک کافر نبی ﷺ نے مجھے اختیار دے دیا۔ میں کافر کی طرف متوجہ ہوا آپ نے دعا مانگی یا اللہ اسے ہدایت فرما پھر میں مسلمان کے پاس چلا گیا آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔

عبدالرحمن بن سلمہ خزاعی کے چچا:

ابن سعد: باخبار عبد الوہاب بن عطاء از سعید از قتادہ از عبد الرحمن بن سلمہ خزاعی اپنے چچا سے: ہم عاشوراء (محرم کی دسویں تاریخ) کے دن صبح صبح حاضر دربار رسالت ہوئے اور ہم نے ناشتہ کیا یا ہمیں ناشتہ ملا آپ نے پوچھا: کیا آج تم نے روزہ رکھا ہے؟ ہم نے کہا: ہم نے تو ناشتہ کر لیا فرمایا: اچھا باقی دن میں روزہ رکھ لو۔

قیس بن اسلم انصاری رضی اللہ عنہ:

آپ سے نافع، حمہ کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ میرے چچاؤں نے نبی ﷺ سے شکایت کی کہ میں اسراف

پسند ہوں۔

حابس تمیمی رضی اللہ عنہ:

آپ بھی نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

ابو بہیشہ رضی اللہ عنہ:

آپ بھی نبی ﷺ سے راوی ہیں۔

عبادہ بن قرص عبسی رضی اللہ عنہ:

آپ کو لیشی بھی کہا جاتا ہے اور ابن قرط بھی۔

ابن سعد: باخبار اسما عیلم بن ابراہیم از ایوب از حمید بن ہلال: عبادہ بن قرط کہتے ہیں: تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بالوں سے بھی زیادہ باریک ہیں لیکن عہد رسالت ﷺ میں ہم انہیں ہلاک کرنے والے گناہوں میں گنا کرتے تھے مرناتے ہیں: میں نے محمد سے اس کا ذکر کیا فرمایا: انہوں نے سچ فرمایا اور میرے خیال میں تہبند گھسیٹ کر چلنا بھی انہیں میں سے ہے۔

ابو حنیفہ باہلیہ رضی اللہ عنہ یا ان کے چچا:

آپ بھی نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار عبد الوہاب بن عطاء عجلی از سعید جریری از ابو السلیل از حنیفہ باہلیہ اپنے والد سے یا چچا سے: میں اپنے کسی کام سے حاضر دربار رسالت ہوا پوچھا: کون ہو؟ میں بولا: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں ایک باہلی ہوں اور گزشتہ

سال بھی حاضر خدمت اقدس ہوا تھا فرمایا اس سال تو تمہارا رنگ روپ اور جسم اچھا تھا لیکن آج میں تم کو نحیف و لاغر دیکھ رہا ہوں میں بولا: یا رسول اللہ! آپ سے جدا ہو کر میں نے صرف ایک دن کا روزہ چھوڑا ہے، فرمایا: تم کو کس نے حکم دیا کہ اپنے نفس کو دکھ پہنچاؤ ماہ صبر (رمضان) کے روزے رکھو میں بولا: یا رسول اللہ! میں اپنے کو قوی پاتا ہوں، اضافہ فرمائیے، فرمایا: ماہ صبر کے روزے رکھو پھر ہر ماہ میں دو دن کے بھی پھر میں نے وہی سوال دہرایا، فرمایا: ماہ صبر اور دو دنوں سے آگے نہ بڑھو گے، میں نے پھر وہی سوال دہرایا، فرمایا: ماہ صبر کے اور ہر ماہ تین دن کے روزے رکھ لیا کرو اور جرم (گناہ کے کفارے) کے اور باقی ایام کے چھوڑ دو اور آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔

محمد بن سعد: ہم اپنی کتاب میں یہ حدیث (از موسیٰ بن اسماعیل از حماد بن زید از مسلم از معاویہ بن قرہ از کہسب ہلالی) لکھ چکے ہیں اور اس حدیث کے ہم مثل مجیدہ بابلیا اپنے والد یا اپنے بچے سے بھی لاتی ہیں۔
ابو السوار عدوی رضی اللہ عنہ کے ماموں:

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، محمد بن معتمر بن سلیمان از سلیمان، محمد بن سمیط از ابوالسوار عدوی اپنے ماموں سے: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، فرماتے ہیں، میں بھی ان کی دیکھا دیکھی آپ کے پیچھے لگا پھر اچانک لوگ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور قوم نے مجھ پر ترس کھایا پھر میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ نے میرے کھجور کی یا کسی درخت کی ایک تہی یا مسواک یا کوئی اور چیز ماری جس سے مجھے تکلیف نہیں ہوئی پھر میں نے ایک رات گزاری اور میں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے مجھے کسی مسئلہ ہی کے بارے میں مارا ہے جس کی آپ کو اللہ نے تعلیم دی ہوگی میرے دل میں یہی خیال تھا کہ صبح کو رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤں گا، فرماتے ہیں: پھر نبی ﷺ پر حضرت جبرئیل علیہ السلام اتر آئے۔ اور فرمایا آپ راعی ہیں اپنی رعایا کے سینگ نہ توڑیں اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں تم کو گناہ کے یا اختلاف کے سلسلہ میں نہیں ماروں گا۔ جب ہم نے صبح کی نماز پڑھی (یا یہ کہا) جب صبح ہوگی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں حالانکہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی یا اللہ جسے میں نے مارا ہو یا کچھ کہا ہو تو اسے اس کے لیے کفارہ اور اجر بنا دے (یا یہ فرمایا) اسے رحمت و مغفرت بنا دے یا اس قسم کا کوئی کلمہ فرمایا۔

حسنا بنت معاویہ صریحہ کے بچچا:

ابن سعد: باخبار اسحق بن یوسف از رقی و ہوزہ بن خلیفہ، محمد بن عوف از حسنا بنت معاویہ صریحہ اپنے بچچا جان سے: میں نے نبی ﷺ سے پوچھا: جنت میں کون جائیں گے؟ فرمایا: نبی جنت میں ہیں، شہید جنت میں ہیں اور زندہ درگور کی ہوئی بیجاں جنت میں ہیں۔

ابو حرہ رقاشی کے بچچا:

آپ فرماتے ہیں: میں وسط ایام تشریق میں آپ کی اونٹنی کی ٹکلیں پکڑے ہوئے تھا جب آپ لوگوں سے رخصت ہوئے ہیں پھر آپ نے نبی ﷺ کے اس دن کے خطبہ کا ذکر فرمایا۔

ابوالعشراء دارمی کے والد:

آپ کا نام مالک بن قہظم ہے اور ابوالعشراء کا نام اسامہ بن مالک ہے۔

اشج عبدالقیس رضی اللہ عنہ:

آپ کے نام میں اختلاف ہے بقول محمد بن عمر از قدامہ بن موسیٰ از عبدالعزیز بن رمانہ از عروہ بن زبیر و محمد بن عمر از عبد الحمید بن جعفر اپنے والد وغیرہ سے) عبد اللہ بن عوف اشج ہے اسامیل بن ابراہیم اسدی از یونس از عبد الرحمن بن ابی بکرہ: مجھ سے اولاد عصر کے اشج نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں دو ایسی عادتیں ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پیاری ہیں میں بولا: کون سی دو عادتیں؟ فرمایا حلم و حیا۔ میں بولا: کیا مجھ میں یہ دونوں عادتیں پرانی ہیں یا نئی؟ فرمایا نہیں بلکہ پرانی ہیں میں نے کہا: الحمد للہ اللہ نے مجھے ایسی دو عادتوں پر پیدا فرمایا جو اسے محبوب ہیں۔

ابن سعد: باخبر عبد الوہاب بن عطاء از عوف از حسن: ہمیں خبر ملی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عائد بن منذر اشج سے فرمایا۔

لیکن ہشام بن محمد بن سائب کلبی اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اشج عبدالقیس منذر بن حارث بن عمرو بن

زیاد بن عصر بن عوف بن عمرو بن عوف بن جذیمہ بن بکر بن عوف بن انمار بن عمرو بن ودیعہ بن لکیز بن افضی بن عبد القیس بن افضی بن دغی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ ہیں۔

اور علی بن محمد بن عبد اللہ بن ابی سیف مولیٰ عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس قرشی کہتے ہیں ان کا نام منذر بن عائد

بن حارث بن منذر بن نعمان بن زیاد بن عصر ہے۔

محمد بن بشر بن فرافصہ عبدی کوئی کہتے ہیں: میں نے اپنے شیخ بختری سے اشج کا نام پوچھا فرمایا ان کا نام منذر بن عائد

ہے آپ عبدالقیس والے وفد میں جو حاضر بارگاہ رسالت ﷺ ہوا اور بحرین سے آیا تھا شامل تھے پھر آپ اپنی قوم کے ساتھ بحرین واپس چلے گئے تھے پھر بعد میں بصرہ آئے تھے۔

جارود رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام بشر بن عمرو بن حنش بن معلیٰ ہے اور وہ حارث بن زید بن حارثہ بن معادیہ بن ثعلبہ بن جذیمہ بن عوف بن بکر

بن عوف بن انمار بن عمرو بن ودیعہ بن لکیز بن افضی بن عبد قیس ہیں آپ کی کنیت ابوالمنذر ہے اور آپ کی والدہ کا نام درمکہ بنت

رویم ہے جو زید بن رویم شیبانی کی بہن ہیں۔ جارود جاہلیت میں بھی شریف و معزز تھے اور عیسائی تھے پھر ایک وفد میں شامل ہو کر

رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان پر اسلام پیش کیا بولے: میں ایک دین پر ہوں اور آپ

کے دین پر ہوں اور آپ کے دین کی خاطر اپنا دین چھوڑنے کو تیار ہوں کیا آپ میرے لیے دین (اسلام) کی ضمانت دیتے ہیں؟

فرمایا: میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے دین کی ہدایت عطا فرمادی جو تمہارے دین سے بہتر ہے پھر جارود شرف بہ

اسلام ہو گئے اور بہترین مسلمان ثابت ہوئے آپ کے اسلام پر کوئی نکتہ چینی نہیں کرتا تھا آپ نے اپنے وطن جانا چاہا اور

نبی ﷺ سے سوار یوں کی درخواست کی فرمایا: میرے پاس سواریاں نہیں بولے یا رسول اللہ میرے اور میرے وطن کے درمیان

گمشدہ اونٹ پائے جاتے ہیں کیا میں ان پر سوار ہو جاؤں؟ فرمایا وہ تو آگ میں جلانے والے ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا۔ جارود مرتد ہو گئے تھے پھر جب معمر و بن منذر بن نعمان کے ساتھ آپ کی قوم واپس ہوئی تو جارود نے کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور لوگوں کو اسلام کی ان الفاظ میں دعوت دی: لوگو! میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں اور یہ بھی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ان دونوں باتوں کے اقرار نہ کرنے والوں کو فرکتا ہوں اور یہ شعر پڑھا۔

رَضِينَا بِدِينِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ حَادِثٍ
وَبِاللَّهِ وَالرَّحْمَنِ نَرْضَى بِهِ رَبَّنَا

ہم ہر نئے دین کے بدلہ اللہ کے دین پر راضی ہیں اور اللہ کی اور رحمن کی قسم ہم اسے رب ماننے سے خوش ہیں اس کے بعد جارود بصرہ میں گئے جہاں آپ کے کئی بچے ہوئے جو شرفاء میں شمار کیے جاتے تھے حکم بن ابوالعاص نے جارود کو جہاد پر بھیج دیا اور آپ جنگ سہرک میں ۲۰ھ میں عقبیہ الطین پر جام شہادت نوش فرما گئے اس گھائی کو عقبیہ الجارود بھی کہا جاتا ہے آپ کے صاحبزادے منذر سردار اور خنی تھے منذر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اصطر کا حاکم بنا دیا تھا جو بھی آپ کے پاس پہنچا اسی کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا پھر آپ کو عبید اللہ بن زیاد نے سرحد ہند پر متعین فرما دیا آپ سرحد ہی پر ۶۱ھ میں یا آغاز ۶۲ھ میں ساٹھ سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔

صحابہ بن عباس عید کی رضی اللہ عنہم:

آپ اولاد مرہ بن ظفر بن دیل میں سے ہیں آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور آپ بھی وفد عبدالقیس میں شامل تھے۔ ابن سعد: باخبار سعید بن سلیمان، محمد بن یثمد، یثمد بن ملازم بن عمرو، محمد بن سراج بن عقبہ اپنی پھوپھی خلدہ بنت طلق سے اور وہ اپنے والد سے: ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ صحابہ بن عبدالقیس نے آ کر کہا: یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کے رس سے جو شراب بناتے ہیں اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا حتیٰ کہ صحابہ نے آپ سے تین بار یہی پوچھا فرماتے ہیں: پھر آپ نے نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر پوچھا: نشہ آور شے کے بارے میں کون سا کون سا تھا؟ تو مجھ سے نشہ آور کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اسے مت پی اور نہ اسے اپنے بھائی کو پلا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جس نے بھی اسے نشہ کی لذت کی خاطر نہیں پی اسے قیامت کے دن شراب پلائی جائے گی۔ فرماتے ہیں: صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص طلب کرنے والوں میں شامل تھے۔

ابو خیرہ صباحی رضی اللہ عنہم:

آپ عبدالقیس میں سے ہیں۔

ابن سعد: بخبر از خلیفہ بن خیاط، محمد بن یثمد، یثمد بن عون بن کہس، محمد بن یثمد، یثمد بن مساویہ، یثمد بن ہمام از ابو خیرہ صباحی: میں عبدالقیس کے اس وفد میں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا آپ نے ہمیں پیلو کی مسواکیں عطا فرمائیں تاکہ ہم ان سے مسواک کریں ہم بولے: یا رسول اللہ! ہمارے پاس شانہیں ہیں لیکن ہم نے آپ کا بزرگانہ عطیہ قبول کر لیا فرمایا: یا اللہ عبدالقیس کو بخش دے کیونکہ بلا کسی جبر کے خوشی سے مسلمان ہوئے ہیں جب کہ بعض لوگ ذلت و رسوائی کے ساتھ لٹ پھٹ کر ہی ایمان لاتے ہیں۔

ابان محارب بنی النضر:

آپ بھی عبد قیس میں سے ہیں۔

ابن سعد: بخبر از سعید بن عامر، متحد یث ابان از حکم بن خیابن محارب بنی ابان محارب بنی (آپ بھی رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے والے وفد عبد القیس میں شامل تھے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان صبح کو الحمد للہ ربی لا اشرك به شیئاً و اشهد ان لا اله الا الله پڑھ لیتا ہے تو اس کے شام تک ہونے والے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے اس کے رات میں ہونے والے صبح تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

زارع بن وازع عبدی رضی اللہ عنہ:

آپ بھی وفد عبد القیس میں شامل تھے پھر بصرہ میں بس گئے تھے۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن جابر عبدی آپ بھی وفد عبد القیس میں تھے پھر بصرہ میں جا بسے تھے۔

سلمہ جرمی رضی اللہ عنہ:

آپ عمرو بن سلمہ کے والد ہیں۔

ابن سعد: باخبار یوسف بن عرق باخبار مسعر بن حبیب جرمی از عمرو بن سلمہ از سلمہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہا: یا رسول اللہ! ہمیں کون نماز پڑھائے یا کون ہمارے لیے نماز پڑھے؟ فرمایا تمہارے لیے یا تم کو تم میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا نماز پڑھائے عمرو کہتے ہیں: پھر میرے والد قبیلہ کو ان کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور وہی جنازوں کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور کوئی ان سے جھگڑنے والا نہ تھا حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون از مسقر بن حبیب، متحد یث عمرو بن سلمہ میرے والد اور ان کی قوم کے چند حضرات وفد کی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے جب لوگ اسلام لا رہے تھے انہوں نے قرآن سیکھا اور اپنی ضروریات پوری کیں اور آپ سے پوچھا ہمیں کون نماز پڑھائے؟ فرمایا وہ جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو چنانچہ لوگ اپنی قوم میں پہنچ گئے اور پوچھنے لگے کہ قرآن سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ لیکن انہوں نے کسی کو مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا نہیں پایا اس وقت میں بچہ تھا اور مجھ پر ایک چادر تھی لوگوں نے مجھے آگے بڑھا دیا آخر کار میں نے انہیں نماز پڑھائی پھر ہر جمع میں میں ہی آج تک ان کا امام ہوں مسعر: عمرو جنازوں کی نماز بھی پڑھاتے تھے اور مسجدوں میں ہنچگانہ نمازیں بھی حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، متحد یث حماد بن زید از ایوب، متحد یث ابو یزید، عمرو بن سلمہ جرمی: ہم لوگوں کی گزرگاہ والے چشمے کے پاس تھے اور لوگوں سے اس امر (اسلام) کے بارے میں پوچھا کرتے تھے لوگ بتاتے تھے کہ ایک شخص کا زعم ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میری طرف فلاں فلاں وحی آئی ہے چنانچہ میں جو کچھ سنتا تھا اسے یاد کر لیا کرتا تھا گو یادہ میرے سینہ میں سریش سے چپکا دیا گیا ہے حتیٰ کہ مجھے اس طرح بہت کچھ قرآن یاد ہو گیا فرماتے ہیں: عرب نے اپنے اسلام کو فتح مکہ

پر موقوف رکھ چھوڑا تھا اور فتح مکہ کے منتظر تھے کہا کرتے تھے: ذرا ٹھہرو اگر آپ قریش پر غالب آگئے تو سچ ہیں اور واقعی نبی ہیں فرماتے ہیں: پھر جب ہمیں فتح مکہ کی خبر لگی تو ہر قبیلہ نے اسلام لانے میں جلدی کی فرماتے ہیں پھر میرے والد بھی اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کو لے کر چل پڑے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس جب تک اللہ کو منظور تھا ٹھہرے رہے پھر آگئے جب قریب آئے تو ہم نے آپ کا استقبال کیا پھر جب ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں اللہ کے برحق رسول کے پاس سے آیا ہوں فرمایا وہ فلاں باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور فلاں فلاں کاموں سے منع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں نماز پڑھو جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کسی کو اذان دینی چاہیے اور سب سے زیادہ قرآن جاننے والے کو امامت کرنی چاہیے کہتے ہیں ہمارے محلہ والوں نے غور کیا تو مجھ سے زیادہ قرآن کو جاننے والا کسی کو نہیں پایا کیونکہ میں قافلہ والوں سے سن کر قرآن یاد کر لیا کرتا تھا آخر کار لوگوں نے مجھے آگے بڑھا دیا میں چھ سال کا بچہ انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا فرماتے ہیں: مجھ پر ایک چادر تھی جب میں بیٹھتا تھا تو وہ مجھ سے سکڑ جاتی تھی پھر قبیلہ کی ایک عورت نے کہا تم ہم سے اپنے قاری کے چوتھے کیوں نہیں چھپاتے فرماتے ہیں پھر لوگوں نے مجھے بحرین میں بے ہوئے کپڑے کا ایک کرتہ بنا کر پہنایا فرماتے ہیں جتنی مسرت مجھے وہ کرتہ پہن کر ہوئی اتنی آج تک کسی چیز سے نہیں ہوئی۔

ابن سعد: باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس، محمد یث ابوشہاب از خالد حذاء از ابی قلابہ از عمرو بن سلمہ جری: میں قافلہ والوں کے پاس جایا کرتا تھا اور وہ مجھے قرآن کی آیت پڑھ دیا کرتے تھے لہذا میں عہد رسالت ﷺ میں امامت کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ابن سعد: باخبار ابوالولید ہشام طیالسی، محمد یث شعبہ بن ایوب، بسماع عمرو بن سلمہ: میرے والد اپنی قوم کے نمائندہ بن کر قوم کے اسلام کے لیے بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے آپ کے ارشادات میں ایک یہ بھی ارشاد تھا کہ سب سے زیادہ قرآن جاننے والا امام بنے فرماتے ہیں: میں سب سے چھوٹا تھا اور ان کی امامت کے فرائض انجام دیتا تھا پھر ایک عورت نے کہا: اپنے قاری کے سرین ڈھکوا اس پر لوگوں نے میرے لیے ایک کرتہ بنا میں کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اس کرتے سے خوش ہوا۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون از عاصم از عمرو بن سلمہ: جب میری قوم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے واپس آئی تو بولی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن جاننے والا امامت کے فرائض انجام دے فرماتے ہیں آخر انہوں نے مجھے بلا کر رکوع و سجود کے آداب سکھائے فرماتے ہیں میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا اور مجھ پر ایک پھٹی ہوئی چادر ہوتی تھی۔ لوگ میرے والد سے کہا کرتے تھے کیا تم ہم سے اپنے بیٹے کے سرین نہ ڈھانپو گے؟

پہلا طبقہ

اس طبقہ میں وہ بصری علماء محدثین اور تابعین شامل ہیں جو اصحاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہم تھے۔

ابو مریم حنفی رضی اللہ عنہ

آپ کا نام ایاس بن صیح بن محرش بن عبد عمرو بن عبید بن مالک بن معمر بن عبد اللہ بن دول بن حنیفہ بن لجم بن صعّب بن علی بن بکر بن وائل ہے آپ یمامہ کے باشندے ہیں آپ پہلے مسیلہ کذاب کے ماننے والے تھے آپ ہی نے جنگ یمامہ میں زید بن خطاب بن نفیل کو قتل کیا تھا پھر توبہ کر کے مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے اور اچھے مسلمان ثابت ہوئے اور عہد فاروقی میں عمران بن حصین کے بعد بصرہ کے قاضی بنا دیئے گئے۔

ابن سعد: باخباہر یزید بن ہارون باخباہر ہشام بن حسان از محمد بن سیرین از ابو مریم حنفی: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کھلیان میں تشریف لائے پھر باہر آ کر قرآن پڑھنے لگے آپ سے ابو مریم نے کہا: امیر المؤمنین! آپ بیت الخلاء سے نکلے ہیں فرمایا: کیا تم کو یہ فتویٰ مسیلہ نے دیا ہے؟

لوگ کہتے ہیں: ابو مریم سنبل میں علاقہ اہواز میں فوت ہوئے آپ قبل الحدیث حضرات میں سے ہیں۔

کعب بن سور رضی اللہ عنہ

ابن بکر عبد بن ثعلبہ بن سلیم بن ذہل بن لقیط بن حارث بن مالک بن فہم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اللہ بن زہران بن کعب بن حارث بن کعب بن عبد اللہ بن مالک بن نصر ازی۔

ابن سعد: باخباہر یحییٰ بن عباد بن محمد بیٹ مالک بن مغول بسام شعی: ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کرتی ہے: میں آپ سے دنیا کے بہترین شخص کا بجز اس کے جو اس سے عمل میں بڑھا ہوا ہو یا اس جیسے عمل والا ہو شکوہ لے کر آئی ہوں وہ صبح تک شب بیدار رہتے ہیں اور شام تک روزہ دار پھر وہ شرمائی اور بولی: امیر المؤمنین! مجھے معاف فرمائیے فرمایا: جزاک اللہ خیر! تم نے بڑی اچھی تعریف کی! میں نے تمہیں معاف کر دیا پھر جب وہ چلی گئی تو کعب بن سور نے کہا: امیر المؤمنین! اس خاتون نے آپ سے شکوہ کرنے میں کمال باغث سے کام لیا، پوچھا: اس نے کیا شکوہ کیا؟ بولے: اپنے شوہر کا شکوہ کیا، فرمایا: اس خاتون کو میرے پاس لاؤ اور کعب بن سور کو حکم دیا کہ ان دونوں میں فیصلہ کرو بولے: کیا آپ کی موجودگی میں میں فیصلہ کروں؟ فرمایا تم نے وہ بات سمجھ لی جسے میں نہ سمجھ سکا، کعب بولے: حق تعالیٰ فرماتا ہے: لہذا اپنی پسندیدہ عورتوں سے دو دو سے اور تین تین سے اور چار چار سے نکاح کرو (شوہر سے مخاطب ہو کر) تین دن روزہ رکھو اور چوتھے دن اس کی خاطر روزہ چھوڑ دو اور تین رات شب بیدار رہو اور چوتھی رات اس کے پاس گزارو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے تمہارا یہ فیصلہ پہلی بات سے بھی زیادہ پسند آیا آخر کار آپ نے کعب بن سور کو اہل بصرہ کا قاضی مقرر کر کے بصرہ بھیج دیا۔

ابن سعد: باخباہر اسحاق بن یوسف ازرق و فضل بن دکین از زکریا بن زائدہ از شعی: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب بن سور کو بصرہ کا قاضی مقرر کر کے بصرہ روانہ کر دیا۔

ابن سعد: باخباہر عبد اللہ بن اویس از حصین از عمر بن جادان از اخف بن قیس جنگ جمل میں کعب بن سور قرآن حکیم کو کھول کر مقابلہ والی دونوں جماعتوں کو نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کے ایک تیرا کر لگا اور شہید ہو گئے۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب، متحد بیٹ حماد بن زید از علی بن زید از ایوب بسماع محمد بن سیرین (ابومعشر سے) مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا کوئی ساتھی کعب کی لاش کے پاس سے جو دونوں جماعتوں کے درمیان پڑی ہوئی تھی، گزرتا ہے اور ان کی آنکھ میں بھالے کی اتنی گھونپ کر کہتا ہے: میں نے کسی کافر کو تجھ سے زیادہ فرائض کا احساس رکھنے والا نہیں پایا۔

بعض علماء: جب طلحہ زبیر اور صدیقہ رضی اللہ عنہم بصرہ میں آئے تو کعب بن سور نے فتنہ سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں داخل ہو کر اس کا دروازہ مٹی سے بند کر دیا بس ذرا سا سوراخ رہنے دیا تاکہ اس میں اپنے لیے طعام وغیرہ لے لیں، صدیقہ سے کہا گیا: اگر کعب تمہارے ساتھ ہو جائیں تو ازاد کا تمام قبیلہ تمہارا ساتھ دے گا، صدیقہ رضی اللہ عنہا سوار ہو کر ان کے پاس گئیں اور انہیں آواز دے کر بلایا مگر کعب نے کوئی جواب نہیں دیا، بولیں: کعب! کیا میں تمہاری والدہ نہیں؟ اور کیا میرا تم پر کوئی حق نہیں؟ یہ سن کر کعب نے آپ سے باتیں کیں، بولیں: میں لوگوں میں صلح کرانا چاہتی ہوں آخر کار کعب گھر سے باہر نکلے اور قرآن حکیم لے کر اسے کھولا اور دونوں جماعتوں کے درمیان ادھر سے ادھر تک چل کر اعلان کیا کہ اس کی طرف آؤ اتنے میں آپ کے ایک نامعلوم تیرا آ کر لگا جس نے آپ کی جان لے لی کعب خیر و صلاح میں مشہور و معروف تھے آپ سے کوئی حدیث مروی نہیں۔

احنف بن قیس رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ضحاک بن قیس بن معاویہ بن حصین بن حفص بن عبادہ بن نزال بن مرہ بن عبید بن مقاعس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زید مناۃ بن تمیم آپ کی والدہ اولاد فراض میں سے جس کا تعلق باہلیہ قبیلہ سے ہے، تھیں آپ ٹیڑھی ٹانگ کے تھے (اس لیے آپ کا لقب احنف پڑ گیا) آپ کی والدہ نے جھوم کر یہ شعر پڑھا۔

وَاللّٰهُ لَوْ لَا حَنْفٌ فِي رِجْلِهِ مَا كَانَ فِي الْحَيِّ غُلَامٌ مِّثْلِهِ

”اللہ کی قسم اگر اس کی ٹانگ میں ٹیڑھا پن نہ ہوتا تو قبیلہ میں کوئی بچہ اس کے مثل نہ تھا۔“

آپ کی کنیت ابوالحر تھی آپ ثقہ اور معتمد علیہ تھے آپ سے کوئی حدیث مروی نہیں البتہ آپ حضرت عمر، حضرت علی اور

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب، متحد بیٹ حماد بن زید از علی بن زید از حسن از احنف بن قیس: میں عہد عثمانی میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک ایک لیشی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا: کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ سناؤں؟ میں بولا: ضرور سنائیے، بولا: کیا آپ کو یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی قوم بنو سعد کے پاس بھیجا تھا اور میں ان پر اسلام پیش کر رہا تھا اور انہیں اسلام کا شوق دلا رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم خیر ہی کی طرف بلا رہے ہو اور میں تم سے اچھی باتیں ہی سن رہا ہوں، پھر میں نے آپ کی یہ باتیں رسول اللہ کے سامنے بیان کیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں یہ دعا فرمائی: یا اللہ احنف کو بخش دے۔ احنف فرماتے ہیں اس سے زیادہ ڈھارس دلانے والی میرے پاس کوئی چیز نہیں۔

ابن سعد: باخبار اسامعیل بن ابراہیم از ایوب از محمد: مجھے خبر ملی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنی تمیم کا ذکر کر کے ان کی خدمت فرمائی تو احنف نے کھڑے ہو کر کہا: امیر المؤمنین! اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں، فرمایا: کہو بولے: آپ نے برائی سے ہنو

تمیم کا ذکر چھیڑا اور سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا آخروہ بھی انسان ہی ہیں اور ان میں برے بھلے ہر طرح کے آدمی ہیں فرمایا: ٹھیک کہتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچھے کلمہ کے ساتھ احنف کو معاف فرما دیا پھر خاتہ نے جو ان کے دشمن تھے کھڑے ہو کر کہا: امیر المؤمنین اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں فرمایا: بیٹھ جاؤ تمہارے سردار احنف تمہارے لیے کافی ہیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، متحد یرث حماد بن زید از ابو سعید مغیرہ از حسن: احنف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ نے انہیں پورے ایک سال تک روکے رکھا پھر پوچھا: جانتے ہو؟ میں نے تمہیں کیوں روکا؟ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ہر علم والے منافق سے ڈرایا تم ان شاء اللہ ان میں سے نہیں ہو۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل و حسن بن موسیٰ، متحد یرث حماد بن سلمہ، متحد یرث علی بن زید از حسن از احنف: میں فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے ایک سال اپنے پاس ٹھہرائے رکھا اور فرمایا: احنف میں نے تم کو آزما دیا ہے اور تم کو جانچا ہے اور میں نے تم میں خیر و صلاح ہی دیکھی ہے میں نے تمہارا ظاہر اچھا ہی دیکھا اور مجھے اُمید ہے کہ تمہارا باطن بھی تمہارے ظاہر کی طرح ہوگا کیونکہ ہم میں یہ چرچا رہا کرتا تھا کہ ہر ہوشیار منافق ہی اس امت کو تباہ کرے گا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا: اما بعد: احنف کو اپنے قریب رکھو ان سے مشورہ کرو اور ان کی بات سنو۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، متحد یرث ابو الکعب صاحب حریر از دی، متحد یرث ابو الاضر: احنف کو خراسان کا حاکم مقرر کیا گیا پھر جب آپ ملک فارس پہنچے تو ایک ٹھنڈی رات میں آپ کو احتلام ہو گیا، آپ نے اپنے کسی غلام کو یا فوجی کو نہیں جگایا اور خود ہی پانی کی تلاش میں نکل گئے اور خاردار جھاڑیوں کو جن سے آپ کے پیر خون سے شربور ہو گئے تھے روندتے ہوئے برف تک پہنچ گئے اور اسے توڑا اور اس سے غسل کیا (فرماتے ہیں) پھر کھڑے ہوئے تو اپنے کپڑوں کے پاس نئے اور تیار جوتوں کا جوڑا پایا آپ نے انہیں پہن لیا اور صبح کو اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ یہ جوتا کہاں سے آیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔

ابن سعد: باخبار عبداللہ بن جعفر رقی، متحد یرث عبید اللہ بن عمرو از معمر از حسن: میں نے احنف سے افضل کسی قوم کے کسی شریف کو نہیں دیکھا۔

ابن سعد: باخبار عفران بن مسلم اور حسن بن موسیٰ، متحد یرث حماد بن سلمہ از شیخ تیمی از احنف: مجھے باتوں کی کثرت سے جواب کا خوف مانع ہے۔

ابن سعد: باخبار اسحاق بن یوسف از رقی و محمد بن عبداللہ انصاری از ابن عون از حسن: لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بات چھیڑی اور اس پر تبادلہ خیالات کرنے لگے، لیکن احنف خاموش رہے حضرت معاویہ بولے: ابو البحر! آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بولے اگر جھوٹ بولوں تو اللہ کا ڈر ہے اور اگر سچ بولوں تو آپ حضرات کا ڈر ہے۔

ابن سعد: باخبار عفران بن مسلم، متحد یرث عمرہ بن برند از ابن عون از حسن: احنف فرماتے ہیں میں صاحبِ حلم تو نہیں البتہ حلم کا اظہار کرتا ہوں۔

ابن سعد: باخبار اسماعیل بن ابراہیم اسدی از یونس بن عبید، متحد یرث غلام احنف: احنف خلوت میں قرآن پاک ہی طلب

بن عماد عبدی، متحد ریث ابراہیم بن حمید و اسی از اسماعیل بن ابی خالد: میں نے اخف کو دیکھا آپ پر ریشمیں چادر بچنی کرتا اور ریشمیں پکڑی تھی اور ایک خچر پر سوار تھے، اخف مصعب بن زبیر کے دوست تھے ایک دن آپ ان سے ملنے کو فہ گئے اس زمانہ میں مصعب کو فہ کے حاکم تھے کو فہ میں مصعب ہی کے پاس آپ کا انتقال ہو گیا ہم نے دیکھا مصعب ان کے جنازے میں چادر اوڑھے بغیر ہی جا رہے ہیں۔

ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہما:

آپ کا اسم گرامی عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدی بن وہب بن ربیعہ بن سعد بن جذیمہ بن کعب بن رفاعہ بن مالک بن نہد بن زید بن لیث بن سوہ بن اسلم بن الحاف بن قضاء تھا۔

ابن سعد: باخبار اسماعیل بن ابراہیم اسدی از عمران بن حدیر اپنی روایت کردہ حدیث میں: ابو عثمان نہدی کا نام عبدالرحمن بن مل تھا۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون، باخبار ابو یوسف، حجاج بن ابی زینب، سماع ابو عثمان نہدی: ہم جاہلیت میں پتھر پوجا کرتے تھے ایک دن ہم نے سنا کوئی شخص اعلان کر رہا ہے لوگو! تمہارا رب گم ہو گیا ہے اسے ڈھونڈھ کر لاؤ فرمایا: ہم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور سارا علاقہ چھان مارا لیکن رب نہ مل سکا اتنے میں سنا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے: ہم کو تمہارا رب مل گیا ہے یہ جملہ تھا یا اس کے مشابہ کوئی جملہ تھا فرماتے ہیں: پھر ہم آئے تو وہ محض ایک پتھر تھا پھر ہم نے اس کے پاس آ کر اونٹ نحر کیے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم باخبار ثابت بن یزید، متحد ریث عاصم احوں: میں نے ابو عثمان سے پوچھا: کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرمایا: نہیں میں بولا: اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا: نہیں ہاں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کی جب وہ خلیفہ بن گئے تھے آپ ہم سے تین بار صدقہ وصول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تھے۔ ابن سعد: باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس، متحد ریث زبیر، متحد ریث عاصم از ابو عثمان: میں سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارہ سال تک رہا۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم، متحد ریث حماد بن سلمہ، باخبار حمید: ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں: میں ایک سو تیس سال کا ہو گیا اور میں اپنی ہر چیز بدلی ہوئی دیکھتا ہوں البتہ امید حسب سابق ہے۔

ابن سعد: باخبار حسن بن موسیٰ، متحد ریث حماد بن سلمہ از ثابت البنانی از ابو عثمان نہدی: مجھے معلوم ہو جاتا ہے جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے پوچھا گیا: کس طرح؟ فرمایا: حق تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا لہذا جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ مجھے یاد فرماتا ہے فرماتے ہیں: جب ہم اللہ سے کوئی دعا مانگتے تھے تو ابو عثمان فرماتے: اللہ کی قسم اللہ نے ہماری دعا قبول فرمائی پھر ادعویٰ استجب لکم پڑھتے یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین، متحد ریث ابوطالوت عبدالسلام بن شداد: میں نے ابو عثمان کو پولیس کا آدمی دیکھا آپ آ کر آوارہ لوگوں کو پکڑا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار ابو عسان مالک بن اسماعیل نہدی: ابو عثمان نہدی کوفہ کے باشندے تھے اور بنی نہد میں ان کا کوئی گھر نہ تھا پھر جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ یہ فرما کر کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کو شہید کر دیا گیا، بصرہ منتقل ہو گئے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں، آپ ثقہ تھے، اور حضرت عمر ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری، سلمان، اسامہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں آپ عراق پر حجاج بن یوسف کے آغاز عہد میں بصرہ میں فوت ہوئے۔

ابوالاسود دؤلی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ظالم بن عمرو بن سفیان بن عمرو بن خلس بن میسر بن نفاہ بن عدی بن ذکوان بن بکر بن عبد مناة بن کنانہ، آپ شاعر تھے اور شیعہ تھے مگر حدیث میں ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بصرہ سے باہر تشریف لے گئے تو بصرہ پر آپ ہی کو نائب بنا گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اسی عہدہ پر بحال رکھا۔ ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل متحد بیٹا ابو ہلال قتادہ! ابوالاسود دؤلی نے فرمایا: میرے نزدیک سب سے زیادہ برا عمیر مستقل مزاج اور چرب زبان آدمی ہے۔

زیاد بن ابی سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ:

ابن امیہ بن عبد شمس، آپ کی والدہ کا نام سمیہ ہے جو حارث بن کلدہ ثقفی کی لونڈی تھیں بعض اہل علم آپ کو زیاد بن ابیہ کہتے ہیں اور بعض امیر زیاد کہتے ہیں آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بصرہ کے حاکم تھے (کیونکہ حضرت معاویہ نے آپ کو اپنے نسب میں شامل کر لیا تھا) اور کوفہ کے بھی چنانچہ جاڑا بصرہ میں اور گرمی کوفہ میں گزارا کرتے تھے۔ جب کوفہ چھوڑتے تو اس پر اپنا نائب عمرو بن حریت کو بنا آتے اسی طرح بصرہ پر سرہ بن جناب کو۔ زیاد نہ قاری تھے اور نہ عالم ہاں مشہور تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور آپ سے چند احادیث مروی ہیں۔

ابن سعد: باخبار عامر بن فضل، متحد بیٹا حماد بن زید از ایوب از محمد: زیاد کی انگوٹھی پر مور کندہ تھا ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل متحد بیٹا محمد بن حارث قرظی: مرہ نہر مرہ کو گھدوانے والے عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس آئے ان کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ سے درخواست کی کہ زیاد کو لکھ دیں کہ وہ میرا کام کر دیں چنانچہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے لکھا: یہ خط عبدالرحمن کی طرف سے زیاد کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور ان کا نسب ابوسفیان سے ثابت نہیں۔ مرہ بولے: میں یہ خط لے کر نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میرے لیے مضر ہے پھر مرہ صدیقہ کے پاس آئے صدیقہ رضی اللہ عنہا نے لکھا یہ خط ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے زیاد بن ابی سفیان کی طرف بھیجا جا رہا ہے پھر جب مرہ یہ خط لے کر زیاد کے پاس پہنچے تو زیاد نے کہا: تم یہ خط لے کر کل آنا دوسرے دن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے کہا: غلام! خط پڑھ کر سننا، غلام نے خط پڑھ کر سنایا یعنی من عائشۃ ام المؤمنین الی زیاد بن ابی سفیان۔ فرماتے ہیں زیاد نے خوش ہو کر ان کی ضرورت پوری کر دی۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار داؤد بن ابی ہند از عامر: زیاد کے پاس ایک فتویٰ آیا کہ مرنے والے نے پھوپھی اور خالہ چھوڑی ہے بولے: جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ میں کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کی قسم اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے

فیصلہ سے بخوبی واقف ہوں آپ نے خالہ کو بمنزلہ بہن کے اور پھوپھی کو بمنزلہ بھائی کے قرار دے کر خالہ کو ایک تہائی اور پھوپھی کو دو تہائی مال دلویا تھا باخبر شخصے بتحدیث زکریا بن ابی زائدہ از عامر از زیاد! فصل الخطاب کی تفسیر اما بعد ہے۔ زیاد فتح مکہ کے سال (۸ھ) طائف میں پیدا ہوئے اور ۵۳ھ میں کوفہ میں فوت ہوئے جب کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے۔

عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ:

ابن نوفل بن حارث بن عبدالطلب بن ہاشم۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کی والدہ ہند بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ ہیں۔ آپ عہد نبوت میں پیدا ہوئے اور جابیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سنا آپ کا سماع حضرت عثمان ابی بن کعب حذیفہ بن الیمان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور اپنے والد حارث بن عبدالطلب سے ثابت ہے۔ آپ معاویہ کے بصرہ چلے گئے تھے اور وہاں گھر بنا لیا تھا پھر جب مسعود بن عمرو کا زمانہ آیا اور عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے نکل گئے اور لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور اقوام و قبائل اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنی قوتوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے نماز اور مال فنی کے لیے عبداللہ بن حارث کو مقرر کر لیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا کہ ہم عبداللہ بن حارث سے راضی ہیں پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرہ پر بحال رکھا آپ بصرہ کے منبر پر چڑھ کر لوگوں سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لیتے رہے حتیٰ کہ اونگھنے لگے اور سوتے سوتے لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ان سے بیعت لینے لگے اس پر حکیم بن دثیل یربوئی نے یہ شعر پڑھا۔

بَايَعْتُ ابِقَاطًا فَأَوْقَيْتُ بَيْعَتِي وَبَيْتَهُ قَدْ بَايَعْتُهُ وَهُوَ نَائِمٌ

میں نے بیدار حضرات سے بیعت کی اور اپنی بیعت پوری کی اور عبداللہ سے بیعت کی جبکہ وہ سو رہے تھے پھر عبداللہ بن حارث بن زبیر کی طرف سے بصرہ کے برابر حاکم رہے حتیٰ کہ ابن زبیر نے آپ کو معزول کر دیا اور آپ کی جگہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی کو حاکم بنا دیا آخر عبداللہ بن حارث عمان چلے گئے اور عمان ہی میں انتقال فرما گئے۔

ابوصفرہ عتقی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ظالم بن سراق بن صبح بن کندي بن عمرو بن عدی بن وائل بن حارث بن عتیک بن اسد بن عمران بن عمرو مزیقیاء بن عامر ماء الماء بن حارث الغنطریف بن امرؤ القیس بن ثعلبہ بن مازن بن ازد ہے ابوصفرہ دباء کے ازد سے تعلق رکھتے ہیں دباء عمان اور بحرین کے درمیان ایک مقام ہے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں آیا تھا اور اسلام کا اقرار کر گیا تھا آپ نے ان کا صدقہ وصول کرنے کے لیے انہیں کا ایک شخص حذیفہ بن الیمان ازدی جو دباء کا باشندہ تھا مقرر فرمایا تھا اور اسے صدقہ کے احکام لکھ کر دے دیئے تھے یہی ان کا صدقہ وصول کیا کرتے تھے اور انہیں کے فقراء میں بانٹ دیا کرتے تھے پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور صدقہ دینا بند کر دیا تھا اور حذیفہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کے ارتداد کی اطلاع دے دی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے عکرمہ بن ابی جہل کو روانہ فرمایا یہ لوگ مقابلہ پر آڈٹے اور جنگ کی حق تعالیٰ نے عکرمہ کو فتح عطا فرمائی اور ان لوگوں کو شکست دی عکرمہ نے انہیں خوب قتل کیا اور ان کی جماعت کو دھکیلتے ہوئے دباء کے قلعہ تک لے گئے یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا پھر انہوں نے حذیفہ بن الیمان ازدی

کے حکم پر قلعہ کھول دیا عکرمہ نے ان میں کے سو بڑے بڑے آدمی قتل کیے اور ان کی اولاد کو قید کر کے اور باقی تمام لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ بھیج دیا جن میں ابو صفرہ بھی تھے خلیفہ! یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالوں میں بخل کیا لیکن صدیق اکبر نے انہیں چھوڑنا قبول نہیں کیا اور یہ لوگ رملہ بنت حارث کے گھر میں نظر بند رہے حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت سنبھال لی آپ نے انہیں بلا کر کہا: مسند خلافت میں نے سنبھال لی ہے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جہاں چاہو چلے جاؤ کیونکہ تم آزاد ہو تم پر فدیہ نہیں چنانچہ یہ لوگ مدینہ سے چلے گئے اور بصرہ میں جاتے کچھ لوگ اپنے وطن بھی چلے گئے لیکن ابوالمہلب ابو صفرہ بصرہ ہی میں مقیم ہو گئے اور آپ اور آپ کی اولاد بصرہ کے معزز حضرات میں شمار ہونے لگے۔

ابو الجفاء سلمیٰ رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام ہرم ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

سائب بن اقرع ثقفی رضی اللہ عنہما:

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔

حجیر بن ربیع عدوی رضی اللہ عنہما:

آپ بنی عدی بن عبدمناة بن اڈ بن طابخہ بن الیاس بن مضر میں سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور قلیل

الحدیث ہیں۔

حریث بن ربیع عدوی رضی اللہ عنہما:

آپ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔

اقرع رضی اللہ عنہما مؤذن عمر رضی اللہ عنہ:

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پادری کو بلا کر پوچھا: کیا تم اپنی کتابوں میں پاتے

ہو۔ آپ سے عبد اللہ بن شقیق عقیلی روایت کرتے ہیں۔

ضبہ بن محسن عنزی رضی اللہ عنہما:

یعنی عمرو بن اسد بن ربیعہ بن نزار آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔

عامر بن عبد اللہ بن عبد القیس عنبری تمیمی رضی اللہ عنہما:

آپ کی کنیت ابو عمرو ہے اور ابو عبد اللہ کی کنیت سے بھی پکارے جاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔

ابن سعد: باخبار عبد اللہ بن جعفر، حدیث عبید اللہ بن عمرو از محمد بن واسع از عامر بن عبد قیس: میں اپنا وظیفہ جو دو ہزار درہم تھا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر آتا اور جس سال کے پاس سے گزرتا اسی کو دیتا پھر گھر آ کر گھر والوں کے سامنے ڈال دیتا وہ جب اسے

گنتے تھے تو پورے دو ہزار ہوتے تھے ان میں سے ایک درہم بھی کم نہ ہوتا تھا۔

ابن سعد: باخباہ احمد بن عبداللہ بن یونس متحد ریث ابو بکر بن عیاش از ہشام بن حسان غالباً از ابن سیرین! عامر بن عبد قیس کو وظیفہ ملا آپ کے حکم سے ایک شخص نے اس میں سے کچھ بانٹ دیا پھر گئے تو زیادہ درہم نکلے بولا: یہ تو بڑھ رہے ہیں میرے خیال میں امیر المؤمنین کو معلوم تھا کہ تم بانٹا کرتے ہو اس لیے انہوں نے زیادہ دے دیئے فرمایا: تم نے اس کے بارے میں زیادہ دینے کی رائے قائم نہیں کی جو امیر المؤمنین سے زیادہ قادر ہے یا یہ کہ امیر المؤمنین سے زیادہ مستحق ہے فرماتے ہیں: آپ سے کہا گیا کہ فلاں خاتون جنت میں آپ کی بیوی ہے۔ فرماتے ہیں آپ سے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک بد اخلاق دیہاتی کی لونڈی ہے اور ان کی بکریاں چراتی ہے پھر جب گھر آتی ہے تو گھر والے اسے خوب صلواتیں سناتے ہیں اور اس کے آگے دو روٹیاں ڈال دیتے ہیں وہ ایک روٹی گھر ہی دے آتی ہے اور جب صبح کو جانے کا ارادہ کرتی ہے تو صبح کو بھی اس کے آگے روٹیاں ڈال دیتے ہیں لیکن وہ دونوں روٹیاں گھر دے آتی ہے اور روزہ رکھ لیتی ہے اور ایک ہی روٹی پر گزارہ کر لیتی ہے فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے لگا وہ ایک اچھی جگہ پہنچی اور وہاں بکریاں چھوڑ کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی بولے: اگر آپ کو کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتائیے بولی: مجھے کوئی ضرورت نہیں پھر جب آپ نے اس سے اصرار کر کے پوچھا تو بولی: کاش میرے پاس دو سفید کپڑے ہوتے جن میں میں کفناوی جاتی پوچھا: آپ کے مخدوم آپ پر کیوں طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں؟ بولی: مجھے اس پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا فرماتے ہیں پھر آپ اس کے سید کے پاس گئے اور پوچھا: تم اپنی اس لونڈی کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ بولے: ہمیں اس کی طرف سے ڈر رہتا ہے کہ کام نہ بگاڑ دے فرماتے ہیں: دوسری لونڈی جو اس کی ہم مثل نہ تھی آئی تو انہوں نے اسے برا بھلا نہیں کہا پوچھا: اسے بیچتے ہو؟ بولے اگر تم اتنا اتنا مال بھی دو تو ہم اسے نہ بیچیں گے (فرماتے ہیں) پھر آپ گھر سے دو سفید چادریں لے کر اس کے پاس گئے تو وہ فوت ہو چکی تھی بولے: اس کی تجھیز و تکلفین میرے سپرد کر دو انہوں نے آپ کی یہ درخواست منظور کر لی چنانچہ آپ نے اس کی تجھیز و تکلفین کے اور نماز جنازے کے فرائض انجام دیئے۔

ابن سعد: باخباہ عغان بن مسلم، متحد ریث جعفر بن سلیمان، متحد ریث مالک بن دینار، متحد ریث فلاں: عامر بن قیس ایک چبوترے کے پاس سے گزرے دیکھا ایک ذمی پر ظلم کیا جا رہا ہے فرمایا: یہ دیکھ کر عامر نے اپنی چادر ڈال دی اور کہا: کیا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میری زندگی میں اللہ کے رسول کی ذمہ داری میں خیانت کی جا رہی ہے؟ پھر آپ نے ذمی کو چھڑا دیا۔

ابن سعد: متحد ریث محمد بن عبداللہ انصاری، متحد ریث ابن عون از محمد: سب سے پہلے معقل بن یسار نے عامر کو اس وقت پہچانا جب آپ نے ان کو ایک مکان کے چبوترے کے پاس دیکھا مکان کے قریب حدنگاہ تک کھلی جگہ تھی (فرماتے ہیں) آپ ایک پکڑے ہوئے ذمی آدمی کے پاس سے گزرے اور آپ نے اسے چھوڑنے کی سفارش کی لیکن مسترد کر دی گئی پھر آپ نے سفارش کی اس بار بھی مسترد کر دی گئی فرمایا: تم غلطی پر ہو اللہ کی قسم آج میری موجودگی میں تم اللہ کے ذمہ میں یا رسول اللہ کے ذمہ میں لیے ہوئے شخص پر ظلم نہیں کر سکتے آخر کار آپ سواری سے اتر پڑے اور ذمی کو ان سے چھڑانے لگے لوگوں نے آپ پر الزام لگایا کہ عامر گوشت اور گھی نہیں کھاتے نہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کا جسم کسی کے جسم سے ملا اور کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کی طرح ہوں یہ سن کر میں آپ کے پاس پہنچا دیکھا تو آپ ایک چوغہ میں ملبوس تھے میں نے کہا لوگ آپ پر گوشت نہ کھانے کا

الزام لگاتے ہیں فرمایا: جب ہمیں گوشت کی خواہش ہوتی ہے تو بکری ذبح کر کے اس کا گوشت کھالیتے ہیں ان لوگوں نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگایا ہے جس سے مجھے کوئی تعلق نہیں رہا گھی کا معاملہ سو میں وہ گھی کھاتا ہوں جو اس طرف (آپ نے ہاتھ سے میدان کی طرف اشارہ فرمایا) سے آتا ہے اور وہ نہیں کھاتا جو یہاں (پھاڑ) سے آتا ہے، لوگوں کا یہ الزام کہ میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا غلط ہے کیونکہ میں ہر جمعہ مسجد ہی میں پڑھتا ہوں پھر پنجگانہ نماز یہاں پڑھنا پسند کرتا ہوں اور یہ الزام کہ میں نے شادی نہیں کی تو میری ایک جان ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میرا نفس مجھ پر غالب نہ آجائے اور لوگوں کا یہ الزام کہ میں اپنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سمجھتا ہوں غلط ہے میں نے تو صرف یہ کہا ہے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حق تعالیٰ مجھے انبیاء صدیقین، شہداء اور صلحاء میں شامل فرمائے گا کیونکہ ان میں شمولیت بہترین مقام ہے۔

ابن سعد: باخباہر عمر و بن عاصم کلابی بحديث صباح بن ابی عبدہ عنہری بحديث شعبة از قبیلہ جو صدوق ہے میں اس کا نام بھول گیا: میں ایک جہاد میں عامر کے ساتھ تھا ہم ایک بن کے سامنے ٹھہرے آپ نے اپنا سامان ایک جگہ اکٹھا کیا، گھوڑے کی لگام ڈھیلی کی اور اسے چھوڑ دیا پھر آپ بن کے اندر گھس گئے میں نے کہا میں ضرور جا کر دیکھوں گا کہ آپ آج رات بھر کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ ایک سرخی پر پہنچے اور نماز پڑھنے لگے اور سحر کے وقت دعائیں مانگنے لگے آپ نے ایک دعا یہ بھی مانگی کہ یا اللہ میں نے تجھ سے تین چیزیں مانگی تھیں دو تو تو نے عطا فرمادیں اور تیسری عطا نہیں فرمائی یا اللہ وہ بھی عطا فرماتا کہ میں اپنی محبت و خواہش کے مطابق تیری عبادت بجلاؤں پھر صبح صادق ہو گئی آپ نے مجھے دیکھا اور کڑک کر فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم رات بھر میرے پیچھے لگے رہے تو میں تم کو سزا دیتا اور تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کرتا میں بولا: خیر یہ بات تو چھوڑیے ہاں وہ تین چیزیں جو آپ نے اللہ سے مانگی تھیں مجھے بھی بتادیتے ورنہ میں آپ کی اس شب کی عبادت کی جس کا اظہار آپ کو ناپسند ہے لوگوں کو خبر کر دوں گا فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا میں بولا ایسا ہی ہوگا پھر جب آپ نے دیکھا کہ میں باز آنے والا نہیں تو فرمایا: میری زندگی میں اظہار نہ کرنا میں بولا: ہم دونوں میں گواہ اللہ ہے میں ظاہر نہیں کروں گا فرمایا میں نے اپنے رب سے ایک چیز تو یہ مانگی کہ میرے دل سے عورتوں کی محبت نکال دے مجھے اپنے دین میں ان سے بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوتا تھا اللہ کی قسم اگر میری کسی عورت پر نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ عورت ہے یا دیوار دوسری چیز یہ مانگی تھی کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈروں (یہ دعا بھی حق تعالیٰ نے قبول فرمائی) اور تیسری چیز یہ مانگی تھی کہ مجھے نیند نہ آئے تاکہ میں حسب خواہش دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہوں حق تعالیٰ نے یہ دعا مسترد فرمادی۔

ابن سعد: باخباہر عمر و بن عاصم متحد ریث ہمام از قنادہ: عامر نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جاڑے میں وضوان پر آسان فرمادے پھر آپ کے وضو کے واسطے جاڑے میں جو پانی لایا جاتا تھا اس سے بھاپ نکلتی ہوئی ہوتی تھی اور یہ دعا بھی مانگی کہ ان کے دل سے عورتوں کی محبت نکال دے چنانچہ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے جس سے ملاقات کی وہ مرد ہے یا عورت اور یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ حالت نماز میں شیطان کے اور ان کے دل کے درمیان حائل ہو جائے لیکن آپ اس پر قادر نہ ہو سکے فرماتے ہیں جہاد کے سلسلہ میں جب آپ جنگل میں ہوتے اور آپ سے کہا جاتا دیکھئے یہاں بن ہے اور شیر کا خطرہ ہے تو فرماتے مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور سے ڈروں۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم، محمد یث ہمام بقول قتادہ بقول عامر: اللہ کی کتاب میں ایک حرف ایسا ہے کہ اگر وہ مجھے مل جائے تو وہ مجھے تمام دنیا سے پیارا ہے پوچھا گیا: ابو عمرو! وہ حرف کیا ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ مجھے پارساؤں میں شامل فرمائے وہ حرف **اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** ہے یعنی اللہ پارساؤں ہی کی عبادتیں قبول فرماتا ہے۔

ابن سعد: باخبار کثیر بن ہشام، محمد یث جعفر بن برقان، محمد یث محمد ثے از حسن کہ عامر بن عبد قیس نے فرمایا: کاش میں تمام افکار کو ہٹا کر اپنے سامنے ایک ہی فکر رکھنے پر قادر ہوتا: حسن فرماتے ہیں: اللہ کی قسم آپ اس پر قادر تھے۔

ابن سعد: باخبار عبید اللہ بن محمد قرشی، محمد یث عبد الجبار بن نصر سلمیٰ اپنے ایک شیخ سے: عامر سے کہا گیا۔ آپ نے اپنے جسم کو نقصان پہنچایا، فرماتے ہیں: آپ نے اپنے ہاتھ کی کھال پکڑ کر فرمایا: اللہ کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا تو زمین کو اس سے ذرا ہی سی چربی ملتی۔

ابن سعد: باخبار عبید اللہ بن محمد قرشی، محمد یث عقبہ بن فضالہ از شیخ غالباً سکین ہجری: عامر جب کسی پھل کے پاس سے گزرتے تو فرماتے ٹوٹے ہوئے ہیں اور روکے ہوئے ہیں۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم و عمرو بن عاصم بقول حماد بن سلمہ از ثابت بنانی: عامر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ عفان نے میرے بیٹے کے سلسلہ میں کہا کہ وہ میرے چچا ہیں اور عمرو نے میرے بیٹے کے سلسلہ میں کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں عامر بولے: اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دو تمہیں راحت مل جائے گی۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم، محمد یث جعفر بن سلیمان، محمد یث مالک بن دینار عامر کو دیکھنے والے کے بیان سے کہا: کہ عامر نے روغن زیتون منگایا اور اسے اپنے ہاتھ پر ڈالا (جعفر اسی طرح فرماتے ہیں) اور دونوں ہاتھوں میں ملا پھر یہ آیت پڑھی: ﴿وَشَجَوًّا تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتٌ بِالذُّهْنِ وَ صَبِغٌ لِّلْاَكْلِيْنَ﴾ (یعنی ایک درخت جو کوہ سیناء کے ہریالے پہاڑ پر پیدا ہوتا ہے تیل پیدا کرتا ہے اور کھانا کھانے والوں کے لیے سالن ہے) پھر آپ نے اسے اپنے سر اور داڑھی میں لگایا۔

ابن سعد: باخبار حماد بن مسعد، محمد یث ابن عون از محمد: عامر بن عبد اللہ عنبری میں اور ایک شخص میں کسی بات پر جھگڑا ہوا عامر نے اس شخص کی والدہ کے کسی عیب کا جو اس میں پایا جاتا تھا طعنہ دیا پھر آپ سے کہا گیا ہمارے خیال میں تو آپ یہ بات اچھی نہیں سمجھا کرتے تھے فرمایا تم میری بہت سی باتوں کے بارے میں یہی خیال رکھتے ہو گے لیکن میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔

ابن سعد: باخبار حسن بن موسیٰ، محمد یث شعبہ بن حجاج از حبیب بن شہید، بسام ابو بشر از ہم بن شقیق: میں عامر بن عبد اللہ کے پاس آیا (شعبہ کا قول ہے کہ بعض علماء عبد قیس کہنا ناپسند کرتے ہیں) اور آپ کے دروازے پر بیٹھ گیا آپ غسل کر کے تشریف لائے میں بولا: میرے خیال میں آپ کو نہانا محبوب ہے فرمایا میں اکثر نہانا رہتا ہوں پوچھا: کیسے قدم رنج فرمایا میں بولا حدیث کے لیے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ مجھے حدیث سے محبت ہے۔

ابن سعد: باخبار حسن بن موسیٰ، محمد یث ابو ہلال، محمد یث محمد بن سیرین: عامر سے کہا گیا: آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا میرے پاس عیش نہیں اور نہ میرے پاس مال ہے اس لیے میں کسی مسلمان خاتون کو دھوکا دینا نہیں چاہتا۔

ابن سعد: باخباہر عامر بن فضل، متحد یث حماد بن زید از ایوب از ابی قلابہ: ایک شخص نے عامر سے ملاقات کرنے کے بعد کہا: یہ تم نے کیا کیا (شادی کیوں نہیں کی؟) کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور انہیں بیویاں اور اولاد دی) فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون﴾ (ہم نے جن اور انسان اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے)۔

ابن سعد: باخباہر کثیر بن ہشام، متحد یث جعفر بن برقان، متحد یث میمون بن مہران: امیر بصرہ نے عامر کے پاس ایک آدمی بھیج کر پچھوایا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں نے عورتوں کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں (یعنی میں نامرد نہیں ہوں) اور یہ بھی معلوم کرایا کہ آپ نہیں کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا: میں مجوسیوں کے علاقہ میں ہوں کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مردار کھایا ہو اور یہ بھی معلوم کرایا کہ آپ امراء کے پاس کیوں نہیں آتے جاتے؟ فرمایا ان کے دروازوں پر ضرورت مند آتے ہیں ان کو بلا کر ان کی ضرورتیں پوری کرو اور غیر ضرورت مندوں کو چھوڑ دو کیونکہ انہیں تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔

ابن سعد: باخباہر حتاب بن زیاد، باخباہر عبداللہ بن مبارک، باخباہر عبدالرحمن بن یزید بن جابر، متحد یث بلال بن سعد، زیاد کے یا ابن عامر کے پاس عامر کی چغلی کھائی گئی اور کہا گیا کہ اس علاقہ میں ایک شخص ہے جس سے کہا جاتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہتر نہ تھے اور وہ اس پر خاموش رہتا ہے اور اس نے شادی نہیں کی زیاد نے اس کے بارے میں عثمان کو لکھا کہ اسے اونٹ پر سوار کر کے ملک شام بھیج دو۔ عثمان کا خط پڑھ کر زیاد نے عامر کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کرایا کہ کیا آپ ہی ہیں جن کے بارے میں اگر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہتر نہ تھے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم میری خاموشی حیرت کی بنا پر ہوتی ہے میری تو آرزو ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی خاک ہوتا کہ جنت میں داخل ہو جاتا، پوچھا اچھا آپ نے عورتیں کیوں چھوڑ رکھی ہیں؟ فرمایا: مجھن اس وجہ سے کہ شادی کروں گا تو لا محالہ اولاد ہوگی اور جب اولاد ہوگی تو دنیا میرے دل میں گھس آئے گی اور میں دنیا سے اپنا دل خالی رکھنا چاہتا ہوں، پھر زیاد نے آپ کو شام بھیج دیا جب آپ شام پہنچے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے جن کے ساتھ تازہ پھل تھے آپ کو ٹھہرایا اور ایک لوٹھی کو یہ ہدایت کر کے کہ آپ کے حال کی مجھے اطلاع دینا آپ کی خدمت کے لیے بھیج دیا آپ صبح صبح نکل جاتے اور لوٹھی آپ کو رات کی تاریکی میں دیکھتی، معاویہ آپ کے پاس کھانا بھیجتے تو آپ کھانا چھوٹے بھی نہ تھے آپ کے پاس روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے جن کو آپ پانی میں بھگو کر کھالیا کرتے تھے اور وہی پانی پی لیا کرتے تھے پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے تھے حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو جاتی پھر نکل جاتے اور لوٹھی آپ کو رات کی تاریکی تک نہیں دیکھتی تھی آخر کار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نے جواب میں لکھا: آپ انہیں شام میں پہلے آنے والے اور اخیر میں جانے والے قرار دیں (یعنی ایسا شخص آج تک نہ شام میں کبھی آیا اور نہ شام سے باہر گیا) اور دس غلام اور دس سواریاں دے دیں۔ حضرت معاویہ نے یہ خط پڑھ کر آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ امیر المومنین نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کو دس غلام دوں (بولے: میرے اوپر ایک ہی شیطان غالب ہے دس شیطان کس طرح جمع کر سکتا ہوں) اور یہ بھی لکھا ہے کہ دس سواریاں دوں (فرمایا: میرے پاس ایک فخر ہے مجھے ڈر ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے فالتو سواریوں کے بارے میں حساب نہ لے لے) اور یہ بھی لکھا

ہے کہ آپ کو شام میں آنے اور جانے کے سلسلہ میں اول قرار دوں فرمایا: اس کی مجھے ضرورت نہیں۔

ابن سعد: متحد ریث بلال ابن سعد اس شخص سے (جس نے آپ کو روم کے علاقہ میں دیکھا کہ کبھی اس خنجر پر سوار ہو کر گھائی سے عبور کر رہے ہیں اور کبھی گھائی سے مجاہدوں کو سوار کر کے لے جا رہے ہیں بلال فرماتے ہیں جب آپ کسی غازی کو علیحدہ کر دیتے تو ٹھہر کر باقی رفقاء کو غور سے دیکھتے پھر جب آپ اپنے ہم خیال رفقاء دیکھتے تو فرماتے: دوستو! میں تمہارے ساتھ تین شرطوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اول تو یہ کہ میں تمہاری خدمت کروں گا اور تم میں سے کوئی مجھے اپنی خدمت سے روک نہیں سکتا دوسرے اذان میں ہی دوں گا تم میں سے کوئی مجھے اذان دینے میں روک ٹوک نہ کرے اور میں تم پر حتی الامکان خرچ کروں گا اگر آپ کے رفقاء ان شرطوں کو مان لیتے تو آپ ان میں شامل رہتے ورنہ ان سے علیحدہ ہو کر دوسروں سے مل جاتے۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم، متحد ریث جعفر بن سلیمان، متحد ریث سعید جزیری: جب عامر جلاوطن کیے گئے اور جانے لگے تو آپ کے احباب واقارب آپ کو رخصت کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے آپ بار بار فرماتے کہ آپ حضرات تکلیف نہ فرمائیں پھر آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تم آئیں کہو بولے ہماری آپ سے یہی تو خواہش تھی فرمایا: اے اللہ جس نے میری چنچلی کھائی اور مجھ پر جھوٹ بولا اور مجھے میرے شہر سے نکالا اور مجھ میں اور میرے بھائیوں میں تفریق پیدا کی اس کی دولت و اولاد میں برکت عطا فرما اے تندرست رکھ اور اس کی عمر دراز فرما۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم کلابی، متحد ریث عبدالملک بن ہشلی، متحد ریث نصر بن حسان عنبری، قاضی معاذ بن معاذ عنبری کے دادا از حصین بن ابی الحر عنبری قاضی عبید اللہ بن حسن کے دادا: میں شام گیا اور عامر کے بارے میں پوچھ گچھ کی مجھے بتایا گیا کہ آپ یہاں ایک بڑھیا کے مکان میں رات گزارتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا تو وہ بولی: عامر اس پہاڑ کے دامن میں دن رات نماز پڑھتے رہتے ہیں اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کے اظفار کے وقت آنا آخر کار میں اظفار کے وقت آپ کے پاس پہنچا اور آپ کو سلام کیا آپ نے مجھ سے اس شخص کی طرح باتیں کیں جو کسی سے کل ہی ملا ہوا اور اپنی قوم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا کہ ان میں سے کون زندہ ہے اور کون فوت ہو گیا اور نہ مجھے کھانے کو کہا میں بولا: عامر! مجھے تم پر حیرت ہے فرمایا: حیرت کی کیا بات دیکھی میں بولا: میں نے تم سے اتنی مدت کے بعد ملاقات کی اور تم نے مجھ سے اس طرح باتیں کیں جیسے کل ہی ملاقات کی ہو فرمایا: میں آپ کو نیک سمجھتا ہوں پھر میں آپ کی زندگی کا کون سا گوشہ ٹٹولتا۔ میں آپ نے مجھ سے اپنی قوم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا کہ کون زندہ ہے اور کون اللہ کو بیارا ہو گیا حالانکہ آپ کو ان میں میرا مقام معلوم ہی ہے۔ آپ: میں آپ سے ان لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ ان میں سے جو فوت ہو گیا سو فوت ہو گیا اور جو فوت نہیں ہوا وہ عنقریب فوت ہو جائے گا میں: اور آپ نے مجھے کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ آپ: آپ امراء کا کھانا کھاتے ہیں اور میرا یہ کھانا موٹا جھوٹا ہے یا (فرمایا) بد مزہ ہے پھر اس کے بعد میں مسجد میں گیا تو آپ کو کعب کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا دونوں کے درمیان تورات رکھی ہوئی تھی اور کعب اسے پڑھ رہے تھے پھر جب کسی پسندیدہ آیت کو پڑھتے تو عامر کو اسے وضاحت کے ساتھ سمجھا دیتے پھر کعب کسی ایسے حرف پر پہنچے جو راء یا زاء کی طرح تھا پوچھا: ابو عبد اللہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ بولے: نہیں فرمایا: یہ رشوت ہے میں اسے اللہ کی کتاب میں پاتا ہوں رشوت سے

آنکھوں کی روشنی جاتی رہتی ہے اور دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم، متحد ریث جعفر بن سلیمان از مالک بن دینار: جب کعب نے عامر کو ملک شام میں دیکھا تو پوچھا: یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا: عامر عمری بصری ہیں کعب بولے: یہ اس امت کے راہب ہیں۔

ابن سعد: باخبار اسحاق بن ابی اسرائیل، باخبار عمرو بن عاصم، متحد ریث سلیمان بن مغیرہ، متحد ریث ایوب سختیانی، جب وہ جماعت شام کی طرف لے جائی گئی تو اس میں مذکور عامر اور صحبہ تھے پھر جب ان کی براءت ثابت ہو گئی تو انہیں وطن واپس جانے کا حکم مل گیا لیکن کوئی تو واپس چلا گیا اور کوئی شام ہی میں مقیم ہو گیا مقیم ہونے والوں میں مذکور عامر تھے اور واپس ہونے والوں میں صحبہ بن صوحان تھے۔

ابن سعد: باخبار احمد بن ابراہیم عبدی، متحد ریث ابوالولید شیبانی، متحد ریث مخلد: میں نے سنا کہ واصل نے ذکر کیا کہ (ایک دفعہ) عامر نے لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا مسلمان ایک جگہ ٹھہرے لیکن عامر چلے گئے اور ایک گرجہ میں ٹھہرے اور ایک شخص کو ہدایت فرما گئے کہ گرجہ کے دروازے پر کھڑے رہو تاکہ میرے پاس کوئی آئے نہیں پھر وہ شخص آ کر بولا: امیر اجازت مانگ رہے ہیں آپ نے اجازت دے دی جب امیر آپ کے قریب پہنچے تو عامر نے ان سے کہا میں آپ سے (اللہ کا واسطہ دے کر) اور اللہ کو یاد دلا کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا کی رغبت یا آخرت سے نفرت نہ دلائیں۔

ابن سعد: باخبار احمد بن ابراہیم عبدی، متحد ریث سعید بن عامر از اسماء بن عبید: عامر ایک لشکر میں شریک تھے مجاہدوں کو دشمن کے کسی بڑے شخص کی ایک لڑکی ہاتھ لگی اور عامر کے سامنے اس کی تعریف کی گئی آپ نے کہا اسے مجھے بہہ کر دو کیونکہ میں بھی تو مرد ہوں یہ سن کر مجاہد خوش ہوئے اور وہ دو شیرہ آپ کو بہہ کر دی گئی آپ نے اس پر قبضہ کر کے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، لوگ بولے: عامر! اگر تم اتنی اتنی رقم لے کر آزاد کرتے تو کر سکتے تھے فرمایا میں اپنا حساب اپنے رب سے کر لوں گا۔

ابن سعد: باخبار احمد بن ابراہیم عبدی، متحد ریث اسود بن سالم، متحد ریث حماد بن زید از سعید جریری، ایک شخص نے رحمت عالم ﷺ کو خواب میں دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے تمہارے لیے دعائے مغفرت عامر کریں گے کہتے ہیں یہ خواب دیکھ کر عامر کے پاس گیا اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا خواب سن کر عامر زار و زار رونے لگے۔

ابن سعد: باخبار احمد بن ابراہیم عبدی از عبید اللہ بن ثور، متحد ریث سعید بن زید از سعید جریری از مضارب بن حزن تمیمی: ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ہم نے جو علماء کا وفد تمہارے پاس بھیجا تھا وہ کیسا تھا؟ بولے وہ تعریفوں کے پل توڑتے تھے جھوٹ لے کر آتے اور دھوکا کے ساتھ نکل جاتے لیکن ایک شخص اس سے مشتاق تھا ہم نے کہا امیر المومنین وہ کون تھا؟ فرمایا: وہ عامر تھا۔

ابن سعد: باخبار احمد بن ابراہیم، متحد ریث سہیل بن محمود، متحد ریث سفیان از ابو موسیٰ: جب عامر نے باہر جانے کا ارادہ کیا تو مطرف کو سلام کرنے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، مطرف نے اپنی خادمہ سے کہا: دیکھ کر آ، کون ہیں؟ خادمہ نے کہا: عامر ہیں مطرف نکل کر آئے عامر نے انہیں سلام کیا اور چلے گئے پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو عامر نے دوبارہ آ کر دروازہ کھٹکھٹایا مطرف نے اپنی خادمہ سے کہا: دیکھ کر آ، کون ہیں؟ خادمہ نے کہا: عامر ہیں۔ مطرف نے دروازے پر آ کر پوچھا میرے ماں

باپ آپ پر قربان دوبارہ کیسے قدم رنجہ فرمایا بولے: اللہ کی قسم! آپ کی محبت مجھے پھر آپ کے پاس لے آئی، مطرف نے آپ کو سلام کیا اور آپ کو رخصت کیا آپ تشریف لے گئے غرضیکہ آپ فرط محبت کی وجہ سے مطرف کے پاس تین بار آئے۔

ابن سعد: باخباہار احمد بن ابراہیم، محمد بن یثیر بن عمر زہرائی، محمد بن یثیر ہام از قنادہ: ایک دن مرض الموت میں عامرون نے لگے پوچھا گیا: کیوں روتے ہو؟ فرمایا: میں موت سے ڈر کر یاد دنیا کی حرص کی وجہ سے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اب مجھے گرمی کے دنوں میں (روزے کی حالت میں) شدت پیاس اور جاڑے کی راتوں میں تھجہ نصیب نہ ہوگا۔

ابن سعد: باخباہار احمد بن ابراہیم، محمد بن یثیر عبد الصمد بن عبد الوارث، محمد بن یثیر ابو بلال، محمد بن یثیر حمید بن بلال از عامر: دنیا چار باتوں کا مجموعہ ہے، نیند، مال، عورت اور طعام دو سے تو میرا نفس محفوظ رہا، مال کی تو مجھے ضرورت ہی لاحق نہیں ہوئی اور عورت کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ عورت ہے یا دیوار اور دو (کھانے اور نیند) کے بغیر چار ہی نہ تھا ان دو سے میں نے ضرور فائدہ اٹھایا اللہ کی قسم میں ان دونوں کو بھی مقدور بھر دفع کرتا رہتا ہوں آپ رات کو دن قرار دیتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے اور دن کو رات قرار دیتے اور روزہ رکھتے اور تھوڑی سی دیر کے لیے سو بھی جاتے۔

ابوالعالیہ ریاحی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ریح ہے آپ کو بنی ریاح کی ایک عورت نے بطور سائبہ کے آزاد کیا تھا۔ ابن سعد: باخباہار عامر بن فضل، محمد بن یثیر حماد بن زید از شعیب بن حجاب از ابوالعالیہ! مجھے ایک عورت نے خرید کر آزاد کرنا چاہا لیکن اس کے پچازاد بھائیوں نے اس سے کہا کہ تم اسے آزاد کر دو گی تو یہ کونفہ چلا جائے گا اور تم سے بالکل کٹ جائے گا، پھر وہ خاتون مجھے مسجد کے ایک حصہ میں لائیں اگر میں چاہوں تو اس جگہ آپ کو لا کر کھڑا کر دوں اور انہوں نے کہا تو سائبہ ہے یعنی میں نے تجھے آزاد کر دیا اب میں تیری وارث نہ بنوں گی اور تیری طرف سے دیت دوں گی۔ ابوالعالیہ اپنے تمام مال کی وصیت فرما گئے تھے۔

ابن سعد: باخباہار حجاج بن نصیر، محمد بن یثیر ابو الخلدہ از ابوالعالیہ: میں نے چاندی یا سونایا مال چھوڑا ہے اس میں سے ایک تہائی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، ایک تہائی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے اور ایک تہائی مسلمان فقراء میں بانٹ دیا جائے اور میری بیوی کا حق بھی دیا جائے، ابوالخلدہ: کیا آپ کے لیے یہ جائز ہے آپ کا مولیٰ کہاں گیا؟ بولے اس کے بارے میں بھی سن لو میں ایک دیہاتی خاتون کا جس کے بیٹے تھے غلام تھا، وہ جمعہ کے دن میرے سامنے آ کر بولیں: بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں بولا مسجد میں بولیں کس مسجد میں؟ میں نے کہا جامع مسجد میں، کہنے لگیں اچھا تو چلو آخر کار میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہو گیا اور ہم نے امام کو منبر پر پایا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا یا اللہ اسے میں تیرے پاس ذخیرہ بنا کر رکھتی ہوں اسے مسجد والو گواہ رہو اس کو میں نے اللہ کے لیے سائبہ کر کے چھوڑ دیا اب کسی کے لیے اس پر بجز معروف راہ کے کوئی راہ نہیں اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی پھر ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ ابوالعالیہ: سائبہ وہ آزاد کردہ غلام ہوتا ہے جسے اللہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسے اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے رہے۔

ابن سعد: باخباہار عمرو بن ہشام و یحییٰ بن حلیف، محمد بن یثیر ابو الخلدہ، بسام ابو العالیہ: ہم مملوک غلام تھے بعض ہم میں سے اپنے سید کو روزانہ پیسے ادا کیا کرتا تھا اور بعض خدمت کیا کرتا تھا اور ہم نے روزانہ قرآن ختم کیا لیکن یہ بڑی محنت کا کام تھا پھر ہم دو دن

میں قرآن ختم کرنے لگے اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی پھر ہم تین دن میں ختم کرنے لگے اب بھی کافی محنت ہوتی تھی اور ہم اس سلسلہ میں آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کیا کرتے تھے پھر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملے انہوں نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ ہم ہر جمعہ یا ہر سات دن میں ختم کیا کریں اب ہمیں زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی تھی اور آرام سے نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور سو بھی جاتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عبدالصمد بن عبدالوارث، محمد بن ہمام، محمد بن یحییٰ بن خالد، ابو العالیہ: میں نے نبی ﷺ کی وفات کے دس سال بعد محکم پڑھیں، حق تعالیٰ نے مجھے دو نعمتوں سے نوازا، نہ معلوم ان میں سے کون سی نعمت افضل ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت اسلام نصیب فرمائی اور اس نے مجھے خارجی نہیں بنایا۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن خلیف بن عقبہ، باخبار ابوخلدہ از ابو العالیہ: میں مملوک تھا اور اپنی سیدہ کی خدمت کیا کرتا تھا پھر میں نے قرآن پاک کی اور عربی کتابت کی تعلیم حاصل کر لی۔

ابن سعد: باخبار ابو قطن عمرو بن ہشیم، محمد بن یحییٰ بن ابوخلدہ از ابو العالیہ: ہم بصرہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایتیں سنا کرتے تھے لیکن ہمارے دل مطمئن نہ ہوئے حتیٰ کہ ہم مدینہ پہنچے اور روایتیں اہل مدینہ کی زبانوں سے سن لیں۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین، محمد بن یحییٰ بن ابوخلدہ، محمد بن یحییٰ بن ابو العالیہ: میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کثرت سے سنتا تھا اللہم عافنا و اعف عنا (یا اللہ! ہمیں عافیت عطا فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما)۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن خلیف، محمد بن یحییٰ بن ابوخلدہ: ابو العالیہ نے اپنا ایک غلام آزاد کیا تو یہ تحریر لکھ دی یہ وہ ہے جسے ایک مسلمان شخص نے آزاد کیا اس نے ایک نوجوان غلام اللہ کی رضا کے لیے بطور سائبہ کے آزاد کیا لہذا بجز معروف راہ کے اس پر کسی کے لیے راہ نہیں۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین، محمد بن یحییٰ بن ابوخلدہ از ابو العالیہ: میں نے ساٹھ یا ستر سال سے اپنے عضو مخصوص کو سیدھے ہاتھ سے نہیں چھوا۔

ابن سعد: باخبار ہشام، ابو الولید طیا لسی، محمد بن یحییٰ بن ابوخلدہ از ابو العالیہ: نہ معلوم مجھ پر دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت افضل ہے سعادت اسلام یا خارجی نہ ہونا۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، محمد بن یحییٰ بن ابوخلدہ، محمد بن یحییٰ بن ابو العالیہ، ریاحی: نہ معلوم مجھ پر دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت افضل ہے وہ نعمت جب اللہ نے مجھے برائی سے چھڑا کر ہدایت اسلام عطا فرمائی یا وہ نعمت جب اللہ نے مجھے خارجی ہونے سے نجات عطا فرمائی۔

ابن سعد: محمد بن یحییٰ بن خلیف، محمد بن یحییٰ بن ابوخلدہ بقول ابو العالیہ: میں عہد علی و معاویہ رضی اللہ عنہما میں جوان تھا اور مجھے لڑائی سے عمدہ کھانے سے بھی زیادہ دلچسپی تھی پھر میں خوب تیاری کر کے دونوں جماعتوں کے پاس آیا میں نے بالقتل دو قطاریں دیکھیں جن کے دونوں کنارے دیکھے نہ جاتے تھے اور دونوں گروہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے آخر کار

میں نے دل میں سوچا کہ میں ان میں سے کس کو کافر قرار دوں اور کس کو مومن یا اسے جس نے مجھے لڑائی پر مجبور کیا؟ آخر کار شام کو میں واپس آ گیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن خلیفہ، محمد بن ابی بکر ابوخلدہ از ابو العالیہ: میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اس وقت آپ بصرہ کے امیر تھے آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھینچ لیا حتیٰ کہ میں تخت پر آپ کے پاس جا بیٹھا ایک تمبی بولا: یہ تو آزاد کردہ غلام ہے میرا کرتے چادر اور پگڑی تینوں کپڑے پندرہ درہم کی قیمت کے تھے۔

ابوخلدہ: میں نے پوچھا کس طرح آپ گزارا کیا کرتے تھے؟ بولے میں بارہ درہم کا سوئی رازی کپڑا خرید لیا کرتا تھا اور اسے پھاڑ کر ایک کرتہ اور ایک پگڑی بنا لیا کرتا تھا اور مجھے تین درہم کا تہ بند کافی تھا جسے کرتے کے نیچے پہن لیا کرتا تھا ہاں چادر عمدہ رکھا کرتا تھا جس کی قیمت میں پانیس درہم تک پہنچ جایا کرتی تھی۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دین، محمد بن ابی بکر ابوخلدہ: میں نے ابو العالیہ پر شلواری دیکھی میں نے کہا: آپ اور شلواریہ کیا؟ فرمایا یہ بھی مردوں کا ایک کپڑا ہے اور اس میں پردہ خوب ہے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، محمد بن ابی بکر ابوخلدہ بسماع ابو العالیہ: اگر میں کسی صراف یا عسکر وصول کرنے والے کے دروازہ سے گزروں تو اس کے برتن سے پانی بھی نہ پیوں۔

ابن سعد: باخبار عثمان بن مسلم و عارم بن فضل، محمد بن حماد بن زید از شعیب بن خطاب: ابو العالیہ آتے تھے اور فرماتے تھے گھر میں جو کچھ موجود ہے ہمیں وہی کھلا دو ہمارے لیے بازار سے خریدنے کی زحمت نہ اٹھانا۔ ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم باخبار ابوخلدہ بسماع ابو العالیہ: ایک دفعہ ابو امیہ عبدالکریم مجھ سے ملنے آئے آپ کبل کے کپڑوں میں ملبوس تھے میں بولا: یہ تو پادریوں کی ہیئت ہے مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اچھا لباس پہن کر ملتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، محمد بن حماد بن زید، محمد بن ابی بکر ابوخلدہ مہاجر ابو العالیہ: میں نے پہلے دن حجاج کی طرح نماز پڑھی (یعنی جمعہ کی نماز کے بعد اس کی طرف بیٹھ کر) پھر اللہ نے اسے مجھ سے اندھا بنا دیا میں نے حجاج کے پیچھے نماز پڑھی حتیٰ کہ مجھے اللہ کا خوف محسوس ہوا اور جب اس کے پیچھے نماز چھوڑ دی تو اس وقت بھی اللہ سے ڈر لگا۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، محمد بن حماد بن زید از ابوخلدہ مہاجر بسماع ابو العالیہ: اگر تم کسی شخص سے یہ سنو کہ وہ کہتا ہو میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے لیے میں بغض رکھتا ہوں تو اس کی اقتدا نہ کرو۔

ابن سعد: باخبار منہال بن جرقشیری، محمد بن ابی بکر ابوخلدہ: میں ابو العالیہ کے پاس بیٹھا تھا اتنے میں آپ کا غلام ایک رومال لایا جس میں مصری تھی رومال بند تھا اور اس پر مہر لگی ہوئی تھی آپ نے مہر توڑ کر غلام کو دس ڈلیاں دیں اور فرمایا اگر غلام چراتا تو دس ڈلیوں سے زیادہ نہیں چراتا ہمیں حکم تھا کہ ہم قاصد اور خادم کو کوئی چیز دیں تو اس پر مہر لگا دیں تاکہ ان کے بارے میں بدگمانی نہ ہو۔

ابن سعد باخبار یحییٰ بن خلیفہ، محمد بن ابی بکر ابوخلدہ: میں نے ابو العالیہ کے لیے ایک غلام خریدا لیکن ابو العالیہ نے اسے نہیں خریدا جب تک اس کے محصول میں دو درہم ہوں کے اضافہ کی شرط نہیں لگوائی۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن خلیف، محمد یث ابوخلدہ بقول ابو العالیہ: ہم اسے بہت بڑا گناہ سمجھا کرتے تھے کہ انسان قرآن سیکھ کر اس سے سو جائے حتیٰ کہ اسے بھول جائے اور اس میں سے کچھ نہ پڑھے۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن خلیف، محمد یث ابوخلدہ: ایک دفعہ میں ابو العالیہ کے پاس گیا آپ میرے لیے کھانا لائے جس میں ساگ تھا فرمایا کھاؤ کیونکہ یہ وہ ساگ نہیں جس میں ہمیں کوئی ڈر ہو۔ یہ میرے بھائی انس بن مالک نے اپنے کھیت میں سے بھیجا ہے میں بولا ساگ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ساگ گندی جگہ بھی آگ آتا ہے جانتے ہو گندی جگہ کیا ہے؟ میں بولا کیا فرمایا جہاں بول و براز اور چیخن والے کپڑے پڑتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن خلیف و عوف بن مسلم بن ابراہیم، محمد یث ابوخلدہ: ابو العالیہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا میں نے اس لونڈی سے پوچھا کہ ابو العالیہ صدقہ فطر کس طرح ادا کیا کرتے تھے؟ بولی اپنی طرف سے تو ایک بورادیا کرتے تھے اور ہم سب کی طرف سے دو دو مکوک (ایک مکوک ڈیڑھ صاع کا ہوتا ہے)۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن خلیف، محمد یث ابوخلدہ: ابو العالیہ اپنے مال کا صدقہ مدینہ میں بھیج دیا کرتے تھے کہ آل نبی کو دے دیا جائے تاکہ وہ مستحق حضرات کو دے دیں۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین، محمد یث ابوخلدہ: ابو العالیہ کا کفن بکر بن عبداللہ کے پاس رہتا تھا جس میں کفوں والا گھنڈی دار ایک کرتے بھی تھا جس کو آپ ہر چوبیسویں تاریخ کو اور رمضان کی دوسری تاریخ کو پہننا کرتے تھے پھر واپس کر دیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن خلیف، محمد یث ابوخلدہ: میں نے دیکھا بیماری میں ابو العالیہ فرش پر بیٹھتے تھے اور گدے پر سجدہ کرتے تھے۔

ابن سعد: (سند حسب سابق) جب ابو العالیہ نے بیماری میں وصیت کی تو میں موجود تھا آپ کے حسن کے پاس کچھ درہم تھے فرمایا ان سے خرید لو کیونکہ میں درہم کا چھوڑنا مکروہ سمجھتا ہوں۔

ابن سعد: (سند حسب سابق) ابو العالیہ نے تندرستی میں ابار وصیت کی اور اس کی ایک مدت مقرر کی اور جب مدت ختم ہو جاتی تو آپ بقید حیات ہوتے پھر آپ چاہتے تو وصیت نافذ فرمادیتے ورنہ لوٹا لیتے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، محمد یث حماد بن زید از شعیب بن حجاب: ابو العالیہ کی اندرونی آستین لونڈی کے چڑے کی تھی جب آپ نماز پڑھتے تو اسے اپنی آستین میں چھپالیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عوف بن مسلم، محمد یث حماد بن سلمہ، محمد یث عاصم احوال: ابو العالیہ نے مورق عجمی کو وصیت کی کہ ان کی قبر پر کھجور کی دو تازہ ٹہنیاں گاڑ دی جائیں مورق عجمی کہتے ہیں: بریدہ اسلمی نے بھی یہی وصیت کی تھی بریدہ خراسان میں فوت ہوئے اور کھجور کی تازہ شاخیں جو اہل حمار سے ملیں اور آپ کو دفن کرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پر گاڑ دی گئیں۔ ابن سعد: بقول جاج، بقول شعبہ: رفیع (ابو العالیہ) نے علی رضی اللہ عنہ کو پایا مگر ان سے سماع نہیں کیا۔ غیر شعبہ: آپ کا سماع حضرت علی اور حضرت ابی بن کعب اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔

ابو امیہؓ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام:

آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کتابت کرائی تھی آپ کا نام عبدالرحمن ہے آپ مبارک بن فضالہ کے دادا ہیں۔ ابن سعد: باخباہ فضل بن دکین متحد یث اسرائیل از عبدالملک بن ابی بشر بحدیث فضالہ بن ابی امیہ از ابو امیہ (ابو امیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے چند معین اوقیوں (ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے) پر کتابت کی اور مجھے ان کی قسطیں مقرر فرما دیں پھر جب آپ تحریر لکھ چکے تو آدمی بھیج کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے دوسو درہم ادھار منگوائے اور مجھے دے دیئے میں بولا: انہیں میری قسط میں کاٹ لیجئے مگر آپ نے انکار کر دیا پھر میں نے دو تین سال تک کوئی قسط ادا نہیں کی پھر میں آپ کے پاس ایک چادر لے کر آیا اور کہنے لگا اسے بچھانے کے لیے لے لیجئے آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا اس سے اپنی قسطوں میں مدد لو میں نے آپ سے درخواست کی کہ میرے لیے اپنے حکام کو لکھ دیجئے آپ نے میری درخواست مسترد کرتے ہوئے فرمایا جاؤ جو وسعت لوگوں کے لیے ہے تمہارے لیے بھی ہے میں نے واپس آ کر عکرمہ سے واقعہ بیان کیا فرمایا: اللہ کی قسم یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے و آتوہم من مال اللہ الذی اعطاکم یعنی اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے انہیں دو۔

ابن سعد: باخباہ قبصہ بن عقبہ متحد یث سفیان از عبدالملک بن ابی بشر بحدیث فضالہ بن ابی امیہ از ابو امیہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کتابت کی پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے اپنا عطیہ آنے تک دوسو درہم ادھار لے کر ان سے میری امداد کی میں نے یہ بات عکرمہ سے بیان کی: فرمایا آپ نے و آتوہم من مال اللہ الذی اعطاکم پر عمل کیا۔

ابن سعد: باخباہ فضل بن دکین متحد یث عیسیٰ بن یحییٰ خزاعی بسماع عکرمہ: میرا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام ابو امیہ سے کتابت کی پھر جب قسط کی مدت آئی تو آپ قسط لے کر اس کے پاس گئے اور کہا ابو امیہ یہ قسط لے کر اس سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری قسطوں میں حصہ دار نہ بنوں ابو امیہ نے قسط لے لی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا آیت پڑھی عکرمہ کا زعم ہے کہ یہ پہلی قسط ہے جو اسلام میں ادا کی گئی ہے۔

ابن سعد: باخباہ عرفان بن مسلم باخباہ مبارک بن فضالہ بحدیث والدہ از والد از دادا اور بحدیث عبید اللہ جمدری از والد از دادا اور بحدیث میمون از جابان میرے چچا سے میرے دادا سے میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مکاتبت کی درخواست کی پوچھا: کتنی رقم دو گے؟ میں بولا: سو اوقیہ آپ نے رقم بڑھوائی نہیں اور اسی پر تحریر لکھ دی اور آپ نے اپنے مال میں سے مجھے فوراً کچھ دینا چاہا لیکن اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا آخر کار آپ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آدمی بھیجا کہ میں نے اپنے غلام سے کتابت کر لی ہے اور میں اسے کچھ مال اپنے مال میں سے فوراً دینا چاہتا ہوں لہذا کچھ آنے تک مجھ دوسو درہم ادھار دے دو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دوسو درہم بھیج دیئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درہم اپنے سیدھے ہاتھ میں لیے اور مذکورہ بالا آیت پڑھی اور فرمایا یہ رقم لے لو اللہ تعالیٰ تم کو اس میں برکت عطا فرمائے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ان میں برکت دی میں اس سے آزاد ہوا اور مجھے اس سے بہت مال ملا پھر میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے عراق جانے کی اجازت دے دیجئے فرمایا جب میں نے تم سے کتابت کر لی تو اب تم جہاں چاہو جاؤ (فرماتے ہیں) مجھ سے ان غلاموں نے کہا جن سے ان کے مالکوں نے کتابت کر رکھی تھی کہ

ہمارے واسطے امیر المؤمنین سے کہو کہ امیر المؤمنین امیر عراق کو ایک خط لکھ کر ہمیں دے دیں جس کی وجہ سے ہماری عزت کی جائے مجھے معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو نہیں مانیں گے اس لیے میں اپنے دوستوں سے شرمایا گیا لیکن پھر بھی میں نے اس سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی تو آپ نے غصہ ہو کر مجھے ڈانٹا اللہ کی قسم اس سے پہلے نہ آپ نے مجھے کبھی برا بھلا کہا تھا اور نہ کبھی ڈانٹا تھا، فرمایا: کیا تو لوگوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے، میں بولا: نہیں، فرمایا: تو ایک مسلمان ہے تیرے لیے وہی گنجائش ہے جو ایک مسلمان کے لیے ہے فرماتے ہیں پھر میں عراق آیا اور مجھے مال ملا اور بہت فائدہ ہوا اور میں نے آپ کو ایک درہ اور ایک غالیچہ بطور ہدیہ کے دیا آپ ان کی مجھ سے تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ عمدہ ہیں میں بولا: امیر المؤمنین! یہ میرا آپ کے لیے ہدیہ ہے فرمایا: ابھی تمہاری کتابت کی کچھ رقم باقی ہے انہیں بیچ کر ان کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ اور آپ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

سیرین انصاری رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام:

آپ کو کتابت سے آزاد کیا گیا تھا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار ہشام بن حسان از محمد بن سیرین: سیرین کی کنیت ابو عمر تھی ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار سعید بن ابی عروبہ از قنادہ از انس بن مالک: مجھ سے سیرین نے مکاتبت کی درخواست کی لیکن میں نے منظور نہیں کی پھر سیرین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کتابت کر دو آخر کار میں نے کتابت کا معاملہ کر لیا۔

ابن سعد: باخبار محمد بن حمید عبدی از قنادہ: سیرین نے ابو محمد انس بن مالک سے کتابت کا سوال کیا، انس رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انس پر درہ اٹھایا اور فرمایا ہاں ان سے کتابت کا معاملہ کر لو آخر کار انس نے کتابت کا معاملہ کر لیا۔

ابن سعد: باخبار معن بن عیسیٰ، محمد بن عیث محمد بن عمرو، بسام محمد بن سیرین: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چالیس ہزار درہم پر کتابت کا معاملہ طے کیا تھا میں نے انہیں یہ ساری رقم ادا کر دی۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل وعفان بن مسلم، محمد بن عیث حماد بن زید از عبید اللہ بن ابوبکر بن انس: ہمارے پاس سیرین کی مکاتبت کی یہ وہ دستاویز ہے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے جوان سیرین کو کتابت کے معاملہ میں اتنے ہزار پر اور دو غلاموں پر جو اس کا کام انجام دیں گے لکھ کر دی، فرماتے ہیں سیرین لو ہار تھے۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد: سیرین کی مکاتبت کے سلسلہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک سرخ چمڑے پر تحریر لکھ دی تھی جو ہمارے پاس ہے یہ وہ ہے جس پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے جوان سیرین سے کتابت کا دس ہزار درہم پر اور دس مزدوروں پر معاملہ کیا، تحریر میں اسی طرح ہے سالانہ ہزار درہم اور ایک مزدور دینا ہوگا۔ بکار: مہر کی مٹی دستاویز کے وسط میں چسپاں تھی اور مٹی کے چاروں طرف تحریر تھی۔

ابن سعد: باخبار معاذ بن معاذ عن بکری، محمد بن عیث علی بن سوید بن مؤف، محمد بن انس بن سیرین از سیرین: مجھ سے انس نے بیس ہزار درہم پر کتابت کی میں تستر کے میگزین کے پاس تھا میں نے پرانا سامان خرید لیا اس میں مجھے فائدہ ہوا پھر میں انس کے پاس

پوری رقم لے کر آیا لیکن آپ نے یکمشت رقم نہیں لی اور کہا قسط وار ادا کرتے رہو آخر کار میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر آپ سے ذکر کیا فرمایا اچھا وہ آپ ہیں آپ نے مجھے کپڑوں کے ساتھ دیکھا تھا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی میں بولا جی ہاں انس میراث کے خواہشمند ہیں پھر آپ نے میرے حق میں انس کو لکھا کہ ان سے یکمشت رقم لے لو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے لے لی۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد بحدیث محمد: سیرین نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میں لنگڑا ہوں اور میرے پاس تین عورتیں ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ تم میرے پاس مدینہ منورہ آ جاؤ میں اپنی بیٹی بختی براء بن مالک کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا کیونکہ وہ بیٹی میرے ہی پاس ہے پھر انس رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا کہ سیرین نے جو لکھا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بولی ابا جان قبول کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے شرف و سیادت میں مزید اضافہ فرمائے گا، بیٹی کی والدہ بھی تشریف فرما تھیں انہیں ڈانٹ کر بولیں: اللہ تجھے جو ان نہ کرے اپنے والد سے یہ بات کہہ رہی ہے؟

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بحدیث وہیب بحدیث ایوب از محمد بحدیث ام حفصہ: جب سیرین نے مجھ سے شادی کی تو سات دن تک مدینہ والوں کی دعوت میں شامل ہونے والوں میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے لیکن آپ کا روزہ تھا ہاں آپ نے دعا کی۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بحدیث حماد بن سلمہ از ایوب و ہشام و حسیب بن شہید از محمد بن سیرین: میرے والد سیرین نے مدینہ میں سات دن ولیمہ کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدعو کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا آپ کا روزہ تھا آپ نے ان کے لیے اللہ سے خیر و برکت کی دعائیں مانگی۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن سیرین: سیرین کے متعدد دلونڈیوں سے ۲۳ بچے ہوئے۔ محمد بن سعد: میں نے محمد بن عبد اللہ انصاری سے پوچھا: محمد بن سیرین کی اصل کہاں سے تھی؟ فرمایا: عین التمر کے قیدیوں سے۔ سیرین انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ محمد بن سعد کہتے ہیں میں نے بعض کہنے والوں سے یہ بھی سنا ہے کہ سیرین جریرا کے تھے میرے خیال میں انہیں جس نے جریرا کا بتایا ہے اسے وہم ہے جریرا میں تو سیرین کی زمین تھی۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد بن محمد بن سیرین نے یہ زمین جریرا کے دیہات میں خرید لی تھی پھر یہ محمد اور ان کے بھائی یحییٰ کے قبضہ میں رہی اور وہ اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے رہے اس میں ایک باغ انگوروں کا بھی تھا لوگوں نے اس سے شراب بنانے کا ارادہ کیا محمد نے کہا ایسا نہ کرو تازہ انگور فروخت کر دو بولے: خرچ پورا نہ ہو گا فرمایا اچھا تو منے بناؤ بولے اس کے منے بننے نہیں آخر کار آپ نے انگور کٹوا کر پانی میں ڈلوادینے اور چلے گئے۔

کہتے ہیں: سیرین ایک مشہور آدمی تھے آپ قدرے حدیثیں بھی روایت کرتے ہیں۔ بکار بن محمد سیرین نے تنوں سے جو بیٹھک بنائی تھی وہ میں نے دیکھی ہے میں نے ان میں سے چالیس تے ہر تہہ ایک ایک دینار کا فروخت کیا ہے۔

ارطبان رضی اللہ عنہ، مولیٰ عبد اللہ:

ابن درہ بن سراق مزنی آپ عبد اللہ بن عون بن ارطبان کے دادا ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔ ابن سعد:

ابن سعد: باخبار وہب بن جریر بن حازم باخبار شعبہ از عاصم از غنیم بن قیس: مجھے وہ کلمات یاد ہیں جو میرے والد نے سرکارِ رسالت ﷺ کی شان اطہر میں عرض کیے تھے کہا تھا۔

اَلَا لِيَ الْوَيْلُ عَلٰی مُحَمَّدٍ قَدْ كُنْتُ فِي حَيَاتِهِ بِمَقْعِدِ

اِنَام لَيْلِي اَمْنًا اِلَى الْغَدِ

’رحمت عالم ﷺ کی وفات پر جس قدر بھی اظہارِ حسرت کیا جائے کم ہے میں آپ کی زندگی میں اپنے مکان میں رات میں صبح تک بے خوف ہو کر سوتا تھا۔‘

فرماتے ہیں: آپ ثقہ ہیں مگر قلیل الحدیث ہیں۔

سنان بن سلمہ بن محبت ہذلی رضی اللہ عنہما:

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔

ابن سعد: باخبار حجاج بن نصیر متحد یث قرہ بن خالد از ہارون بن رباب اسیدی متحد یث سنان بن سلمہ (آپ بحرین کے حاکم تھے) ہم مدینہ کے بچے کھجوروں کے تھا نولوں خشک گری ہوئی کھجوریں جن کو خلال کہا جاتا تھا چنا کرتے تھے ایک دن ہمارے پاس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تمام بچے بھاگ گئے لیکن میں اپنی جگہ پر بجا رہا پھر جب آپ میرے بالکل قریب آگئے تو میں بولا: امیر المؤمنین! یہ تو وہ کھجوریں ہیں جو ہوا سے جھڑ گئی ہیں فرمایا: مجھے دکھا میں دیکھ لوں کیونکہ مجھے ہر طرح کی کھجور معلوم ہے چنانچہ آپ نے میرے دامن میں کھجوریں دیکھ کر فرمایا تیری بات سچی ہے میں نے کہا امیر المؤمنین! اب آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ راہ میں مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور میری تمام کھجوریں چھین لیں گے فرماتے ہیں پھر آپ نے مجھے میرے گھر تک پہنچایا۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین متحد یث ابو الریح سنان از ہارون بن رباب از سنان بن سلمہ ہذلی: ایک دن میں بچوں کے ساتھ نکلا، ہم مدینہ میں گری ہوئی خشک کھجوریں چن لیا کرتے تھے اچانک ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو درہ لیے ہوئے آتا دیکھا آپ کو دیکھ کر بچے بھاگ کر کھجوروں کے جھنڈوں میں چھپ گئے لیکن میں کھڑا رہا میرے تہہ بند کے دامن میں وہ کھجوریں تھیں جو میں نے چنی تھیں میں نے کہا: امیر المؤمنین! یہ ہوا سے جھڑی ہوئی کھجوریں ہیں آپ نے انہیں میرے تہہ بند کے دامن میں دیکھا اور آپ نے مجھے مارا نہیں میں بولا: امیر المؤمنین! اس وقت بچے میرے آگے ہیں وہ میری کھجوریں لے لیں گے فرمایا: ہرگز نہیں، قدم اٹھا چنانچہ آپ میرے ساتھ ساتھ میرے گھر تک تشریف لائے۔

عمیر بن عطیہ لیشی رضی اللہ عنہما:

ابن سعد: باخبار احمد بن اسحاق حضرمی متحد یث عبد الواحد بن زیاد: متحد یث عاصم احوال متحد یث عمیر بن عطیہ لیشی: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا: امیر المؤمنین اپنا ہاتھ اٹھائیے اللہ تعالیٰ اسے بلند ہی رکھے میں اللہ کے طریقہ پر اور اس کے رسول کے طریقہ پر آپ سے بیعت کروں گا آپ نے ہنس کر ہاتھ اٹھا دیا اور فرمایا: بیعت ہمارے لیے تم پر اور تمہارے لیے ہم پر

ہے۔

عباد عصری رضی اللہ عنہ:

عصر عبدالقیس کا ذیلی خاندان ہے۔ عباد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔ ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار عمرو بن ولید شمی از شہاب بن عباد عصری بحدیث عباد عصری: ہم عرفہ کے دن عرفات میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو کر فرمایا: یہ خیمے کس کے ہیں؟ لوگ بولے: عبدالقیس کے آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی پھر فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے آج کوئی روزہ نہ رکھے۔

حصین بن ابی الحر بن مالک رضی اللہ عنہ:

ابن شخاش بن غیاث بن حارث بن خلیف بن حارث بن مخمر بن کعب بن عمر بن عمرو بن تمیم ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم کلابی: حصین بن ابوالحر میمان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حاکم تھے آپ حجاج کے زمانہ تک زندہ رہے ایک دن آپ کو حجاج کے پاس لایا گیا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا پھر کہا اس کا مرتبہ بلند نہ کرو بلکہ گھسیٹ کر جیل میں ٹھونس دو کہ مر جائے چنانچہ آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا حتیٰ کہ آپ جیل ہی میں فوت ہو گئے آپ بصرہ کے قاضی عبید اللہ بن حسن کے داوا ہیں۔

ابوالمہلب جرمی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبدالرحمن بن معاویہ ہے اور آپ ابو قلابہ جرمی کے چچا ہیں اور حضرات عمر و عثمان رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں اور ثقہ ہیں مگر قلیل الحدیث ہیں۔

عاضرہ بن عمرو بن سرہ رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو و عجمی پھر عدوی آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید: میں نے ابو قلابہ کی کسی کتاب میں پڑھا: یہ خط عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف ہے میں عاضرہ کو آپ کے پاس کئی خط دے کر بھیج رہا ہوں اگر یہ آپ کے پاس فلاں فلاں تاریخ تک پہنچ جائیں تو ان کو دو سو درہم دے دینا اور اگر بعد میں پہنچیں تو کچھ نہ دینا اور مجھے لکھنا کہ یہ کس دن آپ کے پاس پہنچے۔

عبداللہ بن شقیق عقیلی رضی اللہ عنہ:

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھے تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر بلا لیا اور شام کا کھانا لایا گیا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا۔ ابن سعد: تحدیث اسماعیل بن ابراہیم اسدی از خالد حذاء: ابو قلابہ نے عبداللہ بن شقیق کا بیان کیا اور فرمایا ابو قلابہ بڑے اچھے آدمی ہیں اگر وہ عرب نہ بنیں۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم تحدیث بشر بن کثیر اسدی: میں نے عبداللہ بن شقیق پر تیشمیں چادر دیکھی۔ کہا جاتا ہے: آپ عثمانی تھے آپ ثقہ ہیں اور عمدہ حدیثوں کے راوی ہیں آپ کی وفات عراق میں حجاج کے زمانہ میں ہوئی۔

مسیب بن دارم رضی اللہ عنہ:

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور آپ سے بصری راوی ہیں۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین باخبار ابوخلدہ بن محمد یث مسیب بن دارم: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ میں درہ لیے ہوئے دیکھا آپ نے درہ ایک لوٹھی کے سر پر مارا جس سے اس کا نقاب ہٹ گیا اور فرمایا: لوٹھی آزادی کا وضع کیوں اختیار کرتی ہے۔

ابن سعد: باخبار ابو داؤد سلیمان طیا لسی باخبار ابوخلدہ بن محمد یث مسیب بن دارم: میں نے دیکھا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ والے کو مارا اور فرمایا: تو اونٹ کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ کیوں لادتا ہے؟
شولیس بن جباش رضی اللہ عنہ:

آپ رقاد عدوی کے والد ہیں اور بنو عدوی بن عبدمنافہ بن اذ بن طابخہ سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور عہد فاروقی کے غازی ہیں۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم بن محمد یث اسحاق بن عثمان قرظی بن محمد یث شولیس عدوی: ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے تھے پھر اپنے گھر جا کر سوتے تھے۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار جعفر بن کیسان بن محمد یث ابو الرقاد شولیس عدوی: میں میسان کی جنگ میں شریک تھا پھر میں نے عہد فاروقی میں دو ہزار دو درہم وصول کیے اور ایک لوٹھی بھی جس سے میں ایک زمانہ تک صحبت کرتا رہا حتیٰ کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ میسان کے تمام قیدیوں کو چھوڑ دو مجھے بھی اپنی لوٹھی چھوڑنی پڑی مجھے معلوم نہیں کہ چھوڑتے وقت وہ حاملہ تھی یا غیر حاملہ مجھے ڈر ہے کہیں میسان میں میری پشت سے مرد اور عورتیں نہ ہوں۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار غاصم احوال از شولیس ابو الرقاد: ہمیں عہد عمر رضی اللہ عنہ میں ایک یا دو درہم دیئے جاتے تھے اور ہم انہیں لے لیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد یث مہدی بن میمون بسماع سعید جریری: میں نے مسجد بنی عدی میں شولیس کے پاس عصر کی نماز پڑھی آپ ان میں سے تھے جنہوں نے عہد فاروقی میں دو درہم لیے۔
حصیل بن جریر رضی اللہ عنہ:

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابو سعید رضی اللہ عنہ:

آپ ابو اسید انصاری کے آزاد کردہ غلام ہیں اور حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں۔

حطان بن عبد اللہ رقاشی رضی اللہ عنہ:

آپ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں اور عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں عراق پر بشر بن مروان کی امارت کے زمانہ میں فوت ہوئے آپ ثقہ ہیں مگر قلیل الحدیث ہیں۔

ایاس بن قتادہ بن اوفی رضی اللہ عنہ:

ابن مویلہ بن عتبہ بن ملاد بن عشمس بن سعد بن زید منافہ بن تمیم آپ کی والدہ فارغہ بنت حمیری بن عبادہ بن نزال بن

مرہ ہیں اور آپ کے والد قداہ بن اوفی صحابی ہیں ایسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں ثقہ ہیں مگر تھوڑی حدیثوں والے ہیں۔
جاہریا جو میر عبدی رضی اللہ عنہ۔

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔
جراد بن شمیط رضی اللہ عنہ۔

اس طبقہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے اس خط کی باتیں روایت کرتے ہیں جو آپ نے ابو موسیٰ اشعری اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما وغیرہ کو لکھا تھا اور عہد فاروقی میں ان حضرات میں سے اکثر نے لڑائیوں میں حصہ لیا ہے (ان حضرات کی تفصیل حسب ذیل ہے)۔
فضیل بن زید رقاشی رضی اللہ عنہ۔

ابن سعد: باخبار و کعب بن جراح از سفیان از عاصم: فضیل بن زید نے عہد فاروقی میں سات لڑائیوں میں حصہ لیا۔ ابن سعد: باخبار عقیان بن مسلم تجدیث ابو زید ثابت بن یزید تجدیث عاصم احوال از فضیل بن زید رقاشی: آپ نے عہد عمر رضی اللہ عنہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر سات لڑائیاں لڑی ہیں فرمایا کرتے تھے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا آپ عبد اللہ بن مفضل وغیرہ سے راوی ہیں۔

مہلب بن ابو صفیرہ عتکی رضی اللہ عنہ۔

ابو صفیرہ کا نام ظالم بن سراق ہے اور مہلب کی کنیت ابو سعید ہے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پایا لیکن ان سے کچھ روایت نہیں کرتے اور سمرہ بن جندب وغیرہ سے روایت کرتے ہیں آپ خراسان کے والی تھے اور مروالروز میں عہد عبد الملک میں ۸۳ھ میں فوت ہوئے آپ نے خراسان پر اپنے صاحبزادے یزید بن مہلب کو اپنا نائب بنا دیا تھا پھر جاج نے یزید کو بحال رکھا۔
بجالہ بن عبدہ رضی اللہ عنہ۔

آپ جزء بن معاویہ کے کاتب اور احنف بن قیس کے چچا ہیں فرماتے ہیں ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ ہر جادوگر اور جادوگری کو قتل کر ڈالو۔

ابوقداہ عدوی رضی اللہ عنہ۔

آپ کا نام تمیم بن نذیر ہے ثقہ ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابوالدہماء عدوی رضی اللہ عنہ۔

آپ کا نام قرفہ بن مہس ہے آپ ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں اور عمران بن حصین سے راوی ہیں بعض حدیثوں میں آپ کا نام مالک بن سہم بھی آتا ہے۔

ابوزینب رضی اللہ عنہ۔

ابن سعد: باخبار عبد الملک بن عمر ابو عامر عتدی تجدیث شعبہ از عاصم بسام ابوزینب: (آپ عہد عمر کے غازی ہیں) ہم

نے جہاد کیا ہمارے ساتھ ابو بکرہ ابو بکرہ اور عبد الرحمن بن سمرہ بھی تھے اور ہم پھلوں میں سے کھالیا کرتے تھے۔
ابو کنانہ قرشی رضی اللہ عنہما:

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار زیاد بن ابی زیاد حصاص بن محمد یث ابو کنانہ قرشی: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے (کہ تم نے کہا ہے) کہ اگر میں پہلے مرجاتا تو میرے لیے بہتر ہوتا فرماتے ہیں: اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے ان کے نام لکھ کر بھیجو جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے۔

قیس بن عباد قیس رضی اللہ عنہما:

ابن سعد: محمد یث کعب بن جراح و عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعید از ایاس بن غفل از عبد اللہ بن قیس بن عباد از قیس: قیس نے وصیت کی کہ مجھے بمئی چادروں میں کفنانا اور اس پر وہ سفید کبیل ڈھانپ دینا جس میں میں نماز پڑھا کرتا تھا پھر جب مجھے قبر میں اتارو تو میرے جسم والے کفن کو نیچے سے پھاڑ دو حتیٰ کہ تم مجھے بلا کفن کے زمین پر رکھ دو۔ و کعب: جو بولتا یعنی زمین سے متصل جو کفن ہے اسے پھاڑ دو۔ آپ ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں۔

ہرم بن حیان عبدی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ اور اہل فضل و عبادت ہیں آپ سے حسن بصری راوی ہیں۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبد اللہ اسدی محمد یث سفیان از ہشام از حسن از ہرم بن حیان: آپ یہ دعانا گنا کرتے تھے یا اللہ مجھے اس زمانہ سے اپنی پناہ میں رکھنا جس میں چھوٹے سرکشی پر اتر آئیں۔ بڑے اُمیدیں باندھ لیں (عمل نہ کریں) اور ان کی عمریں تھوڑی تھوڑی ہوں۔ آپ سے وصیت کے لیے کہا گیا تو فرمایا: میں تم کو سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کی وصیت کرتا ہوں۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین محمد یث سیف بن ہارون برجی از منصور بن مسلم بن ساہور بحدیث شیخ از بنی حرام از ہرم بن حیان عبدی: میں بصرہ سے آیا تو میں اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے فرات کے کنارے پر ملا آپ ننگے پیر تھے میں نے پوچھا: بھائی جان! کیا مزاج ہے؟ اویس کیا حال چال ہیں بولے بھائی جان آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں نے کہا: کوئی حدیث بیان فرمائیے بولے میں اپنے اوپر محدث یا قصہ گو یا مفتی ہونے کا دروازہ کھولنا پسند نہیں کرتا پھر اویس نے میرا ہاتھ پکڑا اور رو پڑے میں نے کہا: مجھے کچھ قرآن ہی سنا دیجئے آپ نے اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم پڑھ کر حو والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة الخ کی تلاوت شروع فرمادی جب آپ انہ ہوا عزیز الرحيم پر پہنچے تو بیہوش ہو کر گر گئے پھر ہوش میں آئے اور فرمایا مجھے تنہائی بہت پیاری ہے۔

ابن سعد: باخبار یوسف بن غرق باخبار ایوب بن خوط از حمید بن ہلال از ہرم بن حیان: میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی شے سے بھاگنے والے کو نیند آ جائے اور جنت جیسی شے کے طلبگار کو نیند آ جائے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل محمد یث حماد بن سلمہ محمد یث ابو عمران جونی: ہرم ایک چاندنی رات میں گشت کے لیے

نکلے تو آپ کا پہرہ دار کھیل میں مصروف تھا آپ نے اسے بلا کر حکم دیا کہ کل روزہ رکھنا آپ نے اس کے ساتھ تین راتوں تک ایسا ہی کیا پھر فرمایا اب جا کر کھیل۔ ہرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حاکم تھے۔

ابن سعد: باخبار عبدالوہاب بن عطاء باخبار سعید بن ابی عروبہ از قتادہ: مجھے خبر ملی ہے کہ ہرم سے کہا گیا: وصیت فرما دیجئے، بولے: کیا وصیت کروں؟ البتہ میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا اگر باقی رہ جائے تو میرا گھوڑا بیچ کر ادا کر دینا اگر پھر بھی باقی رہ جائے تو میرا غلام بیچ کر ادا کر دینا، میں تم کو سورہ نخل کی پچھلی آیتوں پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں ادع الی سبیل ربك سے لے کر والذین ہم محسنون تک۔

ابن سعد: باخبار اسماعیل بن ابراہیم اسدی باخبار ہشام از حسن: جب خطبہ کی حالت میں کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ کھڑا ہو کر اپنی ناک پکڑ لیتا پھر امام اشارے سے اسے باہر جانے کی اجازت دے دیتا چنانچہ ایک شخص نے اپنے گھر جانا چاہا ہرم خطبہ بیان فرما رہے تھے اس شخص نے کھڑے ہو کر اپنی ناک پکڑ لی ہرم نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا وہ اپنے گھر گیا، گھر میں ٹھہرا پھر آیا، ہرم نے پوچھا کہاں تھے؟ بولا گھر میں پوچھا: کیا اجازت سے گھر گئے تھے؟ بولا: جی ہاں، آپ خطبہ دے رہے تھے میں اپنی ناک پکڑ کر کھڑا ہو گیا پھر آپ نے اشارہ کیا کہ میں چلا جاؤں (چنانچہ میں چلا گیا) فرمایا: تو نے یہ فساد کا سبب بنایا یا اسی قسم کا کوئی کلمہ فرمایا پھر فرمایا اللہ برے لوگوں کو برے زمانہ کے لیے مؤخر فرما دے۔

ابن سعد: باخبار ابو عبد اللہ عبدی بخدیث اہل بن محمود بخدیث عبد العزیز عی از ابو عمران جونی از ہرم: اپنے کو فاسق عالم سے بچاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی خبر لگی اور آپ نے اس کلمہ سے خطرہ محسوس کیا اور پوچھا کہ فاسق عالم کیا ہے؟ ہرم نے لکھا: امیر المؤمنین! اللہ کی قسم! میری مراد اس سے صلاح و خیر ہی تھی، ایک امام ہوتا ہے اور عوام کو اچھی اور علم کی باتیں بتاتا ہے لیکن اس کا رویہ فاسقانہ ہوتا ہے اور اس طرح لوگوں کو گڑبڑ میں ڈال دیتا ہے اور وہ گمراہ ہوجاتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار ابو عبد اللہ عبدی بخدیث سیار از جعفر بن سلیمان از مالک بن دینار: ہرم کو حاکم بنایا گیا، آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی قوم آپ کے پاس آئے گی آپ نے اپنے اور اپنی قوم کے آنے والوں کے درمیان آگ جلوائی قوم کے لوگ آئے انہوں نے آپ کو دور ہی سے سلام کیا: فرمایا: مرحبا، مرحبا، خوش آمدید، قریب آؤ قوم نے کہا ہم آپ کے قریب کیسے آسکتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان آگ حائل ہے فرمایا: کیا تم مجھے اس آگ سے زیادہ سخت آگ میں جو جہنم کی ہے ڈالنا چاہتے ہو آخر کار وہ واپس چلے گئے۔

ابن سعد: باخبار احمد بن ابی اسحاق از محمد بن حسین بسماع ہشام از حسن: ہرم ایک غزوہ میں گرمی کے زمانہ میں انتقال فرما گئے سب آپ کو دفن کیا جا چکا تو ایک مادل آپ کی قبر پر چھا گیا اور برسنے لگا حتیٰ کہ قبر خوب سیراب ہو گئی اور قبر کے علاوہ کہیں ایک قطرہ بھی نہیں گرا پھر وہ مادل جدھر سے آیا تھا ادھر ہی لوٹ گیا۔

ابن سعد: باخبار احمد بن ابی اسحاق از نوح بن قیس بخدیث عون بن ابی شادا ایک شخص سے جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: ہم ہرم کے جنازے میں شریک تھے جبکہ ہم گرمی کے زمانہ کے جہاد میں مصروف تھے پھر جب ہم قبر تیار کر کے فارغ ہو گئے تو

ایک ابراہٹھا اور آپ کی قبر پر اور آس پاس آ کر برس پھر چلا گیا۔

ابن سعد: باخباہار احمد بن ابی اسحاق از ضرہ بن ربیعہ از سری بن یحییٰ از قنادہ: ہرم کی قبر پر اسی دن بارش ہوئی اور اسی دن گھاس

آگ آئی۔

صلہ بن اشیم عدوی رضی اللہ عنہ:

آپ بنی عدی بن عبدمنانہ بن اذ بن طابخہ بن الیاس بن مضر سے ہیں آپ کی کنیت ابو الصہباء تھی بڑے پارسا صاحب

فضل اور نیک تھے آپ ثقہ ہیں۔

ابن سعد: باخباہار عتاب بن زیاد از عبد اللہ بن مبارک باخباہار عبد الرحمن بن یزید بن جابر: مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: حیرت امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام صلہ ہوگا اس کی شفاعت سے لوگ جنت میں اتنے اتنے داخل ہوں گے۔

ابن سعد: باخباہار عوفان بن مسلم: محمد بن زریک بن ابی زریک: محمد بن ابی السلیس قیس: میں نے صلہ عدوی کے پاس آ کر

کہا: صلہ! مجھے بھی اس علم میں سے سکھا دو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فرمایا: تم مجھ جیسے ہو یا میری طرح ہو جس دن میں رحمت

عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس گیا تھا کہ ان سے علم پکھوں میں نے بھی کہا تھا کہ اپنے علم میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے

انہوں نے کہا تھا قرآن کی فصاحت مانو اور مسلمانوں کے خیر خواہ اور ناصح بن کر رہو اور کثرت سے مقدر بھر اللہ سے دعائیں مانگتے رہو

اور جاہلیت کے جیسے عام بلوے میں لٹھی کے مقتول نہ ہو کیونکہ اس مقتول کے بارے میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے خزیر کے

پیر کو گھسیٹا یا اس کے پیر کو اور ان لوگوں سے خود کو بچاؤ جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ایمان سے انہیں ادنیٰ سا بھی تعلق نہیں

یعنی خارجیوں سے آپ نے تین بار یہی فرمایا۔

ابن سعد: باخباہار عارم بن فضل: محمد بن ثابت بن یزید: محمد بن عاصم: حول از فضیل بن یزید: صلہ نے میرے پاس آ کر

کہا: آج کل لوگوں میں گواہی کی بہتات ہے اگر تم گواہی دو تو ایسی گواہی دو جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ فرمادے اور اہل علم میں بھی

گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے بے نیاز ہے نہ صاحب اولاد ہے اور نہ صاحب والدین اور کوئی اس کے مقابلہ کا نہیں۔

ابن سعد: باخباہار عوفان بن مسلم: محمد بن حماد بن سلمہ از ثابت از صلہ: نہ معلوم مجھے اپنے دونوں میں سے کس دن زیادہ

مست ہوتی ہے یا اس دن جس دن میں صبح اللہ کے ذکر کے لیے نکل جاتا ہوں یا اس دن جس دن میں اپنے کسی کام کے لیے نکلتا

ہوں اور ذکر اللہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔

ابن سعد: باخباہار عوفان بن مسلم: محمد بن حماد بن سلمہ باخباہار ثابت البنانی: صلہ اور آپ کے اصحاب کے پاس سے ایک

نوجوان دامن گھسیٹتا ہوا گزرا اصحاب صلہ نے چاہا کہ اسے زبان سے آڑے ہاتھوں لیں صلہ نے فرمایا چھوڑو میں اس کے معاملہ میں

تم سب کی طرف کافی بنا جاتا ہوں فرمایا بھتیجے! مجھے تم سے ایک کام ہے بولا: کیا کام ہے؟ فرمایا: مجھے یہ بات محبوب ہے کہ تم اپنا تہبند

اونچا رکھو بولا ہاں ہاں بسر و چشم چنانچہ اس نے اپنا تہبند اونچا کر لیا۔ پھر صلہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تم نے جو ارادہ کیا

تھا اس سے یہ بات افضل ہے اگر تم اسے برا بھلا کہتے اور ایذا پہنچاتے تو وہ بھی جواب میں تمہیں آڑے ہاتھوں لیتا۔

ابن سعد: باخبار ابو عمر عبد اللہ بن عمرو مقرئ متحد بیٹ عبد الوارث بن سعید متحد بیٹ اسحاق بن سوید متحد بیٹ معاذہ عدویہ: صلہ رام ہرمز اور اس کے گرد و نواح میں قبیلہ کے چرنے والے اونٹوں کے پاس سے گزرے (اتفاق سے) کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور آپ کو سخت بھوک محسوس ہونے لگی پھر آپ ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے جو غلہ سے بھری ہوئی کشتی اٹھائے ہوئے تھا پوچھا: کھانا ہے؟ بولا: جی ہاں فرمایا: کشتی اتار دے اور مجھے کھانا کھلاؤ بولا: اے اللہ کے بندے میں فلاں بستی کا ہوں اور فلاں دیہاتوں میں جا رہا ہوں اور کھانا میرے پاس بقدر کفایت ہی ہے آپ نے اسے معذور سمجھ کر چھوڑ دیا پھر جب وہ نکل گیا تو آپ پچھتاتے لگے فرماتے ہیں: اگر میں اس کے کھانے میں سے لے لیتا تو میرے لیے جواز تھا پھر دوسرا شخص کشتی لے جاتا ہوا ملا پوچھا: کیا تیرے پاس کھانا ہے؟ بولا: جی ہاں فرمایا بوجہ اتار کر مجھے کھانا کھلا اس نے بھی پہلے شخص کی طرح جواب دیا کہ میں فاروندہ کا ہوں اور فلاں فلاں دیہاتوں میں جا رہا ہوں اور میرے پاس میری ضرورت کے مطابق ہی کھانا ہے دل میں کہا: اس سے بھی میرے لیے وہی حلال ہے جو پہلے سے تھا اور اسے جانے دیا پھر تیسرے شخص کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا آپ نے اس سے لینے میں بھی حرج سمجھا اور اسے بھی چھوڑ دیا پھر اس حال میں کہ آپ ایک تنگ بند سے جس کے دائیں بائیں بلندی تھی گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ اپنے گھوڑے کے پیر دھسنے کی آواز سنی آپ ادھر متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شے ہے جس پر بال لپیٹے ہوئے ہیں معلوم نہیں کیا ہے آپ سواری سے اتر آئے میرے خیال میں اگر وہ آپ کے سامنے ہوتی تو جو تنگ راہ سے گزر رہے تھے وہ اسے دیکھ لیتے۔ فرماتے ہیں کہ راہ تنگ ہونے کی وجہ سے آپ اپنی سواری کو موڑ نہ سکے آخر کار آپ نے اپنے جانور کا سر پکڑا اور اس کے پیر کے پاس سے وہ لپٹی ہوئی چیز اٹھالی دیکھا تو وہ کھجور کی چھوٹی سی بچھی ہے جس پر بال لپیٹے ہوئے ہیں اور اس میں تازہ تازہ کھجوریں ہیں آپ نے اس میں سے کھجوریں کھائیں حتیٰ کہ سیر ہو گئے پھر چلتے چلتے ایک پادری کے پاس ایک گرجہ میں ٹھہرے پادری کھانا لے کر آیا مگر آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا پادری نے کہا: اے اللہ کے بندے میرا کھانا کیوں نہیں کھاتا حالانکہ تیرے پاس نہ سامان ہے اور نہ کھانا فرمایا: کیوں نہیں مجھے ایسا ایسا رزق ملا ہے بولا: کیا ان میں کچھ کھجوریں باقی ہیں؟ فرمایا: ہاں ہیں بولا: مجھے بھی کھلاؤ آپ نے اسے بچھی پکڑا دی راہب بولا: اے اللہ کے بندے تجھے اللہ نے روزی پہنچائی ہے دیکھتا نہیں آج کل نخلستان بالکل صاف ہیں ان میں ایک کھجور بھی نہیں اور یہ تازہ کھجوروں کا موسم بھی نہیں فرماتے ہیں پھر آپ ہمارے پاس وہ بچھی لے کر آئے اور وہ ہمارے پاس کافی دنوں تک رہی اور نہ معلوم کیونکر جاتی رہی۔ عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں: ایک شاعر کہتا ہے۔

الا يا امّ الأسود إنّ رأسي
تَعَشَى لَوْنُهُ سَبَّ جَدِيدُ
”اے ام اسودن! میرے سر کے رنگ پر نئے بال چھانگئے۔“

فَلَوَانُ الشَّبَابِ يُبَاعُ بَيْعًا
لَا عَطِيَّتُ الْمُبَاعِ مَا يُرِيدُ
اگر جوانی فروخت ہوتی تو میں بالغ کی منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیتا۔

وَلَكِنَّ الشَّبَابَ إِذَا تَوَلَّى
عَلَى شَرَفٍ فَمَطْلَبُهُ بَعِيدُ
لیکن جب جوانی پیٹھ موڑ کر ٹیلہ پر چلی جاتی ہے تو اس کا تلاش کرنا بڑا دشوار ہے (پھر ہاتھ نہیں آتی)۔“

ابن سعد: باخباہر اسماعیل بن ابراہیم اسدی از یونس از حسن از ابوالصہباء صلہ بن اشیم: میں نے دنیا حلال کی ہر احتمال والی جگہ سے تلاش کی لیکن وہ مجھے بقدر سدر متق ہی ملی، میں دنیا کا حاجت مند نہیں اور دنیا مجھ سے آگے نہیں پھلا گئی پھر جب میں نے یہ نکتہ معلوم کر لیا تو میں نے کہا اے نفس! تیری روزی برابر برابر ہے لہذا درمیانی راہ اختیار کر آخر کار اس نے درمیانی راہ اختیار کر لی اور حد سے زیادہ محنت چھوڑ دی۔

ابن سعد: باخباہر عفان وغیرہ از جعفر بن سلیمان از یزید رشک از معاذہ: ابوالصہباء نماز پڑھتے رہتے تھے اور جب تھک کر چور ہو جاتے تو بستر پر تشریف لاتے۔

ابن سعد: باخباہر عفان بن مسلم بخدیث حماد بن سلمہ باخباہر ثابت: صلہ کے ایک بھائی فوت ہو گئے پھر آپ کے پاس ایک شخص آیا آپ کھانا کھا رہے تھے بولا ابوالصہباء آپ کے بھائی فوت ہو گئے فرمایا آؤ کھاؤ اس بہادر پر افسوس جس کی موت کی ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے آپ نے کئی دفعہ یہ جملہ کہا وہ بولا: اللہ کی قسم مجھ سے پہلے کسی نے آپ کو ان کی موت کی خبر نہیں دی پھر آپ کو کس نے خبر دی؟ فرمایا حق تعالیٰ نے، حق تعالیٰ فرماتا ہے آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور لوگ بھی۔

ابن سعد: باخباہر عفان بن مسلم اور عمرو بن عاصم کلابی بخدیث سلیمان بن مثیرہ از حمید بن ہلال از صلہ: میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں ایک جماعت میں ہوں ہمارے پیچھے ایک شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے جب ہم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اس کا سراٹھا دیتا ہے۔ اور سر گر پڑتا ہے پھر وہ دھڑ پر سر رکھ دیتا ہے اور سر حسب سابق جڑ جاتا ہے میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ شخص میرے پاس کب آتا ہے اور کب یہی معاملہ میرے ساتھ کرتا ہے آخر کار وہ میرے پاس آ کر میرا سر بھی اڑا دیتا ہے اور سر گر جاتا ہے گویا میں اپنے سر کو دیکھ رہا ہوں جب میں نے اسے پکڑا تو سر کے بالوں سے مٹی جھڑی پھر میں نے اسے لٹا دیا اور سر حسب سابق جڑ گیا۔

ابن سعد: باخباہر عفان بن مسلم بخدیث سلیمان بن مثیرہ بخدیث حمید بن ہلال: صلہ ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے بھی تھے اور قبیلہ کا ایک دیہاتی بھی۔ دیہاتی بولا: ابوالصہباء! میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک گھنے سایہ والے درخت کے پاس آئے ہیں آپ کو اس کے نیچے شہد سے بھرے ہوئے تین چھتے ملے ہیں ایک چھتہ تو آپ نے مجھے دے دیا ہے اور دو اپنے پاس رکھ لیے ہیں میں دل میں کڑھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے دوسروں میں شریک نہیں کیا پھر یہ تینوں حضرات معرکہ کارزار میں جاڈٹے، صلہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ آگے بڑھو بیٹا تلوار سونت کر میدان میں کود پڑا اور شہید ہو گیا اور صلہ بھی شہید ہو گئے اور دیہاتی بھی۔

ابن سعد: باخباہر عفان بن مسلم بخدیث حماد بن سلمہ از ثابت: صلہ ایک غزوہ میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے نوجوان فرزند بھی تھے بولے پیارے بچے آگے بڑھ کر حملہ کر دو حتیٰ کہ میں ثواب کی غرض سے تم پر صبر کروں باپ کا فرمانبردار بیٹا حکم سنتے ہی آگے بڑھ کر حملہ کرتا ہے اور لڑتے لڑتے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے پھر صلہ بڑھ کر حملہ کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے اپنے بیٹے سے جا ملتے ہیں پھر آپ کی بیگم معاذہ صدویہ کے پاس عورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ معاذہ! اگر تم مجھے مبارکباد دینے آئی ہو تو مرحبا آؤ

اور سر آنکھوں پر بیٹھو اور اگر دوسرے مقصد کے لیے آئی ہو تو ازراہ کرم واپس چلی جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ عراق پر حجاج بن یوسف کی حکومت کے شروع میں صلہ شہید ہوئے۔

ابورجاء عطاروی تمیمی رضی اللہ عنہ:

آپ کے نام میں اختلاف ہے، یزید بن ہارون تو عمران بن تیم بتاتے ہیں اور دیگر حضرات عمران بن ملحان اور بعض عطارد بن برز بتاتے ہیں۔

باخبار عبدالملک بن قریب باخبار ابو عمرو بن علاء: میں نے اپنے والد رجاہ سے پوچھا آپ کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ فرمایا بسطام میں قیس قتل کیے گئے پھر آپ نے ان پر اظہار افسوس کے لیے یہ شعر پڑھا

فَقَتَرَ عَلَى الْاِلَاءَةِ لَمْ يُوسَدْ كَأَنَّ جَبِيْنَةَ سَيْفٍ صَيْقَلُ
”پھر آپ زمین پر گر گئے اور سر کے نیچے نکیہ بھی نہ تھا گویا آپ کی پیشانی صیقل شدہ تلوار ہے۔“

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل متحد یث ابوالحارث کرمانی بسماح ابورجاء عطاروی: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا جب کہ اچھا ہوشیار تھا اور میری مسیں بھگنے لگی تھیں۔

ابن سعد: باخبار حجاج بن نصیر متحد یث ابوخلدہ: میں نے ابورجاء سے پوچھا: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو تم کس شخص کی طرح تھے؟ فرمایا میں اپنے گھر کے اونٹ چرایا کرتا تھا میں نے پوچھا تمہیں آپ سے کس نے بھگایا؟ فرمایا ہم سے کہا گیا: عرب میں ایک شخص مبعوث ہوئے ہیں جو اپنے تابعداروں کے علاوہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے یہ خبر نہ تھی کہ آپ کی اطاعت کیا ہے؟ پھر ہم بھاگ کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ہم نے بنی سعد کا ریگستان عبور کر لیا۔

ابن سعد: باخبار وہب بن جریر بن حازم متحد یث جریر بسماح ابورجاء: ہم اپنے سند نامی چشمہ پر تھے جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی ہم اپنے بچی کو لے کر شجر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور ذکر کیا گیا کہ انہوں نے خون کھایا تھا، پوچھا گیا: اس کا مزہ کیسا ہے؟ بولے: بیٹھا۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم کلابی متحد یث سلم بن زریر بسماح ابورجاء: نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں اپنے گھر کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور میں اس محنت میں ان کے لیے کافی تھا آپ کی بعثت کی خبر سن کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک اجاڑ جنگل میں پہنچے جب ہم اس جیسے جنگل میں رات گزارنا چاہتے تو ہمارا شیخ یہ کہہ دیا کرتا تھا ہم اس وادی کے سب سے بڑے جن سے آج کی رات پناہ مانگتے ہیں آخر کار ہم نے یہ جملہ ادا کر دیا، فرماتے ہیں ایک لمبا واقعہ بیان کیا، ابورجاء فرماتے ہیں پھر ہم سے کہا گیا کہ اس شخص کی راہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے جو ان کلموں کا اقرار کر لیتا ہے اس کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور مال بھی، آخر کار ہم واپس آئے اور مشرف بہ اسلام ہوئے، اکثر ابورجاء فرماتے تھے کہ میری رائے میں آیت ﴿وَإِنَّ كَانِ زَجَالَ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فِزَادُوهُمْ رَهْمًا﴾ میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں اتری۔ ابن سعد: باخبار ابوقطن عمرو بن ہشیم متحد یث ابوخلدہ: میں نے ابورجاء کو دیکھا داڑھی زرد کر لیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عمر و بن عاصم متحد ریث ابوالاشہب: ابورجاء رمضان المبارک میں ہر عشرہ میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ابورجاء حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایت کرتے ہیں آپ ثقہ ہیں اور آپ کی قرآن کے بارے میں روایات ہیں اور علم ہے آپ نے چالیس سال تک اپنی قومی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیئے آپ کی وفات کے بعد امامت کے فرائض چالیس سال تک ابوالاشہب جعفر بن حیان نے انجام دیئے ابورجاء کی وفات بعض روایات کے بموجب عہد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ میں ہوئی لیکن محمد بن عمر کے قول کے مطابق ۷۱ھ میں ہوئی میرے نزدیک یہ سہو ہے (یعنی پہلی روایت ہی صحیح ہے)۔

ابن سعد: باخبار معاذ بن معاذ و مسلم بن ابراہیم متحد ریث ابوخلدہ: میں نے حسن کو دیکھا اپنے گدھے پر سوار ابورجاء کے جنازے پر نماز پڑھ رہے ہیں مسلم نے کہا اور امام تکبیر کہتا ہے۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین متحد ریث ابوخلدہ: میں نے حسن کو اپنے گدھے پر سوار ہو کر ابورجاء کے جنازے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اپنا بیٹا گود میں لیے ہوئے تھے میں نے ابوخلدہ سے پوچھا کیا حسن بیمار تھے؟ بولے: نہیں! البتہ بوڑھے تھے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل متحد ریث بکار بن صقر: میں نے دیکھا حسن ابورجاء کی قبر کے پاس حد کے بالمقابل بیٹھے ہیں اور قبر پر سفید کپڑا پھیلا دیا گیا تھا آپ نے اسے ٹوکا نہیں نہ اسے اٹھایا حتیٰ کہ لوگ قبر تیار کر کے فارغ ہو گئے فرزدق شاعر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا فرزدق بولا: ابوسعید! جانتے ہو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا: نہیں! ابوفراس! بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا: یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس قبر کے پاس تمام بصرہ کا بہترین شخص اور بدترین شخص بیٹھا ہے پوچھا ان کی ان دو شخصوں سے کون مراد ہیں؟ بولا آپ اور میں! فرمایا: ابوفراس! میں بصرہ والوں میں بہترین نہیں اور تم ان میں بدترین نہیں (آپ نے اپنے ہاتھ سے حد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس خواب گاہ کے لیے کیا تیار کیا؟ بولا: ابوسعید! میں نے بہت کچھ خیر اس کے لیے تیار کر لی ہے پوچھا وہ کیا ہے؟ بولا: اسی سال سے لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے: حسن نے فرمایا: ابوفراس! بلاشبہ تم نے خیر کثیرہ کا ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔

ابن سعد: باخبار سعید بن عامر: ابورجاء کی موت پر فرزدق کہتا ہے

الْمَ تَرَ أَنَّ النَّاسَ مَاتَ كَبِيرُهُمْ وَقَدْ عَاشَ قَبْلَ الْبَعْثِ، بَعَثَ مُحَمَّدًا

”دیکھتے نہیں آج سب سے بڑا شخص فوت ہو گیا اور وہ محمد ﷺ کی بعثت سے پہلے زندہ تھا“۔

وغفل بن حنظلہ سدوسی رضی اللہ عنہما:

آپ نے نبی ﷺ کو پایا مگر آپ سے ایک حدیث بھی نہیں سنی آپ نماز سجدہ کی حیثیت سے معاویہ بن ابوسفیان کے پاس آئے آپ عالم و نساب تھے۔

شہاب عنبری رضی اللہ عنہما:

آپ حبیب کے والد ہیں۔ ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم متحد ریث یحییٰ بن سعید قطان متحد ریث حبیب بن شہاب متحد ریث شہاب: باب تستر میں سب سے پہلے میں ہی آگ جلانے والا تھا۔

ایاس بن قنادہ بن اوفی رضی اللہ عنہ:

آپ بنی عشمس بن سعد بن زید مناہ بن تمیم میں سے ہیں آپ کی والدہ فارعہ بنت حمیری بن عبادہ بن نزال بن مرہ ہیں۔ قنادہ بن اوفی صحابی ہیں ایاس اپنی قوم میں شریف و محزز تھے۔

ابن سعد: بخبر از معتز بن سلیمان از سلمہ بن علقمہ: ایاس نے بشر بن مروان کے پاس جانے کے لیے دو پیٹہ باندھا پھر آئینہ میں دیکھا تو ٹھوڑی میں سفید بال نظر آئے لوٹھی سے کہا یہ بال جن لے لوٹھی نے سفید بال اکھاڑ دیے پھر اور بال نظر آئے کہا دیکھو دروازے پر میری قوم میں سے کون کون ہیں پھر قوم کے لوگ اندر بلا لیے گئے کہا: تمہو! میں نے اپنی جوانی تم کو بہہ کر دی تھی لہذا تم مجھے میری سفیدی بہہ کر دو کیا میں اپنے کو ضروریات کا گدھا نہیں دیکھ رہا؟ حالانکہ موت میرے قریب آ رہی ہے پھر (لوٹھی سے) کہا پگڑی کھول دے پھر آپ گوشہ نشین ہو گئے اذان دینے لگے اور اپنے زب کی عبادتوں میں لگ گئے اور مرتے دم تک کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے فرماتے ہیں میں نے زیاد بن ملحج جشمی سے سنا کہ میرے والد نے فرمایا: ایاس جمعہ کے دن مسجد سے نکلے آپ کے پاس سوار ہونے کے لیے گدھی لائی گئی جب آپ نے رکاب میں بیٹھ رکھا تو سفیدی پر نگاہ پڑ گئی فرمایا مرحبا میں تو تیرا ایک طویل مدت سے منتظر تھا پھر لوٹ گئے اور سیدھی کروٹ پر جا لیئے اور فوت ہو گئے عبدالملک بن مروان کا زمانہ تھا۔



ابن سعد: باخبار وہب بن جریر بن حازم بن محمد بن جریر بن حازم بسام حمید بن ہلال ابن اشعث کے زمانہ میں لوگوں نے مطرف کو حجاج کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے لیے بلایا جب لوگوں نے اس پر اصرار کیا فرمایا مجھے بتاؤ تم جس لڑائی میں مجھے شامل کرنا چاہتے ہو وہ جہاد سے تو بڑھ کر نہیں؟ لوگ بولے نہیں، فرمایا میں ہلاکت میں گرنے کے اور ملنے والے فضل کے درمیان اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔

ابن سعد: محمد بن وہب بن جریر بن محمد بن جریر بسام حمید بن ہلال مطرف کے پاس خارجی نہیں اپنا ہم خیال بنانے کے لیے آئے فرمایا لوگو اگر میری دو جانیں ہوتیں تو ایک جان تمہارے ساتھ کر دیتا اور دوسری کو سنبھالے رہتا پھر اگر تمہاری رائے صحیح ثابت ہوتی تو دوسری جان بھی تم کو دے دیتا اور اگر غلط ثابت ہوتی تو میری ایک ہی جان جاتی دوسری محفوظ رہتی لیکن افسوس میرے پاس تو ایک ہی جان ہے اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس میں مجھے دھوکا دیا جائے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از جریری از مطرف: مجھ سے عمران بن حصین نے کہا کیا میں تم سے ایک حدیث بیان نہ کروں شاید اللہ تعالیٰ اس سے جماعت میں تمہیں فائدہ پہنچائے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں جماعت سے محبت ہے فرمایا: مجھے جماعت کی بیواؤں سے زیادہ تڑپ ہے کیونکہ جماعت میرے لیے آئینہ ہے جس میں اپنا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم بن محمد بن سلیمان بن مغیرہ از ثابت از مطرف: تمام نعمتوں میں عقل کی نعمت افضل ہے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن مہدی بن میمون بسام غیلان از مطرف: فرمایا کرتے تھے گویا دل ہمارے پاس نہیں معلوم ہوتا ہے حدیثیں دوسروں کے لیے ہیں ہمارے لیے نہیں۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن سلمہ باخبار ثابت از مطرف: میرے نزدیک عافیت پر شکر بلا پر صبر سے زیادہ پیارا ہے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن مہدی بن میمون بسام غیلان بسام مطرف: اگر میرا نفس اچھا ہو تو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن مہدی بن میمون بسام غیلان بسام مطرف: میرے زیادہ ابن زیاد کے پاس تشریف لے گئے امیر نے وجہ تاخیر پوچھی فرمایا: جب سے میں امیر سے جدا ہوا ہوں میں نے اپنی کروٹ نہیں اٹھائی مگر اسی میں جس میں مجھے اللہ نے اٹھایا فرمایا کرتے تھے جھوٹ کے بجائے کتابوں میں وسعت ہے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم بن محمد بن ابوعقیل بن محمد بن یزید: مطرف ضرورت کے وقت ہی نکلا کرتے تھے لیکن جمعہ کے دن جماعت میں شامل ہونے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے ایک دن صبح کو ان کے کوزے کے اوپر والے کنارے سے روشنی چمکنے لگی جو دو حصوں میں تھی آپ کے صاحبزادے عبداللہ آپ کے پیچھے تھے آپ نے ان سے فرمایا عبداللہ! اگر دن نکل آنے کے بعد میں یہ واقعہ لوگوں سے بیان کروں تو کیا تمہارے خیال میں لوگ میری بات پر یقین کر لیں گے؟ فرماتے ہیں جب دن نکل آیا تو روشنی بجھ گئی۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم باخبار مہدی بن میمون از غیلان، مطرف طاعون کے زمانہ میں طاعون والے علاقہ سے ہٹ جایا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عقان بن مسلم بحدیث مہدی بن میمون بحدیث غیلان بن جریر: مطرف چونے پہنا کرتے تھے اور یہی چادریں اوڑھا کرتے تھے اور گھوڑوں پر سوار ہوا کرتے تھے اور سلطان کے پاس آیا جایا کرتے تھے لیکن تم اگر مطرف کے پاس پہنچ جاؤ تو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم بحدیث صافیہ بنت عبد اللہ: مطرف کی لونڈی میں نے مطرف کو قطری چادر اوڑھے ہوئے دیکھا اور سرداڑھی میں حنا اور دوسمہ کا خضاب دیکھا اور پیتل کے ایک برتن سے جو بقدر ایک کلوک کے یا اس سے قدر سے زیادہ تھا وضو کرتے ہوئے دیکھا آپ سفر میں جمعہ پڑھا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عقان بن مسلم بحدیث مہدی بن میمون بحدیث غیلان از مطرف: اپنا کھانا اسے نہ کھلاؤ جو حدیث کی طرف راغب نہ ہو۔

ابن سعد: باخبار عقان بن مسلم بحدیث مہدی بن کثیر ابو طلحہ اسیدی بحدیث زوجہ مطرف: مطرف نے میرا مہر تیس ہزار نقد ایک خیر ایک چادر ایک قینہ اور ایک خادمہ مقرر فرمایا تھا میں نے پوچھا قینہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گنگھی کرنے والی عورت۔

ابن سعد: باخبار عقان بن مسلم بحدیث مہدی بن میمون از غیلان از مطرف: میں نے فلان عورت سے (جس کا آپ نے نام بھی بتایا) پورے تیس ہزار نقد پر شادی کی تھی۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم بحدیث حکیمہ بنت مسعود مطرف کی آزاد کردہ لونڈی اپنی والدہ درہ مولاۃ مطرف سے مطرف سفر میں جمعہ پڑھا کرتے تھے ایک دفعہ آپ کو پیشاب کے بند ہونے کی شکایت ہوئی تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو بلا کر وصیت کی آیت پڑھی ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكْفُرْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ پڑھی اتنے میں آپ کے صاحبزادے طیب کو بلا لائے پوچھا: بیٹا! کون ہے؟ بولے طیب ہے فرمایا: خبردار! مجھ پر منتر وغیرہ سے دم نہ کرانا اور نہ میرے گلے میں کوڑی لٹکانا پھر آپ نے بیٹوں سے کہا جاؤ میرے لیے قبر تیار کرو بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی اور قبر تیار کر کے گھر آئے تو فرمایا مجھے میری قبر کے پاس لے چلو بیٹے آپ کو قبر کے پاس لے گئے وہاں آپ نے دعائیں مانگیں پھر وہ آپ کو گھر لے آئے۔

ابن سعد: باخبار سلیمان ابو داؤد طیالسی بحدیث شعبہ از ابوالتیاح از یزید بن عبد اللہ: میرے بھائی (مطرف) نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی کسی کو اطلاع نہ دی جائے۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین و عمرو بن ششم و یحییٰ بن خلیف بن عقبہ بحدیث ابو طلحہ: میں نے مطرف کو دیکھا کہ آپ کی داڑھی زرد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مطرف عراق پر حجاج کی حکومت کے زمانہ میں طاعون چارف کے بعد فوت ہوئے۔ یہ طاعون عہد ولید بن عبد الملک میں ۸۷ھ میں پھوٹ پڑا تھا۔

ابن سعد: باخبار عبد اللہ بن جعفر بحدیث ابو اسحاق بحدیث شمسہ از اہل بصرہ از ثابت البنانی و شمسہ دیگر جس کا نام بھی بتایا گیا

تھا: ہم دونوں مطرف کی بیمار پرسی کے لیے گئے آپ بے ہوش تھے کہ اچانک آپ سے تین روشنیاں نمودار ہوئیں ایک روشنی سر سے اور ایک کمر سے اور ایک پیروں سے ظاہر ہوئی ان روشنیوں سے ہم ڈر گئے اتنے میں آپ ہوش میں آ گئے ہم نے پوچھا: کیا حال ہے؟ فرمایا اچھا ہے ہم نے کہا ہم نے ایک چیز دیکھی جس نے ہمیں ہول میں ڈال دیا پوچھا: کیا دیکھا بولے ہم نے آپ سے تین روشنیاں نکلتی دیکھیں فرمایا: کیا تم نے وہ دیکھیں؟ ہم نے کہا: جی ہاں فرمایا یہ روشنیاں الم سجدہ ہے جس کی آیتیں ہیں اس کی شروع کی آیتیں میرے سر سے اور درمیانی میرے وسط سے اور پچھلی میرے پیروں سے نکلیں اور وہ میری شفاعت کے لیے آسمان کی طرف پرواز کر گئیں اور سورہ ملک میرا پہرہ دے رہی ہے۔

عتی بن زید بن ضمیرہ رضی اللہ عنہما:

ابن یزید بن شبل بن حیان بن حارث بن عمرو بن کعب بن عبد شمس بن سعید بن زید مناۃ بن تمیم آپ متع بن حصین اور مسلم بن نذیر بن یزید بن شبل کے چچازاد بھائی ہیں اور ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں اور حضرت ابی بن کعب وغیرہ سے راوی ہیں۔

عقبہ بن صہبان را سبی رضی اللہ عنہما:

راسب ازد سے ہیں آپ عراق پر ولایت حجاج کے زمانہ میں فوت ہوئے ثقہ ہیں اور روایت بھی کرتے ہیں۔

حمید بن عبد الرحمن حمیری رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں اور احادیث کے راوی ہیں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن سعد: باخبار حجاج بن محمد امور از شعبہ منصور بن زاذان ابن سیرین: حمید اپنی موت سے دس سال پہلے بصرہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔

صفوان بن محرز مازنی حمیری رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ اور صاحب فضل و پارسائی ہیں۔ ابن سعد: باخبار روح بن عبادہ بن محمد یث ہشام از حسن: صفوان ایک تہہ خانہ میں رہتے تھے جس سے نماز ہی کے لیے نکلا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم یث مہدی بن میمون یث غیلان بن جریر از صفوان بن محرز: ہم سب بھائی جمع ہو کر حدیثیں بیان کرتے تھے مگر دلوں میں رقت پیدا نہ ہوتی تھی لیکن جب لوگ صفوان سے حدیثیں بیان کرنے کی درخواست کرتے اور آپ فرماتے الحمد للہ! تو اسی جملہ سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے گویا مشکیزوں کا دہانہ کھول دیا گیا ہے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم یث جعفر بن سلیمان بسماع معلی بن یزید: صفوان اپنے تہہ خانہ میں رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں مکان شہادت دیکھ رہا ہوں کاش مجھے میرا نفس رخصت کر دیتا۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم یث جعفر بن سلیمان یث ہشام بن حسان از حسن از صفوان: اگر میں ایک روٹی کھاتا ہوں تو اس سے اپنی کمر باندھتا ہوں اور پانی کا ایک آنچورہ پی لیتا ہوں پس دنیا اور دنیا والے ختم ہو جانے والے ہیں۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم یث حماد بن سلمہ از ثابت: صفوان کی ایک کٹی تھی جس میں کھجور کا ایک تہہ تھا اتفاق سے وہ

نوٹ گیا، کہا گیا: کہ اسے ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا چھوڑا کل تو مجھے موت آ جائے گی (لہذا اس قلیل عرصہ کے لیے اسے کیا درست کروں)۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم، یثمد بن حماد بن سلمہ، باخبار ثابت: میں اور حسن صفوان کی بیمار پرسی کے لیے گئے آپ کے صاحبزادے نے باہر آ کر ہم سے کہا: انہیں پیٹ کی کوئی شکایت ہے آپ حضرات ان کے پاس جانیں سکتے، حسن بولے: اگر دنیا ہی میں آپ کے والد کا گوشت اور خون فنا کر دیا جائے اور ان سے حق تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دے تو اس سے بہتر ہے کہ قبر میں ان کا گوشت کیڑے مکوڑے کھائیں جس پر کچھ اجر نہ ملے۔ ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، یثمد بن حماد بن زید، از محمد بن واسع از صفوان (مسجد میں لوگوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ کر کھڑے ہو کر اور کپڑے جھاڑ کر کہا) تم تو باہم دشمن ہی ہو۔

ابن سعد: باخبار عبد الوہاب بن عطاء، باخبار عوف از خالد احدب: صفوان نے موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا: تمہیں معلوم ہے کہ میں اس نگاہ سے دیکھتا ہوں جس سے رسول اللہ ﷺ دیکھا کرتے تھے وہ ہم میں سے نہیں جو چیخے (نوحہ کرے) بال نوچے اور کپڑے پھاڑے لوگ کہتے ہیں: صفوان عہد بشر بن مروان میں بصرہ میں جاں بحق ہوئے۔

حمران بن ابان، مولیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ:

آپ عین التمر کے ان قیدیوں میں سے تھے جن کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ بھیجا تھا آپ کی اولاد نمر بن قاسم سے منسوب ہے۔ حمران عثمان وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کی بصرہ میں رہائش کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کچھ راز کھول دیئے تھے پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خبر لگی تو فرمایا تم اس شہر میں میرے ساتھ نہ ٹھہرو آخر کار آپ نے بصرہ رہائش اختیار کر لی اور وہاں جائیداد پیدا کر لی آپ کے اولاد ہے۔

ابو الحکمال عتکی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام زرارہ بن ربیعہ ہے آپ ازد سے ہیں، عثمان سے راوی ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

عمیرہ بن یثرب رضی اللہ عنہ:

آپ کعب بن سوزادوی کے بعد بصرہ کے قاضی ہیں، مشہور و معروف اور قلیل الحدیث ہیں ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، یثمد بن ابان بن یزید، یثمد بن انس بن سیرین: عمیرہ بصرہ کے قاضی تھے۔

خلاص بن عمر و بصری رضی اللہ عنہ:

آپ علی بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں آپ پرانے ہیں اور کثیر الحدیث ہیں آپ کے پاس ایک کتاب تھی جس سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عبید اللہ بن موسیٰ از اسرائیل از عبد اللہ بن مختار از مالک بن دینار از خلاص: میں نے عمار سے پوچھا تو کب پڑھا جائے؟ شروع رات میں یا اخیر رات میں؟ فرمایا میں تو شروع رات میں پڑھ لیتا ہوں پھر سو جاتا ہوں اگر آنکھ کھل گئی تو جس قدر اللہ کو منظور ہوتا ہے دو گنا پڑھ لیتا ہوں۔

ہیاج بن عمران برجمی تمیمی رضی اللہ عنہ:

آپ سے حسن بصری مثله والی حدیث بیان کرتے ہیں آپ ثقہ ہیں مگر قلیل الحدیث ہیں۔

زرارہ بن اوئی حرشی رضی اللہ عنہ:

آپ بنو حریث بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ سے ہیں اور کنیت ابو الجاجب ہے۔ ابن سعد: باخبار عمار بن مسلم
تجدیث ہمام از قتادہ: زرارہ بصرہ کے قاضی تھے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل تجدیث حماد بن زید تجدیث ہشام بن حسان از عائشہ بنت ضمیرہ زرارہ ظہر و عصر اپنے گھر
میں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ حجاج کے پیچھے۔

ابن سعد: باخبار ابوقطن عمرو بن یثیم تجدیث ابوخلدہ: میں نے زرارہ کی داڑھی زرد دیکھی۔ ابن سعد: باخبار عارم بن فضل
تجدیث حماد بن زید از ایوب: میں نے زرارہ کے جنازے میں محمد کو دیکھا کہ چھاؤں میں کھڑے ہیں حتیٰ کہ زرارہ لحد میں اتار دیئے
گئے ایوب کہتے ہیں مجھے کسی دوسری سند سے خبر ملی ہے کہ لوگ کہتے ہیں: زرارہ کی عہد ولید بن عبدالملک میں ۳۷ھ میں اچانک وفات
ہوئی آپ ثقہ ہیں اور احادیث کے راوی ہیں۔

ابن سعد: باخبار اسحاق بن اسرائیل تجدیث عتاب بن ثنیٰ قشیری از بہز بن حکیم: زرارہ نے مسجد قشیر میں ہمیں نماز پڑھائی
آپ نے قراءت شروع کی جب آپ ﴿فَاذًا تُقْرَفِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ پر پہنچے تو گر
گئے اور فوت ہو گئے بہتر کہتے ہیں آپ کی لاش اٹھانے والوں میں میں بھی تھا۔
ہشام بن ہبیرہ ضعی رضی اللہ عنہ:

آپ بصرہ کے قاضی اور مشہور و معروف ہیں مگر قلیل الحدیث ہیں۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل تجدیث وہیب از داؤد از عامر: میں نے ہشام کا خط پڑھا جو انہوں نے شرح کو لکھا تھا:
مجھے نو عمری اور کم علمی میں عہدہ قضا سونپا گیا مجھے آپ جیسے حضرات کے مشوروں کی سخت ضرورت ہے۔ عبدالملک کی خلافت کے زمانہ
میں جب عراق پر حجاج حاکم بن کر آیا تو اس کے شروع زمانہ میں ہشام فوت ہوئے۔
ابو السوار عدوی رضی اللہ عنہ:

آپ اولاد عدی بن زید مناؤین از بن طاہر بن الیاس بن مضر سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا نام حسان بن حریث ہے حضرت
علی اور عمران رضی اللہ عنہما وغیرہ سے راوی ہیں اور ثقہ ہیں۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین تجدیث قرہ بن خالد: ابو السوار قوم کے سردار اور تعارف کرانے والے تھے۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین و مسلم بن ابراہیم از قرہ از حمید بن ہلال از ابو السوار: کاش اس تعارف کے بجائے میری
آنکھ کی پتلی میری گود میں ہوتی (مسلم اپنی حدیث میں کہتے ہیں) آپ ایک عورت کو امیر کے دروازے پر لے گئے پھر اسے چھوڑ کر
چلے آئے۔

ابن سعد: باخبار ابوقطن، عمرو بن ہشیم، یثمدیث ابوخلدہ میں نے ابوالسوار کے ہاتھ میں لوہے کی انگلی دیکھی۔ ابن سعد باخبار عمرو بن ہشیم و یحییٰ بن خلیف بن عقبہ و ابو نعیم فضل بن دکین یثمدیث ابوخلدہ میں نے ابوالسوار کی داڑھی زرد دیکھی۔ ابو تمیمہ یحییٰ تمیمی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام طریف بن مجاہد ہے ان شاء اللہ آپ ثقہ ہیں اور احادیث کے راوی ہیں۔ محمد بن عمرو فرماتے ہیں آپ کی وفات عہد سلیمان بن عبد الملک میں ۹۷ھ میں ہوئی۔

قاسم بن زہیر مازنی تمیمی رضی اللہ عنہما:

آپ بھی ان شاء اللہ ثقہ ہیں آپ حجاج کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

قاسم بن ربیعہ رضی اللہ عنہما:

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل یثمدیث ابولہلال یثمدیث ہارون بن تمیم جب حسن سے نسب کے بارے میں پوچھا جاتا تو

فرماتے قاسم سے پوچھو۔

میمون بن سیاہ رضی اللہ عنہما:

ابن سعد: باخبار اسماعیل بن عبد اللہ بن خالد یثمدیث یحییٰ بن سلیم از کہس بن عبد اللہ بسماع میمون بن سیاہ (آپ حسن سے بڑے تھے مگر علم و فضل میں حسن بڑھے ہوئے تھے) بسماع میمون لوگوں نے میری مجلس میں بادشاہوں کا ذکر چھیڑا اور ان پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا میں خاموشی سے سنتا رہا پھر گھر جا کر سو گیا خواب میں دیکھتا ہوں میرے سامنے ایک مردہ جشی کی پھولی ہوئی بدبودار لاش پڑی ہے اور کوئی میرے سر پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کھا میں عرض کرتا ہوں اے اللہ کے بندے کیوں کھاؤں؟ کہتا ہے اس لیے کہ حیرے پاس فلاں کی غیبت کی گئی میں کہتا ہوں میں نے تو اس کے بارے میں اچھا یا برا کچھ نہیں کہا وہ کہتا ہے: لیکن تو نے غیبت سنی اور اس پر راضی رہا۔

ابو غلاب، یونس بن جبیر باہلی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں اور انس بن مالک سے پہلے فوت ہوئے اور وصیت کی کہ انس آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں۔

ابوصفرہ عمس بن سلامہ رضی اللہ عنہما:

آپ کاتب اولاد حارث بن کعب سے ہے۔

ابن سعد: باخبار عبید اللہ بن محمد تمیمی یثمدیث ابوالخلیل: عمس کی کنیت ابوصفرہ ہے آپ بنو حارث بن کعب میں سے ہیں آپ ایک دن گھر میں گئے اور گھر اپنی قوم کا کوئی آدمی نہیں دیکھا بولے: میں اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھ رہا حالانکہ میں نے ان کے لیے سورہ واقعہ تیار کی تھی پوچھا گیا: کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا: کیوں نہیں لیکن بھائی کے نیچے بھی بھائی ہوتا ہے۔

ابن سعد: باخبار حسن بن موسیٰ اشیب یثمدیث حماد بن سلمہ از ثابت بنانی از عمس: آؤ ہم اپنا یہ دن ایک بنائیں۔

ابن سعد: باخبار حسن بن موسیٰ یثمدیث حماد بن سلمہ از ثابت بنانی از عمس: ایک قبر کے پاس بیٹھے تھے فرمایا میں ایک شعر کہتا ہوں

لوگ بولے کیا آپ قبر کے پاس شعر کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔

إِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةِ وَالْأَفَانِي لَا إِحَالِكَ نَاجِيَا
 ”اگر تو موت سے بچ جائے گا تو ایک بڑی شے سے بچ جائے گا لیکن میں تو تجھے اس سے بچنے والا دیکھتا نہیں۔“

زیاد بن مطر بن شریح عدوی رضی اللہ عنہ۔

آپ اولاد عدی بن عبدمنافہ بن اذین طاہرہ۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل محمد بیٹ حماد بن زید از اسحق بن سوید از علاء بن زیاد میرے والد زیاد نے وصیت فرمائی
 اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آجائے تو بصرہ کے علماء جو کہیں اسی پر عمل کرو آخر کار ہم نے علماء سے پوچھا تو سب نے بالاتفاق خمس کا فیصلہ
 کیا۔

والان بن قرفہ عدوی رضی اللہ عنہ۔

آپ حدیفہ بن میمان رضی اللہ عنہ سے اور آپ سے ابوہبیدہ عدوی راوی ہیں۔

عبداللہ بن ابی عتبہ رضی اللہ عنہ۔

آپ نے ابوالدرداء ابوسعید خدری جابر بن عبداللہ اور دیگر چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر کیا۔

عقبہ بن اول سدوسی رضی اللہ عنہ۔

آپ سے محمد بن سیرین راوی ہیں اور آپ ثقہ ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔

عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ۔

آپ سے محمد بن سیرین راوی ہیں اور آپ ثقہ ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابوشخ ہنائی ازوی رضی اللہ عنہ۔

آپ کا نام خیوان بن خالد ہے آپ ثقہ ہیں اور احادیث کے راوی ہیں، حسن اسے پہلے فوت ہوئے۔ ابن سعد: باخبار عمرو
 بن عاصم کلابی، محمد بیٹ ابولہلال از محمد بن سیرین: ابن زیاد کونسیان کا عارضہ لاحق ہو گیا، انہوں نے ابوشخ ہنائی کو حکم فرمایا کہ مجھے (نماز
 میں) بتا دیا کیجئے۔

حصین بن منذر رقاشی رضی اللہ عنہ، عمران بن حطان سدوسی رضی اللہ عنہ۔

آپ شاعر تھے اور ابوسوی اشعری اور عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ سے راوی ہیں۔

ابوالعلاء یزید بن عبداللہ بن شظیر رضی اللہ عنہ۔

ابن عوف بن کعب بن وقدان بن حریش۔

ابن سعد: باخبار ابراہیم بن محمد بن عرعرة بن رندار یحییٰ بن سعد قطان از ابو عقیل از ابوالعلاء: میں حسن سے دس سال بوا
 ہوں اور مطرف مجھ سے دس سال بڑے ہیں۔

ابن سعد: باخباہر سلیمان بن حرب بن محمد یث ابو ہلال بن محمد یث ابو صالح عقیلی: یزید قرآن پڑھتے رہتے حتیٰ کہ بیہوش ہو جاتے تھے۔

ابن سعد: باخباہر سلیمان بن حرب بن محمد یث حماد بن زید از سعید جریری: یزید قرآن پاک کھول کر پڑھتے تھے مطرف ان سے کہا کرتے تھے آپ ہمیں قرآن سے دن بھر کے لیے کافی ہو جاتے۔

ابن سعد: باخباہر ابوقطن عمرو بن یثم و یحییٰ بن خلیف بن عقبہ بن محمد یث ابوخلدہ: میں نے ابو العلاء کی داڑھی زرد دیکھی۔
ابن سعد: باخباہر عارم بن فضل و مسلم بن ابراہیم بن محمد یث ابو حفص اعین بن عبد اللہ عقیلی: میرے پاس سے ابوالح ہذلی گزرے جب کہ میں یزید کا کفن ہی رہا تھا فرمایا اس میں زندہ حضرات کے کپڑوں کی طرح گھنڈیاں بنانا۔ محمد بن عمر: ابو العلاء بصرہ میں اللہ میں فوت ہوئے لیکن دوسرے مورخ کہتے ہیں آپ عمر بن ہبیرہ کی ولایت کے زمانہ میں فوت ہوئے آپ ثقہ ہیں اور عمدہ حدیثوں کے راوی ہیں۔

(دوسرے طبقہ کے وہ حضرات جو عمر میں پہلے حضرات سے چھوٹے ہیں اور جو عمر ان بن حصین ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ معتقل بن یسار عبد اللہ بن معتقل ابن عمر ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم وغیرہ سے راوی ہیں مندرجہ ذیل ہیں)
حسن بن ابوالحسن رضی اللہ عنہم:

آپ کا نام یسار ہے کہتے ہیں آپ ميسان کے قیدیوں میں سے ہیں مدینہ میں آئے تو آپ کو ربیع بنت نصر انس بن مالک رضی اللہ عنہم کی چھوٹی بیوی نے خرید کر آزاد کر دیا جس سے مذکور ہے کہ آپ نے کہا: میرے والدین بنو النجار کے ایک شخص کے غلام تھے اس شخص نے بنو سلمہ انصاری کی ایک خاتون سے شادی کر لی تھی اور اسے میرے والدین کو مہر میں دے دیا تھا اس خاتون نے دونوں کو آزاد کر دیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسن کی والدہ حضرت ام سلمہ زوجہ رسول اکرم ﷺ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔ حسن مدینہ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہم کی شہادت سے دو سال قبل پیدا ہوئے کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو اکثر چھوڑ کر چلی جایا کرتی تھیں ان کے پیچھے بچہ روتا رہتا تھا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنا سینہ اس کے منہ میں ماں کے آنے تک اسے بہلانے کے لیے دے دیا کرتی تھیں اور آپ کے دودھ اتر آتا تھا اور بچہ کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی حکمت و فصاحت اسی دودھ کی برکت ہے حسن وادی قری میں پلے بڑھے آپ بڑے فصیح و بلیغ تھے۔

ابن سعد: بقول اسماعیل بن ابراہیم از یونس از حسن: مجھ سے حجاج نے کہا: حسن: آپ کی عمر کیا ہے؟ بولے میں شہادت عمر رضی اللہ عنہم کے وقت دو سال کا تھا بولا: اللہ کی قسم آپ کی نگاہ آپ کی عمر سے بڑی ہے۔

ابن سعد: بقول ابوداؤد و طیالسی از خالد بن عبد الرحمن بن بکیر بن محمد یث حسن: میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر خطبہ بیان کرتا ہوا دیکھا اس وقت میں پندرہ سال کا تھا۔

ابن سعد: باخباہر اسماعیل بن ابراہیم اسدی از شعیب بن حجاب از حسن میں نے دیکھا ایک لوتے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہم پر پانی ڈالا جا رہا تھا۔

ابن سعد: باخباہر اسماعیل بن ابراہیم باخباہر ابو جہا: میں نے حسن سے پوچھا: آپ مدینہ میں کب تھے فرمایا جنگ صفین کے زمانہ میں میں نے پوچھا: آپ بالغ کب ہوئے؟ فرمایا: جنگ صفین کے ایک سال بعد۔ محمد بن عمر کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ ہے کہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت آپ ۱۴ سال کے تھے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا ان سے سنا اور ان سے راوی ہیں۔ آپ عمران بن حصین، سمرہ بن جندب، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، عمرو بن تغلب، اسود بن سرج، جندب بن عبد اللہ اور حصصہ بن معاویہ رضی اللہ عنہم سے راوی ہیں اور حصصہ رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔ حسن از عبد اللہ بن سمرہ میں نے آپ کے ساتھ مل کر کابل، اندکان، اندغان اور زابلستان میں تین سال تک جہاد کیا۔ یحییٰ بن سعید قطان احادیث سمرہ کے بارے میں جن کو حسن سمرہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ یہ حدیثیں حسن سمرہ کی کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں: حسن جامع العلوم تھے علماء میں اونچا اور بلند مقام رکھتے تھے، فقیہ و ثقہ تھے معتمد علیہ اور مستند تھے عابد و متقی تھے سب سے بڑے اور جید عالم تھے، فصیح و بلیغ تھے اور حسین و جمیل تھے آپ نے جو حدیثیں مسند بیان کیں اور ان لوگوں سے روایت کیں جن سے سنیں وہ حجت ہیں اور جو مرسل بیان کیں وہ حجت نہیں۔ جب آپ مکہ میں تشریف لائے تو مکیوں نے آپ کو ایک تخت پر بٹھایا اور لوگوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا پھر آپ نے ان سے حدیثیں بیان فرمائیں آپ کی ان مجلسوں میں شامل ہونے والے مجاہد، عطاء، طاؤس اور عمرو بن شعیب بھی ہیں یہ سب علماء یا ان میں سے کوئی کہتا ہے: ہم نے آپ جیسا عالم بھی نہیں دیکھا۔

ابن سعد: باخباہر عبد الوہاب بن عطاء، محمد بن سعید بن ابی عمرو و باقر قزاقہ از حسن: اگر وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے لیا ہے تو جن حدیثوں کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو میں ان کو کثرت سے بیان نہ کرتا۔

ابن سعد: باخباہر معمر بن یحییٰ، محمد بن سعید بن عمرو و بسام حسن: میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے تھے: آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو ہے، فرماتے ہیں میں اس قسم کی چیزیں کھا کر وضو کبھی نہیں چھوڑتا۔

ابن سعد: باخباہر مسلم بن ابراہیم، محمد بن ابولہلال محمد بن سلیم بسام حسن: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ہی میں غسل کیا کرتے تھے آپ سے عبد اللہ بن بریدہ نے پوچھا: ابو الحسن آپ نے یہ حدیث کس سے سنی؟ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔

ابن سعد: باخباہر مسلم بن ابراہیم، محمد بن ربیعہ بن کلثوم: میں نے ایک شخص کو حسن سے یہ پوچھتے ہوئے سنا ابو سعید! (آج) جمعہ کا دن تراور کچھ بارش والا ہے (کیا غسل چھوڑ دیا جائے؟) حسن نے فرمایا غسل کرنا ہی ہے پھر جب اس نے انکار کیا تو فرمایا ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے تین باتوں کا عہد لیا غسل جمعہ کا، سونے سے قبل وتر پڑھنے کا اور ہر مہینہ میں تین روزے رکھنے کا۔

ابن سعد: باخباہر عرفان بن مسلم، محمد بن وہیب از ایوب و حماد از علی بن زید بن جدعان و دیگر حضرات از شعبہ از یونس: حسن نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔

ابن سعد: باخباہر محمد بن عبد اللہ انصاری، محمد بن یحییٰ بن عمار، حسن حدیث کو موثقی و معتبر کے بیان کیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخباہر عرفان و موسیٰ بن اسماعیل، محمد بن جریر بن حازم: حسن اختلافات کے ساتھ ہم سے حدیث بیان کیا کرتے

تھے۔ آپ کی حدیث میں کم و بیش الفاظ ہوتے تھے مگر معنی ایک ہی ہوتا تھا۔

ابن سعد: باخبار عرفان بن مسلم: تحدیث مہدی بن میمون تحدیث غیلان بن جریر میں نے حسن سے پوچھا: ابو سعید ایک شخص حدیث سنتا ہے اور وہ کوتاہی نہیں کرتا لیکن اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے فرمایا: اس پر کون قادر ہو سکتا ہے؟

ابن سعد: باخبار عرفان بن مسلم: تحدیث حماد بن سلمہ از حمید: حسن کا علم ایک کتاب میں تھا جو اتنی چھوٹی تھی آپ نے دونوں انگوٹھوں کو اور شہادت کی دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا۔

ابن سعد: باخبار عرفان بن مسلم: تحدیث شعبہ میں نے قنادہ سے پوچھا کہ حسن یہ مسئلہ کس سے لیتے تھے کہ وہ خلق لینے کی اجازت سلطان ہی کے پاس دیتے تھے؟ کہا: زیاد سے۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب: تحدیث حماد بن سلمہ از یزید رشک: حسن عہدہ قضا پر مامور تھے۔ ابن سعد: باخبار معاذ بن معاذ: تحدیث عمر بن ابوزائدہ میں کوفہ کے قاضی سے ایاس بن معاویہ کے پاس ایک خط لے کر آیا میں وہ خط آپ کی معزولی کے زمانہ میں لایا تھا جب کہ آپ کی جگہ حسن کو قاضی بنا دیا گیا تھا میں نے وہ خط آپ کو دے دیا آپ نے مجھ سے ثبوت پوچھے بغیر اسے قبول فرمایا۔

ابن سعد: باخبار سعید بن عامر: تحدیث ہمام بن یحییٰ از قنادہ: ہم سے حسن نے کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی جسے اصحاب بدر میں سے کسی سے روایت کی ہو۔

ابن سعد: باخبار عبدالصمد بن عبدالوارث: تحدیث شعبہ میں نے دیکھا: حسن نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے فرمایا ان لوگوں کے لیے کوئی روکنے والا ہونا ضروری ہے آپ پر انے منارہ پر جو مسجد کے پچھلے حصہ میں تھا بیٹھا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم: تحدیث ابو عقیل میں نے حسن کے ہاتھوں میں انگوٹھی دیکھی۔ ابن سعد: باخبار عرفان بن مسلم: تحدیث معاذ بن معاذ از ابن عون: حسن کی انگوٹھی میں لکھیں تھیں۔

ابن سعد: باخبار معن بن عیسیٰ: باخبار محمد بن عمرو: میں نے حسن کے ہاتھوں میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی۔ ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم: تحدیث عباد بن راشد: میں نے دیکھا حسن جو توں سمیت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابن سعد: باخبار عبدالوہاب بن عطاء: باخبار سعید بن ابی عروبہ: میں نے حسن کی داڑھی زرد دیکھی۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین و عمرو بن ہشیم و یحییٰ بن خلیف: تحدیث ابو غلہ: میں نے حسن کی داڑھی زرد دیکھی۔ ابن سعد: باخبار یحییٰ بن عمار: تحدیث عمارہ بن زاذان: میں نے دیکھا حسن کی داڑھی زرد تھی۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل: تحدیث ابان عطار: میں نے دیکھا حسن اپنی داڑھی زرد کر لیا کرتے تھے۔ ابن سعد: باخبار معن بن عیسیٰ: تحدیث محمد بن عمرو: میں نے دیکھا: بعض لوگوں کی طرح، حسن اپنی ساری موٹھیں صاف نہیں کیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم: تحدیث سلام بن مسکین میں نے دیکھا حسن نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دونوں ہاتھ

سبز چادر میں ہوتے تھے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم بخاری یث قرہ: میں نے حسن کی انگوٹھی کو چاندی کا ایک حلقہ دیکھا ابن سعد باخبار عفان بن مسلم بخاری یث حماد بن سلمہ: میں نے حسن پر سعیدی کپڑا جس پر صلیبیں تھیں اور سیاہ پگڑی دیکھی۔ ابن سعد باخبار عفان بن مسلم بخاری یث مہدی بن میمون: میں نے حسن پر سیاہ پگڑی دیکھی۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم بخاری یث ہام از قنادہ: حسن (بال دور کرنے کے لیے) چونا استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل بخاری یث عبدالمومن سدوسی: میں حسن پر مسجد میں مہین ڈورے کی دہری بناوٹ والی کردی سبز چادر دیکھا کرتا تھا۔

ابن سعد باخبار قبیصہ بن عقبہ بخاری یث سفیان: حسن کو دیکھنے والے کی خبر سے: حسن کا کرتہ یہاں تک (جو توں کے تسوں

تک) تھا۔

ابن سعد باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس بخاری یث عیسیٰ بن عبد الرحمن: میں نے حسن بصری کو دیکھا سیاہ پگڑی باندھے ہوئے

تھے جس کے شملے پیچھے پڑے ہوئے تھے آپ پر ایک کرتہ تھا اور ایک چھوٹی سفید مومی دھاگے والی چادر تھی جسے اوڑھے ہوئے تھے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم بخاری یث حرث بن سائب از حسن: میں عبد عثمان میں ازواج مطہرات کے گھروں میں جایا

کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے چھت چھولیا کرتا تھا۔

ابن سعد: باخبار وہب بن جریر بن حازم بخاری یث جریر بسام حمید بن ہلال: ابو قنادہ فرماتے تھے لوگو اس شیخ (حسن بصری)

کو چٹ جاؤ اللہ کی قسم! آج تک ان سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بخاری یث حماد بن سلمہ باخبار علی بن زید: میں نے عروہ بن زبیر کو یحییٰ بن جعدہ کو اور قاسم کو

دیکھا ہے لیکن کسی کو حسن کی مانند نہیں دیکھا اگر حسن جوانی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پاتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشابہ اس شیخ

ہوتے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بخاری یث حماد بن زید بخاری یث عقبہ بن ابی شیبہ راہی: ہمارے پاس ہلال بن ابی بردہ آئے

حسن بصری کا ذکر چھڑ گیا ہلال بولے میں نے ابو بردہ سے سنا فرماتے تھے میں نے کسی غیر صحابی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشابہ اس شیخ

(حسن) کے سوا نہیں دیکھا۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم بخاری یث سلام بن مسکین بخاری یث شخصے از عبد اللہ بن عامر شععی: ابن مہیرہ نے حسن اور شععی کو

بلا یا جب دونوں جمع ہو گئے تو عامر شععی حسن کی تعریف کرنے لگے ان کے صاحبزادے بولے: ابا جان! میں دیکھتا ہوں آپ ان کا

جس قدر ادب و احترام کرتے ہیں ایسا کسی کا نہیں کرتے فرمایا: بیٹا! میں نے ستر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے میں نے کبھی کسی شخص کو

ان سے زیادہ ان کے مشابہ نہیں دیکھا۔

ابن سعد: باخبار معالیٰ بن اسد بخاری یث عبد العزیز بن مختار از منصور غدانی: شععی نے حسن کا ذکر کیا اور فرمایا: میں نے کبھی ان

شہروں کے باشندوں میں کسی کو ان سے افضل نہیں دیکھا۔

ابن سعد: باخبار حسن بن موسیٰ بسماح ابویشمہ زہیر بن معاویہ بخدیث ابوالحق ہدائی حسن (بصری) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشابہ تھے۔

ابن سعد: باخبار قیصہ بن عقبہ بخدیث سفیان از یونس حسن کھوئے کھوئے سے اور غز وہ جیسے رہتے تھے اور ابن سیرین ہنس لکھ اور خوش طبع تھے۔

ابن سعد: باخبار حسن بن موسیٰ بن اشیب بخدیث حماد بن سلمہ از حمید و یونس بن عبید ہم نے بہت سے علماء دیکھے لیکن حسن سے زیادہ جامع کسی کو نہیں دیکھا۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بخدیث حماد بن زید بخدیث یونس حسن نے ثواب کے لیے حدیثیں بیان کیں اور محمد ثواب کے لیے حدیثوں سے خاموش رہے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم بخدیث قاسم بن فضل بسماح عمرو بن مرہ میں بصریوں پر ان دو شخصوں (حسن، محمد) کی وجہ سے غبطہ کرتا ہوں۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم بخدیث سلام بن مسکین بسماح قتادہ حسن حلال و حرام کو سب سے زیادہ جانے والے ہیں۔ ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بخدیث حماد از ابن عون: میں نے ان دونوں (حسن، محمد) سے زیادہ سنی کسی کو نہیں دیکھا اور ان دونوں میں حسن زیادہ تشدد تھے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بخدیث حماد بن زید از یونس اللہ کی قسم فتنوں کے اور خونریزی کے زمانوں میں حسن علماء کے سردار تھے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بخدیث حماد بن زید از ایوب: ابن اشعث سے کہا گیا اگر یہ بات آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہو کہ لوگ آپ کے ارد گرد شہید ہوں جیسے صدیقہ کے اونٹ کے ارد گرد شہید ہوئے تھے تو حسن کو جہاد میں لے جائیے ابن اشعث نے آدمی بھیج کر حسن کو جبریہ بلایا۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بخدیث سلیم بن اخضر بخدیث ابن عون: ابن اشعث کے زمانہ میں لوگوں نے لڑائی میں شامل ہونے سے پس و پیش کیا لوگوں نے کہا اس شیخ (حسن) کو اٹھائیے ابن عون کہتے ہیں پھر میں نے حسن کو دو پلوں کے درمیان دیکھا سیاہ پگڑی باندھ رکھی تھی جب لوگ آپ سے بے خبر ہو گئے تو آپ کسی نہر میں کود گئے تاکہ لوگوں سے نجات ملے قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم بخدیث سلام بن مسکین بخدیث سلیمان بن علی ربیع: جب ابن اشعث کا فتنہ کھڑا ہوا جب حجاج نے لوگوں سے جنگ کی تو عقبہ بن عبدالغافر ابو الجوزاء اور عبداللہ بن غالب اپنے ہم خیال چند حضرات کو لے کر حسن کے پاس پہنچے اور کہنے لگے: ابو سعید! آپ کا اس سرگش کی جنگ کے بارے میں جس نے حرمت والے خون بہائے حرمت والا مال لوٹا نماز

چھوڑ دی اور ایسا ایسا کیا کیا خیال ہے؟ حسن بولے: میری رائے میں تم اس سے جنگ نہ کرو کیونکہ اگر اس کی جنگ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب ہے تو تم اپنی تلواروں سے اسے ہٹا نہیں سکتے اور اگر آزمائش و عذاب نہیں تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے آخر کار لوگ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کیا ہم اس عجمی کی اطاعت کریں؟ کیونکہ آپ کے پاس آنے والے عرب تھے آخر کار یہ لوگ ابن اشعث کے ساتھ نکلے اور سارے کے سارے قتل کر ڈالے گئے، سلیمان کہتے ہیں مجھے ابوالمعذل امرہ بن ذباب نے بتایا کہ میں عقبہ بن الغافر کے پاس پہنچا عقبہ خندق میں زخمی پڑا تھا بولے اے ابوالمعذل! نہ دنیا اور نہ آخرت۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسمعیل: متحد یث شیب بن عجلان حنفی، سحر سلم بن ابی الذیال: ایک شخص نے حسن سے سوال کیا جب کہ میں اور شامی لوگ سن رہے تھے کہ آپ یزید بن مہلب اور ابن اشعث جیسے فتنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: غیر جانب دار رہو ایک شامی بولا: ابو سعید! کیا امیر المؤمنین کا بھی ساتھ نہ دیا جائے؟ حسن کو غصہ آ گیا اور آپ نے اپنا ہاتھ ہلا کر فرمایا: ہاں امیر المؤمنین کا بھی ساتھ نہ دو۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: متحد یث حماد بن زید، ابو التیاح: میں حسن اور سعید بن ابوالحسن کے پاس تھا جب ابن اشعث ان کے پاس آیا تھا حسن تو لوگوں کو حجاج کے خلاف جنگ سے روک رہے تھے اور صبر کا حکم دے رہے تھے اور سعید بن ابوالحسن ابھار رہے تھے پھر باتوں باتوں میں سعید بولے شامی ہمیں کیا کہیں گے جب ہم کل کو ان سے ملیں گے؟ ہم بولے: اللہ کی قسم! ہم نے امیر المؤمنین کی بیعت نہیں توڑی اور نہ توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہاں ہم امیر المؤمنین کے خلاف اظہار غیظ و غضب کرتے ہیں کہ ہم پر اس ظالم کو کیوں حاکم بنایا اسے معزول کر دیا جائے جب سعید یہ بات کہہ چکے تو حسن نے کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو! اللہ کی قسم اللہ نے حجاج بطور عذاب ہی کے تم پر مسلط فرمایا ہے لہذا تلوار سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کرو البتہ پر امن رہ کر اللہ کے سامنے روؤ اور گڑگڑاؤ رہا تمہارا یہ کہنا کہ میرا شامیوں کے بارے میں کیا گمان ہے سوان کے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ اگر وہ آئیں اور حجاج ان کے آگے نکلے ڈال دے تو وہ حجاج کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں گے، میرا تو ان کے ساتھ یہی گمان ہے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: متحد یث حماد بن زید، متحد یث عمرو بن یزید، عبدی بسماع حسن: جب لوگ سلطان کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کیے جائیں اگر وہ صبر کر لیں تو کچھ دنوں کے بعد آزمائش کا دور ختم ہو جائے لیکن لوگ بے صبر ہو کر تلواریں نکال لیتے ہیں اور ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح کبھی پر امن دور نہیں آتا۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم، متحد یث سلیم بن اخصر، متحد یث ابن عون: مسلم بن یسار بھریوں کی نگاہ میں حسن سے اونچے تھے لیکن ابن اشعث کے ساتھ مل کر ان کی نگاہوں سے گر گئے اور حسن ملے نہیں اس لیے وہ ان کی نگاہوں میں چڑھ گئے اور مسلم گر گئے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، متحد یث قاسم بن فضل: میں نے حسن کو ابن اشعث کے منبر کے پاس بیٹھا دیکھا۔ ابن سعد: باخبار روج بن عبادہ، متحد یث حجاج اسود: ایک شخص نے تمنیٰ کا ش مجھ میں حسن عجمی پر ہیزگاری ابن سیرین جیسا تقویٰ عاصر بن عمید قیس جیسی عبادت اور سعید بن مسیب جیسا فقہ ہوتا اور مطرف جیسا فلاں امر ہوتا (اس کا ذکر کیا مگر روج کو یاد نہیں رہا لوگوں نے ان

تمام چیزوں میں غور کیا تو حسن کو ان سب کا جامع پایا۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بخاری حاتم بن وردان ایک شخص نے ایوب سے سوال کیا میں سن رہا تھا بولا حسن کی حدیث یہ کہہ کر ہنس پڑا ایوب کو غصہ آ گیا اور آپ کا چہرہ غصہ کے مارے سرخ ہو گیا فرمایا: کیوں ہنسے؟ بولا: کچھ نہیں فرمایا تم اچھے خیال سے نہیں ہنسے سنو! اللہ کی قسم تمہاری آنکھوں نے کبھی حسن سے زیادہ مجھ دار و نقیہ شخص نہیں دیکھا۔

ابن سعد: باخبار روح بن عبادہ بخاری حاتم بن سلمہ از جریری ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حسن سے کہا: آپ جو لوگوں کو فتوے دیتے ہیں کیا آپ نے انہیں سنا ہے یا اپنی رائے سے دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ کی قسم ہر فتویٰ ہمارا سنا نہیں ہوتا لیکن لوگوں کے لیے ہماری رائے ان کی ذاتی رائوں سے بہتر ہے۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بخاری حاتم بن سلمہ از علی بن زید میں نے حسن سے ایک حدیث بیان کی پھر ایک دن اسے حسن نے بیان کیا میں نے پوچھا یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی؟ فرمایا معلوم نہیں میں بولا میں نے بیان کی تھی۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بخاری حاتم بن سلمہ از علی بن زید میں نے حسن سے ایک حدیث بیان کی پھر ایک دن اسے حسن نے بیان کیا میں نے پوچھا یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی؟ فرمایا معلوم نہیں میں بولا میں نے بیان کی تھی۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بخاری حاتم بن سلمہ از علی بن زید میں نے حسن سے ایک حدیث بیان کی پھر ایک دن اسے حسن نے بیان کیا میں نے پوچھا یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی؟ فرمایا معلوم نہیں میں بولا میں نے بیان کی تھی۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بخاری حاتم بن سلمہ از علی بن زید میں نے حسن سے ایک حدیث بیان کی پھر ایک دن اسے حسن نے بیان کیا میں نے پوچھا یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی؟ فرمایا معلوم نہیں میں بولا میں نے بیان کی تھی۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بخاری حاتم بن سلمہ از علی بن زید میں نے حسن سے ایک حدیث بیان کی پھر ایک دن اسے حسن نے بیان کیا میں نے پوچھا یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی؟ فرمایا معلوم نہیں میں بولا میں نے بیان کی تھی۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بخاری حاتم بن سلمہ از علی بن زید میں نے حسن سے ایک حدیث بیان کی پھر ایک دن اسے حسن نے بیان کیا میں نے پوچھا یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی؟ فرمایا معلوم نہیں میں بولا میں نے بیان کی تھی۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بخاری حاتم بن سلمہ از علی بن زید میں نے حسن سے ایک حدیث بیان کی پھر ایک دن اسے حسن نے بیان کیا میں نے پوچھا یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی؟ فرمایا معلوم نہیں میں بولا میں نے بیان کی تھی۔

نہ ہمیں کوئی خبر دی جاتی آپ تو آخرت ہی کا ذکر کرتے تھے اور اگر ہم محمد بن سیرین کے پاس آتے تو وہ ہم سے خبریں معلوم کیا کرتے تھے اور اشعار بھی۔

ابن سعد: باخبار عفران بن مسلم: یثمد یزید بن ابراہیم میں نے دیکھا حسن اپنے بیان میں دعائیں ہاتھ اٹھالیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عفران بن مسلم: یثمد یثمد بن حماد بن سلمہ از حمید حسن روزانہ نصف درہم کا گوشت لیا کرتے تھے میں نے کبھی حسن کے شوربے سے زیادہ کسی کے شوربے میں خوشبو نہیں سونگھی۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: یثمد یثمد بن حماد بن زید از ایوب: میں نے کبھی حسن کے شوربے سے زیادہ عمدہ خوشبو کسی نے شوربے میں نہیں پائی۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: یثمد یثمد بن حماد بن زید از ایوب: میں نے مسئلہ تقدیر میں حسن سے کئی بار مقابلہ کیا ہے حتیٰ کہ میں نے آپ کو سلطان کا خوف دلایا فرمایا آج کے بعد میں اس میں گفتگو نہیں کروں گا۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: یثمد یثمد بن حماد از ایوب: مجھے کوئی ایسا شخص معلوم نہیں جو اس مسئلہ کے علاوہ کسی دوسرے مسئلہ پر حسن کی گرفت کر سکے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: یثمد یثمد بن حماد بن زید از ایوب: اللہ کی قسم میں نے حسن کو اور آپ کے اقوال کو پایا ہے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل: یثمد یثمد ابو ہلال بسماع حمید و ایوب (جب کہ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے) حمید ایوب سے کہتے ہیں: میری آرزو ہے کہ تاوان ہم پر بٹ جائے اور حسن اس مسئلہ (مسئلہ تقدیر) پر جس پر گفتگو کیا کرتے ہیں گفتگو نہ کریں۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل: یثمد یثمد ابو ہلال: یثمد یثمد بن حماد بن زید از ایوب: میں نے حسن کو اپنے گدھے پر سوار کر کے مسجد سے ان کے گھر پہنچایا آپ نے لوگوں کو اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھا فرمایا: یہ لوگ کسی شخص کے دل میں کچھ نہ چھوڑیں اگر یہ بات نہ ہو کہ مومن اپنے نفس کی طرف لوٹ کر اپنے نفس کو پہچان لے۔

ابن سعد: باخبار عفران بن مسلم: یثمد یثمد مرثیٰ بن رجا: یثمد یثمد بن غالب: ایک دفعہ حسن مسجد سے نکلے آپ کا گدھا کوئی لے گیا تھا آخر کار میرا گدھا لایا گیا آپ اس پر سوار ہوئے میرا گدھا اپنے سوار کی ٹانگ پکڑ لیا کرتا تھا اس لیے حسن پر مجھے ڈر ہوا چنانچہ میں نے اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی پوچھا: کیا یہ تمہارا گدھا ہے؟ میں بولا: جی ہاں آپ کے پیچھے کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے فرمایا ان لوگوں کے جو توں کی چاپ کسی کمزور شخص کے دل میں کچھ نہ چھوڑے اللہ کی قسم اگر مسلم یا مومن (مرثیٰ کا شک ہے) اپنے نفس کی طرف نہ لوٹے اور یہ نہ پہچانے کہ وہ کچھ نہیں تو لوگوں کا یہ فعل اس کا دل بگاڑنے میں سریع التاثر ہے۔

ابن سعد: باخبار عفران بن مسلم: یثمد یثمد بن حماد بن زید: یثمد یثمد بن حماد بن زید از ایوب: بسماع حسن: لوگوں کے پیچھے جو توں کی چاپ بے وقوفوں کو ٹھہرانے والی نہیں۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم: یثمد یثمد بن سلام بن مسکین بسماع حسن: اس دنیا کو ذلیل کرو اللہ کی قسم جب تم اسے ذلیل کرو

گے تو یہ تمہیں رپے رپے کی نہیں۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب بن محمد یث ابو ہلال بن محمد یث غالب قطان ہم حسن کے پاس ہوتے تھے جب کہ آپ کے پاس ایاس بن معاویہ اور یزید بن ابی مریم بھی ہوتے تھے جب حسن سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو ایاس جواب میں سبقت کر جاتے تھے پھر حسن سے پوچھا جاتا تھا اور جواب سے ہم حسن کی فضیلت و قابلیت معلوم کر لیا کرتے تھے ایک دفعہ حسن سے پوچھا گیا کیا شہد کا صاع کافی ہے ایاس نے فوراً جواب دیا کہ کافی ہے لیکن حسن نے کہا کبھی کافی ہوتا ہے اور کبھی کافی نہیں ہوتا کبھی انسان سلوک کرنے والا ہوتا ہے اس سے کافی ہو جاتا ہے اور کبھی انسان بے وقوف ہوتا ہے اس سے کافی نہیں ہوتا، حسن کو ان پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح باز کو چڑیوں پر حاصل ہے۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم بن محمد یث یزید بن عوانہ بن محمد یث ابو شداد جو بنی مجاشع سے ایک شیخ ہیں اور یزید ان کی تعریف کرتے ہیں بسماع حسن (ان کا ذکر سن کر جو کھیل کے کپڑے پہنتے ہیں) انہیں کیا ہو گیا، یہ گم ہوں، دلوں میں غرور چھپائے ہوئے ہیں اور لباس سے مسکینی ظاہر کرتے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے ایک غرور میں چادر والوں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔

ابن سعد: باخبار عبد اللہ بن جعفر رقی از عبید اللہ بن عمرو از کلثوم بن جوشن: ایک شخص حسن کے پاس آیا اور آپ کے پاس ہانڈی کی پیاری خوشبو پائی بولا: ابو سعید! آپ کی ہانڈی کی خوشبو مست کن ہے فرمایا: ہاں کیونکہ میری روٹی مالک سے اور اس کی رکابی فرقہ ہے۔

ابن سعد: باخبار عبد اللہ بن جعفر بن محمد یث عبید اللہ بن عمرو از کلثوم بن جوشن: حسن یمنی جبہ اور یمنی چادر اوڑھ کر نکلے فرقہ نے آپ کو دیکھا اور فارسی زبان میں کہا استاد کو آپ جیسا ہونا مناسب ہے حسن نے فرمایا اے ام فرقہ کے بیٹے! کیا تجھے معلوم نہیں کہ اکثر جہنمی کھیل والے ہوں گے۔

ابن سعد: باخبار عبد اللہ بن جعفر بن محمد یث عبید اللہ بن عمرو از کلثوم بن جوشن: ایک شخص نے حسن سے اپنے کسی کام میں اعانت چاہی آپ اس کے ساتھ چلے گئے وہ کہنے لگا میں نے ابن سیرین اور فرقہ سے اعانت چاہی تھی انہوں نے فرمایا ہم ایک جنازے میں شریک ہونے کے بعد تمہارے ساتھ چلیں گے فرمایا: دیکھو اگر وہ تمہارے ساتھ چلے جاتے تو یہ بہتر تھا۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل بن محمد یث ابو ہلال بن محمد یث عتبہ بن یقظان: ہم حسن کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کے کچھ نوجوان بھی تھے جو آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا (دوبار) فرمایا انہیں کیا ہو گیا، کیوں حیران ہیں انہیں کیا ہو گیا آپس میں ایک دوسرے کو گم کریں۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل بن محمد یث قرہ بسماع حسن: ہمارے پاس اس حلقہ میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو محض دنیا چاہتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے ہم پر وہ قول نہیں کہا جو ہم نے کہا ہے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل بن محمد یث جریر بن حازم: ہم حسن کے پاس تھے دن ڈھل گیا تھا آپ کے صاحبزادے نے کہا شیخ کو آرام کرنے دو تم لوگوں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا آپ نے ہنوز کھانا نہیں کھایا اور نہ پانی پیا فرمایا بائیں اور آپ

اپنے بچہ کو ڈانٹ دیا کہ انہیں کچھ نہ کہہ اللہ کی قسم انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں اس قدر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے دیکھو ایک مسلمان شخص اپنے بھائی سے ملتا ہے پھر دونوں باتیں کرتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں اس سے دو پہر کی نیند روک دیتی ہے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل: محمد بن جریر بن حازم، ہم حسن کے پاس تھے پھر جب کوئی شخص آتا تو سلام علیکم کہتا آپ بھی جواب میں سلام علیکم فرمادیتے تھے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل: محمد بن حماد بن زید بقول عمرو بن عبید، ہم حسن کا علم غصہ ہی کے وقت لیا کرتے تھے۔
ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل: محمد بن عیسیٰ بن منہال از غالب از حسن، قول پر فضل کی فضیلت باعث عزت ہے اور فضل پر کلام کی فضیلت باعث عار ہے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل: محمد بن حماد بن سلمہ از ثابت از حسن، مومن کی ہنسی اس کے دل کی غفلت کی نشانی ہے۔
ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل: سماع بن یزید بن زریع از ابن عمرو (عالمیاً) از قتادہ، جب میرے لیے چار جمع ہو جائیں تو میں کسی کی طرف توجہ نہ کروں اور ان کے مخالفین کی پرواہ نہ کروں، حسن، سعید بن مسیب، ابراہیم اور عطاء، یہ چاروں دنیائے اسلام کے امام ہیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: محمد بن حماد بن زید از ہشام، عطاء سے ایک مسئلہ پوچھا گیا فرمایا مجھے معلوم نہیں کہا گیا حسن اس کا ایسا جواب دیتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم میرے سینے میں حسن جیسا دل نہیں۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم: محمد بن حماد بن سلمہ از حمید، جب ہم مکہ میں تھے تو مجھ سے شععی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ حسن کو میرے لیے تہا چھوڑ دیں میں حسن کے ساتھ گھر میں تھا میں نے آپ سے یہ بات کہہ دی فرمایا جب وہ چاہیں (آجائیں) پھر شععی تشریف لے آئے ہیں میں دروازے پر تھا میں بولا چلے جائیں حسن گھر میں تنہا ہیں میں داخل ہوا تو حسن قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے فرما رہے تھے اے آدم کے بیٹے تیرا وجود نہ تھا پھر تجھے وجود بخش دیا گیا اور تو نے اللہ سے جو کچھ مانگا اللہ نے تجھے وہی دیا لیکن تجھ سے لوگوں نے مانگا تو نے نکل کیا تیرے افعال کتنے برے ہیں پھر شععی چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر حسن وہی کہتے ہیں بار بار ایسا ہی ہوتا ہے حمید کہتے ہیں پھر شععی میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں اچھا تو میں جاتا ہوں کیونکہ شیخ کسی دوسرے خیال میں ہیں جس میں تم نہیں۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم: محمد بن سلیمان بن مغیرہ: محمد بن یونس بن عبید، حسن اپنا وظیفہ لے کر اسے بانٹنے لگے گھر والوں نے اپنی ضرورتیں پیش کیں، فرمایا جو کچھ باقی ہے تمہارا ہے دیکھو اس میں خیر و برکت اسی طرح ہے۔ ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم: محمد بن حماد بن سلمہ از حمید از حسن، ہنسی کی کثرت سے دل مر جاتا ہے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: محمد بن حماد بن زید از محمد بن زبیر، مجھ سے عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ حسن کا جسم کیسا تھا اور ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ اور یہ بھی کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسن حرقانی پگڑی باندھا کرتے تھے۔ میں بولا: جی ہاں، فرمایا: دیکھو وہ

ان کا قومی لباس ہے پوچھا کیا تم نے یہ بھی دیکھا کہ حسن عدی کے پاس آتے جاتے تھے میں بولا جی ہاں پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ حسن عدی کے پاس کیا کرتے تھے؟ کیا ان کے ساتھی کھانا کھایا کرتے تھے؟ میں بولا: جی ہاں ایک دن آپ کے سامنے ایک طباق لایا گیا آپ نے اس میں سے ایک بادام اٹھایا اور دانت سے اسے توڑنا چاہا پھر اسے طباق ہی میں رکھ دیا۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل متحد یث اہل بن حصین بن مسلم بن باہلی از ابو قزعا باہلی: میں نے حسن کے پاس کئی غلام دیکھے جو آپ کے والد نے انہیں بھیجے تھے۔

ابن سعد: باخبار ابو قطن عمرو بن یثیم متحد یث ابو حره حسن اپنے فیصلہ پر اجرت نہیں لیا کرتے تھے۔ ابن سعد: باخبار یعقوب بن اسحاق حضرمی متحد یث عقبہ بن خالد عبدی۔ بسماح حسن: آدم اور بن مانس سب ختم ہو گئے اب تو ہم آواز سنتے ہیں اور کسی کو مانس نہیں پاتے۔

ابن سعد: باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس متحد یث مندل از ابو یونس: جب حسن سے کہا جاتا کہ آپ تلوار سے لوگوں کو سیدھی راہ پر کیوں نہیں لاتے؟ فرماتے: اللہ تعالیٰ توبہ سے ہدایت فرماتا ہے تلوار سے نہیں۔

ابن سعد: باخبار خلف بن تمیم متحد یث زائدہ از ہشام از حسن و محمد: خواہش پسندوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، نہ ان سے جھگڑو اور نہ ان کی باتیں سنو۔

ابن سعد: باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس بسماح ابو بکر بن عیاش حسن بیان فرماتے تھے اور ہمارا گھر کچا کھج بھرا ہوا ہوتا تھا اور ہم کو آپ کی باتیں سننے کی تاب نہ ہوتی تھی (آپ کا وعظ انتہائی مؤثر ہوتا تھا جو دلوں میں اتر جاتا تھا اور دل اڑنے لگتے تھے)۔

ابن سعد: باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس متحد یث ابو بکر بن عیاش از محمد بن زبیر از حسن: ایک دن میرے پاس میرا ایک بیٹا آیا میں نے اس سے پوچھا تم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا تھا؟ بولا: جی ہاں اس نے اپنی صاحبزادی کا پیام دیا تھا فرمایا: کیا وہ آزر کردہ غلام ہے؟ بولا: جی ہاں فرماتے ہیں اس کے دوستوں کو اس بات سے رنج ہوا فرمایا جاؤ نکاح کر لو اس نے تم کو کیا دیا؟ بولے: دس ہزار فرمایا دس ہزار تو دوستی کا ہدیہ ہے جب تم اس سے دس ہزار لے لو گے تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ چھ ہزار اسی کے پاس چھوڑ دو اور چار ہزار لے لو ایک شخص بولا: ابو سعید! ان کے میرے پاس ایک لاکھ ہیں پوچھا: ایک لاکھ؟ بولا: ہاں ایک لاکھ فرمایا: اللہ کی قسم اس میں خیر و برکت نہیں اس سے نکاح نہ کرو یہ سن کر لڑکی کی والدہ نے آکر کہا آپ نے اس رزق کو جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا تھا کیوں حرام فرما دیا؟ فرمایا اے عجمی عورت! چلی جا، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ ایک لمبی ترنگی بوڑھی عورت ہے۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار ہشام بن حسان: مسلمہ بن عبد الملک نے حسن کی خدمت میں ایک جباد اور ایک چادر بھیجی آپ نے دونوں چیزیں قبول فرمائیں میں اکثر آپ کو مسجد میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ جبہ پر چادر لٹکائے ہوئے ہیں۔

ابن سعد: باخبار وہب بن جریر بن حازم متحد یث جریر بن حازم: میں نے حسن کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک منقش چادر اوڑھے ہوئے ہیں جب آپ سجدہ کرتے تو اس سے ہاتھ نہیں نکالا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار ابو عامر عقدی متحد یث مہدی بن میمون حسن جب کسی مجلس میں تشریف لاتے تو جاڑے ہوں یا گرمی

گڑی ضرور باندھ کر آتے تھے۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکن، یثمدیث عمارہ بن زاذان میں نے دیکھا حسن شطوی کتان کا کرتہ صلیب والی چادر زلیلی سبز چادر اور ترکی جب پہنے ہوئے ہیں۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکن، یثمدیث بدر بن عثمان میں نے حسن کو سیاہ گڑی میں دیکھا۔ ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم، یثمدیث سلیمان بن مغیرہ: میں نے حسن کو یمنی کپڑوں میں، سبز چادروں میں اور گڑیوں میں دیکھا۔ ابن سعد: باخبار کوچ از ابو عمر دینار: میں نے حسن کو سیاہ گڑی میں دیکھا۔

ابن سعد: باخبار معن بن عیسیٰ از محمد بن عمرو انصاری: میں نے حسن کے بائیں ہاتھ میں انگٹھی دیکھی۔

ابن سعد: یثمدیث از محمد بن حسن واسطی باخبار عوف: ایک شخص نے حسن سے پوچھا میری بہتی خندق سے گھری ہوئی ہے مجھے وہاں سے آنے جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے میرے پاس کچھ حدیثیں ہیں اگر آپ کوئی حرج نہ سمجھیں تو میں انہیں آپ کو پڑھ کر سنا دوں؟ فرمایا اگر تم انہیں مجھے سنا دو تو برابر ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ حدیثیں تم نے مجھ سے بیان کیں میں بولا: کیا میں یہ کہہ دوں کہ مجھ سے حسن نے بیان کیں؟ فرمایا ہاں کہہ سکتے ہو مجھ سے حسن نے بیان کیں۔ یحییٰ بن ابی بکر یثمدیث حماد بن سلمہ از حمید حمید نے حسن کی کتابیں لے کر نقل لیں پھر کتابیں حسن کو دے دیں۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، یثمدیث حمید بن مہران، یثمدیث ابو طارق سعدی: میں موت کے وقت حسن کے پاس موجود تھا آپ کا تب کو وصیت فرما رہے تھے کہ لکھ یہ وہ ہے جس کی گواہی حسن بن ابوالحسن دیتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جس نے اپنی موت کے وقت سچے دل سے ان دونوں کلموں کی گواہی دی وہ جنتی ہے یہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت وصیت کی تھی اور یہ رسول اللہ ﷺ سے بھی مروی ہے۔

ابن سعد: باخبار معن بن عیسیٰ، یثمدیث عبدالواحد بن میمون مولیٰ عروہ بن زبیر: ایک شخص نے ابن سیرین سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرندے نے حسن کو اٹھا کر مسجد میں پھینک دیا ابن سیرین نے فرمایا اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو حسن فوت ہو گئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حسن کی وفات کی خبر آگئی۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم، یثمدیث سلیمان بن مغیرہ از ثابت: میں حسن کے پاس ان کی بیماری میں گیا انہوں نے کچھ فرمایا لیکن میں سمجھ نہ سکا ان کے صاحبزادے نے فرمایا کہ آپ ان اللہ پڑھ رہے ہیں۔

ابن سعد: باخبار معاذ بن ہانی، یثمدیث سلام بن مسکین: ہم حسن کی بیمار پرسی کے لیے گئے آپ نے ہمیں غور سے دیکھ کر فرمایا کاش انسان اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے ایام کے لیے کچھ لے لیتا۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل، یثمدیث ابو ہلال: ہم قنادہ کے گھر میں تھا کہ ہمیں حسن کی وفات کی اندوہناک خبر ملی میں بولا کیا آپ علم میں غوطہ لگاتے رہتے تھے قنادہ نے فرمایا نہیں بلکہ علم میں ڈوبے رہتے تھے اور علم آپ کی رگ رگ میں خون کی طرح

دوڑتا تھا اللہ کی قسم حسن کا دشمن خارجی ہی ہو سکتا ہے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل بن محمد یث اہل بن حصین بن مسلم باہلی: میں نے آدمی بھیج کر عبداللہ بن حسن سے ان کے والد کی کتابیں منگوائیں آپ نے یہ جواب بھیجا کہ جب حسن بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا میری کتابیں جمع کر کے میرے پاس لے آؤ میں نے حکم کی تعمیل کی مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کتابوں کا کیا کریں گے آخر میں تمام کتابیں لے کر آپ کے پاس آیا آپ نے خادم سے کہا انہیں تنور میں جھونک آؤ صرف ایک کتاب بچائی تھی سو وہ حاضر ہے اور آپ نے وہ کتاب بھیج دی پھر میں نے اس سلسلہ میں آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو آپ نے وہی کہا جو مقاصد سے کہا تھا:

ابن سعد: باخبار معقل بن اسد بن محمد یث ابو عبیدہ عبدالمومن: میں نے سنا ایک شخص حسن سے پوچھ رہا ہے: ابو سعید! کیا آپ نے کبھی کسی جہاد میں بھی حصہ لیا ہے؟ فرمایا: ہاں! میں غزوہ کاہل میں عبدالرحمن بن سمرہ کے ساتھ تھا۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم بن محمد یث حماد بن سلمہ بن محمد یث حمید حسن نے صرف دو حج کیے ایک حج ابتدائے عمر میں کیا اور دوسرا آخری عمر میں۔

ابن سعد: باخبار احمد بن محمد بن ولید از رقی بن محمد یث عبدالرحمن بن ابوالرجال از عمر مولیٰ غفرہ قدر یہ حسن کی طرف منسوب ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ حسن کے اقوال ان کے مخالف ہیں آپ فرمایا کرتے تھے: اے آدم کے بیٹے! اللہ کی ناراضی کے ہوتے ہوئے کسی سے راضی نہ ہونا اور اللہ کے گناہ میں کسی کی بات نہ ماننا اور اللہ کے فضل پر کسی کی تعریف نہ کرنا اور جو چیز اللہ نے تجھے نہیں دی اس پر کسی کو برانہ کہنا اللہ نے مخلوق کو اور ان کی عادتوں کو پیدا کیا اور وہ انہیں اخلاق پر گامزن رہے جن پر اللہ نے انہیں پیدا فرمایا تھا اگر کسی کو گمان ہو کہ حرص سے میرا رزق بڑھ جائے گا تو حرص سے اپنی عمر بڑھا کر دکھائے یا اپنا رنگ ہی بدل کر دکھائے یا اپنے اعضاء میں یا انگلیوں میں زیادہ کر کے دکھائے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل بسماع شعیب بن سجادوں والے میں نے دیکھا حسن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور آنسو آپ کی داڑھی پر بہ رہے ہیں۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم بن محمد یث ہمام از قتادہ حسن بال اڑانے کے لیے چونا استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ ابن سعد: باخبار عوف بن مسلم بن محمد یث مہدی: میں حسن کے دروازے پر تھا آپ گھر آئے اور دروازے پر گھر والوں کو سلام کیا فرمایا السلام علیکم۔

ابن سعد: باخبار عوف بن مسلم بن محمد یث حماد بن سلمہ بن محمد یث یحییٰ بن سعید بھتیجہ حسن: جب میں پڑھنے میں ہوشیار ہو گیا تو میں نے کہا: چچا جان! معلم فیس مانگتا ہے فرمایا: معلم تو اجرت نہیں لیا کرتے تھے پھر فرمایا پانچ درہم دے دینا میں کہتا رہا اور بڑھائے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا دس درہم دے دینا۔

ابن سعد: باخبار عوف بن مسلم بن محمد یث حماد بن زید بن محمد یث زریق بن زید از حسن: اے آدم کے بیٹے! قوی مت بن۔ ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم بن محمد یث ہمام از قتادہ ہم حسن کے پیچھے بواری میں نماز پڑھا کرتے تھے حسن سال کے سال بقرعید کے دن سر منڈوایا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل، محمد بیٹ ابو ہلال: حسن گفتگو کرنے کے بعد کھڑا ہونا چاہتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یا اللہ ہمارے دل شرم، غرور، نفاق، ریاکاری، شہرت اور اپنے دین میں شک و تردد سے محفوظ فرما اے دلوں کے پلٹنے والے! ہمارے دل اپنے دین پر قائم رکھ اور ہمارا دین سیدھا سچا اسلام ہی بنا۔

ابن سعد: باخبار حسن بن موسیٰ، محمد بیٹ ابو ہلال، محمد بیٹ خالد بن رباح: انس بن مالک سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، فرمایا: مولانا حسن کو چٹ جاؤ اور ان سے پوچھا کرو لوگ بولے ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ ہمیں حسن کا حوالہ دیتے ہیں فرمایا ہم نے بھی حدیثیں سنیں اور حسن نے بھی ہم بھول گئے اور انہیں یاد ہیں۔

ابن سعد: باخبار حجاج بن نصیر، محمد بیٹ عمارہ بن مہران، حسن سے پوچھا گیا آپ تبلیغ کے لیے امراء کے پاس کیوں نہیں آتے جاتے، فرمایا: مومن کو لائق نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے جب ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کی تلواریں ہماری زبانوں سے پیش پیش رہتی ہیں آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا وہ ہماری گردنیں اڑا دیتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار حجاج از عمارہ از حسن: دنیا ایک قسم کا لعوق ہے، عمارہ: میں نے بجز حسن کے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کا قول اس کے عمل کے موافق ہو۔

ابن سعد: باخبار حجاج، محمد بیٹ عمارہ: میں حسن کے پاس تھا آپ طلوہ تناول فرما رہے تھے کہ فرقد آگئے، فرمایا: آؤ کھاؤ فرقد بولے مجھے ڈر ہے کہیں میں اس کا شکر ادا نہ کر سکوں فرمایا: اللہ تم پر رحم فرمائے کیا تم ٹھنڈے پانی کا شکر ادا کرتے ہو؟
ابن سعد: باخبار حجاج از عمارہ از حسن: ہم عابد کو اس کی گویائی سے نہیں پہچانتے بلکہ اس کے عمل سے پہچانتے ہیں اور یہی مفید علم ہے۔

ابن سعد: باخبار حجاج، محمد بیٹ عمارہ، محمد بیٹ حسن: حسن قرآن میں سروں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ابن سعد: باخبار حجاج، محمد بیٹ عمارہ از حسن: لوگوں سے بدگمانی سے اپنے کو محفوظ رکھو۔
ابن سعد: سعید بن محمد ثقفی از ربیع بن صبیح: جب حسن کے سامنے کوئی حسن کی تعریف کرتا تو اس کی تعریف آپ کو ناگوار گزرتی اور اگر کوئی آپ کے حق میں دعا کرتا تو اس کی دعا آپ کو اچھی معلوم ہوتی۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، محمد بیٹ حماد بن زید، محمد بیٹ غالب قطان: میں حسن کے پاس عبد الملک بن ابی بشیر کا خط لے کر آیا، فرمایا: پڑھ کر سناؤ میں نے اسے پڑھا اس میں دعائی فرمایا، تمہارے بہت سے بھائی تمہاری ماں سے نہیں پیدا ہوئے۔

ابن سعد: باخبار علی بن عبد الحمید الہثمی، محمد بیٹ عمران بن خالد خزاعی، ایک شخص سے جس کا نام بھی بتایا تھا، مط نے حسن سے ایک مسئلہ پوچھا اور کہا کہ اس میں علماء آپ کے مخالف ہیں آپ نے فرمایا: امیر! امیر ہی مال تجھے گم کرے، خبر بھی ہے عالم کون ہوتا ہے؟ عالم پر ہیبر کارو زائد ہوتا ہے جو اپنے سے بڑے عالم کا احترام کرتا ہے اور چھوٹے عالم کو حقیر نہیں سمجھتا اور اپنے علم پر ابرت نہیں لیتا۔
ابن سعد: باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس، سماع ابو بکر بن عیاش: اگر حسن جنازہ دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اچک لیے جانے والا شخص نہیں بنایا اور اس دن کچھ بیان نہیں فرماتے۔

ابن سعد: باخبار معن بن عیسیٰ بن محمد بن محمد بن عمرو: حسن کی وفات ایک سو دس سال کی عمر میں بقول اسماعیل بن علیہ رجب میں ہوئی۔ اور آپ میں اور ابن سیرین میں اس دن سے جس دن ابن سیرین حسن کے پاس آئے ہیں سو سال ہیں۔
ابن سعد باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید: حسن جمعہ کی شب کوفت ہوئے آپ کو ایوب اور حمید طویل نے غسل دیا اور آپ کا جنازہ نماز جمعہ کے بعد لایا گیا اس میں میرے والد اپنے ساتھ مجھے لے گئے تھے۔ معاذ بن معاذ: حسن بن سیرین سے دس سال بڑے تھے۔

سعید بن ابوالحسن رضی اللہ عنہما:

آپ حسن سے چھوٹے تھے، حسن سے راوی ہیں اور آپ سے بھی لوگ روایت کرتے ہیں۔ ابن سعد: باخبار ابوقطن عمرو بن ہشام و یحییٰ بن خلیف بن عقبہ بن محمد بن ابوخلدہ: میں نے سعید کی داڑھی زرد دیکھی۔

ابن سعد: باخبار فضل بن عنبہ و عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از یونس بن عبید: سعید کی موت پر حسن بصری کو سخت صدمہ ہوا اور آپ گفتگو سے بھی رُک گئے آپ کی مجلس اور گفتگو سے غم کا اظہار ہوتا تھا۔ اس سلسلہ میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے حزن یعقوب رضی اللہ عنہ کے لیے عاز نہیں بنایا پھر فرمایا: جدائی ڈالنے والا گھر بہت ہی برا ہے۔

ابن سعد: باخبار عرفان بن مسلم بن محمد بن مبارک بن فضالہ: جب حسن کے پاس ان کے بھائی سعید کی موت کی خبر پہنچی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ روز بے تھے اتنے میں بکر بن عبد اللہ بھی تشریف لے آئے اور آپ کو تسلی دینے لگے اور کہنے لگے: ابو سعید! آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اگر لوگ آپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو اپنے اپنے گھر جا کر کہیں گے ہم نے مصیبت کے وقت حسن کو روتا ہوا دیکھا اور آپ کے رونے سے لوگوں پر استدلال کریں گے یہ سن کر آپ نے حمد و ثنا کے بعد جب کہ آنسو آپ کا گلہ گھونٹ رہے تھے فرمایا: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ لوگوں کے دلوں کے لیے رحمت کی نشانی بنائی جس سے ایک دوسرے پر اظہار شفقت کرتا ہے آنکھیں روتی ہیں اور دل غزدہ ہے یہ بے صبری نہیں بے صبری زبان سے اور ہاتھ سے ہوتی ہے پھر فرمایا حق تعالیٰ نے حزن کو گناہ قرار نہیں دیا جب کہ یہ بھی فرمایا کہ ان کی دونوں آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں پھر وہ غم سے گھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سعید بن حسن کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیں اور آپ نے ان کے لیے خوب دعائیں مانگیں پھر فرمایا جب کبھی مجھ پر کوئی نازک وقت آیا تو ان کی یہی تمنا ہوتی تھی کہ میری ڈھال بن جائیں۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری بن محمد بن یونس: مجھے حسن نے اپنے بھائی سعید کی جب وہ فوت ہو گئے ایک خوبصورت ٹوپی دی کہ میں اسے فروخت کر دوں اور اس پر گہرے غم کا اظہار کیا میں اسے بازار لے کر گیا تو اس کے صرف ۲۴ درہم ملے میں نے آپ سے کہا: میں اسے لینا چاہتا ہوں فرمایا تم جانو اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں نہیں چاہتا کہ تم اس جیسی ٹوپی پہنو میں بولا: جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو اسے پہن کر نہ آؤں گا۔ آخر کار میں اسے پہن کر بنوعدی کی مسجد میں گیا اور اس میں نماز پڑھی بنوعدی کی ایک عورت نے میرے سر پر یہ ٹوپی دیکھ کر ایک آدمی کے ذریعہ کہلوا یا کیا میں نہیں دیکھ رہی کہ تم اس جیسی ٹوپی پہنے ہوئے ہو؟ اس بات سے میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا۔ پھر میں نے ابن سیرین کے پاس جا کر اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا اس خاتون کو

میری طرف سے سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک ایک ہزار کا جوڑا خریدا کرتے تھے اور اسے پہنا کرتے تھے لیکن اسے نماز ہی کے لیے پہنا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سعید سو سال سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔

ابو الشعثاء جابر بن زید ازدی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار خالد بن یزید ہدادی از حیان اعرج یا صالح دہان (ایک حدیث میں جو ان سے مروی ہے) جابر بن زید بھیگتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید از خالد بن فضال از ایاس: میں بصرہ گیا تو مفتی عمان کا ایک آدمی تھا جسے جابر بن زید کہا جاتا تھا۔ سفیان از عمرو: میں نے ابو الشعثاء سے اچھا عالم کسی کو نہیں دیکھا۔

سفیان از عمرو از عطاء: میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا فرماتے تھے: اگر بصرہ والے جابر کے اقوال کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب پر عمل کر لیں۔

یحییٰ بن سعید قطان غالباً از سلیمان تمیمی۔ جب حسن جہاد پر تھے تو یہاں لوگوں کے مفتی جابر بن زید تھے پھر جب حسن تشریف لے آئے تو آپ ہی فتویٰ دیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب: محمد یث حماد بن زید: ایک دن ایوب نے جابر کو یاد کیا اور ان کی فہم پر عرش عرش کرنے لگے۔
ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب و عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید: ایوب سے پوچھا گیا کیا آپ نے جابر کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں آپ بڑے ہوشیار ہوشیار ہو شیار تھے (عارم والی حدیث میں ہے اس شخص سے جو محمد ود ہے)۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم: محمد یث جریر بن حازم بسام ایاس بن معاویہ میں نے بصرہ کو پایا اس میں بجز جابر کے کوئی اور مفتی نہ تھا۔

ابن سعد: باخبار حفص بن عمر حوضی: محمد یث ہمام بن یحییٰ: محمد یث قتادہ: جابر قید خانہ میں تھے ان سے لوگوں نے آدمی بھیج کر بیجوے کی میراث کے بارے میں معلوم کرایا فرمایا تم مجھے جیل میں بھی ٹھونکتے ہو اور مجھ سے فتوے بھی پوچھتے ہو دیکھو جس عضو سے بیجو اپیشاب کرتا ہے اسی سے اسے وارث بناؤ۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید: محمد یث حجاج بن ابی عیینہ از ہند: ہم طاعون سے بھاگ کر عراق گئے جابر ایک گدھے پر سوار ہو کر ہمارے پاس آیا جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے تمہارے زیارت کرنے والے تم سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید: محمد یث حجاج بن ابی عیینہ از جابر بن زید: میری ساٹھ سال کی عمر ہو گئی میں نے اس میں خوب عیش کیے آج مجھے ان تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب میرا جو تا ہے بجز اس نیکی کہ جو میں نے آخرت کے لئے بھیج دی۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم و عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید از عمرو بن دینار: جابر سے کہا گیا کہ لوگ جو حدیثیں آپ سے سنتے ہیں لکھ لیتے ہیں فرمایا: اللہ ہی کے لیے لکھتے ہیں عفان نے کہا: آپ سے کل ہٹ جاؤں گا اور عارم نے کہا: میں آپ

سے نکل واپس ہو جاؤں گا۔

ابن سعد: باخبار عصفان و عارم بن محمد یث حماد بن زید از یحییٰ بن عتیق: جابر کا ذکر ابن سیرین کے پاس چھڑ گیا، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے آپ بیع مسلم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دکین محمد یث محمد بن محمد بن برجان: میں نے جابر کو دیکھا جب گیا رہ بارہ حاجی مل کر چلتے تھے تو آپ سب سے آگے آگے ہو کر تے تھے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم محمد یث قاسم بن فضل حدانی: میں نے جابر کو دیکھا آپ کی داڑھی اور سر سفید تھا۔ ابن سعد: باخبار عمرو بن ہشام محمد یث ابوخلدہ: میں نے دیکھا جابر بن زید کی داڑھی زرد تھی۔

ابن سعد: باخبار سعید بن عامر و عصفان بن مسلم محمد یث ہمام از قتادہ از عزیرہ: میں نے جابر سے کہا کہ فرقہ اباضیہ کا گمان ہے کہ آپ ان میں سے ہیں فرمایا: میں تو ان سے بیزار ہوں سعید والی حدیث میں ہے کہ میں نے آپ سے یہ مسئلہ مرض الموت میں پوچھا تھا۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل محمد یث حماد بن زید از ہشام از محمد: جابر ان کے اقوال سے بری تھے۔ عارم: اباضیہ اپنی نسبت جابر کی طرف کیا کرتے تھے (خالد انکہ وہ اس نسبت میں جھوٹے تھے)۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل محمد یث ابوہلال محمد یث داؤد بن ابی القصاف از عزیرہ کوفی: میں نے جابر سے جا کر پوچھا: یہ لوگ (اباضیہ) آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں فرمایا: میں ان سے بری ہوں۔

ابن سعد: باخبار عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعید محمد یث ہمام بن یحییٰ از ثابت البنانی: میں جابر کے پاس ان کی بیماری کی حالت میں گیا اور میں نے پوچھا: آپ کا کس چیز کو دل چاہتا ہے؟ فرمایا: ایک نظر حسن بصری کو دیکھ لیتا فرماتے ہیں میں حسن کے پاس گیا آپ ابوخلیفہ کے گھر تھے اور آپ سے جابر کی تمنا کا ذکر کیا فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو فرماتے ہیں میں نے کہا: مجھے آپ پر اندیشہ ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ دشمنوں کی نگاہیں مجھ سے پھیر دے گا فرماتے ہیں آخر کار ہم جابر کے پاس پہنچ گئے آپ سے حسن نے کہا ابوالشعثاء لا الہ الا کہو فرماتے ہیں پھر آپ نے آیت یوم یاتی بعض آیات ربک کی تلاوت فرمائی پھر آپ سے حسن نے پوچھا: اباضیہ آپ کو اپنا سردار کہتے ہیں فرمایا میں ان سے بری ہوں پھر میں نے پوچھا آپ اہل نہر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فرمایا میں ان سے بھی بری ہوں پھر ہم آپ کے پاس سے چلے آئے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل محمد یث حماد بن زید از حبیب بن شہید از ثابت: جابر سے بیماری میں پوچھا گیا کس چیز کو دل چاہتا ہے؟ فرمایا: ایک نظر حسن کو دیکھ لیتا پھر ثابت حسن کے پاس پہنچے آپ ابوخلیفہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے ثابت حسن کو جابر کے پاس لے آئے جابر نے کہا: مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار نوح بن قیس از عاصمہ بن سالم از ثابت: میں حسن کے پاس گیا آپ ابوخلیفہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے میں بولا آپ کے بھائی جابر حالت نزع میں ہیں فرمایا: ذرا ٹھہرو چلتے ہیں جب شام ہوگی تو آپ نے اپنا ٹھہر

منگوایا اور اس پر سوار ہو گئے اور مجھے پیچھے بٹھالیا اور جابر کے پاس رات بھر رہے پھر جب آپ کو صبح کی روشنی کا ڈرہا اور جابر ہنوز بقید حیات تھے تو حسن نے کھڑے ہو کر چار بار اللہ اکبر کہا اور آپ کے لیے دعائیں مانگیں پھر واپس چلے گئے۔

ابن سعد: باخبا رکع بن جراح از ابو ہلال از حیان اعرج یا ابو الصلت دہان (ابو ہلال کا شک ہے) جابر نے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی نہلائیں۔

محمد بن عمر وغیرہ: جابر ۶۰۳ھ میں فوت ہوئے اور بقول ابو نعیم انس بن مالک کے ساتھ جمعہ کے دن ۹۳ھ میں فوت ہوئے۔ محمد: اس میں ابو نعیم کا وہم ہے جابر بالاتفاق ۶۰۳ھ میں فوت ہوئے اور انس ۹۱ھ میں۔

ابو قلابہ جریمی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبداللہ بن زید ہے آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں آپ کا مجموعہ احادیث شام میں تھا۔ ابن سعد: باخبا رعارم بن فضل محمد یث حماد بن زید از ایوب از ابی قلابہ: آپ سے پوچھا گیا کہ غمی کون ہے؟ فرمایا جو اس پر راضی رہے جو اللہ تعالیٰ اسے دے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا جو علماء کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرے۔ ابن سعد: باخبا رعارم بن مسلم محمد یث حماد بن زید بسماع ایوب (ابو قلابہ کا ذکر کر کے) اللہ کی قسم آپ بڑے جید عالم تھے۔ ابن سعد: باخبا رعارم بن مسلم و سلیمان بن حرب و عارم بن فضل محمد یث حماد بن زید از ایوب بقول مسلم بن یسار: اگر ابو قلابہ غمی ہوتے تو قاضی القضاہ ہوتے۔

ابن سعد: باخبا رعارم بن فضل محمد یث ثابت بن یزید محمد یث عاصم از ابو قلابہ: اگر کسی عالم کو لوگ اس کے نفس سے زیادہ جانتے ہوں تو وہ ہلاک ہو جانے کے لائق ہے اور اگر وہ لوگوں کی بہ نسبت اپنے نفس کو زیادہ جانتا ہو تو وہ نجات پا جانے کے لائق ہے۔ ابن سعد: باخبا رعارم بن فضل محمد یث حماد بن زید از ایوب: میں نے اسے جو فیصلہ کرنے میں بہت ہوشیار ہوتا تھا، اس سے بہت کتراتا ہوا اور اس سے انتہائی بیزار دیکھا میں نے بصرہ میں ابو قلابہ سے زیادہ بہتر قاضی کسی کو نہیں پایا مجھے معلوم نہیں محمد کیا فرماتے اگر آپ کو خبر دی جاتی۔

ابن سعد: باخبا رعارم بن مسلم محمد یث حاتم بن وردان محمد یث ایوب ابو قلابہ سے قاضی بننے کی درخواست کی گئی آپ موقعہ پا کر ملک شام چلے گئے اور وہاں ایک مدت تک رہے پھر تشریف لائے میں نے کہا کاش آپ حکمہ قضا سنبھال لیتے اور لوگوں میں انصاف کرتے مجھے امید تھی کہ آپ کو اس کا اجر عظیم ملتا فرمایا ایوب: دریا میں تیرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے کب تک اس کے تیرنے کی توقع رکھتے ہو؟

ابن سعد: محمد یث سلیمان بن حرب محمد یث حماد بن زید از ابو شہینہ صاحب زیاد ی: ابن سیرین کے پاس ابو قلابہ کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا ابو قلابہ میرے سچے بھائی ہیں۔

ابن سعد: باخبا راحمد بن عبداللہ بن یونس محمد یث ابو بکر بن عیاش محمد یث عمرو بن میمون از ابو قلابہ جب میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا: ابو قلابہ! حدیث بیان کیجئے میں بولا: امیر المؤمنین! میں کثرت سے حدیثیں بیان

کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا اور نہ کثرت سکوت کو پسند کرتا ہوں۔

ابن سعد: باخبار محمد بن مصعب قرظی، یثمدی، اوزاعی، از مغلذ، از ایوب، از ابوقلابہ: اگر تم کسی سے حدیث بیان کر رہے ہو اور وہ تم سے کہے حدیث چھوڑا اور قرآن کی آیت پیش کرو تو یقین مانو وہ گمراہ ہے۔

ابن سعد: باخبار عبد اللہ بن جعفر، یثمدی، عبد اللہ بن عمرو، باخبار عوف بن مسلم و احمد بن اسحاق از وہیب از ایوب از ابوقلابہ: بدعت جاری کرنے والا اپنے لیے تلوار ہی کو حلال کرتا ہے۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب، یثمدی، حماد بن زید از ایوب، بقول ابوقلابہ: ہوا پرستوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو اور نہ ان سے جھگڑو کیونکہ میں اس سے بے خوف نہیں کہ وہ اپنی گمراہی سے تمہیں بھی نہ لے ڈالیں یا تمہیں جو باتیں معلوم ہیں ان میں تم کو تذبذب میں ڈال دیں۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب، یثمدی، حماد بن زید از ایوب، بقول ابوقلابہ: خواہش پرست گمراہ ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ان کا لوٹنا جہنم ہی کی طرف ہوتا ہے پھر آگ انہیں گھسنی ہے ان میں سے ہر ایک جو رائے رکھتا ہے یا جو قول پیش کرتا ہے اس کا انجام تلوار پر ہی نکلتا ہے دیکھو نفاق کی کئی قسمیں ہیں پھر آپ یہ آیت پڑھتے ہیں: ﴿وَمَنْهُمْ مِّنْ عَاهِدِ اللَّهِ وَمَنْهُمْ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَمَنْهُمْ مِّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ (بعض مال ملنے پر اللہ سے صدقہ کا عہد کرتے ہیں، بعض نبی اکرم ﷺ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور بعض صدقات میں آپ پر کلمہ چینی کرتے ہیں) دیکھئے ان کے اقوال مختلف ہیں لیکن سب شک و تکذیب پر جمع ہیں اور ان لوگوں کے بھی اقوال مختلف ہیں لیکن تلوار میں سب جمع ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہی میں دیکھتا ہوں ایوب کہتے ہیں اللہ کی قسم ابوقلابہ انتہائی جید عالم تھے۔

ابن سعد: باخبار عوف بن مسلم و عمار بن فضل، یثمدی، حماد بن زید از ایوب از ابوقلابہ: میں مدینہ منورہ تین دن ٹھہرا مجھے وہاں کوئی کام نہ تھا بجز ایک حدیث کے جو مجھے ایک مدنی سے پہنچی تھی میں نے اس کا انتظار کیا حتیٰ کہ وہ آیا پھر میں نے اس سے وہ حدیث پوچھی۔

ابن سعد: باخبار عوف بن مسلم، یثمدی، بشر بن مفضل، یثمدی، خالد بن عبد اللہ از ابوقلابہ کے پاس جاتے آپ ہم سے تین حدیثیں بیان کرتے اور فرماتے میں نے کثیر حدیثیں بیان کر دیں۔

ابن سعد: باخبار عوف بن مسلم، یثمدی، وہیب، یثمدی، ایوب از غیلان بن جریر میں نے ابوقلابہ کے ساتھ مکہ معظمہ جانا چاہا چنانچہ میں نے آپ کے دروازہ پر جا کر اجازت مانگی اور میں نے کہا: کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ فرمایا بڑی خوشی سے بشرطیکہ آپ خارجی نہ ہوں۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون، باخبار حماد بن سلمہ از حمید ابوقلابہ، ریشم والوں کے پاس جا کر فرماتے تھے میرے لیے اتنے طول کی اور اتنے عرض کی اور اس ہیئت کی چادر لکھ لو پھر جب وہ تیار ہو جاتی تو آپ اسے خرید لیتے تھے۔

ابن سعد: باخبار شیبانہ بن سوار، یثمدی، عقبہ بن ابوالصہب از ابوقلابہ: آپ سیاہ خضاب کرتے تھے۔ ابن سعد باخبار

سليمان بن حرب و عارم بن فضل متحد يث حماد بن زيد از ايوب ملك شام ميں ابو قلابہ بيمار ہوئے تو آپ کی بيمار پرسی کے لیے عمر بن عبد العزيز رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور فرمایا: ابو قلابہ! مضبوط رہو ہم سے منافقوں کو خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔

ابن سعد: باخبار عفران بن مسلم متحد يث حماد بن زيد از ايوب جب ابو العالیہ ابو قلابہ کے پاس آئے تو فرمایا: صبر کیجئے تاکہ منافقوں کو خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل متحد يث حماد بن زيد ابو قلابہ نے وصیت کی اور فرمایا: اگر ايوب زندہ ہوں تو انہیں میری کتابیں دے دینا ورنہ انہیں جلا دینا۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عمر ابو قلابہ شام میں ۱۰۲ھ یا ۱۰۱ھ میں دیرایا میں فوت ہوئے آپ کا کتب خانہ ملک شام میں تھا۔ ابو عبد اللہ مسلم بن یسار رضی اللہ عنہما، مولی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما قمی قرشی۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبید اللہ قمی قرشی متحد يث حماد بن سلمہ از حمید مسلم بن یسار اپنے گھر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے پھر آپ کے کسی پہلو والے کپڑے میں آگ لگ گئی آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی حتیٰ کہ آگ بجھ گئی۔ ابن سعد: از ہر السمان از ابن عون مسلم بن یسار اپنے ہم عصروں میں سب سے ممتاز و افضل تھے۔

ابن سعد: بقول زيد بن جباب از عبد الحمید بن عبد اللہ بن مسلم بن یسار: یسار بن یسار رضی اللہ عنہما بن مسلم: میرے والد محترم جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر میں سب خاموش ہو جاتے پھر جب گھر میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تو گھر والے شور و غل کرتے اور ہنستے رہتے تھے (آپ کو نماز میں ان کے شور و غل کی خبر بھی نہ ہوتی تھی)۔

ابن سعد: باخبار عتاب از عبد اللہ بن مبارک باخبار جعفر بن حیان: مسلم بن یسار سے کہا گیا کہ آپ نماز میں دوسری طرف دھیان نہیں رکھتے، فرمایا: تمہیں کیا خبر میرا دل کہاں ہوتا ہے؟

ابن سعد: باخبار معاذ بن معاذ از ابن عون: میں نے مسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گویا زمین میں میخ گڑی ہوئی ہے آپ کسی پیر پر آرام نہیں لیتے تھے اور آپ کا کپڑا ہلکا ہوا محسوس نہیں ہوتا تھا۔

ابن سعد: باخبار عبید اللہ بن محمد متحد يث حماد بن سلمہ از عاصم احوال از ابی قلابہ: میں نے مسلم سے نماز میں خشوع کے بارے میں پوچھا، فرمایا: جس جگہ سجدہ کرو وہیں نگاہ رہے (اس سے آگے نہ بڑھے یہی خشوع ہے)۔

ابن سعد: باخبار عفران بن مسلم و عارم بن فضل متحد يث حماد بن سلمہ متحد يث ثابت از مسلم: مجھے معلوم نہیں کہ جو شخص وہ کام نہیں چھوڑتا جو حق تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں اس کا ایمان کافی ہے کہ نہیں۔

ابن سعد: باخبار عفران بن مسلم متحد يث مبارک متحد يث عبد اللہ بن مسلم: میرے والد کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے آپ کو خبر ملی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عفران بن مسلم متحد يث حماد بن سلمہ متحد يث ثابت از مسلم بن یسار: میرا کوئی ایسا عمل نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس میں کوئی ایسی چیز جس میں اللہ کی محبت کا فرمانہ ہو داخل ہوگی جو جس نے اسے بگاڑ دیا ہو۔

ابن سعد: باخباہر عفاان بن مسلم بن محمد بن مبارک بن محمد بن عبد اللہ بن مسلم از مسلم: دوست کی یہ شان نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو اگر میں کسی چیز پر لعنت کرتا تو اسے اپنے گھر میں باقی نہیں رہنے دیتا آپ کسی کو گالی نہیں دیتے تھے اور انتہائی غصہ کی حالت میں صرف یہ فرماتے تھے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ جب آپ یہ جملہ فرماتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اب آپ کے غصہ کی انتہاء ہے۔

ابن سعد: باخباہر عفاان بن مسلم بن محمد بن مبارک بن فضالہ بن محمد بن عبد اللہ بن مسلم از مسلم: میں جو توں میں محض سنت پر عمل کرنے کی غرض سے نماز پڑھتا ہوں حالانکہ مجھے جوتے اتار کر نماز پڑھنے میں آسانی ہے۔

ابن سعد: باخباہر عفاان بن مسلم بن محمد بن مبارک بن فضالہ بن محمد بن عبد اللہ بن مسلم از مسلم: کشتی میں بیٹھ کر نماز کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا: میں مکروہ سمجھتا ہوں یا بغض رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھے کہ میں اس کے لیے بغیر کسی بیماری کے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔

ابن سعد: باخباہر عفاان بن مسلم بن محمد بن مبارک بن محمد بن عبد اللہ بن مسلم از مسلم: مجھے اپنی شرمگاہ سیدھے ہاتھ سے چھوٹا ناپسند ہے جب کہ مجھے یہ توقع بھی ہے کہ میں اس سے اپنی کتاب چھوئے والا ہوں۔

ابن سعد: باخباہر عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از ایوب از محمد بن مسلم بن یسار ریاکاری سے اپنے نفس کو بچاؤ کیونکہ یہ عالم کے لیے جہالت کی ساعت ہے اور اسی کے ذریعہ شیطان اسے پھسلاتا ہے۔ محمد نے فرمایا یہ مجادلہ یہ مجادلہ ہے۔

ابن سعد: باخباہر عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از حبیب بن شہید اپنے کسی صاحب سے ایک دفعہ مسلم ایک مسجد میں تشریف لاتے ہیں پھر مؤذن اذان دیتا ہے آپ واپس چلے جاتے ہیں مؤذن آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں لوٹ گئے؟ فرماتے ہیں: تم نے لوٹا دیا۔

ابن سعد: باخباہر موسیٰ بن اسماعیل بن محمد بن عون بن موسیٰ بن محمد بن عبد اللہ بن مسلم: میرے والد کے پاس ایک غلام تھا جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا اور آپ اسے مارتے بھی نہ تھے فرماتے ہیں اس کے ساتھ کیا کروں یہ مجھ پر غالب آ گیا۔

ابن سعد: باخباہر سلیمان بن حرب بن محمد بن حماد بن زید از ایوب نے ابن عطاء کا ذکر کیا جو ابن اشعث کے ساتھ (حجاج کے مقابلہ کے لیے) نکلے تھے اور فرمایا میرے علم میں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو اگر قتل ہوا تو اپنے قتل کیے جانے سے متنفر نہ ہوا اور اگر جیگیا تو اپنے فعل پر نادم ہوا ہو۔

ابن سعد: باخباہر عفاان بن مسلم و سلیمان بن حرب بن محمد بن حماد بن زید از ایوب از ابو قلابہ: مسلم بن یسار مکہ کے سفر میں میرے ہم سفر تھے آپ نے فتنہ کا ذکر کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا: میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس فتنہ میں ایک تیر بھی نہیں چلایا نہ میں نے نیزے کو حرکت دی اور نہ تلوار کو چھیڑا میں آپ سے بولا: ابو عبد اللہ! کیا آپ اس کی زبان پکڑ لیں گے جس نے آپ کو صف میں کھڑا ہوا دیکھا؟ فرمایا یہ مسلم ہے اللہ کی قسم میں اس موقف میں حق ہی پر کھڑا ہوا تھا پھر وہ آگے بڑھ گئے اور لڑنے لڑتے شہید ہو گئے یہ فرما کر آپ رونے لگے اور اس قدر روئے کہ میں نے دل میں کہا کاش میں نے آپ کے سامنے یہ قصہ

چھیڑا ہی نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں مسلم ثقہ، فاضل، عابد، پارسا اور لوگوں کی نگاہوں میں حسن سے اونچے تھے حتیٰ کہ آپ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اس نے آپ کا مرتبہ گھٹا دیا اور حسن کا بڑھا دیا آپ عہد عمر بن عبدالعزیز میں ۵۰ھ میں یا ۵۱ھ میں فوت ہوئے۔

جبیر بن ابو حنیہ رضی اللہ عنہ:

آپ زیاد بن جبیر کے والد ہیں اور مغیرہ بن شعبہ سے راوی ہیں۔

ابو العلاء حیان بن عمیر قیس رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں اور ابن عباس ابن زبیر اور عبد الرحمن بن سرہ رضی اللہ عنہم سے راوی ہیں۔

ابو مدینہ سدوسی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبد اللہ بن حسین ہے آپ قلیل الحدیث ہیں اور ابن عباس و ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے راوی ہیں۔

خالد بن خلاق عیسیٰ رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں۔

مضارب بن حزن مازنی رضی اللہ عنہ:

قلیل الحدیث ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔

عبد اللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ:

آپ کی والدہ ہنوسہ بن زید مناة بن تمیم کی ایک خاتون ہیں پھر آپ کا تعلق بنو صریم سے بھی ہے۔

عبد اللہ بصری میں بصرہ میں رہائش سے قبل پیدا ہوئے آپ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور آپ ان کے لیے

کسی چیز کے والی نہیں ہوئے ابو بکرہ چالیس بچے (لڑکے اور لڑکیاں) چھوڑ کر فوت ہوئے جن میں سے سات صاحب اولاد ہوئے

ان سات میں عبد اللہ بھی شامل ہیں۔

عبید اللہ بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ:

آپ کی والدہ ہولہ بنت غلیظ عجمی ہیں آپ قلیل الحدیث ہیں۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل بتحدیث ابو ہلال از ابو حمزہ: سب سے پہلے جسے ہم نے بصرہ میں وضو کرتا ہوا دیکھا وہ

عبد اللہ ہیں فرماتے ہیں ہم کہنے لگے اس حبشی کو دیکھو اپنے چوتڑ پانی سے دھو رہا ہے لوگ کہتے ہیں عبید اللہ زیاد بن ابوسفیان کے زمانہ

میں جستان کے حاکم بنے۔ عبید اللہ اولاد چھوڑ کر فوت ہوئے۔

عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ:

آپ بصرہ میں سب سے پہلے پیدا ہوئے اس دن لوگوں نے خربیبہ میں اونٹ ذبح کیا اور بصرہ والوں کو کھلایا گیا اس وقت

بصرہ میں تقریباً تین سو آدمی تھے اونٹ سب کو کانی ہو گیا آپ ثقہ ہیں اور صاحب روایات و احادیث ہیں۔ عبد الرحمن کی والدہ ہولہ

بنت غلیظ عجمی ہیں۔ عبدالرحمن اولاد چھوڑ کر فوت ہوئے۔

عبدالعزیز بن ابوبکرہ رضی اللہ عنہ:

آپ کی والدہ ام ولد ہیں۔ آپ سے بھی روایتیں کی جاتی ہیں اور آپ صاحب احادیث ہیں آپ اولاد چھوڑ کر فوت

ہوئے۔

مسلم بن ابوبکرہ رضی اللہ عنہ:

آپ سے بھی روایتیں کی جاتی ہیں آپ بھی اولاد چھوڑ کر فوت ہوئے۔

رواد بن ابوبکرہ رضی اللہ عنہ:

آپ بھی اولاد چھوڑ کر فوت ہوئے۔

یزید بن ابوبکرہ رضی اللہ عنہ، عتبہ بن ابوبکرہ رضی اللہ عنہ:

نضر بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ:

ابن نضر بن صمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار آپ کی والدہ ام ولد ہیں آپ ثقہ ہیں اور

صاحب احادیث ہیں آپ سے روایت کی جاتی ہے آپ حسن سے قبل فوت ہوئے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم متحدیث حرب بن میمون انصاری اس اثناء میں کہ ابن سیرین نضر کو غسل دے رہے تھے

اور حسن موجود تھے اور میں انہیں پانی دے رہا تھا کہ محمد نے مجھ سے کہا چادر لے آؤ میں ایک سرخ چادر لے آیا محمد بولے ابوسعید ایہ

قارون کی زینت ہے حسن نے ان سے فرمایا: بے شک، پھر مجھ سے محمد نے کہا: دوسری چادر لاؤ پھر میں سبز چادر لے آیا آپ نے اس

میں انہیں کفن دیا۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب متحدیث اسود بن شیبان: حسن نضر کے جنازے میں تھے اور اشعث بن سلم عجمی بھی تھے

اشعث نے آپ سے کہا: ابوسعید! مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں جنازے میں آواز نہ سنوں حسن نے فرمایا: خیر کے لیے خیر کی اہلیت

رکھنے والے ہیں خیر کے لیے خیر کی اہلیت رکھنے والے ہیں (دوبار) فرماتے ہیں اس دن موسیٰ بن انس نے نضر کی قبر کے پاس عصر کی

نماز پڑھی (غالباً آپ کو حدیث نہ پہنچی ہوگی) اسود بن شیبان کے گمان کے مطابق آپ کی قبر کشادہ اور صندوقی تھی۔

ابن سعد: باخبار حجاج بن نصیر باخبار اسود بن شیبان: میں نے اس دن موسیٰ بن انس کو دیکھا کہ نضر کی قبر کے پاس نماز پڑھ

رہے ہیں اور ایک سرخ کرتہ پہنے ہوئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔

عبداللہ بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ:

آپ کی والدہ فارعہ بنت شہنی بن حارثہ بن سلمہ بن صمضم بن مرہ شیبانی ہے آپ ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں۔

موسیٰ بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ:

ابن نصر، آپ کی والدہ یعنی ہیں۔ آپ ثقہ ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔
مالک بن انس بن مالک رضی اللہ عنہما:

ابن سعد: باخبار محمد بن عبد اللہ اسدی، محمد بیٹ ہشام بن حسان، محمد بیٹ محمد: ہم بحرین میں تھے اور ہمارے ساتھ مالک بن انس اور انس بن سیرین بھی تھے میں سخت بیمار ہو گیا اور مجھے چھ دن تو ہوش بھی نہ تھا مالک بن انس رضی اللہ عنہما بحرین کے ہر طبیب کو میرے پاس بھیجے رہے میں کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ لوگ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے ہم ان کا سر منڈوائیں گے اور داغ لگوائیں گے ہشام کہتے ہیں آپ کے خوبصورت بال تھے لیکن مالک نے کہا میں انہیں آگ کو توشہ نہیں دوں گا اور انہیں اکٹھا ہی دفن کروں گا انہوں نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ مالک نے محمد کی بیماری میں عیادت کی یا نہیں۔
ابوبکر محمد بن سیرین رضی اللہ عنہما:

سیرین انس بن مالک کے آزاد کردہ غلام تھے۔ محمد بن سیرین ثقہ مستند معتمد علیہ اور عالی مقام اور جلیل القدر عالم اور امام تھے آپ وسیع النظر اور جامع علوم تھے اور بڑے متقی اور پارہ تھے آپ کی سماعت میں قدرے فتور تھا۔ میں نے محمد بن عبد اللہ انصاری سے پوچھا: محمد بن سیرین کے بزرگ کہاں کے تھے؟ فرمایا آپ کے والد عین التمر کے قیدیوں میں سے ہیں جن کو کافی رقم لے کر انس بن مالک نے آزاد کر دیا تھا۔

ابن سعد: باخبار خالد بن خدش، محمد بیٹ حماد بن زید از انس بن سیرین، خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے دو سال باقی رہ گئے تھے کہ محمد پیدا ہوئے اور چھ سال باقی تھے کہ میں پیدا ہوا۔
 ابن سعد: باخبار بکار بن محمد بن محمد بن سیرین کی والدہ صفیہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کو تین ازواج مطہرات نے پاکیزہ بنایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے لیے دعائیں مانگیں حضرت ابی آپ کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور حاضرین ۱۸ بزرگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئین کہہ رہے تھے۔

بکار بن محمد: ایک بیوی سے محمد بن سیرین کے تیس بچے پیدا ہوئے جن میں صرف ایک عبد اللہ بن محمد باقی ہیں باقی سب فوت ہو گئے۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار عبد الملک بن ابی سلیمان از انس بن سیرین: ایک دفعہ ہمارے پاس زید بن ثابت تشریف لائے ہم چھ بھائی جمع تھے جن میں محمد بھی تھے فرمایا اگر کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم میں سے ہر ایک کا اخیانی بھائی کون ہے؟ یہ اور یہ ایک ماں کے ہیں اور یہ اور یہ ایک ماں کے ہیں آپ نے ٹھیک ٹھیک بتائے اور کسی میں بھی نہیں چو کے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم، محمد بیٹ شعبہ: میری والدہ نے ہشام بن حسان سے پوچھا محمد کس کس صحابی سے راوی ہیں؟ فرمایا ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا: کیا محمد نے ان سے حدیثیں سنی ہیں؟ فرمایا: ہاں۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب، محمد بیٹ سلیم بن اخضر از ابن عمون: محمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صرف تین مرفوع حدیثیں روایت کی ہیں ایک حدیث تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے عشاء کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھی اور دوسری حدیث یمن والوں کے آنے

کے بارے میں ہے اور تیسری حدیث کو سلیمان بھول گئے۔

ابن سعد: بقول عبدالرزاق از معمر از ایوب از محمد میں دس حضرات سے ایک حدیث سنتا ہوں جس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اور الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔

ابن سعد: باخباہ محمد بن عبداللہ انصاری بخدیث ابن عون: محمد حدیث کو حدیث کے حروف پر بیان کیا کرتے تھے۔

ابن سعد: بجز از امیہ بن خالد از شعبہ بقول خالد حذاء: جس حدیث میں محمد نے یہ کہا ہے کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی گئی وہ حدیث آپ نے عکرمہ مولیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے سنی ہے آپ نے عکرمہ سے مختار کے زمانہ میں کوفہ میں ملاقات کی تھی۔ کہتے ہیں محمد زید بن ثابت انس بن مالک رضی اللہ عنہما، یحییٰ بن بزار اور شریح وغیرہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

ابن سعد: باخباہ مسلم بن ابراہیم بخدیث سری بن یحییٰ بسماع ابن سیرین: حق تعالیٰ شریح پر رحم فرمائیں آپ مجھے اپنی مجلس میں بلا لیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخباہ محمد بن عبداللہ انصاری از ابن عون از محمد بن سیرین: یہ علم دین ہے لہذا جس سے یہ سیکھتے ہو اس میں غور کر لیا کرو (آیا اس میں علم دین سکھانے کی اہلیت بھی ہے یا نہیں)۔

ابن سعد: باخباہ بکار بن محمد بخدیث ابن عون: محمد بن سیرین جب بات کرتے تو گویا آپ کسی چیز سے بچ رہے ہیں اور کسی چیز سے ڈرا رہے ہیں۔

ابن سعد: باخباہ بکار بن محمد بخدیث ابن عون بقول محمد بن سیرین: کتابوں سے اپنے کو بچاؤ کیونکہ تم سے پہلے کتابوں ہی کی وجہ سے تذبذب میں پڑے یا یہ فرمایا کہ گمراہ ہوئے۔

بکار: میرے دادا کے پاس نہ میرے والد کے پاس اور نہ ابن عون کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں کوئی حدیث پوری ہو۔ ابن سعد: باخباہ عوف بن مسلم بخدیث سلیم بن اخطر بخدیث ابن عون بسماع محمد اگر میں کتابیں رکھنے والا ہوتا تو نبی ﷺ کے رسائل رکھ لیتا۔

ابن سعد: باخباہ عوف بن مسلم بخدیث حماد بن زید از یحییٰ بن عتیق: محمد بن سیرین حدیث لکھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے پھر جب اسے حفظ کر لیتے تو حدیث کو مٹا دیا کرتے تھے۔

ابن سعد: بخدیث عارم بن فضل بخدیث حماد بن زید از شعبہ بقول شعبی: اس بہرے (محمد بن سیرین) کو چسپے رہو۔ ابن سعد: باخباہ عارم بن فضل بخدیث حماد بن زید از غالب قطان: محمد کے علم کو لے لو اور حسن کے غصہ کو نہ لو۔

ابن سعد: باخباہ عمرو بن عاصم بخدیث ابو اہل محمد بن عمرو انصاری بسماع محمد بن سیرین: ابن سیرین کو یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ بالکھیں اور اسے میم تک کھینچ دیں حتیٰ کہ سین لکھیں فرماتے تھے جو کچھ میں لکھتا ہوں اسے دیکھو ”بسم اللہ“ پھر ایسا کرنے والوں پر خوب لے دے کیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخباہ عمرو بن عاصم بخدیث محمد بن عمر: میں نے محمد سے سنا آپ کو یہ لکھنا ناپسند تھا ”بسم اللہ الرحمن الرحیم لفلان“

فرماتے تھے اس طرح لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم من فلان الی فلان۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن حماد بن زید از یحییٰ بن عقیق: محمد نے ایک شخص کو دیکھا کہ تھوک سے اپنے جوتوں پر لکھ رہا ہے فرمایا: کیا تو اپنا جوتا چائے میں مسرت محسوس کرے گا؟ یہ سن کر اس نے جوتا زمین پر ڈال دیا۔ ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن زید بن محمد بن یونس حسن نے ثواب کے لیے گفتگو کی اور محمد نے ثواب کے لیے خاموشی اختیار کی۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری بن محمد بن اشعث از محمد بن سیرین: جب ہم محمد کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ ہم سے اور ہم آپ سے باتیں کیا کرتے تھے آپ ہنستے تھے اور خبریں پوچھا کرتے تھے لیکن جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور حلال و حرام کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور آپ بالکل بدل جاتے گویا آپ پہلے شخص نہیں ہیں۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم بن محمد بن مہدی بن میمون بن سماع محمد: (جب آپ سے کسی مسئلہ میں ایک شخص جھگڑتا ہے) میں تیری نیت بھانپ گیا میں تجھ سے جھگڑنا جانتا ہوں لیکن تیرے منہ لگنا نہیں چاہتا۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن زید بن محمد بن عاصم بن حویر بن سماع بن مورق بن علی بن محمد نے بجز محمد کے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی پارسائی میں انتہائی سمجھدار ہو اور اپنے علم میں انتہائی پرہیزگار ہو۔

ابو قلابہ: تم محمد کو جس طرح چاہو آ ز مالو انہیں سب سے زیادہ پارسا اور اپنے نفس پر انتہائی قادر پاؤ گے۔ ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن جریر بن حازم بن سماع محمد بن سیرین (ایک شخص کے بارے میں) میں نے کالے آدمی کو نہیں دیکھا پھر فرمایا استغفر اللہ! میرے خیال میں میں نے اس کی غیبت کی۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب بن محمد بن حماد بن زید بن محمد بن طلق بن وہب طاحی: میں ابن سیرین کے پاس گیا میں کچھ علی ل تھا فرمایا: فلاں کے پاس جا کر اپنا حال بیان کرو وہ علم طب میں ہوشیار ہے پھر فرمایا لیکن فلاں کے پاس جاؤ وہ اس سے زیادہ ہوشیار ہے پھر فرمایا استغفر اللہ میرے خیال میں میں نے اس کی غیبت کی۔ ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن زید از ہشام بن سماع محمد: میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا خواہ نیک ہو یا بد۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن زید از ابن عون بقول محمد: اگر میں اپنے کھانے کا وزن کرنا چاہوں تو کر لوں۔ ابن سعد: باخبار عفان بن محمد بن حماد بن زید بن محمد بن ہشام بقول محمد: میں اپنا کھانا تول لیتا ہوں۔ ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب بن محمد بن حماد بن زید از عثمان بن جحش: میں کوئی محمد سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں۔

ابن سعد: باخبار روح بن عبادہ بن محمد بن ابن عون: محمد نے ایک مسئلہ میں جس میں میں نے ان سے بحث کی تھی فرمایا: میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں! میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرے علم میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن سعد: باخبار یحییٰ بن محمد بن عبد اللہ بن عمار بن عبد اللہ: محمد اور حسن اس شہر کے باشندوں کے خواہ وہ عربی ہوں یا غلام سردار ہیں۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن محمد بن محمد بن محمد بن ابن عون بقول محمد: اگر باتیں کرنے والوں کو معلوم ہو کہ ان کی باتیں لکھی جا رہی ہیں تو کم باتیں کریں۔

ابن سعد: باخبار عوف بن مسلم و عارم بن فضل، متحد یث حماد بن زید باخبار ایوب: میں نے خواب میں ابن سیرین کے ہتھکڑیاں پڑی ہوئی دیکھیں (اس کی تعبیر اسلام پر ثابت قدمی ہے)۔

ابن سعد: باخبار عوف بن مسلم و عارم بن فضل، متحد یث حماد بن زید از ہشام بن حسان کسی گھر والے سے: محمد جب سے ہوشیار ہوئے آج تک شک والی چیز کو چھوڑتے ہوئے ہی آئے ہیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، متحد یث حماد بن زید از یحییٰ بن عقیق: ایک دیہاتی محمد کے پاس آ کر کچھ دینی مسائل پوچھنے لگا آپ اسے جواب دینے لگے وہاں سلمہ بن قتیبہ بھی تھے ایک شخص بولا آپ ان سے تقدیر کے بارے میں پوچھیں بولا: ابو بکر! آپ کا تقدیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پوچھا: کس نے تم کو حکم کیا کہ مجھ سے یہ سوال کرو؟ پھر آپ نے تھوڑی سی دیر خاموش رہ کر فرمایا: شیطان کا کسی پر غلبہ نہیں لیکن جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے شیطان اسے ہلاک کر دیتا ہے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، متحد یث حماد بن زید و باخبار بکار بن محمد باخبار ابن عون: ایک شخص محمد کے پاس آتا ہے اور آپ کے سامنے کچھ تقدیر کے بارے میں ذکر کرتا ہے آپ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ.....﴾ الخ کی تلاوت فرمادیتے ہیں یعنی حق تعالیٰ عدل و احسان کا اور اقرار کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی سے غیر معروف کاموں سے اور بغاوت سے روکتا ہے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ کر فرمایا: یا تم نکل جاؤ یا پھر میں نکل جاؤں گا آخر کار وہ شخص اٹھ کر چلا جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا: دیکھو میرا قلب میرے اختیار میں نہیں مجھے ڈر ہوا کہیں یہ شخص میرے دل میں کوئی ایسی بات نہ پھونک دے کہ میں اسے دل سے نکالنے پر قدرت نہ پاؤں لہذا مجھے اسی میں نجات نظر آئی کہ اس کی بات نہ سنوں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، متحد یث حماد بن زید از ایوب و ہشام: ہم نے ابن سیرین سے زیادہ قبلہ والوں کے لیے حوصلہ بڑھانے میں کسی کو نہیں دیکھا۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، متحد یث حماد بن زید از انس بن سیرین: اگر ابن سیرین کو دو حدیثیں پہنچتیں اور ایک دوسری سے زیادہ مشقت والی ہوتی تو آپ مشقت والی ہی پر عمل پیرا ہوتے اور دوسری میں کوئی حرج نہ خیال فرماتے اور آپ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جاتے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل و عوف بن سعد: متحد یث حماد بن زید از ایوب بقول ابو قلابہ: محمد کی طرح ہم میں کون طاقت رکھتا ہے آپ تو تیر کی دھار دار نوک پر سوار ہو جاتے تھے۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد، متحد یث ابن عون: محمد تلوار کی دھار جیسی شے پر سوار ہو جاتے تھے۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد، متحد یث حماد بن زید از ابن سیرین نے یہ زمین جو جربایا کے ایک گاؤں میں ہے خریدی اور یہ زمین محمد اور ان کے بھائی یحییٰ کے حصہ میں آئی یہ دونوں بھائی اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے رہے اس میں انگوروں کا ایک باغ تھا لوگوں نے ان انگوروں کے رس سے شراب بنانی چاہی محمد نے کہا ایسا نہ کرو تا زہ انگور فروخت کر دو بولے ہمارا خرچ پورا نہ ہو گا فرمایا تو کشمش بنا لو

بولے ان کے کشمش بننے نہیں آخر کار محمد نے انکو رکاکٹ کر پانی میں ڈال دیئے اور وہ پانی میں بہہ گئے۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبداللہ انصاری متحد بیٹ ہشام بن حسان بحدیث حفصہ بنت سیرین: محمد کی والدہ حجازی خاتون تھیں اور آپ کو رنگ پسند تھا جب محمد ان کے لیے کوئی کپڑا خریدتے تو حتی الامکان نرم و نازک خرید کرتے تھے مضبوطی کو نہیں دیکھا کرتے تھے اور ہر عید کو ان کے لیے کپڑے رنگے جاتے تھے میں نے محمد کو ان کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس طرح باتیں کیا کرتے تھے جیسے کوئی کاننا پھوستی کر رہا ہو۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد متحد بیٹ ابن عون: جب محمد اپنی والدہ سے باتیں کرتے ہوتے اور آپ کو کوئی ایسا شخص دیکھتا جو آپ کو پچھانتا نہ ہوتا تو آہستہ گفتگو کی وجہ سے یہ خیال کرتا تھا کہ یہ بیمار ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے محمد بن عبداللہ انصاری سے محمد کے قرض کا سبب معلوم کیا جس کی بنا پر آپ کو قید کر دیا گیا تھا تو فرمایا آپ نے چالیس ہزار کا غلہ خریدا تھا پھر آپ کو اس غلہ کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائی گئی جسے آپ نے اچھی نہ سمجھی آخر آپ نے غلہ چھوڑ دیا یا اسے صدقہ کے ڈر پر لوگوں میں بانٹ دیا اور اس کی رقم آپ کے ذمہ واجب الادا رہی یہ رقم ایک عورت کی تھی جس نے آپ کو بند کر دیا اور بند کرنے والے مالک بن منزر تھے۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد متحد بیٹ محمد بن سیرین نے ام محمد بنت عبداللہ بن عثمان بن ابوالعاص ثقفی کو ایک لونڈی فروخت کی یہ لونڈی بھاگ کر پھر محمد کے پاس آگئی اور شکایت کرنے لگی کہ وہ مجھے تکلیفیں پہنچاتی ہیں محمد نے اسے واپس لے لیا مگر اس کی قیمت آپ کے پاس خرچ ہو چکی تھی۔ ام محمد ہی نے آپ کو بند کر دیا تھا اسی عورت سے سلیم بن زیاد نے شادی کی تھی اور اسے خراسان لے کر چلا گیا تھا اس کے والد کا لقب کر کرہ تھا۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن ابوشام متحد بیٹ شعبہ از قنابہ: میں جیل میں ابن سیرین کے پاس گیا آپ ایک شخص کو خرچ لکھوار ہے تھے۔ ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم متحد بیٹ حماد بن زید از ابن عون از ابن سیرین: اللہ کی قسم مجھے بدنام کر دیا گیا۔

ابن سعد: باخبار حسن بن موسیٰ متحد بیٹ حماد بن سلمہ از ثابت بنانی: مجھ سے ابن سیرین نے کہا: ابو محمد! مجھے تمہاری مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے سے بدنامی کا ڈر ہی روکتا ہے مجھ پر ایک بلا چھٹی رہی حتیٰ کہ میری داڑھی پکڑی گئی اور مجھے چبوترہ پر کھڑا کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ یہ محمد بن سیرین ہے جو لوگوں کا مال کھا گیا ہے آپ پر قرض تھا۔

ابن سعد: باخبار احمد بن عبداللہ بن یونس متحد بیٹ ابوشہاب از ہشام از ابن سیرین: آپ نے معینہ مدت پر غلہ خریدا اس میں اسی ہزار کا فائدہ تھا لیکن غلہ کی طرف سے آپ کے دل میں کچھ کھٹکا پیدا ہو گیا جس پر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ہشام: اللہ کی قسم! وہ سود نہ تھا۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن خلیف بن عقبہ بقول خلیف بن عقبہ: ابن سیرین روزی کے لیے خود دوڑوڑو سوپ کیا کرتے تھے۔ ابن سعد: باخبار احمد بن عبداللہ بن یونس متحد بیٹ ابوشہاب بخر عثمان بنی: میں ابن سیرین کے پاس گیا فرمایا: عثمان! لوگ تقدیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں بولا بعض تقدیر کے قائل ہیں اور بعض وہی کہتے ہیں جو آپ کو خبریں ملی ہیں فرمایا: تم مجھ پر تقدیر کو کیوں لوثاتے ہو؟ دیکھو حق تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے اپنی اطاعت و محبت کے عملوں کی توفیق عطا فرمادیتا ہے اور

جس کے ساتھ اس کے علاوہ چاہتا ہے اسے عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے اور حق تعالیٰ اس صورت میں بھی ظالم نہیں۔
ابن سعد: باخبار معلى بن اسد بن محمد بن عبد العزيز بن مختار از خالد خذاء: ابن سيرين ایک دن نافعہ کے برابر روزے رکھا کرتے تھے اگر آپ کا روزہ شک والے دن میں پڑتا کہ آیا یہ دن شعبان کا ہے یا رمضان کا تو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔
ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن سلمہ از ایوب و ہشام: ابن سيرين ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔

ابن سعد: باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن زید باخبار انس بن سيرين: محمد کے سات ورد تھے اگر کوئی ورد رات کو چھوٹ جاتا تھا تو آپ اسے دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔
ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از ابن عون: محمد روزانہ غسل کیا کرتے تھے۔
ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از ایوب بقول محمد: میرا دل مجھے چند چیزوں کی تکلیف دیتا ہے کاش وہ مجھے ان کی تکلیف نہ دیتا۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از ابن عون از محمد: میں ایک سخت آزمائش میں ہوں چاہتا ہوں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں لیکن پیٹ نہیں بھرتا اور چاہتا ہوں کہ سیراب ہو کر پانی پیوں مگر سیراب نہیں ہوتا۔
ابن سعد: باخبار عارم بن محمد بن حماد بن زید از ابن عون! محمد جب یہ آیت ﴿وَلِيْمَحْصِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ (تا کہ حق تعالیٰ مومنوں کو چھانٹ دے اور کافروں کو مٹا دے) پڑھتے تو دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمیں چھانٹ دے اور کافر نہ بنا۔

ابن سعد: باخبار از ہر بن سعد سمان از ابن عون: اگر لوگ محمد کے پاس کسی شخص کا برائی سے ذکر کرتے تو محمد اس کا اپنے علم والی خوبی سے ذکر فرماتے۔

ابن سعد: باخبار از ہر از ابن عون: لوگوں نے محمد کے پاس آ کر کہا ہم نے آپ کی شان میں کچھ گستاخی کی ہے آپ اسے معاف فرمادیں فرماتے: جو بات اللہ نے تم پر حرام فرمادی ہے میں اسے حلال کرنے والا ہوں۔
ابن سعد: باخبار از ہر از ابن عون: محمد جب سونے کے لیے لیٹتے تو کروٹ سے لیٹتے اور کبھی سیدھے لیٹ جاتے تھے۔
ابن سعد: باخبار از ہر سمان از ابن عون: میں ہر عید کو بلاناغہ ابن سيرين کے گھر جایا کرتا تھا آپ عید کے دن مجھے حلوہ یا قالودہ کھلایا کرتے تھے فرماتے ہیں میں پیشاب کو روک کر حلوہ کھایا کرتا تھا۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد بن محمد بن حماد بن زید از ابن عون: ہم ابن سيرين کے گھر عید کے دن جب کبھی گئے آپ نے ہمیں حلوہ یا قالودہ ضرور کھلایا آپ صدقہ فطر ادا کیے بغیر عید کی نماز کو نہیں جایا کرتے تھے اور صدقہ فطر جامع مسجد بھیج دیا کرتے تھے پھر عید کی نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری بن محمد بن عبد اللہ بن عون: ابن سيرين قرآن کو اسی طرح پڑھنا پسند فرماتے تھے جس

طرح وہ اتر ہے اور اثنائے تلاوت میں یوں بھی مکروہ خیال فرماتے تھے۔

ابن سعد: باخبار علفان بن مسلم تخد یث حماد بن زید تخد یث ہشام از محمد: جب آپ کسی شخص کو رخصت فرماتے تو اس سے فرماتے: اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی روزی حلال طریقہ سے کمانا کیونکہ اگر حرام طریقہ سے کمائو گے تب بھی اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہے۔

ابن سعد: باخبار علفان بن مسلم تخد یث حماد بن زید تخد یث ہشام از محمد: پیسے دیتے وقت لوگ کہا کرتے تھے دے دے دیئے گئے نادرے دیئے گئے نا۔

ابن سعد: باخبار یکار بن محمد تخد یث ابن عون: ابن سیرین میرے پاس دوکان پر آتے پھر میرے پاس خریدار آتے میں انہیں چیزیں دکھاتا اور محمد ان سے فرماتے اگر کہو تو میں یہ چیزیں تم کو تمہارے گھر لاکر دکھا دوں پھر آپ انہیں ان کے گھر لے جا کر دکھا دیتے تھے۔

ابن سعد: باخبار یکار بن محمد تخد یث ابن عون: جب ابن سیرین کچھ مال قرض لینے تو کسی چیز سے اس کا وزن کر کے وزن کو لکھ کر مہر لگا دیتے تھے اور ادا کرتے وقت اسی وزن سے تول کر دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ وزن گھٹنا بڑھتا رہتا ہے۔
ابن سعد: باخبار محمد بن الصلت تخد یث ابو کلیدہ از عبد اللہ بن عون: اگر ابن سیرین کے پاس کھوٹا سکہ یا چاندی سے ملع کیا ہو کھوٹا درہم آجاتا تو آپ اس کو کسی دوسرے شخص کو نہیں دیا کرتے تھے اور ایک طرف ڈال دیا کرتے تھے جب آپ فوت ہوئے تو آپ کے پاس پانچ سو کھوٹے درہم تھے۔

ابن سعد: باخبار کثیر بن ہشام تخد یث جعفر بن برقان تخد یث میمون بن مهران: میں کپڑا خریدنے کے لیے کوفہ گیا اور ابن سیرین کے پاس پہنچا آپ اس وقت کوفہ ہی میں تھے میں نے کپڑے کا آپ سے بھاؤ کیا جب آپ مجھے گولی سیمڑی فروخت کر دیئے تو آپ مجھ سے تین بار پوچھتے: راضی ہونا میں عرض کرتا: جی ہاں پھر دو آدمیوں کو گواہ بنا کر فرماتے: اپنا سامان اٹھالو آپ ان حاجی درہموں سے خریدو فروخت نہیں کیا کرتے تھے میں آپ کی پار سائی سے انتہائی متاثر ہوا پھر مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ آپ کے پاس ہوتی تھی تو آپ ہی کے پاس سے خرید کر تا تھا حتیٰ کہ کپڑوں کے لفافے بھی۔

ابن سعد: باخبار حسن بن موسیٰ تخد یث ابو بلال: میں نے ابن سیرین کو دیکھا ہے جب آپ باہر تشریف لاتے تو آپ کپڑا وڑھ کر آتے اور اسے کندھے پر باندھ لیتے تھے اور مسجد میں آکر بیٹھ جاتے تھے۔
ابن سعد: باخبار عارم بن فضل تخد یث حماد بن زید از یحییٰ بن عتیق از محمد: سعید بن جبیر اپنے کیے ہوئے کام پر خودزدہ تھے پھر آپ مکہ معظمہ آکر مفتی بن گئے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل تخد یث حماد بن زید از یحییٰ بن عتیق از محمد: محمد بانٹنے والوں سے شرط نہیں باندھا کرتے تھے اور فیصلہ میں رشوت کو برا سمجھتے تھے اور فرماتے تھے: لوگ فیصلہ پر اُجرت لیتے ہیں۔

ابن سعد: باخبار علفان بن مسلم تخد یث معاذ از ابن عون: عمر بن عبد العزیز نے حسن کے پاس کچھ بھیجا آپ نے قبول فرمایا

اور ابن سیرین کے پاس بھیجا تو انہوں نے مسترد فرما دیا۔

ابن سعد: باخبار عرقان، محمد یث حماد بن زید، ہشام بن حسان نے اپنے بیٹوں کے تختے کرائے اور دعوت میں آل مہذب کے پریشان لوگوں کو بلایا، محمد سے کہا گیا: آپ نے دیکھا نہیں ابو عبد اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا ابو عبد اللہ کو ٹھوکر نہ مارو (دوبار)۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، محمد یث حماد بن زید از غالب: میں محمد کے پاس گیا (آپ نے حجاج کے ذکر کے بعد) فرماتے ہیں میں نے ہشام کے بارے میں پوچھا فرمایا: وہ تو کل فوت ہو گئے، کیا تم کو خبر نہیں؟ میں نے انا اللہ پڑھی پھر آپ ہنسنے لگے۔ ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم، محمد یث مہدی بن میمون: میں نے دیکھا وضو میں محمد نے اپنے پیر دھوئے اور ٹانگوں کے عضلوں تک پانی پہنچا دیا۔

ابن سعد: باخبار مسلم، محمد یث قرہ بن خالد: میں نے دیکھا محمد اپنی مسجد کو اپنے کپڑے سے صاف کر رہے تھے۔ ابن سعد: باخبار فضل بن دکین و مسلم، محمد یث قرہ: ابن سیرین کی انگوٹھی پر ”کنیۃ ابو بکر“ کندہ تھا۔

ابن سعد: باخبار روح بن عیادہ، محمد یث ہشام: (متن حسب سابق ہے)۔ ابن سعد: باخبار عارم بن فضل، محمد یث حماد بن زید از ہشام (متن حسب سابق)۔ ابن سعد: باخبار عرقان بن مسلم، محمد یث مہدی بن میمون: میں نے ابن سیرین کے بائیں ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری از ابن عون: جب محمد ابن ہبیرہ کے پاس تشریف لے گئے تو میں آپ کے ساتھ تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا نماز کے بعد میں نے کہا: کیا آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ وہی آگے بڑھے جو قرآن کا جامع ہو آپ نے مجھے کیسے آگے بڑھایا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے وہ کام کیا جو کام محمد نے اپنے لیے مکروہ جانا اس لیے میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا، فرمایا: میں اس لیے آگے نہیں بڑھا کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ محمد ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبد اللہ، محمد یث ابن عون از محمد: جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلا گنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا فرماتے ہیں محمد نے فرمایا لوگ کہتے ہیں ابن سیرین لوگوں کی گردنوں سے پھلا گنتے ہوئے جاتے ہیں حالانکہ میں ایسا نہیں کرتا البتہ میں آتا ہوں تو ایک شخص مجھے پہچان کر سمٹ جاتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے جگہ دے دیتا ہے میں آگے بڑھ جاتا ہوں پھر دوسرا شخص بھی مجھے پہچان کر جگہ دے دیتا ہے اور میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔

ابن سعد: باخبار بکر بن محمد: میں نے عراق میں ابن سیرین افس اور حصہ کی مسجدیں دیکھی ہیں۔ یہ مسجدیں سیرین کے محلہ میں بلاکواڑوں کے تھیں اور ان میں بچہ اور کوئی شخص داخل نہیں ہوتا تھا۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب، محمد یث حماد بن زید از حبیب بن شہید از ثابت بنانی: حسن کی ایک بچی فوت ہو گئی آپ چھپے ہوئے تھے میں نے آپ کے پاس جا کر خبر دی تو فرمایا ایسا ایسا کرو مجھے امید ہوئی کہ آپ مجھے نماز جنازہ پڑھانے کا حکم فرمائیں گے آخر کار آپ نے فرمایا پھر جب جنازہ باہر لاؤ تو ابن سیرین سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔

ابن سعد: باخباہر عمرو بن عاصم بن محمد بن محمد بن عمرو بسامع ابن سیرین: میں نے اپنے کو اس کے بعد کہ میں ایک مطلق العنان تھا براہیوں سے بچایا۔

ابن سعد: باخباہر ابواسامہ از مہدی بن میمون: میں نے ابن سیرین کو سبز چادر اوڑھے ہوئے اور چادروں میں سفید کبیل اوڑھے ہوئے اور پوٹین پہنے ہوئے اور سفید پگڑی باندھے ہوئے دیکھا۔

ابن سعد: باخباہر عمرو بن عاصم بن محمد بن سلیمان بن مغیرہ: میں نے دیکھا ابن سیرین یمنی کپڑے سبز چادریں اور پگڑیاں استعمال کیا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخباہر یحییٰ بن خلیف بن محمد بن ابوغلدہ: میں نے دیکھا ابن سیرین سفید لاطیہ پگڑی باندھے ہوئے ہیں اور اس کا شملہ پیچھے لٹکا ہوا ہے۔ ابن سعد: باخباہر عمرو بن عاصم بن محمد بن ابوالاشہب: میں نے ابن سیرین پر کتان کے کپڑے دیکھے۔

ابن سعد: باخباہر معن بن عیسیٰ بن محمد بن محمد بن عمرو از محمد بن سیرین: میں نے انس سے رسول اللہ ﷺ کے خضاب کے بارے میں پوچھا فرمایا آپ کو خضاب کی ضرورت ہی نہیں ہوئی البتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حنا اور وسوسہ سے خضاب کیا فرماتے ہیں اس دن میں نے بھی حنا اور وسوسہ سے خضاب کیا۔

ابن سعد: باخباہر یحییٰ بن خلیف بن عقبہ بن محمد بن ابوغلدہ: میں نے ابن سیرین کو زرد خضاب لگائے ہوئے دیکھا۔ ابن سعد: باخباہر مسلم بن ابراہیم بن محمد بن ابوکعب: ابن سیرین موچی سے جب وہ آپ کے موزے سیا کرتا تھا کہا کرتے تھے کہ اپنے تھوک سے ڈورے مت بھگونا۔

ابن سعد: باخباہر معن بن عیسیٰ بن محمد بن محمد بن عمرو: میں نے ابن سیرین کو دیکھا آپ اپنی مونچھیں بالکل صاف نہیں کرایا کرتے تھے جس طرح بعض لوگ صاف کر دیتے ہیں۔

ابن سعد: باخباہر عفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن سلمہ بجز حمید: ابن سیرین نے ابو محفوظ سوید کو حکم فرمایا کہ یمنی چادروں کا جوڑا تیار رکھو تا کہ مجھے اس میں کفنا یا جائے۔

ابن سعد: باخباہر عبد الوہاب بن عطاء باخباہر ابن عون: ابن سیرین نے بعینہ وہی وصیت فرمائی جو محمد بن ابی عمرہ نے اپنے بیٹوں اور گھروالی کو وصیت فرمائی تھی کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور آپس میں صلح رکھیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں کیونکہ ایمان والوں کی یہی شان ہے اور وہ وصیت بھی کی جو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے اور حضرت یعقوب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو کی تھی کہ اے پیارے بیٹو! حق تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین جن لیا ہے لہذا حالت اسلام ہی پر مرنا اور یہ وصیت کی کہ وہ انصار کے اور ان کے دینی موالی کے بھائی ہونے کا دعویٰ نہ کریں کیونکہ پاک دامنی اور راست بازی زنا اور جھوٹ سے بہتر، مستحکم اور قابل عزت اوصاف ہیں اور آپ نے ترکہ میں وصیت کی بشرطیکہ میرے ساتھ قبل اس کے کہ میں وصیت میں رد و بدل کروں کوئی حادثہ پیش آجائے۔

ابن سعد: باخباہر یحییٰ بن محمد بن محمد بن محمد بن سیرین: جب میں اپنے والد کی طرف سے قرض کا ضامن بن گیا تو

آپ نے مجھ سے پوچھا: پورا پورا ادا کرو گے؟ میں بولا: جی ہاں پھر آپ نے میرے حق میں دعائے خیر فرمائی۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سیرین نے اپنے والد کی طرف سے تیس ہزار درہم ادا کیے پھر عبد اللہ کے فوت ہونے سے پہلے ہم نے ان کے مال کا اندازہ لگایا تو تقریباً تین لاکھ کی مالیت کا تھا۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از ایوب از محمد: محمد حکم کیا کرتے تھے کہ میت کے کرتے میں گھنڈیاں اور کف لگائے جائیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از ہشام از محمد: میرے کرتے میں گھنڈیاں بنا دیتا مگر لگانا نہیں۔ ایوب: میں نے محمد پر گھنڈیاں لگائیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید محمد جمعہ کے دن فوت ہوئے اور آپ کو ایوب اور ابن عون نے غسل دیا مجھے معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ اور کون کون تھے۔

ابن سعد: باخبار معن بن عیسیٰ باخبار محمد بن عمر اور محمد بن سعد نے فرمایا: سحر از شمیم از منصور: محمد بن سیرین حسن کی وفات کے بعد ۱۱ھ میں فوت ہوئے باخبار بکار بن محمد: ابن سیرین کی اسی سال سے کچھ اوپر عمر تھی۔
معبد بن سیرین رضی اللہ عنہ:

آپ محمد بن سیرین سے بڑے اور بھائیوں میں سب سے معمر تھے آپ ثقہ ہیں اور راوی احادیث ہیں آپ کا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سے سماع ثابت ہے۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سیرین: محمد انس، عمرہ اور سوہہ میرین کے یہ چاروں بچے انس بن مالک کی ام ولد سے ہیں انس نے اپنی ام ولد کا سیرین سے نکاح کر دیا تھا اس سے انس کے بھی دو بچے معبد اور ام حرام ہیں۔
یحییٰ بن سیرین رضی اللہ عنہ:

آپ محمد بن سیرین کے اخیافی بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کی والدہ کا نام صفیہ ہے۔ ابن سعد: باخبار بکار بن محمد: مجھے خبر ملی ہے کہ سیرین نے اپنے بیٹوں کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا پھر جب وہ واپس آئے تو یحییٰ سب میں زیادہ حافظ تھا سیرین نے یحییٰ کے حفظ کی وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ آپ ثقہ ہیں اور قلیل الحدیث ہیں آپ جرجرایا میں محمد بن سیرین سے پہلے فوت ہوئے وہیں آپ کی قبر ہے۔

ابن سعد: باخبار حفص بن غیاث بن محمد بن محمد بن محمد بن سیرین: مجھ سے انس نے فرمایا: یحییٰ کس بیماری میں فوت ہوئے؟ میں نے کہا: طاعون میں فرمایا دیکھو! طاعون ہر مسلمان کے حق میں شہادت ہے۔
ابو حمزہ انس بن سیرین رضی اللہ عنہ:

انس بن مالک کے نام اور کنیت پر آپ کا نام اور کنیت ہے لیکن حماد کی بعض حدیث میں آپ کی کنیت ابو موسیٰ بتائی گئی ہے آپ ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابن سعد: باخباہر سعید بن عامر از اسماء بن عبید از انس بن سیرین: جب میں پیدا ہوا تو میرے والد مجھے انس کے پاس لے گئے آپ نے اپنے نام پر اور اپنی کنیت پر میرا نام اور میری کنیت رکھی۔

ابن سعد: باخباہر خالد بن خداش بن محمد یث ابوالعوام بن محمد یث قناده: ابن زبیر نے انس بن سیرین: شہادت عثمان کے دو سال قبل پیدا ہوا۔
ابن سعد: باخباہر عمرو بن عاصم بن محمد یث ابوالعوام بن محمد یث قناده: ابن زبیر نے انس بن مالک کو بصرہ کا حاکم بنا دیا تھا اور انس نے اپنے مولیٰ انس بن سیرین کو ابلہ کا حاکم بنا دیا تھا، کہتے ہیں پھر انس بن سیرین نے کہا: کیا آپ مجھے عشر کا محصل بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط سے راضی نہیں آپ نے وہ خط نکالا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ مسلمان تاجروں سے ہر چالیس پر ایک درہم لیا جائے اور ذمیوں سے ہر بیس پر ایک درہم اور حریوں سے ہر دس پر ایک درہم۔ انس محمد بن سیرین کے بعد فوت ہوئے۔

ابونضرہ رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے اور آپ عوقب سے ہیں جو عبد القیس کا ایک ذیلی خاندان ہے آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں ہر راوی ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے حجت لی جائے۔

یحییٰ بن سعید قطان از شعبہ: میرے پاس سلیمان ثقی اور ابن عون میری والدہ کی بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں سلیمان کہتے ہیں: ہم سے ابونضرہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عون کہتے ہیں میں نے ابونضرہ کو دیکھا فرماتے ہیں: سلیمان کہتے ہیں: لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا۔

ابن سعد: باخباہر مسلم بن ابراہیم بقول ابو حرمہ خالد بن حرمہ ابونضرہ کے چچا زاد بھائی محمد یث مؤثرہ بنت اربک: ابونضرہ اپنی بیوی زینب کے ساتھ جہاد کے لیے خراسان گئے۔

ابن سعد: باخباہر مسلم بن ابراہیم بن محمد یث صالح بن راشد: میں نے ابونضرہ کی داڑھی زرد دیکھی۔ ابن سعد: باخباہر عمرو بن عاصم بن محمد یث ابوالاشبہ: میں نے دیکھا ابونضرہ کبھی کبھی داڑھی زرد کر لیا کرتے تھے۔ ابن سعد: باخباہر مسلم بن ابراہیم بن محمد یث صالح بن راشد: میں نے ابونضرہ پر سیاہ پگڑی دیکھی۔

ابن سعد: باخباہر عقیان بن مسلم و مسلم بن ابراہیم بن محمد یث مہدی بن میمون: جب ابونضرہ فوت ہوئے تو میں موجود تھا حسن نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ پھر ظہر کا وقت ہو گیا آپ نے اسی حالت میں جہان میں ظہر کی نماز بھی پڑھائی آپ کے آگے سترہ نہ تھا اور آپ کے دائیں بائیں قبریں تھیں ابونضرہ عمر بن مہیرہ کی ولایت کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

سعد بن ہشام بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخباہر سلیمان بن حرب بن محمد یث حماد بن زید از علی بن زید: میں نے سنا زرارہ بن ادنیٰ حسن اور نضرہ سعد بن ہشام بن عامر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ہشام فرماتے ہیں: میں صدیقہ کے پاس گیا اور میں نے آپ سے اپنا تعارف کرایا پوچھا: اچھا تم جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابی کے فرزند ہو میں نے کہا جی ہاں۔ لوگ کہتے ہیں: ان شاء اللہ سعد ثقہ ہیں۔

علقمہ بن عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فوت ہوئے۔

بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ:

آپ علقمہ کے بھائی نہیں ہیں آپ ثقہ، مثبت اور مستند ہیں اور حجت ہیں اور کثیر الحدیث ہیں اور عالم ہیں آپ کے ایک اخیانی بھائی کا نام خطاب بن جبیر بن حیہ ثقفی تھا۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل متحد ریث معتمر: میرے والد فرمایا کرتے تھے: حسن بصرہ کے شیخ ہیں اور بصرہ کے جوانوں

کے جوان ہیں۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم متحد ریث عبداللہ بن بکر بحد ریث ہمشیرہ ام عبداللہ بنت بکر بسماح بکر: میں نے پکا ارادہ کر لیا

ہے کہ جب کبھی میں لوگوں کو تقدیر پر گفتگو کرتا ہوں پاؤں گا تو اٹھ کر دو رکعت نماز ضرور پڑھوں گا (اس شکر یہ میں کہ حق تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا)۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم متحد ریث عبداللہ بن بکر بن عبداللہ مزنی بحد ریث ابو عبداللہ میرے والد سے: آپ عرفات

میں قیام فرماتے تھے کہ دل میں رقت پیدا ہوئی اور فرمایا اگر میں لوگوں میں عرفات میں قیام کیے ہوئے نہ ہوتا تو کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بخش دیا۔

ابن سعد: باخبار عرفان بن مسلم متحد ریث مرجمی بن دادع متحد ریث غالب قطان از بکر مزنی: خود کو ایسے کلام سے بچاؤ کہ اگر وہ

صحیح بھی ہو تو تم کو اس پر اجر نہ ملے اور اگر غلط ہو تو اس پر تمہاری پکڑ ہو ایسا کلام اپنے بھائی پر تمہاری بدگمانی ہے یعنی بدگمانی سے بچو۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل متحد ریث عبداللہ بن ابو داؤد بسماح بکر بن عبداللہ مزنی: جب تمہارے ساتھ کوئی شخص ہو

اور اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تم اس کے لیے نہ بیٹھو جب تک وہ اپنا تسمہ درست نہ کر لے کیونکہ تم اس کے ساتھی نہیں اور اگر

وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو تم اس کے لیے نہ بیٹھو جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے کیونکہ تم اس کے ساتھی نہیں حسن بکر کو

ملکیس (ہوشیار بنائے ہوئے) کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل باخبار ابو ہلال از غالب از بکر (جب آپ کو عہدہ قضاء کی طرف لے جایا جانے لگا) میں

آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں آپ غور فرمائیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں مجھے قضاء کا علم نہیں اگر میں اس میں

سچا ہوں تو آپ کو لائق نہیں کہ مجھے یہ عہدہ دیں اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹے کو قاضی بنانا لائق نہیں۔

ابن سعد: باخبار عرفان بن مسلم متحد ریث معتمر متحد ریث حمید طویل از بکر: مجھے امید ہے کہ میں مالداروں جیسی زندگی گزاروں

گا اور مجھے فقراء جیسی موت آئے گی آپ اسی طرح تھے اپنا کبیل اوڑھ کر فقراء کے پاس آجاتے تھے اور ان سے باتیں کرتے رہتے

تھے اور فقراء اس سے بڑے خوش تھے۔

ابن سعد: باخبار عرفان بن مسلم متحد ریث معتمر: میں نے اپنے والد سے سنا فرماتے تھے کہ بکر بن عبداللہ کے لباس کی قیمت

عبداللہ بن رباح انصاری بصرہ میں آئے اور انصار آپ کو علم دین پڑھاتے تھے۔
ابوالفضل، عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہما:

آپ ابوذر غفاری کے بھتیجے ہیں اور صاحب احادیث و ثقہ ہیں۔
ابوسعید رقاشی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام قیس ہے آپ ابوسان حصین بن منذر رقاشی کے آزاد کردہ غلام ہیں اور قلیل الحدیث ہیں اور ابن عباس سے
راوی ہیں۔

حکم بن اعرج رضی اللہ عنہ:

آپ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں اور صاحب احادیث ہیں۔
ابوالحریان انیس رضی اللہ عنہ:

آپ گھائی میں محمد بن حنفیہ کے ساتھ تھے۔
ابولبید رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام لمزہ بن زبار زدی ہے پھر آپ جہضمی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیثیں سنیں آپ ثقہ اور صاحب
احادیث ہیں۔

ابوالمعتز مورق بن مشرجم عجل رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور عابد تھے۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بخدیث جعفر بن سلیمان بخدیث معالی بن زیاد از مورق عجل: ایک مسئلہ ہے جس کی مجھے دس
سال سے طلب ہے لیکن ہنوز اس پر قادر نہ ہو سکا اور میں کبھی اس کی طلب چھوڑنے والا بھی نہیں، کہا گیا: ابوالمعتز اوہ کیا ہے؟ فرمایا
بے کار باتوں سے خاموشی اختیار کرنا۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن خلیف بن عقبہ بخدیث ہشام بن حسان از مورق: میں نے دس سال میں خاموشی سیکھی ہے۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم بخدیث حماد بن زید بخدیث یزید شنی اعرج بسماع مورق: مجھے غصہ نہیں آتا پورا سال گزر
جاتا ہے اور مجھے غصہ نہیں آتا ایسی نوبت نہیں آئی کہ میں غصہ میں کچھ کہہ بیٹھوں اور غصہ اتر جانے کے بعد مجھے اس پر پچھتانا پڑ
جائے۔

ابن سعد بخدیث یحییٰ بن خلیف بخدیث ہشام بن حسان از مورق: میں کبھی غصہ میں نہیں بھرتا میں اللہ سے بیس سال سے

بلکہ بیس سے اوپر بھی کئی سالوں سے ایک دعا مانگ رہا ہوں مگر وہ ابھی تک اللہ نے قبول نہیں فرمائی لیکن دعا سے میں اکتایا نہیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بخدیث حماد بن زید از ہشام بن حسان از حصہ بنت سیرین مورق ہمارے پاس آتے

جاتے رہتے تھے ہم پوچھتے تھے: آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے فرماتے اللہ کی قسم وہ بہت ہیں۔

ابن سعد: باخباہر عوفان بن مسلم، محمد بن جعفر بن سلیمان، محمد بن ہشام، ازہصہ بنت سیرین، مورق ہمارے پاس آتے رہتے تھے آپ نے ایک دن آکر ہمیں سلام کیا ہم نے آپ کے سلام کا جواب دیا پھر ہم پوچھ پچھا کرنے لگے میں بولی: آپ کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ بہت ہیں میں بولی اپنے رب کا شکر ادا کیجئے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ مجھ پر ہلاکت نہ ڈال لیں۔

ابن سعد: باخباہر عوفان، محمد بن جعفر بن سلیمان، محمد بن سعید جریری: مورق قبیلہ کی مجلس سے گزرے اور سلام کیا لوگوں نے سلام کا جواب دیا ان میں سے ایک شخص نے کہا کیا آپ ہر طرح خیریت سے ہیں؟ فرمایا کاش میرے حال کا سوال حصہ خیریت سے ہوتا۔

ابن سعد: باخباہر عوفان بن مسلم، محمد بن ابوزید ثابت بن یزید، ازہصہ بنت سیرین، مورق: ان کی باتیں تعریف ہی ہوتی تھیں۔
ابن سعد: باخباہر عوفان بن مسلم و عارم بن فضل، محمد بن حماد بن زید، محمد بن زید، عمر بن شہین: ایک شخص نے مورق سے کہا: ابوالمعتمر! مجھے ایک شکایت ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہ روزہ رکھ سکتا ہوں: فرمایا وہ حالت بدترین ہے جو تم اپنے نفس کی بات سنو! اگر تم خیر سے کمزور ہو تو شر سے بھی کمزور رہو کیونکہ مجھے سو کر سرور حاصل ہوتا ہے۔

ابن سعد: باخباہر عوفان بن مسلم، محمد بن ہمام بن یحییٰ، محمد بن قتادہ، بقول مورق: میں نے دنیا میں مومن کے لیے یہی ایک مثال پائی ہے کہ مومن اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں ایک لکڑی پر ہو اور وہ اپنی نجات کے لیے ہمہ وقت رب کو پکار رہا ہو۔

ابن سعد: باخباہر کثیر بن ہشام، محمد بن حماد بن سلمہ، ازہصہ بنت سیرین، مورق: اللہ کی طاعت میں رکا ہوا شخص جب طاعت کی وجہ سے لوگوں سے ایک گوشہ میں رہتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو بھاگنے کے بعد حملہ کرتا ہے۔

ابن سعد: باخباہر یحییٰ بن خلیف، محمد بن ہشام، بن حسان، بقول مورق: اگر میں اپنے گھر کے کسی ممبر کے لیے موت کو بہتر پاتا ہوں تو اس کے لیے موت کی تمنا کرتا ہوں۔

ابن سعد: باخباہر عارم بن فضل، محمد بن حماد بن زید، ازہصہ بنت سیرین، مورق: دنیا میں میرا کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی موت میں اجر ہو مگر اس کی موت ہی چاہتا ہوں۔ حماد: آپ کی والدہ زندہ تھیں۔

ابن سعد: باخباہر عوفان، محمد بن جعفر بن سلیمان، محمد بن سعید جریری: مورق اپنی والدہ کی جو کھیں دیکھا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخباہر سعید بن عامر، ازہصہ بنت سیرین، مورق: بسا اوقات مورق اپنے بھائیوں کے پاس آتے اور انہیں درہم دے کر فرماتے ذرا انہیں اپنے پاس رکھ لو میں ابھی آتا ہوں پھر جب چلے جاتے تو فرماتے میں نے وہ درہم تمہیں کو دے دیئے۔

ابن سعد: باخباہر عارم بن فضل، محمد بن حماد بن زید، ازہصہ بنت سیرین، مورق: مورق ہمارے پاس ہمارے گھر بصرہ میں تھیلی لاتے اور فرماتے ذرا اسے رکھ لو اگر تمہیں ضرورت لاحق ہو تو انہیں خرچ کر سکتے ہو اور وہ آپ کے ہاتھ میں ان درہموں کا آخری زمانہ ہوتا تھا (پھر وہ انہیں لیا نہیں کرتے تھے)۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم، محمد بن جعفر بن سلیمان، محمد بن ہارے، بعض اصحاب: مورق تاجر تھے جو فائدہ ہوتا تھا وہ سب ایک ہفتہ کے اندر اندر خرچ کر ڈالتے تھے اگر آپ اپنے کسی بھائی سے ملتے تو اسے تین سو چار سو یا پانچ سو دے کر فرماتے یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لو حتیٰ کہ تم کو ان کی ضرورت پڑ جائے پھر اس کے بعد ملاقات کر کے فرماتے تم ہی انہیں لے لو وہ کہتا مجھے ضرورت نہیں تو فرماتے سنو! اب ہم انہیں کبھی لینے والے نہیں تمہیں لے لو۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم کلابی، محمد بن قریش بن حیان، محمد بن میمونہ بنت مذکور: ہمارے پاس مورق تشریف لائے ہمارے غلام نے ان کے لیے ایک چھوٹی سی پتیلی میں انڈے پکائے مورق نے پوچھا: یہ ہانڈی کیا ہے؟ غلام نے کہا: یہ ہمارے پاس گروی ہے فرمایا کیا تو ان انڈوں سے مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ فرماتی ہیں: آپ نے گروی شدہ چیز کا استعمال مکروہ سمجھا۔
ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم، محمد بن مہدی بن میمون، محمد بن خیالان بن جریر، مورق عجمی: آپ بیچ مرابحہ کو (یعنی دس کے گیارہ اور دس کے بارہ کو) مکروہ سمجھتے تھے۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب، محمد بن حماد بن زید، از غیلان بن جریر، حجاج نے مورق کو قید کر دیا پھر مطرف مجھ سے ملے اور بولے: تم نے اپنے ساتھی کے بارے میں کیا کہا؟ میں نے کہا وہ مجھوں میں فرمایا: آؤ ان کے لیے دعا مانگیں پھر مطرف نے دعا مانگی اور ہم نے آمین کہی پھر زوال کے بعد حجاج نکلا اور بیٹھ گیا اور لوگوں کو اجازت دے دی لوگ اس کے پاس چلے گئے مورق کے والد بھی چلے گئے حجاج نے پہرہ دار کو بلا کر کہا اس شیخ کو جیل سے لے جاؤ اور اس کا بیٹا اسے دے دو کہتے ہیں عراق پر عمر بن سمیرہ کی ولایت کے زمانہ میں مورق فوت ہوئے۔

ابو مجلز رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام لاحق بن حمید سدوسی ہے آپ ثقہ اور صاحب احادیث ہیں آپ حسن بصری کی وفات سے قبل عہد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ میں فوت ہوئے۔

عبدالملک بن یحییٰ لیشی رضی اللہ عنہ:

آپ حسن سے پہلے بصرہ کے قاضی تھے اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں جلال بن یحییٰ ہوئے۔
غزوان بن غزوان رقاشی رضی اللہ عنہ:

آپ نیک صالح عابد اور فاضل تھے۔

ابن سعد: باخبار عوفان بن مسلم، محمد بن حماد بن سلمہ، از ثابت از انس: آپ ہتے نہ تھے حضرت ابو موسیٰ نے آپ سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ہتے نہیں فرمایا: آہ آہ مجھے ہنسی سے کیا سروکار؟

ابن سعد: باخبار ربیع بن ابراہیم از سلام بن ابی مطیع از یونس بن عبید: غزوان قرآن دیکھ کر کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ بوڑھی اور جاہل تھیں ایک دن آپ سے کہنے لگیں: غزوان! ہمارا ایک اونٹ جاہلیت میں کھو گیا تھا تجھے اس زمانے میں وہ اونٹ نہیں ملا؟ آپ نے ان کی بات کا برا نہیں مانا اور نہ انہیں ڈانٹا اور فرمایا امی جان اللہ کی قسم میں قرآن میں اچھے اچھے

وعدے پاتا ہوں۔

ابن سعد: باخبار یحییٰ بن راشد متحد بیٹ عثمان بن عبد الحمید رقاشی بسماع مشائخ غزو ان چالیس سال سے نہیں بنے غزو ان جہاد پر چلے جاتے تھے جب ان کے ساتھی واپس آتے تو آپ کی والدہ ان سے ملتیں اور پوچھتیں کیا تمہیں غزو ان کی خبر نہیں؟ وہ جواب دیتے اماں اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے وہ تو قوم کے سردار ہیں۔

علاء بن زیاد بن مطر بن شریح عدوی رضی اللہ عنہ:

آپ اولاد عدی بن عبد مناة بن اڈ بن طامحہ بن الیاس بن مضر سے ہیں اور صاحب احادیث وثقہ ہیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل متحد بیٹ حماد بن زید از اسحق بن سوید از علماء: میرے والد زیاد بن مطر نے وصیت فرمائی: اگر میرے ساتھ حادثہ پیش آجائے تو علمائے بصرہ کے حکم پر عمل کرو پھر ہم نے علماء سے پوچھا تو سب نے (وصیت کے سلسلہ میں) بالاتفاق پانچویں حصہ کا حکم دیا۔

ابن سعد: باخبار فضل بن دیکین متحد بیٹ ابوخلدہ: میں نے علاء کی داڑھی زرد دیکھی۔ آپ عراق پر حجاج کی حکومت کے

زمانہ میں فوت ہوئے۔

حظلمہ بن سوادہ رضی اللہ عنہ:

آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی زرد دیکھی۔

ابو کبیر رفیع رضی اللہ عنہ:

آپ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہے۔

عمر بن جاوان رضی اللہ عنہ:

آپ کا تعلق اولاد سعد بن زید مناة بن تمیم سے ہے۔ ابو عوانہ اپنی حدیث میں کہا کرتے تھے: عمر بن جادان۔

ابونعامة حنفی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام قیس بن عبایہ ہے آپ سے جریری اور کھس راوی ہیں۔

ابونعامة سعدي رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبد ربہ ہے آپ سے ایوب حماد بن سلمہ اور شعبہ راوی ہیں۔

ابونعامة سعدي رضی اللہ عنہ:

یعنی سعد بن زید مناة بن تمیم آپ کا نام عوف بن قیس بن حصین بن یزید ہے آپ عتی بن ضمیرہ بن یزید کے چچا زاد

بھائی ہیں۔

ابومصعب مازنی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ہلال بن یزید ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔

ابو حمزہ ضعیفی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام شیخ بن عبد اللہ ہے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابو اسلم ہذلی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عامر بن اسامہ بن عمیر ہے آپ ثقہ اور صاحب احادیث ہیں آپ سے ایوب وغیرہ راوی ہیں ۱۱۲ھ میں فوت ہوئے۔ ابن سعد: تخم شخصے از اولاد ابو اسلم: ابو اسلم حسن سے تقریباً ایک سال قبل فوت ہوئے آپ کے جنازے میں حسن شریک تھے۔ ابن سعد: باخبار عوف بن مسلم بخاریث وحبیب بخاریث ابن عون از ابو اسلم: آپ اہلہ پر عامل تھے اور جمعہ بصرہ میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار یزید بن ہارون باخبار عقبہ بن ابی الصہباء بخاریث ابو العالیہ قیس: ابو اسلم نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری موت چھیں اور ناخن کاٹ دینا۔

یزید بن ہر مرقاریسی رضی اللہ عنہ:

آپ دو سیوں کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ جنگ حرہ میں غلاموں کے امیر تھے آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

عمیر بن اسحق رضی اللہ عنہ:

آپ مدنی تھے پھر بصرہ میں جا بے لہذا آپ سے بصری جیسے ابن عون وغیرہ روایت کرتے ہیں اور مدنی آپ سے کچھ بھی روایت نہیں کرتے۔ عمیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے راوی ہیں۔

ابن سعد: باخبار روح بن عبادہ بخاریث ابن عون از عمیر: میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان سے جو مجھ سے پہلے کر گئے بہت زیادہ پایا ہے میں نے انہیں انتہائی آسان عادتوں کا اور عدم تشدد کا مالک پایا۔

ابو یزید مدنی رضی اللہ عنہ:

آپ مدنی تھے پھر بصرہ میں جا بے لہذا آپ سے عوف بصری وغیرہ روایت کرتے ہیں اور آپ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے راوی ہیں۔

ابو ایاس معاویہ بن قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ:

ابن ہلال بن رباب بن عبید بن سواہ بن ساریہ بن ذبیان بن ثعلبہ بن سلیم بن اوس بن مزینہ۔ آپ ثقہ اور صاحب احادیث ہیں۔

ابن سعد: باخبار قبیصہ بن عقبہ بخاریث سفیان از خالد حداد: معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے حق میں آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ فرمایا کیا ہی اچھا بیٹا ہے میرے لیے دنیا کے کاموں سے کافی ہو گیا اور مجھے آخرت سے فارغ البال کر دیا۔

عبد اللہ بن بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار یعقوب بن ابراہیم بن کثیر عبدی بخاریث ابو ہبیلہ کچی بن واضح از روح بن ہلال طائی از عبد اللہ بن بریدہ:

میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے چوتھے سال کے آغاز میں پیدا ہوا، آپ اور آپ کا بھائی سلیمان دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے پھر ایک غلام دوڑا ہوا میرے والد کے پاس گیا آپ دربار عمری میں تھے اس نے کہا آپ کے بیٹا (عبداللہ) پیدا ہوا ہے فرمایا جاتو آزاد ہے پھر دوسرے غلام نے آ کر بشارت سنائی کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوا ہے فرمایا تجھ سے پہلے فلاں غلام سبقت کر گیا، غلام بولا یہ دوسرا بیٹا (سلیمان) ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اور اسے بھی یعنی اسے بھی آزاد کر دیجئے۔

ابن سعد: باخبار یعلیٰ بن عبید بن محمد یث صالح بن حیان: ابن بریدہ کی کنیت ابوہل تھی، آپ اپنے والد بریدہ سے اور عبداللہ

بن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں۔

سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ:

ابن حصیب سلمیٰ آپ اپنے والد سے راوی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائیوں میں سلیمان انتہائی صحیح وثقہ ہیں۔

یوسف بن مہران رضی اللہ عنہ:

آپ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں اور ثقہ ہیں۔

ابن سعد: باخبار عفا بن محمد یث حماد بن زید از علی بن زید: (یوسف بن مہران کا تذکرہ آنے کے بعد) آپ کا حافظہ عمرو بن

دینار کے حافظہ سے لکر کھاتا تھا۔

ابو الجبلد جونی رضی اللہ عنہ:

ازد کا ایک قبیلہ ہے آپ کا نام جبیلان بن فروہ ہے اور ثقہ ہیں۔ ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل بن محمد یث ابان بن محمد یث

ابو عمران: ابو الجبلد کتاب میں پڑھا کرتے تھے۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب بن محمد یث حماد بن زید از میمونہ بنت ابی الجبلد: میرے والد ہر ہفتہ ایک قرآن ختم کیا کرتے

تھے اور تورات دیکھ کر چھ دن میں ختم کیا کرتے تھے پھر تورات کے ختم والے دن لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے:

کہنا جاتا تھا کہ ختم تورات کے وقت رحمت اترتی ہے۔

ابو حسان اعرج رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام مسلم ہے اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

ابو السلیل قینسی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ضریب بن تقیر ہے آپ اولاد قینس بن ثعلبہ سے ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

بشیر بن کعب عدوی رضی اللہ عنہ:

آپ بھی ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

بشیر بن نہیک سدوسی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بشیر بن خصامیہ سے راوی ہیں۔

ابن سعد: باخبار علفان بن مسلم تخد یث یحییٰ بن سعید قطان تخد یث عمران بن حدیر تخد یث ابو جملہ از بشیر بن نہیک: میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی کتاب لے کر آیا جو میں نے لکھی تھی اور وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اور پوچھا کیا میں نے کتاب آپ سے سنی؟ فرمایا: ہاں۔

خالد بن سمیر رضی اللہ عنہما، ابوالجوزاء ربیع بن الشیبہ:

ابن سعد: باخبار علفان بن مسلم از سعید بن زید از عمرو بن مالک نمری: ابوالجوزاء کا نام اوس بن خالد ربعی ہے۔ ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم تخد یث متمر بن ریان: میں نے ابوالجوزاء کی دائرہ زرد دیکھی۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم تخد یث یحییٰ بن عمرو بن مالک نمری بسماع عمرو بن مالک: ابوالجوزاء نے کبھی کسی چیز پر لعنت نہیں کی اور آپ نے کبھی لعنت کی جانے والی چیز نہیں کھائی۔ آپ خادم کو ماہانہ ایک دو درہم دے دیا کرتے تھے تا کہ تور کی گرمی پہنچنے پر کھانے کو برائہ کہے۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم تخد یث یحییٰ بن عمرو بسماع عمرو: ابوالجوزاء انتہائی محتاط تھے حتیٰ کہ آپ کے نماز کے کپڑے علیحدہ رہتے تھے اور کام کے کپڑے علیحدہ پھر میں نے اس کے بعد آپ پر دو مروی کپڑے دیکھے میں نے پوچھا: ابوالجوزاء: یہ کیا؟ میں کسی شے کو دیکھنے لگا پھر یہ اس سے آسان ہے جس کی طرف میں جاتا ہوں۔

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم تخد یث یحییٰ بن عمرو بسماع عمرو بسماع ابوالجوزاء: میرے گھر کو بندروں اور سوروں سے بھر جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی خواہش پرست ہو۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل تخد یث حماد بن زید از عمرو ابوالجوزاء (خواہش پرستوں کا ذکر کر کے) اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے گھر کا بندروں اور سوروں سے پڑوسیوں کے طور پر بھر جانا اس سے اچھا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی خواہش پرست ہو۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل تخد یث حماد بن زید از عمرو ابوالجوزاء: میں نے کبھی کسی چیز پر لعنت نہیں کی اور نہ ملعون شے کھائی اور نہ کسی سے جھگڑا کیا۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل تخد یث سعید بن زید تخد یث عمرو بن مالک: ابوالجوزاء نے کبھی کسی شے پر لعنت نہیں کی اور نہ کبھی ملعون شے کھائی اور نہ کبھی کسی شخص کی تکذیب کی اور نہ کبھی چبوتروں پر بیٹھے۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل تخد یث حماد بن زید از عمرو بن مالک از ابوالجوزاء: میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آپ کے گھر میں بارہ سال رہا قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا نہ ہو۔ کہتے ہیں ابوالجوزاء: عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کے ساتھ نکلے اور ایام جماد میں ۸۳ھ میں شہید ہو گئے۔

عبداللہ بن غالب رضی اللہ عنہما:

ابن سعد: باخبار مسلم بن ابراہیم تخد یث قاسم بن فضل: میں نے عبداللہ کو دیکھا کہ ابن اشعث کے پاس آئے ابن اشعث نذابیہ میں اپنے لوہے کے منبر پر تھے اور آپ کے ساتھ چالیس آدمی آ رہے تھے جو حنوط میں بے ہوئے کفن پہنے ہوئے تھے اور ہر شخص

کے پاس تلوار اور ڈھال تھی پھر عبداللہ بن اشعث کی طرف بڑھے اور فرمایا ہاتھ پھیلائیے تاکہ ہم بیعت کر لیں ہم کس چیز پر بیعت کریں؟ فرمایا کتاب و سنت پر آخر آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور ڈھال پھینک کر فرمایا اللہ کی قسم آج میں اپنے اور شامیوں کے درمیان ڈھال نہیں رکھوں گا پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

ابونہار عقبہ بن عبدالغافر رضی اللہ عنہ ازدی پھر عوذی:

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم کلابی بخدیث سلیمان بن مغیرہ بخدیث ثابت: مجھے کوئی شخص عقبہ الغافر سے زیادہ پیارا نہیں اور میری آرزو ہے کہ میں انہیں کی کھال میں اللہ سے ملاقات کروں لیکن فتنہ کے زمانہ میں ہم ان کے پاس آئے تو فرمایا میں تم کو نہیں پہچانتا۔ ابن سعد: باخبار سلیمان بن حرب بخدیث حماد بن زید بخدیث معلى بن زید قردوسی بخدیث مرہ بن دباب: میں عقبہ کے پاس سے گزرا آپ خندق میں مجروح پڑے تھے جب لوگ شکست کھا گئے تھے آپ نے مجھے ابوالمعدل ابوالمعدل کہہ کر آواز دی جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو فرمایا: دنیا اور آخرت دونوں ختم ہوئیں یہ یوم ابن اشعث کا واقعہ ہے۔ لیکن غیر سلیمان کا قول ہے کہ آپ ابن اشعث کے ایام میں ۵۳ھ میں قتل کیے گئے۔

ابوالتوکل ناجی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام علی بن داؤد ہے۔

ابوالصدیق ناجی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام بکر بن عمرو ہے۔ مشائخ آپ کی حدیثوں پر جرح کرتے ہیں اور انہیں منکر بتاتے ہیں۔

ابوہبیدہ عدوی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام براء بن نوفل ہے آپ معروف و قلیل الحدیث ہیں۔

ابوالیوب رضی اللہ عنہ ازدی پھر مراغی:

آپ کا نام یحییٰ بن مالک ہے آپ ثقہ اور مستند ہیں اور آپ سے قنادہ راوی ہیں۔

ابوالحرب رضی اللہ عنہ بن ابواسود دوی:

آپ معروف و صاحب احادیث ہیں۔

ابوالورد بن شمامہ رضی اللہ عنہ:

ابن حزن قشیری: آپ معروف و قلیل الحدیث ہیں۔

ابوصاحب بصری رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام میزان ہے اور آپ قلیل الحدیث ہیں آپ سے سلیمان تمیمی، خالد حذاء اور ابوخلہ راوی ہیں۔

ابوصاحب رضی اللہ عنہ:

جن سے یحییٰ بن ابی کثیر راوی ہیں آپ کا نام قیلو ہے۔

واقع بن سبحان رضی اللہ عنہ:

آپ سے قتادہ راوی ہیں اور آپ قلیل الحدیث ہیں۔

ابوالعلاء حیان بن عمیر قیس رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں۔

ابوالزنباع رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام صدقہ بن صالح ہے۔

کنانہ بن نعیم عدوی رضی اللہ عنہ:

آپ معروف ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

طلق بن حبیب عززی رضی اللہ عنہ:

آپ بصری ہیں مگر مکہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے آپ مرجہ ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔ آپ حضرت ابن عباس اور

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم سے راوی ہیں۔

ابن سعد باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از ایوب از یوسف بن حارث: میں نے اس حال میں طلق بن حبیب کو

دیکھا کہ حمید بن عبد الرحمن حمیری ان سے فرما رہے تھے: طلق! میں دیکھتا ہوں کہ تم کڑ بڑے ہو گئے؟ بولے: جی ہاں! اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔

ابن سعد: باخبار محمد بن ربیعہ کلابی از عبد اللہ بن حبیب بن ابی ثابت: طلق اپنی والدہ کی جو کھیں دیکھا کرتے تھے۔ ابن سعد:

باخبار اسماعیل بن ابراہیم اسدی از ایوب بقول سعید بن جبیر: طلق کے پاس مت بیٹھ۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید بن محمد بن ایوب: مجھے سعید بن جبیر نے طلق کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا

بولے: کیا میں تجھے ان کے پاس بیٹھا ہوا نہیں دیکھ رہا اس کے پاس مت بیٹھ آپ کو مرجہ بتایا جاتا تھا۔

عبد الرحمن بن جوشن غطفانی رضی اللہ عنہ:

آپ عیینہ بن عبد الرحمن کے والد ہیں۔

ابن سعد: باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری بن محمد بن عیینہ بن عبد الرحمن بن جوشن از عبد الرحمن: میں نے اس مسجد (مسجد بصرہ)

میں ۱۸ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پائے۔

طلحہ بن عبید اللہ بن کریم خزاعی رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں۔

تیسرا طبقہ

ابوالخطاب قتادہ بن دعامہ سدوسی رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں ثقہ، مستند اور حجت ہیں۔ آپ تقدیر کے سلسلہ میں بھی کچھ کہا کرتے تھے۔ باخبار عمرو بن عاصم کلابی بخدیث ابو ہلال بسام قتادہ: کسی میں حفظ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے بقول عبدالصمد بن عبدالوارث بخدیث ابو ہلال: میں نے قتادہ سے ایک مسئلہ پوچھا: فرمایا: مجھے معلوم نہیں میں نے کہا ذاتی رائے سے جواب دیجئے، فرمایا: میں نے چالیس سال سے اپنی ذاتی رائے سے کوئی مسئلہ نہیں بتایا۔ میں نے پوچھا: اس وقت آپ کی کتنی عمر تھی، فرمایا: پچاس سال۔

بقول ابوداؤد طیالسی از شعبہ: مجھے قتادہ کی سنی ہوئی اور غیر سنی ہوئی حدیثوں میں فرق معلوم ہے آپ سنی ہوئی حدیثوں کو حدیثا فلان سے بیان کرتے ہیں اور غیر سنی ہوئی حدیثوں کو قال فلان سے بیان کرتے ہیں۔

بقول عبدالرزاق از معمر بقول قتادہ: میں نے حسن کی صحبت سے بارہ سال تک فیض اٹھایا ہے اور تین سال تک صبح کی نماز برابر آپ کے پیچھے پڑھی ہے فرماتے ہیں لہذا مجھ جیسوں نے ان جیسوں سے علم حاصل کیا ہے۔

بقول معمر بقول قتادہ: جب تم مجلس میں ایک حدیث دہراؤ گے تو تم اس کا نور بجا دو گے، میں نے مجلس میں جس سے حدیث سنی اس پر کبھی دہرائی نہیں۔

بقول معمر: قتادہ از سعید بن ابی عروبہ: ابوالنضر! ذرا قرآن تو لے لو پھر آپ نے انہیں سورہ بقرہ پڑھ کر سنائی اور پوری سورت میں ایک حرف کی بھی غلطی نہیں کی ختم کر کے پوچھا: کیا میں نے ٹھیک ٹھیک پڑھی؟ بولے: جی ہاں، فرمایا: یہ سورت بلا صحیفہ کے جابر بن عبداللہ کو مجھ سے زیادہ یاد ہے فرماتے ہیں آپ پر سورہ بقرہ پڑھی گئی تھی۔ معمر: زہری سے پوچھا گیا: آپ کے نزدیک قتادہ بڑے عالم ہیں یا کھول؟ فرمایا: کھول نہیں بلکہ قتادہ بڑے عالم ہیں کھول کے پاس تو تھوڑا سا علم ہے۔ معمر: ہم نو جوان قتادہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے اور سندیں پوچھا کرتے تھے تو آپ کے پاس جو مشائخ موجود ہوتے تھے وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ سندیں چھوڑو ابوالخطاب خود سند ہیں اس طرح وہ ہمارے دل توڑ دیا کرتے تھے۔

باخبار موسیٰ بن اسماعیل بخدیث ابو ہلال: قتادہ سے پوچھا گیا: کیا ہم سنی ہوئی حدیثیں لکھ لیا کریں؟ فرمایا: تم کو لکھنے سے کیا چیز مانع ہے خود حق تعالیٰ نے خبر دی ہے اور کتاب میں پڑھا ہے حالانکہ میرا رب راہ سے نہیں بھٹکتا اور نہ بھولتا ہے۔

ابن سعد: باخبار عمرو بن عاصم کلابی بخدیث بیث سلام بن مسکین بخدیث عمران بن عبداللہ: جب قتادہ سعید بن مسیب کے پاس آئے تو آپ سے مدتوں تک پوچھتے رہے ایک دن سعید نے آپ سے پوچھا کیا تم کو مجھ سے ہر پوچھی ہوئی حدیث یاد ہے؟ بولے: جی ہاں، میں نے آپ سے فلاں فلاں مسئلہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے فلاں فلاں جواب دیا اور حسن نے یہ جواب دیا۔ حتیٰ

کہ قنادہ نے آپ کے سامنے بہت سی حدیثیں بیان کر دیں آخر کار سعید کو کہنا پڑا: میرا گمان نہ تھا کہ حق تعالیٰ نے تم جیسا بھی پیدا فرمایا ہے۔ سلام بن مسکین: میں نے یہ واقعہ سعید بن ابی عروبہ سے بیان کیا پھر آپ یہ واقعہ لوگوں سے بیان کرتے تھے۔ سلام: میں نے اس سے پہلے کچھ مسائل حسن وغیرہ سے پڑھے تھے میں نے ان سب کو قنادہ سے پوچھا۔

بقول عبدالرزاق از معمر از قنادہ: میں سعید کے پاس آٹھ دن ٹھہرا آپ نے آٹھویں دن مجھ سے فرمایا: نابینا صاحب اب آپ تشریف لے جائیں کیونکہ آپ نے مجھے نچوڑ لیا اور خشک کر دیا۔

باخبار عفان بن مسلم: قنادہ سعید بن مسیب کے قول پر قیاس کرتے ہیں پھر اسے سعید سے روایت کر دیتے ہیں مگر آپ نے ایسا کہیں کہیں کیا ہے۔

باخبار عفان بن مسلم بقول ہمام: حدیث پر زبر لگا لیا کرو کیونکہ قنادہ غلطی نہیں کرتے اور آپ نے فرمایا جب تم میری حدیث میں کوئی فی غلطی دیکھو تو اسے ٹھیک کر لیا کرو۔

باخبار عفان بن مسلم بتحدیث حماد بن سلمہ: ہم قنادہ کے پاس آیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے ہمیں نبی ﷺ سے خبر ملی، ہمیں عمر رضی اللہ عنہ سے خبر ملی اور ہمیں علی سے سے خبر ملی اور سندیں بیان نہیں کیا کرتے تھے پھر جب حماد بن ابی سلیمان بصرہ تشریف لائے تو وہ فرمانے لگے حدثنا ابراہیم (فلاں وفلاں قنادہ کو بھی اس کی خبر لگ گئی پھر آپ فرمانے لگے میں نے مطرف سے پوچھا میں نے سعید سے پوچھا مجھ سے انس بن مالک نے بیان کیا یعنی پھر آپ حدیثوں کو سندوں کے ساتھ بیان فرمانے لگے۔

باخبار مسلم بن ابراہیم بتحدیث قرہ بن خالد: میں نے قنادہ کے پاس ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی۔ باخبار محمد بن عمر بن عمر بن اسماعیل بن علیہ: قنادہ کی وفات ۱۸ھ میں ہوئی اور باخبار محمد بن عمر بن سعید بن بشر آپ کی وفات ۱۷ھ میں ہوئی محمد بن سعد فرماتے ہیں اسی طرح موسیٰ بن اسماعیل نے فرمایا ہے۔

ابونصر حمید بن ہلال عدوی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں۔ باخبار موسیٰ بن اسماعیل بسماع ابو ہلال بسماع قنادہ: شہر میں حمید سے زیادہ عالم کوئی نہیں آپ نے محمد حسن کا بھی استثناء نہیں کیا البتہ ایک جگہ کی اقامت نے آپ کو نقصان پہنچایا یعنی آپ اہواز میں رہتے پر کام کیا کرتے تھے۔

باخبار عمرو بن عاصم بتحدیث سلیمان بن مضرہ: میں نے حمید کو یمنی کپڑے سبز چادریں اور پگڑیاں باندھے ہوئے دیکھا کہتے ہیں عراق پر خالد بن عبداللہ کی حکومت کے زمانہ میں آپ کی وفات ہوئی۔

ابو محمد ثابت بن اسلم بنانی رضی اللہ عنہما:

آپ بنانہ سے ہیں اور بنانہ کا نسب قریش تک پہنچتا ہے۔ باخبار عفان بن مسلم بتحدیث حماد بن زید بسماع زید بقول انس: ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور ثابت خیر کی ایک چابی ہیں۔

باخبار عفان بن مسلم بتحدیث حماد بن سلمہ بن عمر بن حمید: ہم ثابت کے ساتھ انس کے پاس آتے جاتے تھے ثابت جب کبھی کسی مسجد کے پاس سے گزرتے تو اس میں جا کر نماز ضرور پڑھتے تھے (فرماتے ہیں) ہم انس کے پاس جاتے تو آپ پوچھتے: ثابت کہاں

ہیں مجھے پیارے ثابت سے بڑی محبت ہے۔

باخبار عوف بن مسلم بن محمد بن یثمد بن حماد بن سلمہ باخبار ثابت: ایک دن ہم انس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم سب مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہو، جو اس بچہ کے جوتم جیسا ہو۔

باخبار عمرو بن عاصم بن محمد بن یثمد بن حماد بن سلمہ بن مغیرہ بقول ثابت: اگر میں بڑا گناہ کر لوں اور حق تعالیٰ سے توبہ کر لوں اور آئندہ پھر کبھی اسے نہ کروں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے کہ میں چھوٹا گناہ کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کروں اور اس سے باز نہ آؤں۔

باخبار عمرو بن عاصم بن محمد بن یثمد بن حماد بن سلمہ بن مغیرہ بسماح ثابت: ایک عابد عابد نہیں ہو سکتا اگرچہ اس میں ہر نیک عادت ہو جب تک وہ نماز اور روزوں کا پابند نہ ہو کیونکہ اللہ کی قسم یہ دونوں عمل اس کا گوشت اور اس کا خون ہیں۔ باخبار عمرو بن عاصم بن محمد بن یثمد بن حماد بن سلمہ بن محمد بن یثمد بن حماد بن سلمہ بن مغیرہ بسماح ثابت: اللہ کی قسم عبادت گھڑیوں کے اٹھانے سے بہت زیادہ بھاری ہے۔

باخبار عوف بن مسلم بن محمد بن یثمد بن حماد بن سلمہ: ثابت اور حمید اس رات (شب قدر) میں غسل کیا کرتے تھے کپڑوں میں خوشبو لگایا کرتے تھے اور چاہا کرتے تھے کہ مسجد میں خوشبو چھڑک کر خوشبو میں بسا دی جائیں۔

باخبار عوف بن مسلم بن محمد بن یثمد بن حماد بن سلمہ: ثابت بن محمد میں بار بار یہ آیت پڑھا کرتے تھے ﴿يَا وَيْلَكَ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ الخ یعنی سن! تیرے لیے خرابی ہو، کیا تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے مجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا فرمایا پھر تجھے آدمی بنا کر کھڑا کر دیا اور زار و زار رو یا کرتے تھے۔

باخبار عوف بن مسلم بن محمد بن یثمد بن حماد بن سلمہ از ثابت: جس نے موت کا کثرت سے ذکر کیا تو اس سے اس کے عملوں پر ضرور ترس کھایا جائے گا۔

باخبار عارم بن فضل بن محمد بن یثمد بن حماد بن زید بسماح ثابت: اگر مجھے یہ ڈرنہ ہوتا کہ میرے ساتھ وہی معاملہ کرو گے جو تم نے حسن کے ساتھ کیا تو میں تم سے دل خوش کن حدیثیں بیان کرتا پھر فرمایا لوگ حسن کو نہ دو پہر کو سونے دیتے تھے اور نہ رات کو۔

باخبار عمرو بن عاصم بن محمد بن یثمد بن حماد بن سلمہ بن مغیرہ: میں نے ثابت پر یہی کپڑے سبز چادریں اور پگڑیاں دیکھیں۔ باخبار عوف بن مسلم بن محمد بن یثمد بن حماد بن سلمہ از ثابت: اگر میں کسی کو قبر میں نماز دینے پر قادر ہوتا تو قبر میں میں اپنے نفس کو اس نفیس عطیہ سے نوازتا۔

باخبار عارم بن فضل بن محمد بن یثمد بن حماد بن زید از حمید بقول ثابت: مجھے غسل دو اور میرے جسم کو نہ چھیلو۔ ثابت حدیث میں ثقہ اور مستند ہیں۔ آپ نے عراق پر خالد بن عبداللہ کی حکومت کے زمانہ میں وفات پائی۔

ابو عمرو ندنی بشر بن حرب از ذی القعدة:

باخبار یحییٰ بن عباد و عارم بن فضل بن محمد بن یثمد بن حماد بن زید از بشر: میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے استعاذہ کی کہ میری انگوٹھی پر کندہ کرانے کے لیے قرآن حکیم کا کوئی کلمہ تجویز فرما دیجئے، فرمایا: نہیں اللہ کی قسم تمہارے لیے یہ مناسب نہیں آخر کار میں نے اس میں بشر بن حرب کندہ کر لیا۔

علماء کہتے ہیں: بشر رافع بن خدیج ابو سعید خدری اور سرہ رضی اللہ عنہم سے راوی ہیں اور حدیث میں ضعیف ہیں آپ عراق پر

یوسف بن عمر کی حکومت کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابو وائلہ ایاس بن معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ۔

ابن ایاس بن ہلال بن رباب بن عبید بن سواہ بن ساریہ بن ذبیان بن ثعلبہ بن سلیم بن اوس بن مزینہ آپ ثقہ اور صاحب احادیث ہیں آپ بصرہ کے قاضی تھے اور بڑے فہیم و ذکی اور صاحب ہوش و حواس تھے۔

باخبار عفا بن مسلم بتحدیث حماد بن سلمہ شمر حمید: جب ایاس کو قاضی بنایا گیا تو آپ سے ملنے کے لیے حسن تشریف لائے اور قاضی ایاس رونے لگے۔

باخبار عارم بن فضل بتحدیث حماد بن زید از ابن عون: لوگوں نے محمد کی مجلس میں ایاس کا ذکر چھیڑ دیا فرمایا: وہ بڑے سمجھدار ہیں۔
باخبار قبصہ بن عقبہ بتحدیث سفیان از خالد حذاء: معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمایا میرا بیٹا بہت اچھا ہے وہ دنیا کے کام میں میرے لیے کافی ہے اور اس نے مجھے آخرت سے بھی فارغ البال بنا دیا (یعنی وہ میرے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نعمت ہے)۔

بتحدیث سلیمان بن حرب بتحدیث ابو ہلال بتحدیث داؤد بن ابی ہند بقول ایاس: جو اپنے محبوب نہ پہچانے وہ اجنبی ہے لوگوں نے کہا: ابو وائلہ! آپ میں کیا عیب ہے؟ فرمایا کثرت کلام۔

باخبار عبداللہ بن محمد بن عبدالاسود بتحدیث عمر بن علی مقدی از سفیان بن حسین: جب ایاس واسط میں تشریف لائے تو لوگ کہنے لگے بصری آئے ہیں بصری آئے ہیں پھر ابن شبرمہ چند مسائل تلاش کر کے آپ کے آزمانے کے لیے آپ کے پاس لائے اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور بولے اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ پوچھوں۔ فرمایا: مجھے تمہاری جانب سے کوئی ڈر نہیں اسی لیے میں نے تمہیں اپنے پاس بلا لیا اگر وہ مسائل بیان کرنے والے کو مشقت میں نہ ڈالیں اور حاضرین کو ایذا نہ پہنچائیں تو شوق سے پوچھو پھر انہوں نے آپ سے ستر سے کچھ اور پر مسائل پوچھے اور تین چار مسائل میں دونوں میں اختلاف رہا جن میں ایاس نے انہیں اپنے قول کی طرف لوٹا لیا پھر فرمایا: ابن شبرمہ! تم نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ بولے جی ہاں میں نے اسے اوّل سے آخر تک پڑھا ہے پوچھا: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ (آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی) بھی پڑھی ہوگی؟ بولے: جی ہاں اور اس سے پہلی اور چھلی آیتیں بھی پڑھی ہیں پوچھا: کیا تم نے اس میں یہ بات پائی کہ آل شبرمہ کے لیے کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جس کے بارے میں وہ غور کریں؟ بولے: نہیں فرمایا: دیکھو احکام کی جزئیات ہوتی ہیں پھر آپ نے روزہ نماز حج اور جہاد کا ذکر کر کے فرمایا میرے علم میں آپ کے قبضہ میں اجتہاد و استنباط سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ جزئیات کا کلیات سے استخراج کر لیا جائے۔

باخبار علی بن محمد قرشی: یوسف بن عمر نے ایاس بن معاویہ کو پایا اور یوسف نے انہیں مارا بھی۔
ازرق بن قیس حارثی رضی اللہ عنہ۔

آپ اولاد حارث بن کعب سے ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

عاصم بن محمد بن زید رضی اللہ عنہما:

آپ اولاد قیس بن ثعلبہ سے ہیں۔

باخبار عارم بن فضل بن محمد بن زید از خالد حذافہ ایسا نے عاصم کی تمہا شہادت قبول کرنے کی اجازت دے دی وہ شخص بولا: آپ مجھ پر ایک شخص کی شہادت مانتے ہیں؟ فرمایا یہ عاصم ہیں یہ عاصم ہیں (بے گناہ ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں)۔
ابو جمرہ ضحبی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام نصر بن عمران ہے اور ثقہ ہیں آپ عراق پر یوسف بن عمر کی حکومت کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابو المنہال رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام سیار بن سلامہ ہے آپ اولاد قیس بن ثعلبہ سے ہیں اور ثقہ ہیں۔

ابو القموص رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام زید بن علی ہے اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابو الہزہ ہار عجلی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام نصر بن زیاد بن عباد ہے اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابو حاجب رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام سوادہ بن عاصم ہے۔

ابو مرایہ عجلی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام عبد اللہ بن عمرو ہے اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابو الوائز ع راسبی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام جابر بن عمرو ہے اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابو ماویہ رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام حریت بن مالک اور بقول بعض مالک بن حریت اُسیدی ہے۔

ابو العالیہ زراء رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام زیاد بن فیروز ہے اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابو الہزری رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام یزید بن عطار ہے اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابو بشامہ رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام منقر ہے۔

ابو الخلیل رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام صالح بن ابی مریم ہے اور آپ ثقہ ہیں۔

ابو ہبیدہ مازنی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام جریر بن مالک ہے اور قلیل الحدیث ہیں۔

ابو غالب راسبی رضی اللہ عنہ:

ابو امامہ باہلی کے صاحب آپ کا نام سعید بن خزوز ہے، بعض سے میں نے سنا کہ آپ کا نام نافع بتاتے تھے آپ حدیث میں ضعیف و مکر ہیں۔

ابو نوفل بن مسلم بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن ابی عقرب کثانی، آپ اولاد عرتج بن بکر سے ہیں آپ کا نام معاویہ ہے اور ان شاء اللہ آپ ثقہ ہیں۔ باخبار عفان بن مسلم متحدیث اسود بن شیمان بسماع ابو نوفل بن ابی عقرب: میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے بارے میں پوچھا پھر اخیر میں جو آپ نے حکم فرمایا وہ یہ تھا کہ ہر مہینہ میں تین روزے رکھو۔

ابو عمران جونی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبد الملک بن حبیب ہے آپ ثقہ اور صاحب احادیث ہیں۔

والتیاح ضعیفی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام یزید بن حمید ہے اور آپ صاحب احادیث۔ ثقہ ہیں۔

المہزم رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام یزید بن سفیان ہے آپ سے حماد بن سلمہ راوی ہیں۔ شعبہ آپ کو ضعیف بتاتے تھے۔ باخبار مسلم بن ابراہیم شعبہ: میں نے ابوالمہزم کو ثابت البتانی کی مسجد میں دیکھا کہ پڑے ہوئے ہیں اگر کوئی آپ کو ایک پیسہ دینا تو ستر حدیثیں کر دیتے۔

یحیٰی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبد اللہ بن مطر ہے آپ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں اور صاحب احادیث ہیں۔

ازیاد رضی اللہ عنہ، ثمامہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن انس بن مالک آپ کی والدہ کوشہ بنت قلاں شیبانیہ ہیں۔ آپ قلیل الحدیث ہیں اور آپ کے بھائی شیخی بن عبد اللہ

ہیں۔

ثنی بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن انس بن مالک آپ کی والدہ بھی کبشہ ہی ہیں آپ کا نام آپ کے والد کے نانا کے نام پر ثنی رکھا گیا جو حارث شیبانی

کے صاحبزادے تھے۔

عبد اللہ بن مسلم بن یسار رضی اللہ عنہما:

آپ طلحہ بن عبید اللہ تمیمی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

عبد اللہ بن محمد بن سیرین رضی اللہ عنہما:

باخبار ریکار بن محمد: عبد اللہ مکہ معظمہ میں ۲۶ سال کی عمر میں رجب ۱۲۰ھ میں فوت ہوئے۔

ابو الحواری: زید بن حواری رضی اللہ عنہما:

آپ حدیث میں ضعیف ہیں۔

بدیل بن میسرہ عقیلی رضی اللہ عنہما:

آپ صاحب احادیث وثقہ ہیں۔

غیلان بن جریر عتکی رضی اللہ عنہما:

آپ بھی صاحب احادیث وثقہ ہیں۔

عمر بن سعید رضی اللہ عنہما:

آپ بنو ثقیف کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ ہیں اور آپ سے یونس بن عبید راوی ہیں۔

عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہما:

ابن محمد آپ محمد بن سیرین کے داماد ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔ سلیمان بن حرب: اور سیرین کے چچا کے بیٹے ہیں۔

ابو المورع: توبہ بن عمرو رضی اللہ عنہما:

باخبار اسحق بن ابراہیم بن مورع بن توبہ غزیری: آپ کا نام توبہ بن کیسان بن ابی الاسد ہے۔ آپ کے بزرگ جتہ تھے توبہ یمامہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے پھر بصرہ منتقل ہو گئے۔ آپ ایوب بن ازہر عدوی کے جن کا تعلق اولاد جندب سے (جو اولاد عمرو بن عمرو بن عمیم سے ہیں) ہے آزاد کردہ غلام ہیں۔ توبہ کی والدہ ظبیہ بنت یزید بن عقیل ضبہ (جو اولاد نمیر بن عامر سے ہے) ہیں۔ توبہ نما سندہ کی حیثیت سے سلیمان بن عبد الملک کے پاس گئے تھے۔ سلیمان نے آپ سے ضروریات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کیں، سلیمان نے آپ کو دو خمر سامان بطور دیا اور بصرہ میں حمام بنانے کی اور جنگل میں کنواں کھودنے کی اجازت دے دی اس قسم کے کام خلیفہ کی اجازت کے بغیر جاتے تھے پھر آپ نے اپنے گھر کے جو بنی نمیر میں رابیہ میں تھا ایک گوشہ میں حمام بنایا اور خریق نامی جنگل میں کنواں کھ

اور بصرہ کے درمیان تین منزلیں ہیں پھر آپ وفد میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی گئے جب کہ وہ خلیفہ تھے۔ بقول اسحاق بن ابراہیم بن مورع مجد یث خباب بن عبد اللہ اکبر عمری از توبہ: جب میں عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا آپ کے چاروں طرف آپ کی چچیاں کھیل رہی ہیں اور جاگتے پہنے ہوئے ہیں۔

اسحاق بن ابراہیم: توبہ وفد میں ہشام بن عبدالملک کے پاس گئے آپ نے انہیں اسد بن عبداللہ کی سرکوبی کے لیے خراسان بھیج دیا پھر عراق بھیج دیا وہاں آپ کو یوسف بن عمر نے ساور کا حاکم بنا دیا پھر اہواز کا بھی حاکم بنا دیا جب یوسف کو معزول کیا گیا ہے تو آپ اہواز کے حاکم تھے۔ بنو العنبر کے کچھ لوگوں نے چاہا کہ توبہ ان میں سے ہونے کا دعویٰ کریں لیکن آپ نے انکار کر دیا آپ ایک بدو تھے پھر بنی نمیر نے جو آپ کے ماموں ہوتے ہیں یہی کوشش کی مگر وہ بھی ناکام رہے آپ صبح میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے صبح بصرہ سے دودن کی مسافت پر ہے۔

محمد بن واسع بن جابر رضی اللہ عنہ:

ابن انس بن عابد بن خارجہ بن زیاد بن شمس جو اولاد عمرو بن نصر بن ازد سے ہیں۔ بصرہ میں اولاد زیاد بن شمس کے چار خطے تھے ان میں سے ایک خطہ بصرہ کے اندر بنانہ کے محاذ میں تھا اس پر اولاد شعیراء کے لوگ غالب آگئے جن کو شعار کہا جاتا ہے یہ لوگ بالوں کی رسیاں بنا کرتے تھے ان کا نسب محفوظ نہیں دوسرا خطہ بنی عمر کے محاذ میں تھا تیسرا ہمدان کے محاذ میں تھا اور چوتھا خریبہ میں: فرماتے ہیں مجھے ان تمام باتوں کی خبر مرحوم بن احمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن محمد بن واسع نے دی فرماتے ہیں محمد کی کنیت ابو عبداللہ ہے محمد حسن کے دس سال بعد ۱۲۰ھ میں فوت ہوئے۔

باخبار عبید اللہ بن محمد بن حفص تمیمی بخدیث بن مطیع: ایک دن ایک شخص نے ایوب سے ایک حدیث بیان کی ایوب نے پوچھا: یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی؟ بولے محمد بن واسع نے فرمایا: واہ واہ! پھر پوچھا: کس سے؟ بولے: فلاں سے فرمایا: اسے روایت نہ کرو۔

باخبار عبید اللہ بن محمد قرشی تمیمی بخدیث سعید بن عامر: ابن محمد بن واسع کے اور ایک شخص کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا اس نے ان کی ان کے والد (محمد) سے شکایت کی۔ محمد نے اپنے بیٹے کو بلا کر ان سے کہا: تو کیا چیز ہے اللہ کی قسم میں نے تیری والدہ کو تین سو درہم میں خریدا تھا ہاتیر والد سوا اللہ مسلمانوں میں اس جیسوں کی کثرت نہ فرمائے۔ سعید بن عامر: ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ مسلمانوں میں ان جیسوں کی کثرت فرمائے۔

ابن سعد: باخبار عبید اللہ بن محمد قرشی تمیمی بخدیث ہارون بن جراح بن بنت ہارون بن رباب و بخدیث سعید بن عامر وغیرہ (بعض بعض پر اضافہ بھی کرتا ہے) جب محمد بن واسع بیمار ہوئے تو آپ کے اصحاب آپ سے ملنے آئے اس کے بعد ہارون بن رباب آئے لوگ بولے: ابوالحسن ہارون تشریف لے آئے انہیں جگہ دو لوگوں نے جگہ دے دی اور آپ ایک گوشہ میں بیٹھ گئے لوگ محمد کی تعریف کر رہے تھے اور آپ بے ہوش تھے پھر جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے اپنے بارے میں لوگوں کی کچھ تعریفیں سنیں اور فرمایا: ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ سَيِّمَاتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ (مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور

انہیں پیشانی کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ لیا جائے گا) اگر میرے سر اور پیروں کو جمع کر کے مجھے جہنم میں جھونک دیا جائے اللہ کی قسم اس وقت تمہاری تعریفیں میرے کام آنے والی نہیں، میرے بھائیو! اللہ کی قسم مجھے تمہارے پاس سے یا تو جہنم میں لے جایا جائے گا یا اللہ معاف فرمادے گا۔

اسحق بن سوید عدوی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں آپ ابو العباس کی آغاز خلافت میں طاعون سے ۱۳ھ میں فوت ہوئے۔
ابو یعقوب، فرقد بن یعقوب رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں ضعیف و منکر ہیں۔ سلیمان بن حرب ازحماد بن زید: میں نے ایوب سے فرقد کے بارے میں پوچھا: فرمایا، وہ صاحب حدیث نہیں۔ لوگ کہتے ہیں فرقد طاعون کے زمانہ میں بصرہ میں ۱۳ھ میں فوت ہوئے۔
ابو یحییٰ، مالک بن دینار رضی اللہ عنہ:

آپ بنو ساسمہ بن لوی کی ایک خاتون کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں اور قرآن پاک لکھا کرتے تھے
آپ طاعون سے کچھ دنوں قبل فوت ہوئے طاعون ۱۳ھ میں پھوٹا تھا۔
کثیر بن شظیر مازنی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور عطاء سے راوی ہیں۔
واصل مولیٰ ابو عیینہ بن مہلب رضی اللہ عنہ:

آپ کی حدیثیں ہیں۔
ابو الحسن، ہارون بن رباب رضی اللہ عنہ:

آپ اولاد اسید بن عمرو بن تمیم سے ہیں اور ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں۔ سفیان بن عیینہ: ہم سے ہارون بن رباب نے حدیث بیان کی۔ آپ زہد و پارسائی کو چھپاتے تھے۔
کلثوم بن جبر رضی اللہ عنہ:

آپ معروف و صاحب احادیث ہیں اور سعید بن جبیر اور مسلم بن یسار سے راوی ہیں۔ باخبار موسیٰ بن اسماعیل متحد حدیث ربیعہ بن کلثوم: میرے والد کلثوم بن جبر کی کنیت ابو محمد تھی۔
عبداللہ بن مطرف رضی اللہ عنہ:

ابن عبداللہ بن شثیر بن عوف بن کعب بن وقدان بن خزیمہ بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن حصصہ: باخبار عفان بن مسلم متحد حدیث جعفر بن سلیمان بسماح ثابت بنانی: جس دن عبداللہ بن مطرف فوت ہوئے اس دن مطرف بال سنوار کران میں کنگھی کر کے اچھے کپڑے پہن کر لوگوں میں آئے لوگ ناراض ہو کر کہنے لگے ابو عبداللہ! عبداللہ تو گھر میں مردہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ سر میں تیل لگا کر اور نئے کپڑے پہن کر قوم میں تشریف لائے ہیں، مطرف نے جواب دیا کیا میں اس مصیبت کے آگے جھک جاؤں حالانکہ

اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت پر تین باتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن میں سے ہر بات مجھے تمام دنیا سے پیاری ہے حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا... الخ﴾ یعنی صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان اللہ پڑھ لیتے ہیں انہیں پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور ان پر اس کی نوازش ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو کیا اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد میں اس مصیبت کے آگے ذلیل ہو جاؤں؟ ثابت (مطرف سے) اگر ایک چھوٹے سے آنسو میں مجھے آخرت میں کوئی چیز ملنے والی ہے تو میری تمنا ہے کہ وہ مجھ سے دنیا میں چھین لی جائے۔

یحییٰ بن مسلم بکاء اللہ علیہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

عطاء بن ابی میمونہ اللہ علیہ:

آپ قدریہ خیال کے تھے، بصرہ میں طاعون کے بعد فوت ہوئے یہ طاعون ۱۳۱ھ میں پھیلا تھا۔

یزید بن رشک صبحی اللہ علیہ:

آپ ثقہ ہیں۔

یزید بن ابان رقاشی اللہ علیہ:

آپ ضعیف و قدریہ ہیں۔

عبد العزیز بن صہیب اللہ علیہ:

آپ کو عبد العزیز بن العبد، مولیٰ انس بن مالک بھی کہا جاتا ہے آپ ثقہ ہیں۔

ابو ہارون عبدی اللہ علیہ:

آپ کا نام عمارہ بن جوین ہے اور حدیث میں ضعیف ہیں آپ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔

ابو جہضم، موسیٰ بن سالم اللہ علیہ:

آپ بنو ہاشم کے مولیٰ ہیں اور عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس سے راوی ہیں اور عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس سے گئی

حدیثوں کے راوی ہیں۔

ابو رجاء اللہ علیہ:

آپ کا نام سلمان ہے اور آپ ابو طلحہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔



چوتھا طبقہ

ابوبکر ایوب بن ابوتیمیمہ رضی اللہ عنہما سختیانی:

آپ عزہ کے آزاد کردہ غلام ہیں ابوتیمیمہ کا نام کیدسان ہے۔ ایوب حدیث میں ثقہ ثبت اور حجت ہیں آپ جامع علوم کے اور عدالت و پارسائی کے مالک ہیں اور انتہائی گہرے علم والے ہیں۔

باخبار عارم بن فضل بحدیث حماد بن زید ایوب: ایوب طاعون جارف سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے طاعون جارف ۸۷ھ میں پھیلا تھا۔

باخبار عفان بن مسلم و عارم بن فضل بحدیث حماد بن زید بحدیث ابوعبداللہ میمون: ہم حسن کے پاس تھے اور آپ کے پاس ایوب بھی تھے حسن نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا پھر ایوب کھڑے ہو کر جانے لگے حسن آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جب ایوب اتنی دور نکل گئے کہ حسن کی بات نہ سن سکیں تو حسن نے فرمایا: یہ نوجوانوں کے سردار ہیں۔

باخبار عارم بن فضل بحدیث حماد بن زید از ابو شیبہ: ایک دن محمد نے ہم سے ایک حدیث بیان کی لوگوں نے کہا: ابوبکر ایوب کس سے ہے؟ فرمایا: مجھ سے یہ حدیث ایوب سختیانی نے بیان کی تم انہیں پکڑ لو۔

باخبار عارم بن فضل بحدیث حماد بن زید از ایوب: جب محمد نے اپنی وصیت پڑھی تو میں ہٹنے لگا فرمایا قریب آ جاؤ تم سے کوئی راز مخفی نہیں۔

باخبار عارم بن فضل بحدیث حماد بن زید: لا ادری (مجھے معلوم نہیں) کہتے ہوئے میں نے ایوب و یونس سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا اور ابن عون تو ایک عجیب شے تھے۔

باخبار سلیمان بن حرب بحدیث حماد بن زید: جب کوئی ایوب سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ فرماتے پھر کہو اگر وہ دوبارہ وہی کہتا جو اس نے پہلے کہا تھا تو اسے جواب دیتے ورنہ نہیں۔

باخبار اسماعیل بن عبداللہ بن زرارۃ جرمی بحدیث ضمیرۃ بحدیث ابن شوذب: جب ایوب سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس کی دلیل ان کے پاس نہ ہوتی تو فرماتے اہل علم سے پوچھو۔

باخبار عارم بن فضل بحدیث حماد بن زید بقول ایوب: کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ انسان ایک حدیث بیان کرتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس نے گھر کر لیا ہے پھر کوئی شے اس کے دل میں آ جاتی ہے۔

باخبار عارم بن فضل بحدیث حماد بن زید: ایوب سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا فرمایا اس میں میرے پاس کوئی نص نہیں پہنچی، پوچھنے والے نے کہا اپنی رائے سے جواب دے دیجئے فرمایا: میری رائے اس تک نہیں پہنچتی۔

باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید: میں ایوب اور ابن عون پر حدیث ہی میں ڈرتا ہوں عارم نے کہا پھر میں نے اس کا ذکر یحییٰ بن سعید سے کیا فرمایا: میں سفیان پر حدیث ہی میں ڈرتا ہوں۔

باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید: ہمارے علماء ایوب ابن عون اور یونس ہیں۔ عارم کہتے ہیں میں نے اس کا ذکر ابن داؤد سے کیا فرمایا: سفیان ثوری فرماتے ہیں: ہمارے علماء ابن ابی لیلیٰ اور ابن شبرمہ ہیں۔

باخبار سلیمان بن حرب بن محمد بن حماد بن زید: تم ایوب کو ان سے پڑھنے پر پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلا سکتے الا یہ کہ تم (پہلے سے) انہیں پہچانتے ہو۔ آپ کے بال خوب تھے اور سال کے سال منڈوا یا کرتے تھے اکثر لمبے ہو جایا کرتے تھے پھر آپ انہیں اس طرح بن لیا کرتے تھے گویا آپ انہیں الگ الگ کر رہے ہیں۔

باخبار عفا بن مسلم بن محمد بن حماد بن سلمہ: ایوب پورے سال اپنے بال بڑھاتے تھے۔ باخبار موسیٰ بن اسماعیل بسماع حماد بن زید از ایوب: لوگ سر بلند ہونا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں گرا ہی دیتا ہے اور بعض حضرات انکساری اختیار کرتے ہیں مگر اللہ انہیں سر بلند ہی فرمادیتا ہے۔

فرماتے ہیں: ایوب مجھے دور والے راستہ سے لے جاتے ہیں کہتا یہ قرینی راستہ ہے فرماتے ہیں ان مجلسوں سے بچتا ہوں جب ایوب لوگوں کو سلام کرتے تو لوگ آپ کو بہ نسبت دوسروں کے بہترین و مزید جواب دیتے آپ دوبار فرماتے: یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں جواب نہیں چاہتا اس دن عبادت گزار اپنے کرتے سمیٹ لیتے اور ایوب اپنا کرتہ گھسیٹتے۔

ابن سعد: بقول عبدالرزاق از معبد: میں نے ایوب پر کرتہ دیکھا جسے آپ گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ میں نے اس سلسلہ میں آپ کو ٹوکا تو فرمایا: ابو عروہ! ماضی میں اس کے دامنوں میں شہرت تھی لیکن آج اس کے سمیٹنے میں شہرت ہے۔

باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید: میرا ایوب نے استقبال کیا میں بازار جا رہا تھا اور ایوب ایک جنازے میں تھے پھر میں آپ ہی کے ساتھ لوٹنے لگا فرمایا: بازار جاؤ۔

باخبار عمرو بن عاصم بن محمد بن ربح بن مسلم: ہم ایوب کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب ہم ایک پتھر یلے علاقہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک موٹا تازہ بھاری بھر کم شخص جس پر سوتی موٹے کپڑے تھے نمودار ہوا وہ بصریوں کے پاس جا کر ان سے پوچھنے لگا کیا تمہیں ایوب بن ابی تمیمہ کا پتہ معلوم ہے؟ میں نے ایوب سے کہا یہ شخص آپ کو ڈھونڈ رہا ہے پھر جب اسے ایوب نے دیکھا تو لپک کر اس سے معاف کیا میں نے پوچھا یہ کون ہیں لوگوں نے کہا یہ سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں۔

باخبار عمرو بن عاصم بن محمد بن سلیمان بن مغیرہ: ہم حمید بن ہلال، ایوب اور یونس بن عبید کے پاس تھے کہ حمید گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایوب و یونس ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے میں نے حمید کے چہرے سے ناگواری تاثری آپ نے مجھ سے متوجہ ہو کر فرمایا: میری رائے تھی کہ اگر ان دونوں بزرگوں کو کوئی حادثہ پیش آجائے تو یہ دونوں (ایوب و یونس) ان دونوں (حسن و محمد) کو اپنا خلیفہ بنا دیں گے۔ میں بولا: ہمیں بھی ان دونوں سے یہی توقع تھی پھر فرمایا: تم ان کو دیکھتے نہیں کہ میرے پیچھے ہیں اور آپ نے یہ امر بہت ہی برا سمجھا۔

باخبار عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید: میں نے اہل قبلہ کے لیے سب سے زیادہ پر امید ایوب و ابن عون کو پایا۔
باخبار عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید: میں نے ملاقات کے وقت ایوب سے زیادہ ہنس مکھ کسی کو نہیں دیکھا اور ہارون بن رباب
تو سب سے انوکھے ہیں۔

باخبار عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید از ایوب: میرے خیال میں تقدیر دین ہی سے ہے۔ باخبار عارم بن فضل: محمد یث
حماد بن زید از ایوب: پارسائی کو چھپانا اس کے ظاہر کرنے سے بہتر ہے۔

باخبار عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید: میں ایوب کے ساتھ چلا کرتا تھا آپ مجھے ایسے راستوں سے لے جاتے تھے کہ
مجھے تعجب ہوتا تھا کہ آپ کیسے راہ پائیں گے اور آپ اس ڈر سے کہ لوگ کہیں گے یہ ایوب ہیں ایسا کیا کرتے تھے۔
باخبار عفان بن مسلم: محمد یث بشر بن مفضل: محمد یث ابن عوف: جب محمد بن سیرین فوت ہو گئے تو ہم نے کہا: اب ہمارے
لیے کون ہے؟ پھر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارے لیے ایوب ہیں۔

باخبار حجاج از شعبہ از ایوب: میرا ذکر کیا جاتا ہے لیکن مجھے اپنا ذکر کیا جانا محبوب نہیں۔ فرماتے ہیں بسا اوقات میں ضرورت
کے سلسلہ میں ایوب کے ساتھ جایا کرتا تھا اور میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا تھا لیکن آپ مجھے ایسا موقع ہی نہیں دیتے تھے آپ نکلنے
اور ادھر ادھر دیکھتے تاکہ آپ کی کسی کو خبر نہ ہو۔

باخبار عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید از ایوب: مجھے روئے زمین پر بکر سے زیادہ کوئی پیارا نہیں (بکر آپ کے
صاحبزادے تھے) اور میرے پاس آنے سے مجھے اس (ہشام یا کوئی اور خلیفہ) کا دن کرنا زیادہ محبوب ہے۔
باخبار عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید از بعض ہمسایہ ایوب: عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے ایوب کے پیالے
ان کے پڑوسیوں میں آتے جاتے رہتے تھے۔

باخبار عارم بن فضل: محمد یث حماد بن زید: مجھ سے ایوب نے مکہ کو جاتے وقت فرمایا: میں اپنے لیے کتان کا کپڑا یا کام کا
کپڑا یا کبیل خرید لاؤں گا تاکہ میں اس میں اونٹنی کو چارہ دوں۔ فرماتے ہیں پھر جب آپ تشریف لے آئے تو میں نے اسے آپ پر
کرتے کے نیچے دیکھا آپ تاڑ گئے اور فرمایا: اگر یہ مجھ سے پوشیدہ ہوتی تو مجھے اسے چمٹانے سے مسرت ہوتی۔

باخبار سلیمان بن حرب: محمد یث حماد بن زید: ایوب کے پاس ایک سرخ چادر تھی آپ اسی میں احرام باندھا کرتے تھے اور
وہ کفن کے واسطے رکھ چھوڑی تھی اور شب قدر میں یعنی رمضان کی ۲۳ ویں اور ۲۴ ویں شب کو اسے اوڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک شب
آپ کی بیوی نے کہا آج رات ایوب کسم میں رنگے ہوئے کپڑے میں نکلے ہیں حماد کہتے ہیں پھر مکہ میں آپ کا صندوق چر لیا گیا وہ
چادر اسی میں تھی اس طرح وہ ہاتھ سے نکل گئی۔

باخبار سلیمان بن حرب: محمد یث حماد بن زید: بعض حضرات ایوب کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور انہیں خیال ہوتا تھا کہ ایوب
انہیں جانتے نہیں پھر اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کے گھر موت ہو جاتی تو ایوب اس کے گھر پہنچ جاتے اور اسے خیال ہوتا کہ
ایوب کو تو اس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔

باخبار سلیمان بن حرب بن محمد بن حماد بن زید: یعلیٰ بن حکیم جو ثقیف کے مولیٰ تھے ملک شام میں فوت ہو گئے اور ان کا گھر یہاں ہمارے پاس قبیلہ میں تھا آپ نے اپنے پیچھے اپنی والدہ چھوڑیں ایوب اس غزدہ ماں کے پاس تین دن تک برابر آئے آپ ان کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ہم آپ کے پاس آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم ایوب کے پاس ان کے گھرانے کی وفات تک آتے جاتے رہے۔

باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن زید: ہم ایوب سے کہا کرتے تھے: آپ نے محمد کو فلاں فلاں مسئلہ میں کیا جواب دیتے ہوئے سنا: آپ فرماتے: ہم نے آپ سے ان میں یہ یہ جواب سنا، ہم کہتے: انہیں بیان کیجئے، فرماتے: کیا تم نے انہیں مانا نہیں؟ ہم بولے: کیا وہ کافی ہیں؟ فرمایا: ہاں ہاں۔

یحییٰ بن سعید از شعبہ: میں نے ایوب سے قراءت حدیث کے بارے میں پوچھا فرمایا: بہت اچھی ہے۔ باخبار ابو محمد یحییٰ بن سماع عبد الرزاق از معمر از ایوب: اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو میں نے محمد سے نہیں سنی تو وہ مجھ پر دشوار گزرتی ہے۔ معمر: میں یہی بات ایوب کے حق میں کہتا ہوں۔

بقول اسماعیل بن ابراہیم بن محمد بن ایوب: آپ نے وصیت کی کہ میری کتابیں ابو قلابہ کو دے دی جائیں میں ملک شام سے آپ کی تمام کتابیں لایا اور میں نے اس سے کچھ اور درہم کرائے کے دیئے۔

باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید: ایوب تمہ بند ناف سے نیچے باندھا کرتے تھے۔ باخبار عارم بن محمد بن حماد بن زید: ایوب کبھی کبھی سر اور درازھی سرخ رنگ لیا کرتے تھے۔

باخبار عارم بن محمد بن حماد بن زید میں نے کفنا تے وقت ایوب کے کرتے کے بن لگائے۔ بقول غیر عارم: اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ایوب بصرہ میں ۱۳۱ھ میں ۶۳ سال کی عمر میں طاعون میں فوت ہوئے۔

ابو عبیدہ حمید بن ابی حمید طویل رضی اللہ عنہما:

آپ طلحہ الطلحات خزاعی کے آزاد کردہ غلام تھے ابو حمید کا نام طرخان تھا۔ حمید ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں مگر آپ بسا اوقات انس بن مالک سے تدلیس کرتے ہیں (تدلیس یعنی محدث کا ایسے شخص سے روایت کرنا جسے اس نے دیکھا نہ ہو)۔ ابن سعد: بخیر از حماد بن سلمہ از حمید: میں نے حسن کی کتابیں نقل کر کے ان کو لوٹا دیں، حمید ۱۴۲ھ میں فوت ہوئے۔

علی بن زید بن جدعان رضی اللہ عنہما:

آپ عبد اللہ بن جدعان قرشی پھر تمیمی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ ماں کے پیٹ سے نایمانی پیدا ہوئے اور کثیر الحدیث ہیں مگر آپ ضعیف و ناقابل حجت ہیں۔

ابو عبد اللہ شقری رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام سلمہ بن تمام ہے اور آپ ثقہ ہیں۔

عبدالکریم رضی اللہ عنہ:

آپ امیہ بن ابوالخارق کے والد ہیں۔

ابوالمعتمر سلیمان بن طرخان تمیمی رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: بسامع یزید بن ہارون: آپ تمیمی نہیں بلکہ مری ہیں لیکن چونکہ آپ کا گھرتیم میں تھا اس لیے انہیں کی طرف منسوب ہو گئے آپ ثقہ اور کثیر الحدیث اور سرگرم عبادت گزاروں میں سے ہیں آپ تمام رات نماز پڑھتے رہتے تھے اور عشاء کی نماز کے وضو سے صبح کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے آپ اور آپ کے صاحبزادے معتمر مساجد میں رات بھر گھومتے رہتے تھے اور ہر ایک مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے دونوں کا صبح تک یہی معمول رہا کرتا تھا۔ سلیمان کارحان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔

سلیمان: فلاں فلاں نے جابر کا صحیفہ لے کر کہا: اسے لے لو میں نے کہا: نہیں سلیمان بصرہ میں ۱۲۳ھ میں فوت ہوئے۔

ابوصالح، شعیب بن حجاب رضی اللہ عنہ:

آپ بنو زافر کے جو معادل کا ایک ذیلی خاندان ہے آزاد کردہ غلام تھے۔ معادل ازوی ہیں۔ مجھے یہ خبر شعیب کے ایک

بیٹے نے دی۔ آپ ثقہ اور صاحب احادیث ہیں۔

ابو بشر جعفر رضی اللہ عنہ:

ابن ابی وحشیہ۔ ابو وحشیہ کا نام ایسا تھا ابو بشر ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔

ابن سعد: بقول یحییٰ بن سعید قطان، شعبہ ابو بشر کی حدیث کو ضعیف بتایا کرتے تھے فرماتے ہیں: ابو بشر نے حبیب بن سالم

سے ایک حدیث بھی نہیں سنی ابو بشر ۱۲۵ھ میں فوت ہوئے۔

ربیعہ بن ابوالحلال عسکلی رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں۔

یحییٰ بن عتیق رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور صاحب احادیث ہیں۔

یحییٰ بن ابی اسحاق حضرمی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور صاحب احادیث اور مفسر قرآن اور عربی زبان اور نحو کے عالم ہیں۔

ابان بن ابو عیاش شنی رضی اللہ عنہ:

آپ عبدالقیس سے ہیں اور حدیث میں متروک ہیں۔

ابن سعد: باخبار عارم بن فضل اور یحییٰ بن عباد متحد بیٹ حماد بن زید باخبار سلم علوی: میں نے دیکھا ہمارے والد انس کے

پاس لکھا کرتے تھے بقول عارم سراج کے پاس اور بقول یحییٰ اتحتی پر۔

مطر بن طہمان وراق خراسانی رضی اللہ عنہما:

آپ حدیث میں ضعیف ہیں۔

حجاج بسماع شعبہ: مطر الوراق نے فرمایا: یہ لوگ حدیث میں بیان کرنے میں ماہر ہیں۔ متحد حدیث ابوالتیاح از ابوالقداک۔ یہ غلط ہے اصل میں ابوالوداک ہے۔

ابوالعشاء دارمی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام اُسامہ بن مالک بن قہطم ہے اور بعض عطار بن برز بتاتے ہیں آپ دیہاتی تھے اور حضر میں جو بصرہ کے راستہ میں پڑتا ہے مقیم تھے۔ آپ مجہول ہیں اور آپ کی ایک حدیث ہے آپ سے حماد بن سلمہ راوی ہیں۔

ابوبکر یزید بن حازم ازدی پھر رضی اللہ عنہما:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

باخبار وہب بن جریر بن حازم: یزید کی وفات ۱۲۸ھ کے اخیر میں ۱۲۸ھ کے شروع میں ہوئی۔

ابوبکر داؤد بن ابی ہند رضی اللہ عنہما:

ابو ہند کا نام دینار تھا۔ بسماع عمرو بن عاصم: آپ علم تشریحین کی اولاد کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

ابن سعد: باخبار علی بن عبداللہ متحد حدیث سفیان بسماع داؤد: میں طاعون میں مبتلا ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا میں نے عالم بے ہوشی میں دیکھا جیسے دو شخص میرے پاس آتے ہیں ایک شخص میری زبان کی جزد باتا ہے اور دوسرا میرے پیر کا ٹکوا اور پوچھتا ہے: تیرے پاس کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں سبحان اللہ اللہ اکبر اور کچھ مسجدوں کی طرف قدم اور کچھ تلاوت قرآن فرماتے ہیں ہنوز میں نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی فرماتے ہیں میں اپنے کام پر چلا جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کاش اللہ کا ذکر کر کے کام پر جاتا۔ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی پھر میں نے قرآن کی تعلیم پر توجہ دی۔

باخبار عفان بن مسلم متحد حدیث حماد بن سلمہ: میں داؤد کے پاس گیا میں نے کم میں رنگا ہوا ایک بستر اسی رنگ میں رنگا ہوا ایک گوارہ اور اسی رنگ میں رنگے ہوئے یمنی کپڑے دیکھے۔ فرماتے ہیں: یزید بن ہارون کہتے ہیں: ہمارے پاس سے داؤد اور سعید بن ابی عمرو بہ گزرے اور میں نے ان دونوں سے حدیثیں سنیں۔ داؤد ۱۳۹ھ میں فوت ہوئے اور سرخس میں پیدا ہوئے تھے آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔

ابوالحکم علی بن حکم بنانی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ اور صاحب احادیث ہیں اور ۱۳۱ھ میں فوت ہوئے۔

ابوعبدالرحمن عاصم بن سلیمان رضی اللہ عنہما:

آپ بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام تھے اور ابو جعفر کی خلافت کے زمانہ میں عراق کے قاضی تھے اور کوفہ میں کیل ووزن کی جاچ پڑتال کرنے والے تھے۔ آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور ۱۴۱ھ یا ۱۴۲ھ میں فوت ہوئے۔

ابو الحسن، حفص بن سلیمان رضی اللہ عنہما:

آپ بنو منقر کے آزاد کردہ غلام ہیں اور حسن کے اقوال سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان از شعبہ: مجھ سے حفص بن سلیمان نے ایک کتاب لی اور اسے واپس نہیں کی آپ لوگوں کی کتابیں لے کر لکھ لیا کرتے تھے آپ طاعون سے کچھ دنوں قبل فوت ہوئے طاعون ۱۳ھ میں پھیلا تھا۔

ابو نعیمہ عدوی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عمر و بن عیسیٰ ہے اور آپ ضعیف ہیں اور آپ سے روح بن عبادہ راوی ہیں۔

ابو مسلمہ، سعید بن یزید رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں اور آپ سے شعبہ، حماد بن زید اور اسماعیل بن علیہ راوی ہیں۔

ابو قرقہ، سعید بن ابی صدقہ رضی اللہ عنہما:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

ابو روح، عمارہ بن ابی حفصہ رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں اور آپ سے شعبہ اور اسماعیل بن علیہ روایت کرتے ہیں۔

ابو عمرو و عثمان بنی رضی اللہ عنہما:

ابن سلیمان بن جرmoz، آپ ثقہ صاحب احادیث اور صاحب الرائے وفقہ ہیں۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری: عثمان بنی کوفہ کے تھے پھر بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے آپ بنو زہرہ کے آزاد کردہ غلام تھے آپ

موت لے پڑے اور گاڑ حافر وخت کیا کرتے تھے اس لیے آپ کا لقب بنی پڑ گیا یعنی گاڑھایچنے والے۔

منصور بن عبد الرحمن عذری غدانی رضی اللہ عنہما:

آپ سے اسماعیل بن علیہ راوی ہیں۔

عسلی بن سفیان تمیمی رضی اللہ عنہما:

آپ میں ضعف ہے اور آپ سے شعبہ راوی ہیں۔

ابو رجاء از دی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام محمد بن سیف ہے اور آپ ثقہ ہیں آپ سے حماد بن زید، یزید بن زریج اور اسماعیل بن علیہ راوی ہیں اور آپ

حسن سے راوی ہیں۔

ابو ہبل، عوف بن ابو جمیلہ اعرابی رضی اللہ عنہما:

آپ طی کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔ بعض کہتے ہیں: آپ اپنی شان بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں

کہ میں حسن سے ایسی چیز بیان کرتا ہوں جسے کوئی بیان نہیں کرتا آپ شیعہ تھے۔

باخبار محمد بن عبداللہ انصاری میں نے عوف سے پوچھا: آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھ سے حسن نے حدیث بیان کی فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے اصحاب کہتے ہیں: حسن نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پھر فرمایا: یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اشعث کو ان کے لیے پیش نہیں کرتا میں بولا: یہ عمرو بن عبید بھی کہتے ہیں: فرمایا: وہ غلطی پر ہیں میں نے ان سے واقعہ ابن الاشعث سے پہلے سنا ہے انصاری فرماتے ہیں: عوف سب سے بڑے تھے اور ۴۶ھ میں فوت ہوئے۔
زیاد اعلم رضی اللہ عنہ:

آپ باہلہ کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

خلیف بن عقبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ:

ابن شیمان بن عبید بن عمرو بن مخلب بن عوف بن ثعلبہ بن ذبیان بن ریحج بن حارث اور وہ مقاعس بن عمرو بن کعب بن ثعلب بن زید مناة بن تمیم ہیں آپ کی کنیت ابن سیرین نے ابو بکر رکھی تھی آپ اصحاب ابن سیرین میں سے ہیں آپ آسان خضاب سے سفیدی بدل لیا کرتے تھے آپ بصرہ میں ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کے قتل سے قبل ۶۱ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔
ابو ذبیان رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام خلیفہ بن کعب ہے۔

ابودلان حیان بن یزید رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں۔

ابو ایوب رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبداللہ بن ابوسلیمان ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ سے حماد بن سلمہ اور اسحاق بن

عثمان راوی ہیں۔

ابو المبارک خالد بن مہران حذاء رضی اللہ عنہ:

آپ قریش میں اولاد عبداللہ بن عامر بن کریم کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ موچی نہ تھے مگر موچیوں کے پاس اٹھتے

بیٹھتے تھے۔

ابن سعد: ازفہد بن حیان قیسی: خالد نے کبھی جوئے نہیں سنے آپ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سیو پھر آپ کا لقب

حذاء پڑ گیا۔ فرماتے ہیں: خالد ثقہ ہیں اور رعب و داب والے ہیں کوئی ان پر جرأت نہیں کرتا اور کثیر الحدیث ہیں آپ فرماتے ہیں: میں نے بجز لمبی حدیث کے کبھی کوئی حدیث نہیں لکھی پھر جب لمبی حدیث میں یاد کر لیا کرتا تھا تو اسے مٹا دیا کرتا تھا آپ بصرہ میں عشر

خانہ اور پالان پر مقرر تھے۔ خالد ابو جعفر منصور کی خلافت کے زمانہ میں ۴۱ھ میں فوت ہوئے۔

ابو عبداللہ یونس بن عبید رضی اللہ عنہ:

آپ عبدالقیس کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں فرماتے ہیں: میں نے کبھی کوئی حدیث نہیں لکھی۔

باخبار عارم بن فضل، محمد بن حنظلہ بن زید، یونس حدیث بیان کر کے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتے باخبار فہد بن حیان وغیرہ: یونس ۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری: میں نے سلیمان اور عبد اللہ پسران علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب کو اور جعفر و محمد پسران سلیمان بن علی کو دیکھا کہ اپنی گردنوں پر یونس کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں پھر عبد اللہ بن علی فرماتے ہیں: اللہ کی قسم یہ شرف ہے۔

ابو بشر سلمہ بن علقمہ تمیمی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔

سوار بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن قدامہ بن عذہ بن نقب بن عمرو بن حارث بن خلف بن حارث بن بھجر بن کعب بن عمرو بن عمرو بن تمیم۔ آپ قلیل الحدیث ہیں اور ابو جعفر کی طرف سے بصرہ کے قاضی تھے۔

ابن سعد: باخبار بکار بن محمد: میں نے سوار کو دیکھا آپ نے فیصلہ کا ارادہ فرمایا پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آپ کی آنکھیں ڈبڈبائیں پھر آپ نے فیصلہ صادر فرمایا۔

ابو مروان عنوی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ابراہیم بن علاء ہے اور آپ ثقہ ہیں۔

ابو مسعود سعید بن ایاس جریری رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں مگر اخیر عمر میں حافظہ میں فرق آ گیا تھا۔

یحییٰ بن سعید قطان از کہس: ہم نے جریری کو طاعون کے زمانہ میں منکر قرار دیا۔ باخبار یزید بن ہارون: میں نے جریری سے ۱۳۲ھ میں سماع کیا میں اسی سال بصرہ گیا تھا ہم نے ان سے کوئی منکر روایت نہیں سنی حالانکہ ہم سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کے حافظہ میں فرق آ گیا ہے اور ہمارے بعد آپ سے اسحاق ازرق نے سماع کیا۔ یزید: میں نے شعبہ سے ۱۳۵ھ میں سنا اور اس کے بعد لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ جریری ۱۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

ابو عون عبد اللہ بن عون بن اربطان رضی اللہ عنہ:

آپ عبد اللہ بن درہ بن سراق مرنی کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ سلیمان تمیمی سے بڑے تھے اور عثمانی تھے آپ ثقہ کثیر الحدیث اور پارسا ہیں۔

باخبار بکار بن محمد بسام ابن عون: میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ آپ کو آپ کے جانور پر لے جایا جاتا تھا آپ ان چیزوں سے دوچار نہ تھے جن سے میں ہوں لوگوں نے مجھے چھوڑ رکھا ہے میں اپنے کسی کام کے لیے باہر جانے پر قادر نہیں۔

باخبار عارم بن فضل، محمد بن حنظلہ بن زید، طاعون جارف سے تین سال قبل ابن عون پیدا ہوئے۔ باخبار محمد بن عبد اللہ

انصاری: ابن عون اگر قدریہ فرقہ کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام نہیں کیا کرتے تھے۔

باخبار بکار بن محمد: ابن عون نے کوفہ میں بہت وسیع علم سنا پھر اسے محمد کو سنایا پھر محمد نے جس کی تعریف کی آپ نے اسے بیان کیا اور جس کی تعریف نہیں کی اسے مرتے دم تک بیان نہیں کیا۔ جب آپ کوئی حدیث بیان کرتے تو عجز و انکساری کا اظہار فرماتے اور اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے ترحم کی دعا فرماتے اس لیے کہ کہیں حدیث میں کمی نہ ہوگی۔

باخبار عوف بن مسلم: محمد بن اسماعیل بن علیہ بسماح ابن عون: مجھے اللہ شیوخ کے علم سے پناہ میں رکھے۔ ابن سعد: بقول ابن قطن بسماح ابن عون: کاش میں اس (علم) سے برابر برابر نکل جاتا۔

باخبار بکار بن محمد از ابن عون: بھتیجے لوگوں نے مجھ پر راستہ بند کر دیا میں اپنے کسی کام کے لیے نہیں نکل سکتا (یعنی لوگ ہر وقت حدیثیں پوچھتے رہتے ہیں) بکار: ابن عون کے بھائی تھے انہیں خاص طور سے آپ کے پاس آنے کی اجازت تھی جماعت کو یہ اجازت حاصل نہ تھی۔

باخبار بکار بن محمد: جب ابن عون کے پاس آپ کے بھائی آتے اور آپ کو سلام کرتے تو بالکل خاموش عجز و انکساری کے ساتھ ادب و احترام سے بیٹھ جاتے میں نے کسی کے سامنے کسی کو اس طرح بیٹھتا ہوا نہیں دیکھا آپ ان کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرماتے آپ کسی محدث یا غیر محدث کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیتے تھے ایک دن ابن عون محمد بن سیرین کے پیچھے چلنے لگے پوچھا کچھ کام ہے؟ بولے: نہیں فرمایا تو جاؤ۔

باخبار بکار بن محمد: میں نے ابن عون کو کسی سے مذاق کرتا ہوا یا جھگڑتا ہوا یا شعر پڑھتا ہوا کبھی نہیں دیکھا آپ برابر اپنی اصلاح میں لگے رہتے تھے۔

باخبار بکار بن محمد: ابن عون صبح کی نماز پڑھ کر اپنی مجلس میں قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ذکر اللہ کرتے رہتے تھے پھر جب سورج نکل آتا تو نماز پڑھ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔

بکار: میں نے ابن عون کو کبھی گالی دیتے ہوئے نہیں سنا نہ اپنے غلام کو نہ لونڈی کو نہ بکری کو نہ مرغی کو اور نہ کسی چیز کو میں نے کسی کو ان سے زیادہ زبان پر قادر نہیں دیکھا۔

باخبار بکار بن محمد: میں نے ابن عون کو بلال بن ابی بردہ کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنا لوگ کہتے تھے: ابو عون! بلال نے یہ کیا آپ فرماتے: انسان مظلوم ہوتا ہے پھر وہ اپنی زبان سے ظالم کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے حتیٰ کہ ظالم بن جاتا ہے میرے گمان میں مجھ سے زیادہ سخت بلال پر تم میں سے کوئی نہیں (فرماتے ہیں) بلال نے اس جرم پر آپ کے کوڑے لگوائے تھے کہ آپ نے ایک عربی خاتون سے شادی کر لی تھی۔

باخبار بکار بن محمد: میں ابن عون کی صحبت میں ان کے موتے دم تک رہا آپ نے میرے والد کو وصیت کی میں نے آپ سے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے جھوٹی یا سچی قسم کھائی ہو حتیٰ کہ موت نے آ کر ہم میں جدائی ڈال دی۔

بکار: ابن عون مرتے دم تک برابر ایک دن ناغہ کر کے روزے رکھتے رہے۔ میں نے کبھی آپ کے ہاتھ میں درہم یا دینار

نہیں دیکھا اور نہ میں نے آپ کو کبھی کوئی چیز تولتے ہوئے دیکھا جب آپ وضو کرتے تو اس میں آپ کو کسی کی اعانت گوارا نہ ہوتی آپ وضو کر کے رومال سے یا کسی دوسرے کپڑے سے اپنا منہ پونچھ لیا کرتے تھے اور جمعہ کے دن آپ بہت سویرے نماز کو نہیں جاتے تھے جیسا کہ آج کل لوگ چلے جاتے ہیں اور نہ دیر ہی کر کے جاتے آپ کو درمیانی راہ بہت پیاری تھی اور جماعت میں مل کر رہنا بھی بہت محبوب تھا آپ جمعہ کے لیے اور عید و بقر عید کے لیے غسل کیا کرتے تھے اور کپڑوں پر اور سر اور داڑھی میں خوشبو لگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ سنت ہے باقی دنوں میں بھی خوشبو استعمال کرتے رہتے تھے اور مہین و نرم کپڑے پہنا کرتے تھے خصوصاً جمعہ کو اور عید و بقر عید کو تو بہت ہی صاف و شفاف کپڑے استعمال کیا کرتے تھے اور جمعہ کی نماز کے لیے کبھی پیدل چل کر اور کبھی سوار ہو کر آتے تھے اور جمعہ کی نماز کے بعد زیادہ دیر تک بیٹھا نہیں کرتے تھے۔ آپ رمضان میں جماعت سے فرض ہی پڑھا کرتے تھے پھر اپنی خلوت گاہ میں اپنے گھر میں عبادت میں مصروف رہتے تھے آپ گھر میں خاموش رہا کرتے تھے اور الحمد للہ رہنا کا ورد جاری رکھتے تھے میں نے ابن عون کو کبھی حمام میں جاتا ہوا نہیں دیکھا آپ کا وکیل ایک عیسائی تھا جو آپ کے گھر کی آمدنی کا حساب کتاب رکھتا تھا اور آپ کے محلہ میں جس میں آپ رہتے تھے عیسائی اور مسلمان ملے جلتے رہتے تھے اور بازار والے گھر میں بھی آپ فرمایا کرتے تھے میرے ماتحت عیسائی رہیں مسلمان نہیں آپ اپنے مکان کے بالائی حصہ میں رہتے تھے (فرماتے ہیں) ابن عون ہمیں مغرب و عشاء کی نماز میں پڑھاتے تھے آپ کے محلہ میں ایک مسجد تھی جس میں آپ باقی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور آپ کے موجودہ بھائی بند اور فرزند اور محلہ کے دوسرے حضرات بھی۔ آپ کا ایک آزاد کردہ غلام اذان دیا کرتا تھا اور اذان میں دہرے کلمات استعمال کیا کرتا تھا اور تکبیر میں اکہرے اکثر ہمیں آپ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے اور کبھی کبھی اپنے کسی صاحبزادے کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے۔ آپ کوئی چیز منگایا نہیں کرتے تھے الا یہ کہ آپ کے بلا طلب کے کوئی لے آئے اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ کھانے میں کچا لہسن ہے تو آپ اسے چھوتے بھی نہ تھے۔ کھانے سے قبل خادم آ کر آپ کے ہاتھ دھلاتا تھا پھر رومال دے دیتا تھا جس سے آپ ہاتھ پونچھ لیا کرتے تھے۔

بقول بکار بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد (جو ہماری ایک آزاد کردہ لونڈی تھی) یہ لونڈی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور یہ اس وقت عبد اللہ بن محمد کی مملوک تھی اور عبد اللہ بن محمد کی صاحبزادی آپ کے پاس تھیں اور ان صاحبزادی کی والدہ آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن کے پاس تھیں فرماتی ہیں میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھی ایک دن میں نے ابن عون کے لیے سالن پکایا آپ کو اس میں لہسن کی بو آئی آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا فرمایا حق تعالیٰ تم کو اس میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اسے میرے آگے سے اٹھا لو یہ بن کر میرے بدن میں آگ لگ گئی اور میں سیرین کے گھر آ گئی۔

باخبار بکار بن محمد عبد اللہ بن عون کے سامنے نقد پر کا ذکر چھڑ گیا فرمانے لگے بھتیجے! میں اس کے ذکر سے بری ہوں میں نے لوگوں کو پایا بجز دو شخصوں کے کسی نے بھی اس پر گفتگو نہیں کی ایک تو گفتگو کرنے والا معبد جہنی تھا اور دوسرا سنویہ ام موسیٰ کا شوہر تھا۔ اور اس پر گفتگو شر ہے۔

باخبار بکار بن محمد: معترضہ نے ابن عون کی ابراہیم بن عبد اللہ بن حسن سے چغلی کھائی اور کہا کہ یہاں ایک شخص عبد اللہ بن

عون ہے جو آپ سے لوگوں کو روکتا ہے آپ نے ابن عون کو بلا بھیجا کہ تجھے میرے سے کیا دشمنی ہے آپ بصرہ سے نکل کر قرظیہ میں جاٹھرے اور وہیں رہے حتیٰ کہ ابراہیم کا جو حشر ہونا تھا ہوا۔

بکار: جب ابراہیم نے بغاوت کا فتنہ اٹھایا تو میں نے ابن عون کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دروازے بند کر دیئے جو مرد کے شاہراہ عام پر تھے آپ گھر میں نہ کسی کو جھانکنے دیتے تھے نہ دیکھنے دیتے تھے اور نہ کوئی دروازہ کھولتے تھے۔ باخبار بکار بن محمد: اگر ابن عون کے ساتھ کوئی شخص سلوک و صلہ رحمی کرتا تو آپ اس کے ساتھ چپکے سے سلوک کرتے اور اگر کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تو آپ اسے چپکے سے ہدیہ دیتے آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کسی کو اس کی خبر ہو۔

باخبار محمد بن عبداللہ انصاری متحد یث ابن عون: ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک باغ میں محمد کے ساتھ ساتھ موجود ہوں آپ اس میں چہل قدمی فرما رہے ہیں پھر اس باغ میں ایک پتھریلی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور اسے بکھیرنے لگتے ہیں میں آپ کے پیچھے ہوں اور میں بھی مٹی اٹھا اٹھا کر بکھیرنے لگتا ہوں فرماتے ہیں میں نے اس خواب کا ذکر محمد سے کیا آپ نے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ایک شخص ہے جو ایک شخص کی پیروی کرتا ہے اور اس سے خیر (علم دین) سیکھتا ہے فرماتے ہیں آپ کی رائے میں وہ شخص میں ہی تھا۔

باخبار بکار بن محمد: میں گھر میں ابن عون کے پاس تھا میں بولا: کیا الخراف میں ابو محمد عبیدہ نہیں؟ فرمایا افسوس! تم کس کے پاس یہ بات کہہ رہے ہو؟ نہیں نہیں میرا یہ مطلب تھا کہ آپ کتاب میں دیکھ کر مجھ سے حدیثیں بیان فرمائیں آپ نے میری یہ بات مسترد فرمادی۔

باخبار محمد بن عبداللہ انصاری بسماع عثمان بنی (باپ کے حق میں بیٹے کی شہادت کے بارے میں) جائز نہیں الا یہ کہ باپ ابن عون جیسا ہو انصاری کہتے ہیں اسی پر میرا عمل ہے میں نے سوار بن عبداللہ کے سامنے ابوعلی کے لیے شہادت دی پھر آپ نے قبول فرمائی۔

باخبار محمد بن عبداللہ انصاری متحد یث ابن عون: میرے پاس امیر مسلم بن قتیبہ آئے اور السلام علیکم کہہ کر ہنس پڑے اور فرمایا ہم یہ ابن عون کے لیے برداشت کرتے ہیں۔

باخبار محمد بن عبداللہ انصاری: ایک دفعہ ہشام بن حسان نے حدیث بیان کی ایک شخص نے پوچھا: یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی؟ فرمایا اس نے جس کے مثل اللہ کی قسم میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا یعنی ابن عون نے اور آپ نے حسن و محمد کو بھی مستثنیٰ نہیں فرمایا۔ انصاری: ایک دفعہ ہشام مکہ سے آئے اور ابن عون کے پاس پہنچے ہم پہلے ہی سے آپ کے پاس تھے فرمایا اللہ کی قسم ابھی میں اپنے گھر بھی نہیں گیا اور نہ کسی کے پاس گیا سب سے پہلے آپ ہی سے ملنے آیا ہوں۔

باخبار محمد بن عبداللہ انصاری باخبار ابن عون: میں نے خواب میں دیکھا گویا میں مسجد میں ہوں کہ اچانک ایک سنگریزہ اچھل کر میرے کان میں گر گیا میں نے فوراً ایک طرف کو اپنا سر جھکا دیا آخر وہ نکل گیا میں نے ابن سیرین سے ذکر کیا فرمایا: یہ ایک شخص ہے جس نے کوئی ناگوار بات سنی ہے اور وہ اس کے دل میں پلچل پچار ہی ہے۔

باخبار بکار بن محمد: ابن عون مصافحہ کو مکروہ سمجھتے تھے اور کسی سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے اور سفیان ثوری بھی زیادہ تر مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے بس اسلام علیکم کہا کرتے تھے۔

باخبار بکار: ابن عون کی مسجد میں جہانہوں نے اپنے محلہ میں بنوائی تھی محراب نہ تھی۔ باخبار یحییٰ بن حلیف بن عقبہ: ایک دفعہ ابن عون اور ابن سیرین ایک راہ سے گزر رہے تھے ایک جگہ بارش کا پانی جمع تھا اور اس پر کھجور کا ایک تپڑا ہوا تھا ابن سیرین تنے پر چل کر عبور کر گئے اور ابن عون پانی سے گزرے ابن سیرین نے پوچھا تنے کے اوپر سے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا تہ والے کی رضا معلوم نہیں۔

باخبار یحییٰ بن حلیف: ابن عون جب دعا میں انتہائی زور دیتے تو یا احد یا احد فرمایا کرتے تھے۔

باخبار بکار بن محمد بحدیث بعض تلمیذ ابن عون: آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی جس پر جہاد و حج کیا کرتے تھے آپ کو وہ بے حد پسند تھی ایک دن آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے پانی پلا لائے غلام نے اس کے منہ پر ایسی لکڑی ماری کہ اس کی آنکھ نکل کر اس کے منہ پر آ پڑی ہم نے کہا اگر ابن عون کو غصہ آئے گا تو آج آئے گا تھوڑی دیر کے بعد ابن عون بھی آ گئے اور اونٹنی کی آنکھ کو دیکھ کر فرمانے لگے سبحان اللہ! کیا مارنے کے لیے چہرہ ہی رہ گیا تھا؟ اے غلام! اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے میرے سامنے سے نکل جا حاضرین گواہ رہیں کہ یہ آزاد ہے۔

باخبار بکار: ابن عون ملک شام تک اپنی اونٹنی پر جہاد کیا کرتے تھے اور ملک شام میں جانے کے بعد گھوڑے پر جہاد کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ابن عون نے ایک رومی کو لاکار اور اسے قتل کر دیا۔

باخبار بکار: ابن عون روزانہ شب کو ایک منزل قرآن پڑھا کرتے تھے اگر رات میں نائم ہو جاتا تو دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔

باخبار عبداللہ بن مسلمہ بن قعب بن اخبار حماد بن زید بقول ابن عون: تین چیزیں مجھے اپنے لیے بھی پیاری ہیں اور اپنے شاگردوں کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت، حدیث کا مطالعہ، اپنی اصلاح میں مصروف رہ کر لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، عبداللہ بن مسلمہ: میں نے لوگوں سے سنا ابن عون سے ذکر کرتے تھے کہ آپ نے ابو مسلمہ بن قعب کا جانور دیکھا اور ان کی اجازت کے بغیر اس پر سوار ہو گئے کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ وہ منع کرنے والے نہیں۔

باخبار عثمان بن مسلم متحد بن خالد بن حارث: ابن عون فرمایا کرتے تھے: سلیم سلیم ہی ہیں اور از ہراز ہر ہی ہیں یعنی سلیم سلامتی والے ہیں اور از ہر روشن ہیں یہ دونوں حضرات بازار سے آپ کی ضروریات لاکر دیا کرتے تھے۔

باخبار از ہر بن بلج متحد ریث سفیان بن عیینہ: میں نے ابن عون سے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو درہم پیارے ہیں فرمایا: درہم مجھے فائدہ پہنچاتے ہیں۔

باخبار بکار بن محمد: ابن عون کی انگوٹھی معنگ کے چاندی کی تھی اور اس پر خاتم سلیمان کندہ تھا۔

باخبار بکار بن محمد: میں نے ابن عون کے سر پر تقریباً ایک بالشت اونچی ٹوپی دیکھی جو بیہنی دھاری دار کپڑے کی تھی اور میں

نے دیکھا آپ چادروں کے کپڑے پہنا کرتے تھے اور تہبند باندھ کر اور چادر اوڑھ کر بازار چلے جایا کرتے تھے اور آپ کو گیر و سے رنگے ہوئے دو کپڑوں میں بھی دیکھا گیا۔

باخبار بکار بن محمد: ابن عون اپنی موچھیں بالکل صاف نہیں کیا کرتے تھے بلکہ درمیانی راہ اختیار کر کے انہیں کاٹا کرتے تھے آپ کے سر کے بال نصف کانوں تک رہتے تھے اگر آپ آپ کو دیکھتے تو یہی کہتے کہ آپ لوگوں کے اس طبقہ سے نہیں ہیں جو لوگوں میں خوب گھلے ملے اور گڈنڈ رہتے ہیں۔

باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید: ابن عون جب تہبند باندھتے تو آپ کی ناف کھلی رہتی تھی۔

باخبار معاذ بن معاذ عنبری: میں نے ابن عون کے سر پر ایک لطیف و خوبصورت ادنی ٹوپی دیکھی پھر آپ سے ہمارے کسی ساتھی نے پوچھا: ابو عون! یہ ٹوپی کیا ہے؟ فرمایا یہ ٹوپی ابن عمر کی ہے ابن عمر نے انس بن سیرین کو دے دی تھی پھر جب انس کے ترکہ میں فروخت کی گئی تو میں نے خرید لی۔

باخبار بکار بن محمد: ابن عون کے جوتے کا ایک ایک تسمہ تھا اور ہتھ نہ تھا۔ ابن عون کی چادریں سبھی ہوتی تھیں اور آپ کے کپڑے پیروں تک تھے۔ باخبار ابو قطن عمرو بن بٹیم: میں نے ابن عون کے بعض وادنت سونے کے تاروں سے بندھے ہوئے دیکھے۔ باخبار بکار بن محمد: ابن عون کو خواب میں نبی ﷺ کو دیکھنے کی بڑی تمنا تھی آخر کار آپ نے نبی ﷺ کو اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے خواب میں دیکھا جس سے آپ کو انتہائی مسرت ہوئی۔ پھر آپ اپنے گھر کے زینہ سے مسجد میں جانے کے لیے اتر رہے تھے کہ گر گئے اور آپ کے پیر میں ضرب آئی آپ نے علان نہیں کرایا اور اسی میں جان جان آفریں کو سونپ دی اور اس چادر میں کفنائے گئے جو آپ نے دو سو درہم میں خریدی تھی پھر ہم سے آپ کے بیٹوں نے سوا کیا اور کہا ہم اس کے بغیر ہی خریدیں گے۔ اور میری پھوپھی نے جو آپ کی اہلیہ تھیں فرمایا: باقی میرے حساب میں شمار کر لینا۔ فرماتے ہیں میں ابن عون کی وفات کے وقت موجود تھا آپ قبلہ رخ لیٹے ہوئے تھے اور ذکر اللہ میں مصروف تھے کہ موت کا غرغہ شروع ہو گیا اور اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ سے جا ملے مجھ سے میری پھوپھی ام محمد بنت عبد اللہ بن محمد بن سیرین نے فرمایا: ابن عون کے پاس سورہ یٰسین پڑھو چنانچہ میں نے سورہ یٰسین پڑھی مرتے وقت ابن عون سے زیادہ میں نے کسی کو ہوش و حواس میں نہیں پایا آپ کے ہوش و حواس آخری دم تک قائم رہے بس آپ بار بار اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے تھے اور کچھ نہیں آپ کی وفات سحر کو ہوئی ہم اُگلکھ کے غلبہ کے مارے آپ پر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہوئے حتیٰ کہ ہم نے آپ کو مسجد کے محراب میں رکھ دیا۔

باخبار بکار بن محمد: ابن عون دس ہزار سے کچھ اوپر مقروض تھے کہ فوت ہوئے آپ نے قرض کے بعد اپنے مال کے پانچویں حصہ کی میرے والد کو بلا کر وصیت کی کہ اسے آپ کے محتاج وغیر محتاج اقارب میں بانٹ دیا جائے۔

آپ بیماری میں شیر سے بھی زیادہ صابر ثابت ہوئے مرتے دم تک اُف نہیں کی اور نہ کبھی اپنی بیماری کی کسی سے ادنیٰ سی شکایت کی آپ نے نقد مال کچھ نہیں چھوڑا ایک گھر عطارین میں چھوڑا اور اپنا رہائشی گھر چھوڑا جو سکتا المرید میں تھا آپ رجب ۱۵۱ھ میں ابو جعفر کے عہد میں فوت ہوئے اور آپ پر جمیل بن محفوظ ازدی نے جو عقبہ بن سلم کے افسر پولیس تھے نماز پڑھی۔

عمران بن مسلم قصیر رضی اللہ عنہ:

آپ کی حدیثیں ہیں۔

عبدالمومن بن ابوشراعہ رضی اللہ عنہ:

آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی اور ان سے راوی ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔

غالب بن مهران تمار رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور آپ سے شعبہ اور اسمعیل بن علیہ راوی ہیں۔

عبدالعزیز بن قدیر رضی اللہ عنہ:

آپ کا گھر عبدالقیس میں تھا آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں آپ سے سفیان اور ابن مبارک راوی ہیں آپ کے بھائی عبدالملک بن قدیر ہیں۔

عبدالملک بن قدیر رضی اللہ عنہ:

اپنے بھائی عبدالعزیز سے راوی ہیں۔

حجاج اسود قسامل ازدی رضی اللہ عنہ:

آپ کی حدیثیں ہیں۔

حجاج بن ابی عثمان رضی اللہ عنہ:

ابوالصلت حجاج بن ابی عثمان صواف: آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

عباد بن منصور ناجی رضی اللہ عنہ:

آپ بصرہ کے قاضی تھے، ضعیف ہیں اور آپ کی حدیثیں منکر ہیں۔

حوشب بن مسلم رضی اللہ عنہ:

آپ سبز چادروں کے تاجر تھے ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور آپ سے ہشام بن حسان راوی ہیں۔

ابویونس حاتم بن ابی صغیرہ قشیری رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

حسین بن ذکوان معلم رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔

کھمس بن حسن قیسی رضی اللہ عنہ:

آپ بھی ثقہ ہیں۔

حسین شہید رضی اللہ عنہ:

آپ مزینہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

عمران بن حدیر سدوسی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔

ابو المعالی عطار رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام یحییٰ بن میمون ہے آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔

غالب بن خطاف راسبی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔

باخبار عبدالاعلیٰ بن سلیمان عبدی زراد: غالب قطان کی کنیت ابوسلمہ ہے آپ نابینا تھے اور عبدالقیس کے گھر میں ٹھہرے

ہوئے تھے میں نے آپ کے والد کا نام قطان کے بجائے خطاف بھی سنا ہے۔

ہشام بن حسان قردوسی ازدی رضی اللہ عنہ:

آپ میں اور قتادہ میں عمر کے اعتبار سے سات سال کا فرق تھا۔ باخبار عارم بن فضل بخدیث حماد بن زید از ابو قرہ سعید

بقول محمد: اے اہل بیت ہشام ہم سے ہیں۔

یحییٰ بن قطان: ہشام ۱۴۷ھ میں فوت ہوئے آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں۔ کنی بن ابراہیم: ہشام یکم صفر

۱۴۸ھ میں فوت ہوئے۔

عیینہ بن عبدالرحمن بن جوش غطفانی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔ باخبار کعب بن جراح: میں نے عیینہ سے بصرہ میں ۱۴۸ھ میں ملاقات کی اور آپ نے مجھے بول

کر حدیثیں لکھوائیں۔

عمر بن عامر رضی اللہ عنہما، صالح بن ابوالاخضر رضی اللہ عنہما:

ابن سعد: باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری: میں نے صالح سے پوچھا: یہ جو تم روایتیں کرتے ہو کیا تم نے انہیں زہری سے سنا ہے فرمایا: انہوں نے مجھ سے بعض حدیثیں بیان کیں اور بعض حدیثیں میں نے ان پر پڑھیں اب مجھے خبر نہیں کون سی سنی ہوئی ہیں اور کون سی پڑھی ہوئی ہیں۔

جراد بن مجالد رضی اللہ عنہ:

آپ سے شعبہ راوی ہیں۔

ابو حمزہ رضی اللہ عنہ:

جن سے شعبہ راوی ہیں شعبہ آپ کے پڑوسی تھے آپ کا نام عبدالرحمن بن عبد اللہ ہے۔

ابو عثمان، عمرو بن عبید بن باب رضی اللہ عنہما:

آپ بنی تیم کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ معتزلی اور صاحب الزائے ہیں اور حدیث میں کچھ نہیں آپ حسن وغیرہ سے کثیر الحدیث ہیں۔

آپ ۴۴ھ میں فوت ہوئے اور مزان میں جو مکہ معظمہ سے چند دن کے فاصلہ پر بصرہ کے راستہ میں واقع ہے، دفن کیے گئے۔



پانچواں طبقہ

ابوالعصر، سعید بن ابی عمرو رضی اللہ عنہما:

ابوعروہ کا نام مہران ہے آپ ثقہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں۔ آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ ابن سعد: بسماع عبد الوہاب بن عطاء: میں ۱۳۶ھ میں سعید کے پاس ہم مجلس تھا آپ ۱۵۶ھ میں فوت ہوئے دوسروں کا کہنا ہے کہ آپ نے ۱۵۶ھ میں ابوجعفر کے زمانہ میں وفات پائی۔

ابن سعد: قریش بن انس: سعید نے مجھ سے قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے کبھی قتادہ سے کچھ نہیں لکھا البتہ ابومعشر نے مجھے لکھا کہ میں ان کے لیے تفسیر قتادہ لکھ دوں۔ فرماتے ہیں پھر قتادہ نے کہا: کیا تم مجھ سے لکھنا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں پھر میں نہ لکھنے ہی پر مجاہد۔

باخبار عفا بن مسلم از ہمام: میرے پاس سعید آئے اور مجھ سے قرآن کے عواشر جو قتادہ سے ہیں مانگے میں نے کہا میں آپ کو نقل کر کے دے دوں گا فرمایا نہیں الا یہ کہ اپنی کتاب دو لیکن میں نے کتاب دینے سے انکار کر دیا آپ اس سلسلہ میں میرے پاس آتے جاتے رہے لیکن میں نے یہ عاریہ آپ کو کتاب نہیں دی۔

باخبار عفا بن سعید بہت سی غیر مسوع احادیث کو قتادہ سے روایت کرتے ہیں اور ان میں حدیثا استعمال نہیں کرتے۔
باخبار روح بن عبادہ: سعید حافظہ میں سب سے اول تھے پھر جب آپ حدیث بیان فرماتے اور آپ کو اپنا نفس اچھا معلوم ہوتا تو فرماتے: اے نفس! اللہ تعالیٰ تجھے کالی مرچوں کی طرح ہاون دستہ میں کوئے۔
اسماء بن عبید رضی اللہ عنہا:

آپ بنوضیغہ میں رہائش پذیر تھے۔ ان شاء اللہ آپ ثقہ ہیں۔ ابن سعد: میں نے سعید بن عامر سے جو اسماء کے نواسہ ہیں سنا فرماتے تھے: اسماء ۱۴۱ھ میں فوت ہوئے۔
ابو اسحاق، اسماعیل بن مسلم رضی اللہ عنہما:

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری: اسماعیل بصری تھے لیکن چونکہ آپ کئی سال مکہ میں رہے اس لیے کئی مشہور ہو گئے پھر بصرہ واپس جانے کے بعد بھی آپ کو کئی ہی کہا گیا۔ آپ صاحب رائے مفتی و سنج النظر اور تیز حافظہ والے تھے اور حدیث وغیرہ کے حافظ تھے۔ لوگ آپ پر اور عثمان بنی پر مطمئن تھے اسماعیل اور یونس بن عبید کی مجلس ایک تھی میں آ کر ان دونوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور اسماعیل پر لکھا کرتا تھا اور یونس کو چھوڑ دیا کرتا تھا کیونکہ لوگوں میں اسماعیل ہی کی عظمت تھی کیونکہ وہ فتووں کی وجہ سے لوگوں میں مشہور تھے۔

ابوالاشہبؓ

آپ کا نام جعفر بن حیان عطاردی ہے آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں آپ بصرہ میں مہدی کے زمانہ میں ۱۶۵ھ میں فوت

ہوئے۔

ابوخلدہؓ

آپ کا نام خالد بن دینار ہے اور آپ ثقہ ہیں۔ کافی عمر پائی، لقاء بھی ثابت ہے۔

علی بن علی رفاعیؓ

باخبار فضل بن دکین و عقیان بن مسلم، علیؓ نبی ﷺ کے مشابہ تھے۔

ابوہرہؓ

آپ کا نام واصل بن عبد الرحمن ہے آپ میں ضعف ہے اور آپ سے حدیث مروی ہے۔ آپ کے بھائی سعید بن الرحمن ہیں۔

سعید بن عبد الرحمنؓ

آپ سے بھی حدیث مروی ہے۔

ابو خالد قرہ بن خالد سدوسیؓ

آپ ثقہ ہیں۔

صحز بن جویریہؓ

ابن سعد: بسام عمرو بن حاصم: صحز کی کنیت ابونافع ہے آپ بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور شہت و ثقہ ہیں۔ باخبار عقیان

بن مسلم: صحز حدیث میں جویریہ سے زیادہ ثبت اور ان سے زیادہ حدیث کو پہچاننے والے تھے۔

ربیعہ بن کلثوم بن حمرؓ

آپ شیخ ہیں اور آپ کے پاس حدیثیں ہیں۔

ابوہانی، اشعث بن عبد الملک حمرانیؓ

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری، محمد بن یثرب ابوہرہ: حسن جب اشعث کو دیکھتے تو فرماتے: ابوہانی لاؤ لاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری بقول شعبہ: یونس کے مسائل کا ثقہ حسن ہی سے ہے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ مسائل

اشعث سے لیے۔ اشعث کے علم کی وسعت و کثرت کا سبب یہ ہے کہ آپ کی ہمشیرہ حفص بن سلیمان کے نکاح میں تھیں جو بنی مضر کے

آزاد کردہ غلام تھے اشعث نے ان کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کر لیا تھا اور حفص اقوال حسن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری، محمد بن یثرب اشعث: ہم سب ایک مجلس میں جمع ہو جاتے تھے یعنی سوار داؤد عوف اشعث اور

متعدد علماء۔ ایک دن داؤد عوف کے درمیان مسئلہ تقدیر پر تبادلہ خیالات ہوا عوف تقدیر کے قائل تھے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہاتھ پائی

ہونے لگی اشعث کہتے ہیں میں نے داؤد کو پکڑ لیا اور سوار نے کھڑے ہو کر عوف کو پکڑ لیا اور ہم نے دونوں میں بیچ بچاؤ کر دیا۔ اشعث عوف

سے پہلے ۳۶ھ میں فوت ہوئے۔

مبارک بن فضالہ بن ابی اُمیہ رضی اللہ عنہما:

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ نے کتابت سے مبارک کو آزاد کیا تھا۔ مبارک عہد مہدی میں ۱۹۵ھ میں فوت ہوئے۔ ان میں ضعف ہے لیکن عفان بن مسلم انہیں اٹھاتے ہیں اور ان کی توثیق کرتے ہیں اور ان سے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ان کے بھائی عبدالرحمن ہیں۔

ابو اُمیہ عبدالرحمن بن فضالہ رضی اللہ عنہما:

آپ سے بھی حدیث مروی ہے۔

ابو حفص ربیع بن ضعیج رضی اللہ عنہما:

آپ بنو سعد بن زید مناہ بن تمیم کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ جہاد کے لیے ہند کی طرف بحری سفر پر روانہ ہوئے اور مہدی کے آغاز خلافت میں ۶۹ھ میں راہ میں فوت ہو گئے اور سمندر کے کسی جزیرے میں دفن کیے گئے مجھے یہ بات ایک بصری شیخ نے بتائی جو آپ کے ساتھ تھا۔ آپ حدیث میں ضعیف ہیں اور ثوری آپ سے راوی ہیں لیکن عفان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ سے حدیث بیان نہیں کرتے۔

ابو الہیثم سری بن یحییٰ رضی اللہ عنہما:

ابن ایاس: بن حرمہ بن ایاس شیبانی آپ کے دادا حرمہ بن ایاس ابو قتادہ سے راوی ہیں باخبار عیاس بن فضل ازرق بخدیث ہمام بن یحییٰ از قتادہ از صالح بن ابوالخلیل از حرمہ بن ایاس از ابو قتادہ از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفہ کا روزہ دو سال کے برابر ہے اور عاشورہ کا روزہ ایک سال کے برابر ہے۔

یزید بن ایراہیم تستری رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ اور ثبت ہیں عفان تو آپ کی بہت ہی تعریف کرتے ہیں آپ باہلہ میں جو مقبرہ بنو سہم کے پاس ہے ٹھہرے ہوئے

تھے۔

ابوالضر، جریر بن حازم بن زید رضی اللہ عنہما جہضمی از دی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں مگر آخری عمر میں حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کرنے لگے تھے۔ باخبار وہب بن جریر بن حازم: میرے

والد عہد عبدالملک بن مروان میں ۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔

وہب اور سلیمان بن حرب: آپ ۶۷ھ میں فوت ہوئے۔

ابولہلال راسبی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام محمد بن سلیم ہے اور آپ میں ضعف ہے۔

باخبار موسیٰ بن سلیمان: ابولہلال نابینا تھے اور اسی وقت حدیث بیان کرتے تھے جب حاضرین کا آپ کو سب بتا دیا جاتا

تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بلال کی وفات عہد مہدی میں ۱۶۵ھ میں ہوئی۔

ابوالمقدام ہشام بن ابوشام رضی اللہ عنہما:

ابوشام کا نام زیاد ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔

ہشام حدیث میں ضعیف ہے۔

عقبہ بن ابوالصہباء رضی اللہ عنہما، ابو عقیل دورقی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام بشیر بن عقبہ ہے۔

حسن بن دینار رضی اللہ عنہما:

آپ حدیث میں ضعیف ہیں اور کچھ نہیں آپ سے محمد بن اسحاق اور معانی بن عمران وغیرہ راوی ہیں۔

ابن سعد: باخبار موسیٰ بن اسماعیل بسماع حسن بن دینار: (مجھ سے کتاب مانگی تھی میں نے انکار کر دیا تو فرمایا) حدیث

انتہائی اہم شے ہے اگر کوئی اپنے پاس والی حدیث پر بھل کرے وہ گنہگار و قابل ملامت ہے حالانکہ ہمیں وہی حدیث دوسروں سے معلوم ہو جائے گی۔

صلت بن دینار رضی اللہ عنہما:

آپ ضعیف ہیں اور حدیث میں کچھ نہیں۔

ہشام بن عبداللہ دستوائی رضی اللہ عنہما:

ابو عبداللہ کا نام سبز ہے اور سبز بنو سدوس کے غلام تھے ہشام حدیث میں ثقہ ثبت اور حجت ہیں مگر آپ پر قدر یہ ہونے کا

الزام ہے۔

باخبار عبید اللہ بن محمد بن حفص تمیمی: اگر ہشام کے گھر میں چراغ نہ ہوتا تو بے قرار ہو جاتے اور بستر پر کروٹیں لیتے رہتے حتیٰ

کہ آپ کی اہلیہ چراغ لے آتیں ایک دن آپ کی اہلیہ نے آپ کی بے قراری کے بارے میں پوچھا تو فرمایا جب چراغ نہیں ہوتا تو

مجھے اندھیرے میں قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ عبدالصمد بن عبدالوارث: ہشام ۱۵۲ھ میں فوت ہوئے لیکن زید بن حباب کہتے ہیں

میں نے ۱۵۳ھ میں آپ سے ملاقات کی معلوم ہوا کہ آپ اس کے بعد فوت ہوئے۔

ابوسعید سلیمان بن مغیرہ قیسی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ اور ثبت ہیں۔ باخبار موسیٰ بن اسماعیل بسماع وہیب از ایوب: سلیمان سے علم سیکھ لو فرماتے ہیں: ہم آپ کے

پاس آیا کرتے تھے آپ ایک گوشہ میں ہوتے تھے اور آپ کے والد صاحب دوسرے گوشہ میں۔

باخبار موسیٰ بن اسماعیل بحدیث سلیمان بن مغیرہ از ایوب: حمید بن بلال کی حدیثوں کا حافظ سلیمان سے زیادہ کوئی نہیں۔

ابویحییٰ مہدی بن میمون از دی رضی اللہ عنہما:

آپ معادل کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

باخبار عبید اللہ بن محمد قرشی: میمون کردی (ایک قسم کے ترک) تھے اور یزید بن مہدی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ مہدی ثقہ ہیں آپ مہدی کی خلافت کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابو بسطام شعبہ بن حجاج بن ورد ازدی رضی اللہ عنہما:

آپ اشاعر کے کتابت سے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ ثقہ مستند ثبت حجت اور صاحب حدیث ہیں۔ شعبہ ثوری سے دس سال بڑے تھے۔

بخیر منہال بن عمرو قشیری بسام شعبہ اللہ کی قسم میں اشعار میں بہ نسبت حدیث کے زیادہ محفوظ ہوں۔ بقول ابوقطن عمرو بن ہشام از شعبہ! میں بجز حدیث کے کسی چیز پر جس کے بارے میں مجھے ڈر ہو کہ یہ مجھے جہنم میں لے جائے گی، غمزہ اور بے قرار نہیں ہوتا۔

باخبار عوفان بن مسلم تجدیث شعبہ: مجھ سے میری والدہ نے فرمایا: یہاں ایک عورت ہیں جو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں تم ان سے جا کر حدیثیں سنو فرماتے ہیں: میں ان کے پاس گیا اور ان سے حدیثیں سنیں پھر میں نے والدہ سے کہا: میں نے ان سے سماع کر لیا ہے فرمایا: اب اللہ تعالیٰ تم سے سوال نہیں فرمائے گا۔ کہتے ہیں شعبہ بصرہ میں ۶۹ھ کے آغاز میں ۷۵ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

جویریہ بن اسماء بن عبید رضی اللہ عنہما:

باخبار عوفان بن مسلم: جویریہ بہت وسیع علم والے تھے اور آپ رکے رہتے تھے ہمیں زبانی حدیثیں نہیں لکھواتے تھے پھر ایک شخص آپ سے سوال کرتا ہے: کیا بلا وضو کے قرآن پڑھنا جائز ہے؟ فرماتے اس پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پھر میں نے آپ کو ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وغیرہ سے حدیثیں بتائیں فرمایا: میں آپ کو یہاں نہیں دیکھتا چاہتا پھر آپ نے مجھ سے حدیثیں بیان کیں اور لکھوائیں لیکن جب آپ لکھوانے لگے تو میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر آپ کے پاس نہیں گیا۔

صالح مری رضی اللہ عنہ:

عبدالرحمن بن مہدی: جب میں سفیان ثوری کے سامنے صالح مری کا ذکر کرتا تو آپ فرماتے وہ تو سراپا قصہ ہیں گویا آپ ان کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اگر ثوری کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آپ صبح نکل جاتے ایک دن آپ مع میرے نکلے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جو صالح کی مسجد کے پاس سے نکلتا تھا جب ہم ابوصالح کی مسجد کے پاس پہنچے تو میں بولا: ابو عبد اللہ! آئیے ہم اس مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں آخر ہم نے اس میں جا کر نماز پڑھی یہ دن صالح کی مجلس وعظ کا تھا جب لوگ نماز پڑھ چکے تو سامعین کی اتنی بھیڑ ہو گئی کہ ہم اٹھ کر نکلنے پر قادر نہ ہو سکے پھر صالح نے وعظ فرمایا میں نے سفیان کو دیکھا زار زار رو رہے ہیں پھر جب وعظ ختم ہو گیا اور سفیان چلنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ سے پوچھا: ابو عبد اللہ! آپ نے اس شخص کو کیسا پایا؟ فرمایا یہ نافرمان نہیں یہ تو قوم کو (اللہ کے عذاب سے) ڈرانے والے ہیں۔

ابو عبد اللہ ہمام بن یحییٰ رضی اللہ عنہما:

آپ بنو عوذ ازدی کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ ہیں اور اکثر حدیث میں غلطی کر جاتے ہیں۔

ابوالمزینہ زہرا سلام بن سلیمان رضی اللہ عنہما:

آپ مزینہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

ابو سلمہ حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہما:

آپ کے والد سلمہ کی کنیت ابو صخرہ تھی اور وہ بنو نعیم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور حمید طویل کے بھانجے ہیں۔

ابن سعد: باخبا رموی بن اسماعیل بسماع حماد بن زید: اس زمانہ میں دلائل معلوم کرنے کے لیے ہم حماد ہی کے پاس جایا کرتے تھے اور ہم کہا کرتے تھے کہ آج ان کے سوا دلائل بتانے والا کوئی نہیں کہتے ہیں حماد ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور بسا اوقات منکر حدیثیں بیان کر جاتے ہیں۔

باخبا ر ابو عبد اللہ تمیمی بخبر ابو خالد رازی از حماد: ایسا بن معاویہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا (جب میں بچہ تھا) تو نہیں مرے گا جب تک قصہ بیان نہ کرے گا دیکھ میں نے کہا ہے یہ (حمید طویل) تیرے ماموں ہیں کہتے ہیں پھر وہ فوت نہیں ہوئے جب تک واعظ نہ بنے۔ ابو خالد کہتے ہیں: میں نے حماد سے پوچھا: کیا آپ بھی واعظ ہیں۔

ابوالمغیرہ قاسم بن فضل حدانی رضی اللہ عنہما:

باخبا رموی بن اسماعیل: آپ حدانی نہ تھے ہاں حدان میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ بنو لُحی کے جواز سے ہیں آدمی تھے

آپ ثقہ ہیں۔

ابو روح سلام بن مسکین رضی اللہ عنہما:

آپ یمنی ہیں اور یمن والوں میں سے ہیں اور ثقہ ہیں اور حماد بن سلمہ سے پہلے فوت ہوئے۔

سلیمان اسود ناجی رضی اللہ عنہما:

آپ بنو ناجیہ میں اترے ہوئے تھے معلوم نہیں انہیں میں کے تھے یا ان کے آزاد کردہ غلام تھے آپ کے پاس حدیثیں تھیں۔

عمارہ بن زاذان صید لانی رضی اللہ عنہما:

باخبا رحید بن عبد الرحمن دو اسی: عمارہ کی کنیت ابو سلمہ تھی۔

عبد العزیز بن مسلم رضی اللہ عنہما:

آپ نے عہد مہدی میں ۱۶ھ میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

ابو الفضل: بحر بن کنیز سقاء بابلی رضی اللہ عنہما:

آپ ضعیف ہیں۔

اور عہد مہدی میں ۱۶ھ میں فوت ہوئے۔

ابان بن یزید عطار رضی اللہ عنہما:

عغان: آپ کی کنیت ابو یزید تھی۔

حزم بن ابی حزم رضی اللہ عنہ قطعی رضی اللہ عنہ:

آپ ۵۷ھ میں فوت ہوئے۔

حسام بن مصک رضی اللہ عنہ:

ابن شیطان ازدی۔ آپ ضعیف ہیں۔

ابوالعوام قطان رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عمران بن داؤد ہے۔

حسین بن ابی جعفر جعفری رضی اللہ عنہ:

آپ بنوعوذ ازدی میں سے ہیں اور ۱۶۰ھ میں فوت ہوئے۔

سلمہ بن علقمہ رضی اللہ عنہ:

آپ داؤد بن ابی ہند کی مسجد کے امام تھے۔

معاویہ بن عبدالکریم الضال رضی اللہ عنہ:

انہیں ضال اس لیے کہا گیا کہ یہ مکہ کے راستہ میں بھٹک گئے تھے۔

عثمان بن مقسم برسی رضی اللہ عنہ:

یہ کچھ نہیں، ان کی حدیثیں متروک ہیں اور عہد مہدی میں فوت ہوئے۔

ابوجری نصر رضی اللہ عنہ:

ابن طریف آپ متروک ہیں اور کچھ نہیں۔

ابوعبیدہ ناجی رضی اللہ عنہ:

آپ کابس بن ربیعہ ناجی کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ بنونا جیہ میں مقیم تھے پھر بنوعقیل میں منتقل ہو گئے۔

عبید اللہ بن حسن رضی اللہ عنہ:

ابن حصین بن مالک بن خشاش بن جناب بن حارث بن خلف بن حارث بن مجر بن کعب بن عزیز بن عمرو بن تمیم۔ آپ

سوار بن عبداللہ کے بعد بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے اور بڑے زیرک ہوشیار قابل تعریف اور ثقہ تھے۔



چھٹا طبقہ

ابو اسماعیل حماد بن زید بن درہم رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ثبت حجت اور کثیر الحدیث ہیں اور عثمانی تھے۔

باخبار سلیمان بن حرب: ابو جریر حازم بن حازم جب فوت ہوئے تو زید حماد کے والدان کے غلام تھے پھر حازم کے بیٹوں زید اور جریر نے آپ کو آزاد کر دیا۔

باخبار خالد بن خدّاش: حماد ۹۸ھ میں پیدا ہوئے۔ باخبار عارم بن فضل: حماد بن زید: میری والدہ کا گمان ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پیدا ہوا لیکن میری پھوپھی کہتی ہیں کہ عہد سلیمان بن عبدالملک کے اخیر میں پیدا ہوا۔ باخبار عبید اللہ بن عمر از حماد بن زید: بصرہ میں حماد بن ابی سلیمان آئے چونکہ ان سے ملنے ایوب نہیں آئے اس لیے ہم بھی نہیں آئے اگر ایوب کسی کے پاس نہیں جاتے تھے تو ہم بھی نہیں جاتے تھے اور جب بصرہ میں لیث بن ابی سلیم آئے تو ایوب ان سے ملنے آئے اس لیے ہم بھی آئے۔

غیر حماد کا قول ہے: جب ایوب فوت ہوئے تو حماد ۳۴ سال کے تھے۔

باخبار عرفان بن مسلم: حماد بن زید: ہم عمرو بن دینار کے پاس تھے کہ ایوب اور عمرو بن علاء تشریف لائے اور دونوں نے آپ سے آپ کی کتاب کی حدیثوں کے بارے میں پوچھا جب یہ دونوں کسی سنی ہوئی حدیث پر پہنچتے تو اسے چھوڑ دیتے۔ میں کہتا مجھ سے فلاں فلاں حدیث بیان کی گئی اور جن حدیثوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا مجھ سے انہیں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا۔

باخبار عرفان بن مسلم: حماد بن زید سفید لمبی اور لطیف ٹوپی اوڑھا کرتے تھے۔ باخبار عارم بن فضل: حماد دس رمضان ۹۷ھ کو جمعہ کے دن ۸۱ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور آپ کی جنازے کی نماز اسحق بن سلیمان بن علی ہاشمی نے پڑھائی اس وقت یہی امیر المؤمنین ہارون کی طرف سے بصرہ کے حاکم تھے۔ آپ کے بھائی سعید بن زید ہیں۔

سعید بن زید بن درہم رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں آپ سے روایت کی جاتی ہے آپ اپنے بھائی حماد بن زید سے قبل فوت ہوئے۔

ابوبکر وہیب بن خالد بن عجلان رضی اللہ عنہ:

عرفان: آپ باہلہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ خالد کی کنیت ابو غبطہ تھی۔ وہیب کو قید کر دیا گیا تھا اور آپ کی بیٹائی جاتی رہی تھی آپ ثقہ حجت اور کثیر الحدیث ہیں اور ابو جواد سے زیادہ حافظ ہیں اور حافظہ سے حدیثیں لکھوایا کرتے تھے۔ آپ ۵۸ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

ابوعوانہ رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام واضح ہے اور آپ یزید بن عطاء کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ صدوق اور ثقہ ہیں۔
باخبار مسلم بن ابراہیم، محمد بن یزید بن مہدی بن میمون: میں نے ابوعوانہ کو جب وہ بچہ تھے خالد بن عبد اللہ کے زمانہ میں دیکھا کہ
زور سے قراءت فرما رہے ہیں۔

باخبار ہشام ابوالولید طرابلسی، محمد بن ابوعوانہ: میں نے عرفہ کے دن حسن بن ابوالحسن کو دیکھا کہ آپ حجرے سے نکل کر مسجد
کے صحن میں آ کر بیٹھ گئے اور آپ کے چاروں طرف لوگ بیٹھ گئے۔

باخبار عوفان بن مسلم، محمد بن یزید بن زریج: جریری جب حدیث بیان فرماتے تو فرمایا کرتے تھے: میرے محسن و کرم فرما
واسطی (ابوعوانہ) ہیں میرے محسن و کرم فرما ابوعوانہ ہیں۔ یزید کہتے ہیں: آپ ان کے پاس کھجوروں کی پھھیاں ہدیہ کے طور پر بھیجا
کرتے تھے۔

باخبار موسیٰ بن اسماعیل از ابوعوانہ: میں نے اعمش کی اہلیہ کو ایک گدھا دیا پھر جب میں آتا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں
میرے ساتھ لے آتیں۔

باخبار موسیٰ بن اسماعیل از ابوعوانہ: میں نے اعمش سے کہا: مجھے آپ سے کام ہے، فرمایا: کیا کام ہے؟ میں بولا: اگر آپ
اسے پورا نہ کریں تو مجھ پر ناراض نہ ہوں بولے: مجھے میرے دل پر اختیار نہیں کہ جب چاہوں ناراض ہو جاؤں یا تو تمہیں پوشیدہ
نقصان دہ ثابت ہو یا کھلم کھلا، میں بولا: مجھے حدیثیں لکھوادتیے فرمایا: نہیں لکھوادوں گا۔

باخبار عوفان بن مسلم: ابوعوانہ حافظ تھے اور ہمیں حدیثیں لکھوایا کرتے تھے اور لمبی حدیث نکال کر یا تو اسے پڑھتے تھے یا
لکھوادیتے تھے۔

باخبار موسیٰ بن اسماعیل از ابوعبیدہ حداد: مجھ سے ابوعوانہ نے فرمایا: میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا
لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جو حدیث کتاب سے بیان کرتے ہیں وہ تو محفوظ ہے اور جو کتاب سے بیان نہیں کرتے وہ غیر محفوظ ہے۔
فرمایا لوگ مجھے چھوڑتے نہیں۔

باخبار عوفان بن مسلم: ابوعوانہ ثوبی اوڑھا کرتے تھے۔ باخبار یحییٰ بن حماد: ابوعوانہ ۷۱ھ میں عہد ہارون میں فوت
ہوئے۔ اس وقت حاکم جعفر بن سلیمان تھے آپ کے بزرگ واسط کے تھے پھر آپ بصرہ منتقل ہو گئے اور یہیں ٹھہر گئے حتیٰ کہ بصرہ ہی
میں فوت ہوئے۔

ابوسلیمان، جعفر بن سلیمان رضی اللہ عنہ وضعی رضی اللہ عنہ:

آپ بنو حریش کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ ثقہ ہیں اور آپ کے اندر ضعف ہے اور شیخہ تھے آپ رجب ۷۸ھ میں
فوت ہوئے عبید اللہ بن محمد قرشی کا یہی بیان ہے۔

نوح بن قیس طاحی رضی اللہ عنہ:

آپ طاحیہ کے ایک چھوٹے سے بازار میں رہائش پذیر تھے۔

ابو بشر، عبدالواحد بن زیاد رضی اللہ عنہ ثقفی رضی اللہ عنہ:

آپ عبدالقیس کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں آپ عہد ہارون میں ۱۷۷ھ میں فوت ہوئے۔

ابوعبیدہ، عبدالوارث بن سعید رضی اللہ عنہ:

آپ بنو العنبر تمیمی کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ اور حجت ہیں اور عہد ہارون میں اول محرم ۱۸۰ھ میں فوت ہوئے۔

ابومعاویہ، یزید بن زریج رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ، حجت اور کثیر الحدیث ہیں اور بصرہ میں شوال ۱۸۲ھ میں فوت ہوئے، عثمانی تھے۔

ابومحجر، عبدالوہاب بن عبدالمجید ثقفی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور آپ میں ضعف ہے عبدالوہاب ۱۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ باخبار عوفان بن مسلم، محمد بن عیسیٰ از ایوب

(عبدالمجید کے فوت ہونے کے زمانہ میں) اس نوجوان (عبدالوہاب) کو چھپے رہو۔ کہتے ہیں عبدالوہاب محمد بن ہارون کے زمانہ میں

بصرہ میں ۱۹۴ھ میں فوت ہوئے۔

ابواساعیل بشر بن مفضل رضی اللہ عنہ:

آپ بنو قاش کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہے اور عثمانی تھے ۱۸۶ھ میں فوت ہوئے۔

ابوہمام عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ قرشی رضی اللہ عنہ:

آپ بنو سامہ بن لوی سے ہیں اور حدیث میں قوی نہیں ۱۸۹ھ میں فوت ہوئے۔

ابومعاویہ، عباد بن عباد بن حبیب رضی اللہ عنہ:

ابن مہلب بن ابی صفہ عسکلی از دی۔ آپ ایک خوبصورت بیت کے مالک تھے اور طب میں مشہور تھے اور حدیث میں قوی

نہیں آپ عہد ہارون میں ۱۸۱ھ میں فوت ہوئے۔

ابومحمد معتمر بن سلیمان تیمی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔ باخبار احمد بن ابراہیم بن کثیر عبدی، محمد بن عیسیٰ بن عبد الملک بن قریب اصمعی

محمد بن معتمر بن سلیمان: مجھ سے میرے والد نے فرمایا: اپنے نفس کو ۱۰۰ھ سے شمار کر لینی تو ۱۰۰ھ میں پیدا ہوا۔ کہتے ہیں معتمر عہد

ہارون میں بصرہ میں ۱۸۷ھ میں فوت ہوئے۔

سفیان بن حبیب رضی اللہ عنہ، سلیم بن احضر رضی اللہ عنہ:

آپ سب سے زیادہ عبداللہ بن عون کو چھپے رہتے تھے آپ ثقہ ہیں۔

باخبار عوفان بن مسلم، محمد بن خالد بن حارث: ابن عون فرماتے تھے: سلیم سلیم ہے اور از ہر از ہر ہے سلیم اور از ہر از ہر بازارت

آپ کے لیے سود لایا کرتے تھے اور آپ کے دیگر کام انجام دیا کرتے تھے۔
ابو حفص، عمر بن علی مقدمی رضی اللہ عنہما۔

آپ ثقہ ہیں مگر سخت تدلیس کے عادی تھے اور سمعت (میں نے سنا) اور حدیثا (ہم سے حدیث بیان کی) کہا کرتے پھر خاموش ہو جاتے پھر فرماتے ہشام بن عروہ اعمش سے یا ہشام بن عروہ اعمش نے۔ آپ سے عفان بن مسلم اور سلیمان بن حرب وغیرہ راوی ہیں۔

یا خبار عفان بن مسلم: عمر بن علی ایک نیک آدمی تھے لیکن آپ پر بجز اس کے نکتہ چینی نہیں کرتے کہ آپ بلس تھے اس کے علاوہ آپ پر کوئی اور الزام نہیں میں آپ کی روایتیں قبول نہیں کرتا جب تک آپ حدیث کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔
ابو عثمان، خالد بن حارث رضی اللہ عنہما۔

آپ ثقہ ہیں اور بصرہ میں عہد ہارون میں ۱۸۶ھ میں فوت ہوئے۔
ابو محمد، عمر بن برند رضی اللہ عنہما۔

ابن نعمان بن علی بن افضح بن کرمان بن حارث بن حارث بن مالک بن سعد بن عبیدہ بن حارث بن سامہ بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک۔ آپ ۸۲ سال کی عمر میں عہد ہارون میں اخیر جمادی الآخر یا شروع رجب میں ۱۹۲ھ میں فوت ہوئے۔
حکلم بن سنان رضی اللہ عنہما۔

آپ حدیث میں ضعیف ہیں اور عہد ہارون میں ۱۹۰ھ میں فوت ہوئے۔
ابو عمرو، محمد بن ابی عدی رضی اللہ عنہما۔

ابو عدی کا نام ابراہیم تھا، آپ بنو سلیم کے آزاد کردہ غلام تھے اور ثقہ ہیں اور عہد محمد بن ہارون میں ۱۹۳ھ میں بصرہ میں فوت ہوئے۔

ابو خالد، یوسف بن خالد بن عمیر، سمستی رضی اللہ عنہما۔

آپ سہل بن صحر لیشی کنانی کے آزاد کردہ غلام تھے آپ کو صحبت رسول حاصل ہے ہم نے شروع کتاب میں آپ کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کیا ہے آپ ہی نے عمیر کو آزاد کیا تھا، یوسف بن عمر ثقفی کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور یوسف کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ آپ نے علم طلب کیا اور خالد حذاء، یونس ابن عون، ہشام اور ان حضرات کے طبقہ کے علماء کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا اور اعمش، اسماعیل بن ابی خالد اور عبد الملک بن ابی سلیمان وغیرہ کو ذوالوں سے ملاقات کی اور موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن عثمان اور ان جیسے علماء سے بھی آپ کی نگاہ آراء فتاویٰ کتب اور شروط میں وسیع تھی اور لوگ آپ کی رائے کی وجہ سے آپ کی حدیثوں سے بچتے تھے آپ حدیث میں ضعیف ہیں آپ کو سمستی آپ کی داڑھی اور مخصوص بیت و سمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ وہ گھر جس میں یوسف بصرہ میں رہتے تھے سہل بن صحر کا گھر تھا یوسف بصرہ میں ۶۹ سال کی عمر میں رجب ۱۸۹ھ میں فوت ہوئے۔

ابوسعید، یحییٰ بن سعید قطان رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ، مستند و مامون، بلند مقام اور حجت ہیں۔ یحییٰ: میں کوفہ میں اعمش کے جنازے میں شریک تھا، فرماتے ہیں مجھ سے کوفہ میں سفیان نے اعمش کے جنازے میں از اعمش از ابراہیم از عمر: شتر مرغ کے انڈوں کے بارے میں حدیث بیان کی اور فرمایا: یہ آپ کی پرانی حدیث نہیں فرماتے ہیں: یحییٰ: عہد عبداللہ بن ہارون میں بصرہ میں صفر ۱۹۸ھ میں فوت ہوئے۔

ابوالمثنیٰ، معاذ بن معاذ بن نصر رضی اللہ عنہما:

ابن حسان بن حرب بن مالک بن خشاش بن جناب بن حارث بن خلف بن حارث بن مجفر بن کعب بن عمرو بن تمیم، آپ ثقہ ہیں اور عہد ہشام بن عبدالملک میں ۱۱۹ھ میں پیدا ہوئے اور امیر المومنین ہارون کی طرف سے بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے پھر آپ کو معزول کر دیا گیا آپ محمد بن ہارون کے زمانہ میں ۷۷ سال کی عمر میں ربیع الآخر ۱۹۶ھ میں فوت ہوئے اور آپ کے جنازے کی نماز محمد بن عباد بن عباد، ہلمی نے پڑھائی مہلب اس وقت بصرہ کے امیر و امام تھے۔

ابومحجر، صفوان بن عیسیٰ زہری رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ اور صالح ہیں آپ عبدالرحمن بن ہارون کے زمانہ میں جمادی میں ۲۰۰ھ میں فوت ہوئے۔
ابوسعید، حماد بن مسعدہ رضی اللہ عنہما:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں آپ عبداللہ بن ہارون کے زمانہ میں جمادی میں ۲۰۲ھ میں فوت ہوئے۔
ابوبکر، ازہر بن سعد سامان رضی اللہ عنہما:

آپ باہلہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ ہیں آپ کی طرف عبداللہ بن عون نے وصیت کی تھی ازہر ۹۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔
ابوعبداللہ، محمد بن سواء بن عمر رضی اللہ عنہما:

آپ سعید بن ابی عروبہ سے راوی ہیں۔
محمد بن عبداللہ بن ثنیٰ رضی اللہ عنہما:

ابن عبداللہ بن انس بن مالک انصاری آپ صدوق ہیں۔

باخبار محمد بن عبداللہ انصاری، بخیر عبداللہ انصاری: میں شوال ۱۱۸ھ میں ہشام بن عبدالملک کے زمانہ میں پیدا ہوا، آپ کو معاذ بن معاذ کے بعد بصرہ کا قاضی مقرر کیا گیا پھر آپ کو بغداد بھیج دیا گیا اور وہاں ہارون کی خلافت کے اخیر زمانہ میں عوفی کے بعد مہدی کی فوج کا افسر بنا دیا گیا پھر جب محمد بن ہارون سریر آرائے خلافت ہوئے تو آپ نے محمد کو بصرہ کی قضاء سے معزول کر دیا اور آپ کی جگہ عون بن عبداللہ مسعودی کو قاضی مقرر کر دیا۔ محمد بن عبداللہ انصاری نے اسماعیل بن علیہ کے بعد عہدہ سنبھالا پھر آپ کو دوسری بار بصرہ کا قاضی مقرر کیا گیا پھر آپ کو عبداللہ بن ہارون نے معزول کر کے آپ کی جگہ یحییٰ بن اسلم کو قاضی بنایا۔ انصاری برابر بصرہ میں حدیثوں کو بیان کرتے رہے حتیٰ کہ بصرہ میں رجب ۲۱۵ھ میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔

عبداللہ بن داؤد ہمدانی رضی اللہ عنہما:

آپ ہمدان قبیلہ کے تھے اور کوفہ سے منتقل ہو کر خزیبہ میں بس گئے تھے جو بصرہ کے نواح میں ایک گاؤں تھا آپ ثقہ اور

عبادت گزار ہیں آپ عبد اللہ بن ہارون کے زمانہ میں شوال ۲۱۳ھ میں فوت ہوئے۔
ابو عاصم نبیل رضی اللہ عنہ۔

آپ کا نام ضحاک بن مخلد شیبانی ہے اور آپ ثقہ اور عالم ہیں آپ عبد اللہ بن ہارون کے زمانہ میں بصرہ میں جمعرات کی شب میں ۱۴ ذی الحجہ ۲۱۲ھ میں رحلت فرما گئے۔
ابو وہب عبد اللہ بن بکر باہلی رضی اللہ عنہ۔

ابن حبیب سہمی۔ آپ ثقہ اور صدوق ہیں آپ بغداد میں محرم ۲۰۸ھ میں فوت ہوئے۔
ابو عبد اللہ محمد بن بکر رضی اللہ عنہ۔

ابن عثمان برسانی ازدی آپ ثقہ ہیں اور عبد اللہ بن ہارون کے زمانہ میں بصرہ میں ذی الحجہ ۲۰۳ھ میں فوت ہوئے۔
ابو عبد اللہ غندر محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ۔

آپ ہذیل کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور محمد بن ہارون کے زمانہ میں ۱۹۴ھ میں فوت ہوئے۔
ابو محمد سعید بن عامر عجمی رضی اللہ عنہ۔

آپ بنو ضیحہ میں مقیم تھے آپ نیک اور ثقہ ہیں۔ عفان کہتے ہیں: میں آپ سے زہد لکھتا ہوں آپ بصرہ میں شوال ۲۰۸ھ میں رانی ملک عدم ہوئے۔

ابو محمد روح بن عبادہ قیس رضی اللہ عنہ۔

آپ قیس بن ثعلبہ کے قبیلہ کے ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔
عثمان بن عمر رضی اللہ عنہ۔

ابن فارس آپ بھی ثقہ ہیں۔
بکار بن محمد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔

ابن محمد بن سیرین: باخبار بکار بن محمد: میں رجب ۱۳۰ھ میں پیدا ہوا فرماتے ہیں میرے والد نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میرا نام محمد بن سیرین نے اپنے نام پر اور میری کنیت اپنی کنیت پر رکھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ چھ سال کے تھے۔

ابو بکر عباد بن صہیب کلبی رضی اللہ عنہ۔

آپ نے علم طلب کیا اور علماء سے حدیثیں سنیں آپ پرانے خیالات کے تھے اور تقدیر کے منکرین میں سے تھے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے تھے لہذا آپ کی حدیثیں چھوڑ دی گئیں آپ عبد اللہ بن ہارون کے زمانہ میں بصرہ میں شوال ۲۱۲ھ میں فوت ہوئے اور آپ کی نماز بصرہ کے حاکم طاہر بن علی بن سلیمان بن عسلی ہاشمی نے پڑھائی۔

ساتواں طبقہ

ابوسعید، عبدالرحمن بن مہدی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور ۱۳۵ھ میں پیدا ہوئے اور بصرہ میں جمادی الثانی ۱۹۸ھ میں ۶۳ سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہوئے۔

ابوالعباس، وہب بن جریر بن حازم جہضمی ازوی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں۔ عفان آپ پر جرح کرتے ہیں آپ حج سے واپس تشریف لارہے تھے کہ بصرہ سے چھ میل دور منجانیہ میں فوت ہو گئے پھر آپ کی لاش بصرہ لائی گئی اور آپ کو بصرہ ہی میں دفن کیا گیا۔

ابوداؤد طیالسی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام سلیمان بن داؤد ہے آپ کثیر الحدیث ہیں اور ثقہ ہیں اور بسا اوقات غلطی کر جاتے ہیں آپ ۹۲ سال کی عمر میں بصرہ میں ۲۰۳ھ میں فوت ہوئے۔ آپ پر بصرہ کے حاکم یحییٰ بن عبداللہ بن عمر بن حسن بن سہل نے نماز پڑھی۔

ابوالاسود، بہز بن اسد رضی اللہ عنہما:

آپ قبیلہ بلعم کے تھے آپ ثقہ، حجت اور کثیر الحدیث ہیں۔

ابوعثمان، عفان بن مسلم صفار رضی اللہ عنہما:

آپ عزہ بن ثابت انصاری کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ، مثبت، حجت اور کثیر الحدیث ہیں فرماتے ہیں: میں نے عفان سے جمعرات کے دن ۱۸ جمادی الثانی ۲۱۰ھ میں سماع کیا اب میں ۶۷ ویں سال میں ہوں گویا آپ ۱۳۲ھ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں ۲۲۰ھ میں فوت ہوئے آپ کی نماز جنازہ عاصم بن علی بن عاصم نے پڑھائی۔

ابوجیب، حبان بن ہلال باہلی رضی اللہ عنہما:

آپ حدیث میں ثقہ، مثبت اور حجت ہیں اور موت سے کچھ دنوں قبل درس حدیث سے رُک گئے تھے آپ بصرہ میں رمضان ۲۱۶ھ میں فوت ہوئے۔

ابوعصمہ، ریحان بن سعید رضی اللہ عنہما:

ابن شقی بن لیث بن صفوان بن زید بن کرمان بن حارث بن حارث بن مالک بن سعد بن عبیدہ بن حارث بن سامہ بن لوئی آپ عبداللہ بن ہارون کے زمانہ میں بصرہ میں ۲۰۳ھ میں یا ۲۰۴ھ میں فوت ہوئے۔

ابوبکر حنفی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام عبدالکبیر بن عبدالجید ہے اور آپ ثقہ ہیں آپ عبداللہ بن ہارون کے زمانہ میں بصرہ میں ۲۰۴ھ میں فوت

ہوئے آپ کے بھائی عبید اللہ ہیں۔

عبید اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبد الحمید۔ آپ سے حدیثیں مروی ہیں اور آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

ابو عامر عقدی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبد الملک بن عمرو ہے اور آپ بنو قیس بن ثعلبہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ ہیں آپ بصرہ میں ۲۲۴ھ میں

فوت ہوئے۔

ابو سہل، عبد الصمد بن عبد الوارث رضی اللہ عنہ:

ابن سعید توری، آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں جیسا کہ ابن معروف کی کتاب میں ہے آپ ۲۲۴ھ میں فوت ہوئے۔

ابو ایوب، سلیمان بن حرب واسطی ازوی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں آپ کو مکہ کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا پھر معزول کر دیا گیا پھر آپ بصرہ تشریف لے آئے اور

مرتے دم تک بصرہ ہی میں رہے آپ ۲۶ ربیع الثانی ۲۲۴ھ میں ۸۴ سال کی عمر میں بصرہ میں فوت ہوئے۔

ابو محمد، بشر بن عمر زہرانی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور مالک بن انس سے راوی ہیں آپ بصرہ میں شعبان ۲۰۹ھ میں فوت ہوئے اور آپ پر بصرہ کے قاضی

یحییٰ بن اشم نے نماز پڑھی۔

ابو الولید طیلسی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ہشام بن عبد الملک ہے آپ ثقہ، ثابت اور حجت ہیں آپ بصرہ میں یکم ربیع الاول ۲۲۷ھ کو ۹۴ سال کی عمر میں

فوت ہوئے۔

ابو محمد، حجاج بن منہال انماطی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں آپ ہفتہ کے دن بصرہ میں ۲۵ شوال ۲۱۷ھ میں انتقال فرما گئے۔

ابراہیم بن ابی سوید رضی اللہ عنہ:

آپ کے پاس حماد بن سلمہ کی صفیں تھیں آپ بصرہ میں ۲۲۳ھ میں فوت ہوئے۔

امیہ بن خالد قیسی رضی اللہ عنہ:

آپ ہی امیہ اسود ہیں۔

ابو خالد ہدبہ بن خالد قیسی رضی اللہ عنہ:

آپ امیہ بن خالد اسود کے بھائی ہیں۔

ابو عبد الرحمن، عبید اللہ بن محمد بن حفص تمیمی قرشی رضی اللہ عنہ:

آپ ابن عائشہ ہیں اور آپ نے حماد بن سلمہ کی تمام صفیں سنی ہیں آپ بصرہ میں رمضان ۲۲۸ھ کو فوت ہوئے۔
سہل بن بکار رضی اللہ عنہ، اسحاق بن عمر رضی اللہ عنہ:

ابن سلیط آپ حماد بن سلمہ سے راوی ہیں۔
ابو عبد الرحمن، عبد اللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ:

ابن قنبح حارثی آپ عابد اور فاضل تھے اور مالک سے مالک کی کتابیں روایت کرتے ہیں اور عبد العزیز در اور دی وغیرہ
(مدینہ کے مشائخ) سے بھی راوی ہیں۔
ابو قتیبہ، مسلم بن قتیبہ رضی اللہ عنہ:

آپ شعبہ وغیرہ سے راوی ہیں۔
ابو حاتم، روح بن اسلم رضی اللہ عنہ، مولیٰ ہابلہ:

آپ حماد بن سلمہ اور شعبہ وغیرہ سے راوی ہیں۔
محمد بن سنان عوفی رضی اللہ عنہ:

آپ ہمام بن یحییٰ سے راوی ہیں۔
عبد اللہ بن سنان عوفی رضی اللہ عنہ، حرمی بن عمارہ بن ابی حفصہ رضی اللہ عنہ، حرمی بن حفص رضی اللہ عنہ:

آپ قتال میں مقیم تھے آپ شعبہ اور حماد بن سلمہ سے راوی ہیں۔
ابراہیم بن حبیب بن شہید رضی اللہ عنہ، ابراہیم بن یحییٰ بن حمید طویل رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن یونس رضی اللہ عنہ:
ابن عبید۔ آپ کے پاس تھوڑی سی حدیثیں تھیں۔

داؤد بن شیبہ رضی اللہ عنہ:

آپ حماد بن سلمہ سے راوی ہیں۔
علی بن عثمان بن عبد الحمید بن لاحق رضی اللہ عنہ:

آپ بشر بن مفضل کے چچا زاد بھائی ہیں آپ بصرہ میں اپنے گھر میں جو بنو العنبر میں تھا ۲۲۷ھ میں فوت ہوئے۔
عبد الرحمن بن مبارک ابو بکر طقواوی رضی اللہ عنہ:
آپ بنی عبس میں مقیم تھے۔

ابو عمرو مسلم بن ابراہیم رضی اللہ عنہ:

آپ ازد کے آزاد کردہ غلام ہیں اور شہام کے لقب سے مشہور تھے آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور صفر ۲۳۲ھ میں بصرہ
میں فوت ہوئے۔

ابو حذیفہ، موسیٰ بن مسعود نہدیؓ:

آپ کثیر الحدیث ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں آپ عکرمہ بن عمار، زہیر بن محمد اور سفیان ثوری سے بہترین راوی ہیں۔ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ سفیان نے آپ کی والدہ سے جب آپ بصرہ میں آئے شادی کر لی تھی ابو حذیفہ بصرہ میں جمادی الثانی ۲۲۰ھ میں فوت ہوئے۔

ابو محمد، یعقوب بن اسحاق حضرمی، مقبریؓ:

محمد شین کے نزدیک آپ اچھے ثبوت نہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ نے بلوغت سے قبل جن سے ملاقات کی ان سے روایت کرتے ہیں۔

ابو اسحاق، احمد بن اسحاق حضرمیؓ:

آپ ثقہ ہیں اور اپنے بھائی سے بڑے ہیں اور بصرہ میں رمضان ۲۱۱ھ میں فوت ہوئے۔
عمر و بن مرزوق باہلیؓ:

آپ ثقہ اور شعبہ سے کثیر الحدیث ہیں اور بصرہ میں صفر ۲۲۴ھ میں فوت ہوئے۔
ابو عمر، محمد بن عرعہ بن بزندؓ:

آپ کے پاس شعبہ وغیرہ سے حدیثیں ہیں آپ ۶۷ سال کی عمر میں شوال ۲۱۳ھ میں فوت ہوئے۔
ابو النعمان، عارم بن فضل سدوسیؓ:

عارم تو لقب ہے آپ کا اصلی نام محمد ہے آپ بصرہ میں ربیع الاول ۲۲۲ھ میں فوت ہوئے۔
حجاج بن نصیر فسا طیبیؓ:

آپ حدیث میں ضعیف ہیں۔
ابو عثمان، عمرو بن عاصم کلابیؓ:

آپ ثقہ ہیں۔
محمد بن کثیر عبدیؓ:

آپ سلیمان بن کثیر کے بھائی ہیں۔
ابو عمر حوضیؓ:

آپ کا نام حفص بن عمر ہے آپ ۲۸ جمادی الثانی کو بدھ کے دن ۲۲۵ھ میں بصرہ میں فوت ہوئے۔
ابو سلمہ، موسیٰ بن اسماعیلؓ:

آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور ۱۳ رجب کو منگل کی شب میں ۲۲۳ھ میں فوت ہوئے اور منگل کے دن مدفون ہوئے۔

محمد بن عبداللہ رقاشی رضی اللہ عنہ:

ابوالہیثم، معلى بن اسد عمى رضی اللہ عنہ، بہز بن اسد رضی اللہ عنہ کے بھائی:

آپ معلم تھے اور رمضان ۲۱۸ھ میں بصرہ میں فوت ہوئے۔

ابومحمد، یحییٰ بن حماد بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور ابوعمانہ سے راوی ہیں اور کبھی اپنے والد حماد سے بھی روایت کرتے ہیں آپ کے والد حسن، ابن سیرین اور عطاء خزاسانی سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ان لوگوں سے عبدالاعلیٰ بن حماد زری نے شیشوں میں بیع سلم کے بارے میں پوچھا تھا۔

عیاش بن ولید ترسی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سوار رضی اللہ عنہ:

ابن قاصی عبداللہ، آپ ۲۲۸ھ میں بصرہ میں فوت ہوئے۔



آٹھواں طبقہ

ابو الحسن، مسدد بن مسدد رضی اللہ عنہما:

ابن مسریل، بن شریک اسدی آپ بصرہ میں رمضان ۲۲۸ھ میں فوت ہوئے۔

عبداللہ بن عبدالوہاب رضی اللہ عنہما:

آپ حماد بن زید وغیرہ سے راوی ہیں۔

ابو الربیع، سلیمان بن داؤد زہرانی رضی اللہ عنہما:

آپ ۲۳۴ھ کے اخیر میں بصرہ میں فوت ہوئے۔

عبداللہ بن محمد بن اسماء بن عبید رضی اللہ عنہما:

آپ اپنے چچا جویریہ بن اسماء سے راوی ہیں۔

محمد بن ابی بکر بن علی رضی اللہ عنہما:

ابن عطاء بن مقدم، ثقیف کے آزاد کردہ غلام۔ آپ بصرہ میں ۲۳۴ھ میں فوت ہوئے آپ کے بھائی عبداللہ بن ابوبکر ہیں۔

عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہما:

ابن علی بن عطاء۔

ابن معمر منقری رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام عبداللہ بن عمرو ہے آپ عبدالوارث تنوری سے کثیر الروایت ہیں۔

ابوظفر رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام عبدالسلام بن مطہر بن حسام بن مصک ہے۔

ابو الحسن، علی بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما:

ابن کحج مدنی آپ سرمن دای میں امیر المؤمنین کی فوج میں پیر کے دن ۲۸ ذی قعدہ ۲۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

ابو اسحاق، ابراہیم بن بشار رمدی رضی اللہ عنہما:

آپ ابن عیینہ کے شاگرد ہیں اور بصرہ میں فوت ہوئے۔

ابراہیم بن محمد بن عمر رضی اللہ عنہما:

ابن برند۔ آپ بغداد میں رمضان ۲۳۳ھ میں فوت ہوئے سامرا میں خلیفہ کی فوج میں بیمار ہوئے پھر آپ کو بغداد لایا گیا

اور بغداد میں آ کر فوت ہوئے۔

علی بن بریؓ:

بھی آپ سے حدیث لکھ لی جاتی ہے آپ بصرہ میں ۲۳۲ھ میں فوت ہوئے۔

سلیمان بن شاذکونیؓ:

آپ حافظ الحدیث تھے اور بصرہ میں ۲۳۲ھ میں فوت ہوئے۔



یہاں تک بصری علمائے کرام اور محدثین عظام کا بیان ختم ہوا۔



واسط کے علمائے کرام اور محدثین عظام کا تذکرہ

ابو ہاشم رمانی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام یحییٰ بن دینار ہے اور آپ ثقہ ہیں۔

یعقوب بن عطاء رضی اللہ عنہ:

آپ عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ ہیں آپ طائف کے ہیں اور بنو امیہ کے آخری دور اقتدار میں واسط میں آ کر بس گئے تھے۔ آپ سے شعبہ بن حجاج، ابو عوانہ، یثیم اور ان حضرات کے شاگردوں نے حدیثوں کا سماع کیا ہے۔

ابو عقیل رضی اللہ عنہ:

جن سے شعبہ راوی ہیں آپ کا نام ہاشم بن سلال یا سلام ہے آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور ثامی ہیں واسط میں آئے تھے اور واسط کے قاضی تھے۔

ابو خالد الدالی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام یزید بن عبد الرحمن ہے اور آپ حدیث میں منکر ہیں۔

قاسم بن ابی ایوب رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور قبل الحدیث ہیں۔

ابو بلج، یحییٰ رضی اللہ عنہ:

ابن ابی سلیم فزاری، ان شاء اللہ آپ ثقہ ہیں آپ سے شعبہ یثیم اور ابو عوانہ راوی ہیں۔ یزید بن ہارون، ابو بلج ہمارے ہمسایہ تھے میں نے دیکھا کہ آپ کو عورتوں کی طرف رغبت نہ تھی آپ نے اپنے گھر میں حمام بنو الیاء تھا تا کہ عورتوں سے مانوس رہیں آپ کثرت سے ذکر اللہ کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا: اگر قیامت آجائے تو ہم یقیناً جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم کثرت سے ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں۔

منصور بن زاذان رضی اللہ عنہ:

حسن کے شاگرد آپ وہی ہیں جن سے یثیم اور ان کے شاگرد راوی ہیں آپ ثقہ، شجرت اور قراءت میں تیز تھے اور اگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہتے تو پڑھ نہ سکتے تھے آپ دن چڑھے قرآن ختم کر لیا کرتے تھے جب آپ ختم کے بعد سجدہ میں جاتے تو لوگ معلوم کر لیتے تھے کہ اب چاشت کا وقت ہوا ہے آپ منتقل ہو کر مبارک میں جو واسط سے ۳۶ میل کی مسافت پر واقع ہے جا بے تھے۔ یزید بن ہارون، منصور طاعون کی وباء کے سال ۱۳۱ھ میں جان بحق ہوئے۔

ابوعیسیٰ عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ:

ابن یزید بن رُویم آپ ثقہ ہیں۔ آپ کو تبلیغ دین سے گہری دلچسپی تھی آپ ۱۳۸ھ میں فوت ہوئے۔

سفیان بن حسین سلمی رضی اللہ عنہ:

آپ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں بقول یزید بن ہارون آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور دوسروں کے قول کے مطابق ابو محمد تھی آپ ثقہ ہیں لیکن غلطیاں بہت کرتے ہیں آپ امیر المؤمنین مہدی کے پاس مؤدب (ادب سکھانے والے) تھے اور آپ مہدی کے زمانہ میں مقام ہری میں فوت ہوئے۔

ابوالعلاء قصاب رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ایوب بن ابی مسکین تھا آپ ثقہ ہیں ابن سعد فرماتے ہیں: میں نے یزید بن ہارون سے سنا فرماتے تھے: آپ ۱۴۰ھ میں فوت ہوئے۔

یزید بن عطاء بزاز رضی اللہ عنہ:

آپ ابو عوانہ کے بزرگوں کے آزاد کردہ غلام ہیں اور حدیث میں ضعیف ہیں۔

ابوعبداللہ اصغ بن زید وراق رضی اللہ عنہ:

آپ جہینہ کے آزاد کردہ غلام ہیں قرآن پاک لکھا کرتے تھے آپ حدیث میں ضعیف ہیں اور مہدی کے زمانہ میں ۱۵۳ھ میں فوت ہوئے۔

ابواحمد خلف بن خلیفہ رضی اللہ عنہ:

اشجع کے آزاد کردہ غلام ہیں واسط کے باشندے تھے مگر بغداد منتقل ہو گئے تھے ثقہ ہیں وفات سے پہلے مفلوج ہو گئے تھے حتیٰ کہ کمزور ہو گئے اور رنگ بھی بدل گیا اور ہوش و حواس بھی صحیح نہیں رہے اور بغداد میں ہشیم سے پہلے ۱۸۱ھ میں تقریباً نوے سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔

ابومعاویہ ہشیم بن بشیر رضی اللہ عنہ:

بنو سلیم کے آزاد کردہ غلام تھے آپ ثقہ ثابت اور کثیر الحدیث ہیں اور کثرت سے تدلیس کرتے ہیں۔ لہذا جس حدیث میں آپ نے اخیر نافر مایا وہ حجت ہے ورنہ کچھ نہیں۔

باخبار سعید بن ہشیم میرے والد ۱۵۰ھ کے شروع میں پیدا ہوئے اور بغداد میں شعبان ۱۸۳ھ میں ہارون کے زمانہ میں ۹۷ سال کی عمر میں وفات پا گئے اور مقبرہ خیزران میں دفن کے گئے۔

خالد بن عبداللہ طحان رضی اللہ عنہ:

مزینہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ ہیں آپ واسط میں ۱۸۱ھ میں فوت ہوئے۔

ابوالحسن، علی بن عاصم رضی اللہ عنہما:

۱۰۹ھ میں پیدا ہوئے اور واسط میں جمادی الاول ۲۰ھ میں ۹۲ سال کی عمر میں چل بسے عاصم صہیب کے بیٹے تھے جو بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام تھے۔

عبدالحکیم بن منصور رضی اللہ عنہما:

خزاع کے آزاد کردہ غلام ہیں اور حدیث میں ضعیف ہیں۔

ابوسعید محمد بن یزید کلاعی رضی اللہ عنہما:

ثقفہ ہیں اور واسط میں ہارون کے زمانہ میں ۱۸۸ھ میں وفات پا گئے۔

ابوسفیان حمیری حذاء رضی اللہ عنہما:

آپ شیخ ہیں ضعیف ہیں اور آپ کے پاس چند حدیثیں ہیں آپ واسط میں بدھ کے دن ۲۳ شعبان ۲۰۲ھ میں فوت ہوئے۔

قرہ بن عیسیٰ رضی اللہ عنہما:

آپ کبھی کبھار اعمش سے راوی ہیں۔

ابو خالد یزید بن ہارون رضی اللہ عنہما:

بنو سلیم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقفہ اور کثیر الحدیث ہیں ۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے فرماتے ہیں: جب میں نے طلب علم کیا تو حصین زندہ تھے اور مبارک میں تھے آپ پر قراءت کی جاتی تھی اور آپ بھول گئے تھے بسا اوقات جریری مجھ سے حدیث کی ابتدا کرتے آپ کو منکر مانا گیا ہے۔ یزید فرماتے ہیں میں شوال ۱۹۹ھ میں ۸۱ یا ۸۲ سال کا تھا آپ مامون کے زمانہ میں ۸۸ یا ۸۷ سال کے ہو کر فوت ہوئے۔

ابومحمد اسحاق بن یوسف ازرق رضی اللہ عنہما:

ثقفہ ہیں اور اکثر غلط ملط کر دیتے ہیں آپ محمد بن ہارون کے زمانہ میں واسط میں ۱۹۵ھ میں فوت ہوئے۔

محمد بن حسن رضی اللہ عنہما:

شامی تھے واسط پر قاضی مقرر ہوئے ثقفہ ہیں۔

ابوالحسن، فضل بن عنسیہ خزاز رضی اللہ عنہما:

آپ معروف و ثقفہ ہیں اور یزید بن ابراہیم تستری اور حماد بن سلمہ وغیرہ سے راوی ہیں۔

صلہ بن سلیمان رضی اللہ عنہ:

معروف و مشہور ہیں۔

سرور بن مغیرہ بن زاذان رضی اللہ عنہ:

آپ منصور بن زاذان کے بھتیجے ہیں اور معروف ہیں اور تفسیر عباد بن منصور از حسن سے روایت کیا کرتے تھے۔

رحمہ بن مصعب رضی اللہ عنہ، بشر بن مبشر رضی اللہ عنہ، عاصم بن علی بن عاصم رضی اللہ عنہ:

آپ شعبہ، سلیمان بن مغیرہ، لیث بن سعد اور مسعودی وغیرہ سے راوی ہیں، ثقہ ہیں لیکن حدیث میں معروف نہیں اور روایات میں بہت غلطیاں کرتے ہیں آپ پیر کے دن ۱۵ رجب ۲۲۱ھ میں ابوالحسن کے زمانہ میں فوت ہوئے آپ کے جنازے کی نماز واسطہ کے حاکم مطلب بن فہم بن ابی القاسم خراسانی نے پڑھائی۔

ابو عثمان، عمرو بن عون بن اوس رضی اللہ عنہ:

آپ ابوالحسن بن ہارون کے زمانہ میں واسطہ میں ۲۲۵ھ میں فوت ہوئے۔



مدائن کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر

حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ:

ابن حسیل بن جابر بن ربیعہ بن عمرو بن جروہ (الیمان) بن حارث بن قطیعہ بن عیسٰی آپ کی والدہ رباب بنت کعب بن عدی بن کعب بن عبد الاشہل ہیں۔

باخبار و کعب بن جراح اور عبد اللہ بن نمیر بن عبد بن عمش از ابی وائل (اپنی روایت کردہ حدیث میں) حذیفہ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

محمد بن عمر: حذیفہ رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہ تھے ہاں احد میں آپ آپ کے والد اور آپ کے بھائی صفوان سب شریک تھے۔ اس دن آپ کے والد شہید کر دیے گئے تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ خندق میں اور خندق کے بعد کے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو مدائن کا حاکم مقرر فرما دیا تھا۔

باخبار و کعب بن جراح اور فضل بن دکین از مالک بن مغول از طلحہ: حذیفہ مدائن میں ایک گدھے پر سوار ہو کر جس پر پالان تھا بیروں کو لٹکائے ہوئے داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ گوشمت اور روٹی تھی اسے کھا رہے تھے۔ محمد بن عمر: حذیفہ مدائن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فوت ہوئے مدائن ہی میں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی آپ اس سانحہ کے چند ماہ بعد ۳ھ میں فوت ہوئے اور اولاد مدائن میں چھوڑی۔

سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ:

باخبار ابو معاویہ ضریر بن عبد اللہ و عمش از ابو ظلیان از جریر بن عبد اللہ و عمش از ابوسفیان از شیوخ ابوسفیان: سلیمان کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

باخبار اسماعیل بن ابراہیم از عوف از ابو عثمان نہدی از سلیمان فارسی (ابو عثمان سے) کیا تم کو رامہ مڑ کا پتہ معلوم ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں فرمایا: میں اس کے اہل میں سے ہوں۔ باخبار محمد بن عبد اللہ اسدی بن عمش از ابوالعلاء عبید از عامر بن واثلہ از سلیمان: میں جی کے اہل سے ہوں۔

باخبار یوسف بن بہلول بن عبد اللہ بن ادریس بن عمش از عاصم بن عمر بن قتادہ از محمود بن سعید از ابن عباس بن عبد اللہ بن سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ: میں اصفہانی ہوں اور جی کا باشندہ ہوں میرے والد اپنی زمین میں کاشت کیا کرتے تھے میں ان کے پاس سے دین کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا پھر مجھے کلب کے لوگوں نے پکڑ لیا اور ایک یہودی کے فروخت کر دیا پھر اس یہودی نے بنو قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالا وہ یہودی مجھے مدینہ منورہ لے آیا پھر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ

تشریف لائے تو میں غلام ہونے کی وجہ سے آپ سے مل نہ سکا حتیٰ کہ بدر واحد میں بھی شریک نہ ہو سکا پھر مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کتابت کا معاملہ کر لو چنانچہ میں نے کتابت کی رقم ٹھہرائی آپ نے ایک انڈے کے برابر مجھے سونادے کر میری مدد فرمائی چنانچہ میں نے کتابت کی پوری رقم ادا کر دی اور آزاد ہو گیا اور غزوہ خندق میں اور بعد والے تمام غزوات میں شامل رہا کیونکہ اب میں آزاد مسلمان تھا۔

باخباہ اسماعیل بن ابراہیم از یونس از حسن: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سلیمان سبقت کرنے والے شہسوار ہیں۔ باخباہ محمد بن اسماعیل بن ابوفدیک بخدایت کثیر بن عبداللہ از عبداللہ از پدر عبداللہ: خندق کے دن مسلمان کے بارے میں مہاجرین و انصار میں جھگڑا ہو گیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔

باخباہ مسلم بن ابراہیم بخدایت سلام بن مسکین بخدایت ثابت بن قطبہ: سلمان امیر مدائن تھے۔ محمد بن عمر۔ سلمان فارسی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں مدائن میں فوت ہوئے۔

مدائن کے محدثین کرام و علمائے عظام کا بیان

ابو جعفر مدائنی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبداللہ بن منصور بن محمد بن جعفر بن ابی طالب ہے آپ معروف و قلیل الحدیث ہیں۔

ابو عبدالرحمن عاصم احوال بن سلیمان رضی اللہ عنہ:

بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ ثقہ ہیں اور بصرہ کے رہنے والے ہیں کئی عہدے سنبھالے مختلف ملکوں پر حاکم مقرر ہوئے چنانچہ کوفہ میں ناپ تول کی نگرانی پر رہے اور ابو جعفر کے زمانہ میں مدائن کے قاضی رہے آپ ۱۲۱ھ میں یا ۱۲۲ھ میں فوت ہوئے۔

ہلال بن خباب رضی اللہ عنہ:

آپ بھی اصل میں بصری تھے پھر مدائن میں مقیم ہو گئے اور مدائن ہی میں ۱۲۴ھ کے اخیر میں رحلت فرما گئے۔

ہذیل بن بلال فزاری رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں ضعیف ہیں۔

نعیم بن حکیم رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں کچھ اچھے نہیں۔

ابو یحییٰ نصر بن حاجب قرظی رضی اللہ عنہ:

آپ اولاد حارث بن لوی میں سے ہیں اصل میں آپ خراسانی ہیں مدائن میں بس گئے تھے اور مدائن ہی میں ۱۴۵ھ میں

پچاس سے کچھ اوپر عمر میں انتقال فرما گئے۔

ابو عمرو و شبابہ بن سوار فرزاری رضی اللہ عنہما:

قوم کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ حدیث میں صاحب اور ثقہ ہیں مرید تھے۔

ابو صالح، شعیب بن حرب رضی اللہ عنہما:

آپ خراسانی کے فرزند تھے اور بغداد کے باشندے تھے پھر منتقل ہو کر مدائن میں جا بے اور معتزلہ خیالات کے ہو گئے آپ

ثقہ اور قابل تھے پھر آپ مکہ میں مقیم ہو گئے اور مرتے دم تک مکہ ہی میں رہے۔

علی بن حفص رضی اللہ عنہ:

بغداد میں علمائے کرام و محدثین عظام

(خواہ بغدادی ہوں یا غیر بغدادی مگر بغداد میں وفات پانے والے ہوں)

اسماعیل بن سالم اسدی رضی اللہ عنہ:

جن سے ہشیم راوی ہیں آپ ثقہ اور ثبت ہیں آپ اصل میں کوئی تھے پھر آپ منتقل ہو کر بغداد میں بغداد کے آباد ہونے

سے قبل بس گئے ہشام اور دیگر خلفاء کے لیے بغداد میں ہر وقت پانچ سواریوں کا ایک دستہ تیار رہا کرتا تھا جو ضرورت کے وقت باغیوں

کی سرکوبی کیا کرتا تھا اور ان کی قوت کو بڑھانے سے پہلے کچل دیا کرتا تھا۔

ابو المنذر ہشام بن عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما:

ابن عوام بن خویلد بن اسد آپ کی والدہ ام ولد تھیں آپ ثقہ، حجت اور کثیر الحدیث ہیں آپ کا سماع عبداللہ بن

زبیر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے آپ کوفہ میں بطور نمائندہ ابو جعفر منصور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہیں کے ساتھ بغداد پہنچے اور

بغداد میں ۴۶ھ میں راہی ملک عدم ہوئے اور مقبرہ خیزران میں مدفون ہوئے۔

ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن یسار رضی اللہ عنہما:

آپ قیس بن مخرمہ بن مطلب بن عبد مناف بن قصی کے آزاد کردہ غلام تھے آپ کے دادا یسار عین التمر کے قیدیوں میں

آئے تھے۔ محمد ثقہ ہیں لوگ آپ سے روایت کرتے ہیں۔ ثوری شعیب ابن عیینہ یزید بن ربیع ابراہیم بن سعد اسماعیل بن علیہ یزید بن

ہارون اعلیٰ محمد پسران عبید اور عبداللہ بن نمیر وغیرہ آپ سے راوی ہیں بعض علماء نے آپ پر جرح کی ہے آپ ابتداء ہی میں اپنے

شہر سے نکل گئے تھے اور کوفہ جزیرہ اور ری کے بعد بغداد پہنچے اور بغداد ہی میں تادم واپس رہے اور ۱۵۰ھ میں بغداد ہی میں فوت

ہوئے اور مقبرہ خیزران میں دفن ہوئے۔

ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ عنہ:

ابن ثابت جو بنو تميم اللہ بن ثعلبہ کے آزاد کردہ غلام تھے آپ حدیث میں ضعیف ہیں اور صاحب رائے ہیں بغداد تشریف

لائے اور بغداد ہی میں رجب یا شعبان ۱۵۰ھ میں ۷۰ سال کی عمر میں وفات پائی اور مقبرہ خیزران میں دفن ہوئے۔

ابو معاویہ نخوی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام شیبان بن عبدالرحمن ہے جو بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام تھے آپ داؤد بن علی وغیرہ کے بچوں کے اتالیق تھے حدیث میں ثقہ ہیں اور مہدی کے زمانہ میں بغداد میں ۶۲ھ میں فوت ہوئے اور باب التہن کے پاس مقبرہ قریش میں دفن کیے گئے۔
ابو اسحاق، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم رضی اللہ عنہ:

ابن عبدالرحمن بن عوف زہری، آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور اکثر حدیثوں میں غلطیاں کرتے ہیں آپ بغداد میں مد اہل و عیال کے آئے تھے اور امیر المؤمنین ہارون کے بیت المال کے نگران اور منتظم مقرر ہو گئے تھے اور بغداد ہی میں ۸۳ھ میں فوت ہوئے اور باب التہن کے قبرستان میں دفن ہوئے۔
ابو عبداللہ، عبدالعزیز بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

ابن ابی سلمہ ماشون: آپ آل ہدیہ تمیمین کے آزاد کردہ غلام تھے ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور مدنیوں کی بہ نسبت عراقی آپ سے زیادہ راوی ہیں، آپ بغداد میں رہائش پذیر ہو گئے تھے اور بغداد ہی میں مہدی کے زمانہ میں فوت ہوئے مہدی آپ کے جنازے میں شریک ہوئے اور مہدی ہی نے نماز پڑھائی اور آپ کو مقبرہ قریش میں دفن کیا آپ کی وفات ۶۳ھ میں ہوئی۔
ابو طاہر، عبدالملک بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ:

ابن محمد بن عمرو بن حزم بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبید بن عوف بن مالک بن نجار، آپ کی والدہ امۃ الوہاب بنت عبداللہ بن عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر غسبل تھیں آپ بغداد میں مقیم ہو گئے تھے اور آپ کو امیر المؤمنین ہارون نے مہدی کے لشکر، قاضی بنا دیا تھا پھر آپ فوت ہو گئے اور آپ پر ہارون نے نماز پڑھی اور مقبرہ عباسیہ بنت مہدی میں دفن کیے گئے آپ قلیل الحدیث ہیں۔

ابو الیسیر، محمد بن عبداللہ بن علاشہ کلابی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں آپ حرانی تھے پھر بغداد آئے تو مہدی نے آپ کو اپنی فوج کا قاضی بنا دیا پھر آپ کے ساتھ ار عہدے پر عافیز بن یزید اودی کو بھی مقرر کر دیا گیا۔ مجھے علی بن جعد نے بتایا کہ میں نے ان دونوں کو جامع مسجد کے چبوترے پر ایک مسجد سے قریب اور ایک کو مسجد سے دور فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا عافیز زیادہ تر مہدی کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔
زیاد بن عبداللہ بن علاشہ کلابی رضی اللہ عنہ:

آپ اپنے بھائی محمد بن عبداللہ کے نائب تھے اور محمد کی جگہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔

ابو المنذر، اسماعیل بن عمر رضی اللہ عنہ:

آپ سفیان ثوری اور مالک بن انس سے راوی ہیں۔

عبید بن ابی قرہ رضی اللہ عنہ، ابو جعفر، محمد بن سابق رضی اللہ عنہ:

آپ بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام ہیں، کوئی تھے پھر بغداد قطیعیہ الریح میں آئے اور بغداد ہی میں فوت ہو گئے۔

سعید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ

ابن جبیل نجفی، آپ بغداد میں مہدی کی فوج میں قاضی تھے اور بغداد ہی میں فوت ہوئے۔

ابو محمد، عبد الرحمن بن ابوالزناد رضی اللہ عنہ:

آپ اپنے کسی کام کے لیے بغداد تشریف لائے تو آپ سے بغدادیوں نے حدیثوں کا سماع کیا آپ کثیر الحدیث ہیں اور ضعیف بتائے جاتے ہیں کیونکہ اپنے والد سے راوی ہیں، آپ ہارون کے زمانہ میں بغداد میں ۴۷ھ میں فوت ہوئے اور باب التین کے قبرستان میں دفن ہوئے آپ کے صاحبزادے محمد ہیں۔

ابو عبد اللہ، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

آپ کی اپنے والد کے اکثر لوگوں سے ملاقات ہے آپ ثقہ ہیں اور علم کثیر کے مالک ہیں لیکن آپ قبل اس کے کہ لوگ آپ سے سماع کریں فوت ہو گئے، آپ نے اپنے والد کے ۲۱ دن کے بعد ۷۲ھ ۵۴ سال کی عمر میں وفات پائی اور مقبرہ خیزران میں مدفون ہوئے۔

ابو معاویہ، ہشیم بن بشیر واسطی رضی اللہ عنہ:

آپ بغداد میں تشریف لائے اور بغداد ہی میں منگل کے دن شعبان ۸۳ھ میں ہارون کے زمانہ میں فوت ہوئے آپ ثقہ ہیں مگر مدلس ہیں۔

ابو بشر، اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم رضی اللہ عنہ:

آپ عبد الرحمن بن قطبہ اسدی (اسد خزیمہ کوئی) کے آزاد کردہ غلام تھے۔ مقسم قیقانیہ (جو خراسان و زابلستان کے درمیان ہے) کے قیدیوں میں آئے تھے اور ابراہیم بن مقسم کوفہ کے تاجر تھے آپ تجارتی مال لے کر بصرہ آیا جایا کرتے تھے ایک دفعہ آپ بصرہ میں ٹھہر گئے اور یہاں آپ نے علیہ بنت حسان (جو بنی شیبان کی آزاد کردہ لونڈی تھیں) شادی کر لی، علیہ ایک شریف، عقلمند اور ممتاز خاتون تھیں آپ کا بصرہ کے محلہ عوقدہ میں مکان تھا اور اسی مکان سے پہچانی جاتی ہیں۔ بصرہ کے ممتاز صوفیاء اور علماء جیسے صالح مری وغیرہ آپ کے پاس آتے جاتے تھے آپ ان کے پاس آتیں ان سے باتیں کرتیں اور مسائل پوچھا کرتی تھیں آپ ہی کے بطن سے ابراہیم کے اسماعیل پیدا ہوئے اور آپ کی طرف منسوب ہوئے اور بصرہ ہی میں رہے پھر اسماعیل کے بعد ربیع پیدا ہوئے، اسماعیل حدیث میں ثقہ اجمت اور ثبت ہیں آپ بصرہ پر صدقات کے افسر تھے اور ہارون کی خلافت کے اخیر زمانہ میں بغداد میں جھگڑوں کے افسر تھے اور بغداد ہی میں معہ اولاد کے آپسے تھے اور ایک گھر بھی خرید لیا تھا۔ آپ بغداد میں پیر کے دن ۱۳۳ھ کی قدر ۱۹۳ھ میں رحلت کر گئے اور بدھ کے دن عبد اللہ بن مالک کے قبرستان میں مدفون ہوئے آپ کے جنازے کی نماز آپ کے صاحبزادے ابراہیم بن اسماعیل نے پڑھائی جس دن اسماعیل فوت ہوئے ہیں اس دن بغداد میں وکع بن جراح موجود تھے۔

ابوزیاد، اسماعیل بن زکریا رضی اللہ عنہ:

ابن مرہ جو سواہ بن حارث بن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ غلد وغیرہ کے تاجر تھے اور

کوئی تھے اور بغداد میں ربیع بن حمید بن قحطبه میں آئے تھے آپ بغداد ہی میں ۳۷ھ کے آغاز میں ۵۷ سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔

عنبسہ بن عبدالواحد قرشی رضی اللہ عنہ، ابوسعید مودب رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام محمد بن مسلم بن ابوالوضاح ہے آپ خزاعہ کے ایک قبیلہ کے آدمی ہیں آپ اصل میں جزری ہیں جب ابو جعفر منصور جزیرہ کے حاکم ہوئے تو آپ نے مہدی کو ابوسعید کے حوالہ کر دیا اس وقت مہدی تقریباً دس سال کے تھے آپ ان کے ساتھ بغداد آئے پھر منصور نے آپ کو سفیان بن حسین کو بھی دے دیا پھر مہدی نے آپ کے حوالہ علی بن مہدی کو کیا اور علی ابوسعید کے زیر تربیت رہے حتیٰ کہ ابوسعید امیر المؤمنین موسیٰ کے زمانہ میں بغداد میں فوت ہو گئے اور مقبرہ خیزران میں دفن ہوئے آپ کا گھر رصافہ میں تھا۔

ابوسعید سالم افطن، نصیف، عبدالکریم جزری، علی بن یزید، ابراہیم بن ابوحزہ، ہشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید، محمد بن عمرو بن علقمہ، عمش، اسماعیل بن ابوالخالد، مسعر، جلیج، کنڈی اور سلیمان تمیمی وغیرہ سے راوی ہیں۔ اور آپ ثقہ ہیں۔
ابو اسماعیل مودب رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ابراہیم بن سلیمان ہے۔

ابومعاویہ، عباد بن عباد بن حبیب رضی اللہ عنہ:

ابن مہلب بن ابوسفیر عتکی۔ آپ ثقہ ہیں اور اکثر غلطیاں کرتے ہیں آپ ابوحزہ اور واصل ولی ابوعیینہ سے راوی ہیں آپ اصل میں بصری ہیں لیکن بغداد میں آئے تھے اور بغداد ہی میں فوت ہوئے۔
ابوفضالہ، فرج بن فضالہ رضی اللہ عنہ:

آپ شام میں حمص کے رہنے والے تھے پھر بغداد تشریف لے آئے اور ہارون کی آغاز خلافت میں بیت المال کے منتظم مقرر ہوئے آپ ابو جعفر منصور کے محلہ میں رہائش پذیر تھے اور بغداد ہی میں ۱۷۷ھ میں فوت ہوئے حدیث میں ضعیف ہیں کبھی آپ سے روایت لے لی جاتی ہے۔

اسماعیل بن جعفر بن ابوکثیر مدنی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور ان پانچ سو حدیثوں کے راوی ہیں جو لوگوں نے آپ سے سنیں اصل میں آپ مدنی تھے پھر بغداد آ گئے اور تادم والہیں بغداد ہی میں رہے۔

ابوعبدالرحمن، عبید اللہ بن عبید الرحمن اشجعی رضی اللہ عنہ:

آپ زہری کی کتابیں معان کی سندوں کے روایت کرتے ہیں اور آپ سے جامع روایت کرتے ہیں آپ کوئی تھے پھر بغداد میں آ گئے اور آخری دم تک بغداد ہی میں رہے اور بغداد ہی میں فوت ہوئے۔

ابوالیقظان، عمار بن محمد رضی اللہ عنہما:

آپ سفیان بن سعید ثوری کے بھانجے ہیں اور ثقہ ہیں اور کوفیوں جیسے عطاء بن سائب وغیرہ سے راوی ہیں آپ کوئی تھے بغداد تشریف لے آئے اور بغداد ہی میں فوت ہوئے۔

طلحہ بن یحییٰ انصاری رضی اللہ عنہ:

آپ ربیع انصار میں مقیم تھے آپ یونس بن یزید ابلی سے راوی ہیں اور آپ سے عباد بن موسیٰ نے کثرت سے حدیثیں سنی ہیں۔

مروان بن شجاع رضی اللہ عنہ:

آپ کو حصفی کہا جاتا تھا آپ جزری تھے اور حران کے باشندے تھے اور حصف سے راوی ہیں پھر بغداد آ گئے اور امیر المومنین موسیٰ کی اولاد کے اتالیق مقرر ہوئے اور موت کے وقت تک بغداد ہی میں رہے۔

ابوعبدالرحمن عبیدہ بن حمید تمیمی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور صالح الحدیث ہیں اصل میں آپ کوئی ہیں اور نحو لغت اور قراءت کے جید عالم ہیں پھر ہارون کے زمانہ میں بغداد میں تشریف لے آئے ہارون نے آپ کو اپنے بیٹے محمد کے ساتھ کر دیا آپ اسی سے وابستہ رہے حتیٰ کہ بغداد میں وفات پا گئے۔

ابوحفص، ابان، عمر بن عبدالرحمن اسدی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں اور منصور بن معتمر وغیرہ سے راوی ہیں اصل میں آپ کوئی تھے پھر بغداد میں مقیم ہو گئے اور یہیں فوت ہو گئے۔

ابوعبیدہ، حداد، عبدالواحد رضی اللہ عنہما، ابو عبداللہ مروان بن معاویہ رضی اللہ عنہ:

ابن حارث بن اسماء بن خارجہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر فزاری آپ اصل میں کوئی ہیں پھر کوفہ میں آئے پھر بغداد میں مقیم ہو گئے۔ آپ سے بغدادیوں نے حدیثیں سنی آپ ثقہ ہیں پھر مکہ معظمہ میں مقیم ہو گئے اور مکہ ہی میں ۱۰ ذی الحجہ کو ترویہ کے ایک دن

قبل ۸۱ سال کی عمر میں ۱۹۳ھ میں فوت ہو گئے۔

ابوسہل، عباد بن عوام رضی اللہ عنہما:

آپ واسط کے باشندے ہیں اور شیعہ تھے ہارون نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا تھا پھر آپ ایک زمانہ کے بعد رہا کر دیئے گئے پھر آپ بغداد آ گئے اور آپ سے بغدادیوں نے حدیثیں سنی آپ ثقہ ہیں اور نہر بزارین پر کرخ میں مقیم تھے آپ

امیر المومنین ہارون کے زمانہ میں ۱۸۵ھ میں فوت ہوئے۔

ابوالحسن، علی بن ثابت رضی اللہ عنہما:

آپ عباس بن محمد ہاشمی کے آزاد کردہ غلام ہیں اصل میں آپ جزیرہ کے تھے پھر بغداد آ کر بغداد ہی میں بس گئے اور یہیں فوت ہوئے آپ حدیث میں ثقہ اور صدوق ہیں۔

قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن سعد بن بکیر بن معاویہ بن قافہ بن نفیل بن سعد بن عبد مناف بن ابواسامہ بن حمہ بن سعد بن عبد اللہ بن قراہہ بن ثعلبہ بن معاویہ بن زید بن غوث بن بنجیلہ ہے اور آپ کی والدہ ام سعد بن بکیر جبہ بنت مالک ہیں جو عمرو بن عوف النزاری کی اولاد میں سے ہیں۔ سعد اپنی والدہ کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں اور سعد بن جبہ کہلاتے ہیں یہ لوگ بنو عمرو بن عوف کے حلیف تھے ابو یوسف کو کوفیوں سے جیسے ابو حنیفہ، مغیرہ، حصین، مطرف، ہشام بن عروہ اور اعمش وغیرہ سے بہت سی حدیثیں پہنچی تھیں اور آپ حافظ حدیث کے لقب سے معروف تھے آپ کسی محدث کے پاس پہنچتے اور پچاس ساٹھ حدیثیں حفظ کرتے پھر کھڑے ہو کر لوگوں کو سنا دیتے پھر آپ امام ابو حنیفہ کو چٹ گئے اور ان سے علم فقہ سیکھا پھر آپ پرزائے کا غلبہ ہو گیا اور حدیثیں چھوڑ بیٹھے۔ مہدی نے آپ کو اپنے صاحبزادے موسیٰ کے ساتھ وابستہ کر دیا موسیٰ مہدی کے عہدہ قضاء پر نائب تھے جب موسیٰ کے پاس خلافت آئی تو موسیٰ ہی کے ساتھ جرجان میں تھے پھر موسیٰ کے ساتھ بغداد آئے اور موسیٰ نے آپ کو بغداد کا قاضی مقرر کر دیا پھر آپ ہارون کے زمانہ میں ۱۸۲ھ میں رحلت فرما گئے۔

ابو عبد اللہ حسین بن حسن بن عطیہ رضی اللہ عنہ:

ابن سعد بن جنادہ عوفی، آپ اصل میں کوفی ہیں اور آپ سے کثرت سے حدیثیں سنی ہیں مگر حدیث میں ضعیف ہیں پھر آپ بغداد تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کو حفص بن غیاث کے بعد قضاء شریقیہ کا عہدہ دے دیا پھر آپ کا شریقیہ سے تبادلہ ہوا اور آپ ہارون کے زمانہ میں مہدی کی فوج کی قضاء پر متعین فرمائے گئے پھر اس سے معزول کر دیئے گئے آپ بغداد میں ۲۰۱ھ یا ۲۰۲ھ میں فوت ہوئے۔

ابو الہمذر اسد بن عمرو بن بکلی رضی اللہ عنہ:

آپ بجیلہ قبیلہ کے تھے اور آپ کو بہت سی حدیثیں یاد تھیں آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں آپ نے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا اور فقہ سیکھا آپ کوئی تھے پھر بغداد تشریف لے آئے اور عوفی کے بعد شہر کے مشرقی حصہ کے قاضی مقرر ہوئے۔

عاقبہ بن یزید اووی رضی اللہ عنہ:

آپ بھی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شامل ہیں اور مہدی کے زمانہ میں مہدی کی فوج میں آپ کو قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔

عصمہ بن محمد النزاری رضی اللہ عنہ:

آپ بغداد میں النزاری کی بڑی مسجد کے امام تھے اور کھل بن ابوالفح، یحییٰ بن سعید اور عبید اللہ بن عمر سے راوی ہیں اور علماء کے نزدیک حدیث میں ضعیف ہیں۔

ابو سعید مسیب بن شریک رضی اللہ عنہ:

آپ بنو شقرہ تمیم سے ہیں خراسان میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں پلے بڑھے۔ آپ نے حدیثیں اعمش، اسماعیل بن ابوالخالد اور عبد الملک بن ابوسلیمان وغیرہ سے سنیں اور حدیث میں ضعیف و ناقابل احتجاج ہیں پھر آپ بغداد میں آئے اور امیر المؤمنین

ہارون کے بیت المال کے متولی بن گئے آپ کا گھر ابو جعفر منصور کے شہر میں تھا آپ صاحب اولاد ہیں اور بغداد میں ۸۷ھ میں فوت ہوئے۔

قاضی ابوالبستری دہب رضی اللہ عنہ:

ابن کثیر بن عبداللہ بن زعمہ بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی آپ اصل میں مدنی تھے پھر شام سے بغداد آ گئے اور آپ کو امیر المؤمنین ہارون نے مہدی کی فوج میں قضاء کا عہدہ دے دیا پھر آپ کو اس عہدے سے معزول کر کے یکار بن عبداللہ زبیری کے بعد مدینہ منورہ کا حاکم بنا دیا گیا اور مدینہ کی امامت جنگ اور قضاء کے عہدے بھی آپ کے حوالہ کر دیئے گئے آپ صاحب الرائے اور قرشی شیخ تھے لیکن حدیث میں اچھے نہ تھے آپ نے منکر روایتیں بیان کیں لہذا آپ کی حدیثیں چھوڑ دی گئیں پھر آپ کو مدینہ سے معزول کر دیا گیا اور آپ بغداد تشریف لے آئے اور بغداد میں ۲۰۰ھ میں فوت ہو گئے۔

ابو محمد حجاج بن محمد عمور رضی اللہ عنہ:

آپ سلیمان بن مجالد کے آزاد کردہ غلام ہیں جو ابو جعفر منصور کے آزاد کردہ غلام تھے آپ بغداد میں ایک مدت دراز تک رہے پھر معہ اہل و عیال کے مصیبت منتقل ہو گئے اور وہاں دو سال قیام فرما کر کسی کام کے لیے بغداد تشریف لائے اور بغداد ہی میں قیام فرما تھے کہ ربیع الاول ۲۰۶ھ میں انتقال فرما گئے آپ ان شاء اللہ صدوق وثقہ ہیں آخر عمر میں آپ کے حواس میں فرق آ گیا تھا جب آپ بغداد واپس آئے تھے۔

ابونصر عبدالوہاب بن عطاء عجلی خفاف رضی اللہ عنہ:

آپ بصری تھے اور برابر سعید بن ابی عمرو کی صحبت میں رہتے تھے اور آپ کی صحبت ہی سے آپ پہچانے جاتے ہیں آپ نے سعید کی کتابیں لکھی آپ یونس بن عبید، خالد، حذاف، حمید، طویل، عوف، اعرابی، ابن عون، داؤد بن ابو ہند اور عمران بن حدید وغیرہ سے راوی ہیں آپ کثیر الحدیث اور معروف ہیں اور ان شاء اللہ صدوق ہیں پھر آپ بغداد آ کر بغداد ہی میں مقیم ہو گئے اور کرخ والے بازار میں آتے جاتے رہے حتیٰ کہ پنچہ اجل کے شکار ہو گئے۔

ابو بدر شجاع بن ولید بن قیس سکونی رضی اللہ عنہ:

آپ امش، ہشام بن عروہ اور نصیف وغیرہ سے راوی ہیں آپ کی عمر ۹۰ سے آگے بڑھ گئی تھی آپ پارساتھے اور کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے آپ مامون کے زمانہ میں رمضان میں ۲۰۷ھ میں بغداد میں فوت ہو گئے۔ آپ کے فرزند ولید ہیں۔

ابو ہمام ولید بن شجاع بن ولید رضی اللہ عنہ:

آپ بقیۃ اسماعیل بن عیاش اور ولید بن مسلم وغیرہ سے راوی ہیں۔

عبداللہ بن بکر سہمی رضی اللہ عنہ:

سہم ہابلہ کا ایک ذیلی خاندان ہے آپ اصل میں بصری ہیں اور ثقہ اور صدوق ہیں آپ بغداد میں سعید بن مسلم کے پاس ٹھہرے اور آپ سے بغدادیوں نے حدیثیں سنیں آپ منگل کی شب کو ۲۰۷ھ میں مہرم الحرام ۲۰۷ھ میں مامون کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابوہل، کثیر بن ہشام رضی اللہ عنہما:

آپ جعفر بن برقان کے شاگرد ہیں آپ بغداد میں بازار والے باب الکرخ میں مقیم تھے اور تاجروں کو تیار کرایا کرتے تھے آپ صدوق وثقہ ہیں پھر آپ حسن بن ہبل کے پاس فم الصلح میں تشریف لے گئے اور وہاں شعبان ۲۰ھ میں انتقال فرما گئے۔
بکر بن الطویل رضی اللہ عنہ، ابو عبد اللہ محمد بن عمر واقد اسلمی رضی اللہ عنہما:

آپ بریدہ اسلمی کے آزاد کردہ غلام ہیں اور مدنی ہیں لیکن آپ قرض کے سلسلہ میں ۱۸۰ھ میں بغداد تشریف لے آئے تھے پھر آپ بغداد ہی میں رہے اور شام ورقہ کے سفر بھی کئے پھر بغداد ہی واپس آ گئے اور بغداد ہی رہے حتیٰ کہ مامون خراسان سے بغداد آئے اور انہوں نے آپ کو مہدی کی فوج کی قضاء کا عہدہ دے دیا پھر آپ برابر قاضی رہے حتیٰ کہ بغداد میں منگل کی شب کو ۱۱ ذی الحجہ ۲۰ھ میں ۸۷ سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہو گئے اور منگل کے دن مقبرہ خیزران میں دفن کر دیئے گئے کہتے ہیں آپ مروان بن محمد کی خلافت کے آخری زمانہ میں ۱۳۰ھ میں پیدا ہوئے تھے آپ محمد بن عثمان ربیعہ ضحاک بن عثمان، معمر ابن جریج، ثور بن یزید، حرمة بن کبیر، فلاح بن سعید، فلاح بن حمید، یحییٰ بن عبد اللہ بن ابوقادہ اور ابن ابوزیب سے راوی ہیں آپ اسلامی غزوات لوگوں کے اختلافات اور ان کے خیالات سے خوب آگاہ تھے۔

ابوالضر، ہاشم بن قاسم کنانی رضی اللہ عنہما:

آپ بنو لیث کے آدمی تھے اور خراسانی تھے بغداد میں بس گئے تھے آپ ثقہ ہیں اور سلیمان بن مغیرہ، شعبہ، مسعودی، ابن ابوزیب، حریر بن عثمان، زہیر بن معاویہ، محمد بن طلحہ بن مصرف، ابو جعفر رازی اور شریک وغیرہ سے راوی ہیں آپ مامون کے زمانہ میں بغداد میں یکم ذیقعدہ ۲۰ھ میں فوت ہوئے اور مقابر عبد اللہ بن مالک میں دفن کر دیئے گئے۔

ابونوح، قراد رضی اللہ عنہما:

آپ عبد اللہ بن مالک کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ ہیں اور شعبہ اور حجاج سے بہت روایتیں لاتے ہیں۔

ابوقطن، عمرو بن یثم بن قطن بن کعب قطعی رضی اللہ عنہما، شاذان، اسود بن عامر رضی اللہ عنہما:

اصل میں آپ شامی ہیں آپ صالح الحدیث ہیں آپ نے بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی اور بغداد ہی میں ۲۰۸ھ میں فوت ہوئے۔

ابو عثمان، عفان بن مسلم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

آپ عزہ بن ثابت انصاری کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں آپ کی کتاب بالکل صحیح تھی۔ اصل میں آپ بصری ہیں مگر بغداد میں بس گئے تھے اور بغداد ہی میں ۲۰ھ میں انتقال فرما گئے آپ پر عاصم بن علی عاصم نے نماز پڑھی ایک دفعہ آپ کا امتحان بھی لیا گیا اور قرآن کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے قرآن کو غیر مخلوق ہی بتایا۔

ابو عبد اللہ محمد بن احسن رضی اللہ عنہما:

آپ بنوشیمان کے آزاد کردہ غلام ہیں اصل میں آپ جزیرہ کے رہنے والے ہیں آپ کے والد شامی فوج میں ملازم تھے

پھر واسط میں آئے تو وہاں ۳۲ھ میں آپ کے ہاں محمد پیدا ہوئے۔ محمد کوفہ میں پلے بڑھے اور علم حدیث حاصل کرتے رہے آپ نے مسعد، مالک بن مغول، عمر بن ذر، سفیان ثوری، اوزاعی، ابن جریج، محل ضعی، بکر بن معز، ابو حرہ اور عیسیٰ خیاط وغیرہ سے حدیثیں خوب سنیں آپ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اٹھے بیٹھے اور ان سے بھی سماع کیا اور رائے کا مطالعہ کیا پھر آپ پر رائے ہی کا غلبہ ہو گیا اور آپ نے رائے میں گھس کر شہرت پیدا کی آپ بغداد میں ٹھہر گئے لوگ آپ کے پاس آ آ کر حدیثیں اور رائے سنتے رہے آپ رقد گئے تو وہاں امیر المومنین ہارون نے آپ کو رقد کا قاضی بنا دیا پھر آپ معزول کر دیئے جانے کے بعد بغداد آ گئے پھر جب ہارون پہلی بار ری گئے تو آپ کو اپنے ساتھ لیتے گئے آپ ری میں ۱۸۹ھ میں ۵۸ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

قاضی یوسف بن یعقوب بن ابراہیم رضی اللہ عنہ:

آپ نے حدیث کا سماع کیا اور رائے اپنے والد ہی کی زندگی میں مغربی بغداد میں عہدہ قضا لگایا تھا آپ امیر المومنین ہارون کے حکم سے ابو جعفر کے شہر میں جمعہ پڑھاتے تھے آپ عہدہ قضا پر قائم رہے حتیٰ کہ رجب ۱۹۲ھ میں فوت ہو گئے۔
ابو کامل، مظفر بن مدرک، خراسانی رضی اللہ عنہم:

آپ ثقہ ہیں اور حماد بن سلمہ وغیرہ سے راوی ہیں۔

ابو محمد یونس بن محمد مؤدب رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور صدوق ہیں آپ کا ہفتہ کے دن ۷ صفر ۲۰۸ھ میں بغداد میں انتقال ہوا۔

ابو علی حسن بن موسیٰ اشیب خراسانی رضی اللہ عنہ:

آپ ہارون کی طرف سے حمص اور موصل کے قاضی مقرر ہوئے پھر مامون کے زمانہ میں بغداد تشریف لے آئے اور بغداد ہی میں رہتے رہے حتیٰ کہ مامون نے آپ کو طبرستان کا قاضی مقرر کر دیا آپ طبرستان جا رہے تھے کہ راستہ میں ماہ ربیع ۲۰۹ھ میں ری میں فوت ہو گئے آپ حدیث میں ثقہ اور صدوق ہیں اور شعبہ حماد بن سلمہ و رقاء بن عمر زبیر بن معاویہ ابن لہیعہ ابو بلال اور جریر بن حازم وغیرہ سے راوی ہیں۔

ابو احمد حسین بن محمد بن بہرام مروزی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور شعبہ اور جریر بن حازم سے راوی ہیں مشہور ہے کہ آپ نے جریر بن سلیمان بن راشد کے زمانہ میں ان سے سنا ہے آپ ابن ابی ذئب اور شیبان بن عبد الرحمن سے تفسیر وغیرہ روایت کرتے ہیں اور ابو معشر سے تاریخ کے راوی ہیں آپ مامون کی خلافت کے اخیر زمانہ میں بغداد میں فوت ہوئے۔

ابو عمرو حجیر بن ثنی رضی اللہ عنہ:

اصل میں آپ یمامہ کے ہیں بغداد میں آئے تھے اور موتیوں اور جواہرات کے تاجر تھے بغداد میں بازار میں موجود رہتے تھے آپ ثقہ ہیں اور لیث بن سعد عبد العزیز بن عبد اللہ ماسنون اور اکثر سے راوی ہیں بغداد میں فوت ہوئے۔

علی بن جعد رضی اللہ عنہ:

آپ ام سلمہ مخزومیہ امیر المؤمنین ابوالعباس کی اہلیہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

بظہر قاضی عبدالرحمن بن اسحاق: میرے پاس علی اپنے والد کی ام سلمہ سے آزادی کی دستاویز لائے اس میں میرے دادا ابراہیم بن سلمہ کی اور ایک دوسرے شخص کی جو ام سلمہ کے پاس آیا جایا کرتا تھا شہادت تھی۔

علی بن جعد: میں ۳۶ھ میں ابوالعباس کی خلافت کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ علی شعبہ زہیر بن معاویہ صحیح بن جویریہ لیث بن سعد حماد بن سلمہ سفیان ثوری اور ابو جعفر رازی وغیرہ سے راوی ہیں آپ نے بغداد میں ۲۵ رجب ۲۳۰ھ کو ۹۶ سال اور کچھ ماہ کی عمر میں انتقال فرمایا اور باب حرب کے قبرستان میں دفنائے گئے۔

ابوالاشہب، ہوذہ بن خلیفہ بن عبداللہ بن ابوبکرہ رضی اللہ عنہ:

آپ کی والدہ کا نام زہرہ بنت عبدالرحمن بن یزید بن ابوبکرہ ہے اور آپ کی نانی کا نام ہولہ بنت عبدالرحمن بن یزید بن ابوبکرہ ہے۔ ہوذہ ۱۲ھ میں پیدا ہوئے اور ہوشیار ہو کر علم حدیث سیکھنے میں مصروف ہو گئے آپ نے یونس، ہشام، عوف، ابن عون، ابن جریج اور سلیمان تمیمی وغیرہ سے حدیثیں لکھیں لیکن آپ کی کتابیں ضائع ہو گئیں لوگوں کے پاس صرف محوف والی کتاب رہی اور قدرے مواد ابن عون، ابن جریج، اشعث اور تمیمی کی کتابوں کا باقی رہا۔ ہوذہ بغداد میں منگل کی شب کو دس شوال ۲۱۹ھ میں مامون کے زمانہ میں بغداد میں فوت ہوئے اور باب خراسان کے باہر دفنائے گئے آپ کے جنازے کی نماز آپ کے صاحبزادے نے پڑھائی آپ گندم گوں اور لہجے ترنگے تھے اور حنا کا خضاب کیا کرتے تھے۔

ابو ایوب، یحییٰ بن سعید بن ابان بن سعید رضی اللہ عنہ:

ابن عاص بن سعید بن عاص بن امیہ بن عبد شمس آپ کوئی تھے مگر بغداد میں آئے تھے آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور ہشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید انصاری، اعمش، اسماعیل بن ابوالخالد اور عبدالملک بن ابوسلمان وغیرہ سے راوی ہیں اور غزوات محمد بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں آپ بغداد میں عسکر مہدی میں جو عبدالملک کی چچی کے پاس سیب میں تھا، مقیم تھے اور محمد کی خلافت میں بغداد ہی میں ۸۰ سال کی عمر میں ۱۹۴ھ میں فوت ہوئے۔

ابوزکریاء سلخسی، یحییٰ بن اسحاق بجلی رضی اللہ عنہ:

مذکور ہے کہ آپ بجلہ کے آدمی تھے آپ ثقہ ہیں اور یحییٰ بن ایوب اور ابن لہیعہ وغیرہ سے راوی ہیں لوگوں نے آپ سے حدیثیں لکھی ہیں اور حافظ الحدیث تھے اور بغداد میں دار الرقیق میں مقیم تھے آپ مامون کی خلافت کے زمانہ میں بغداد میں ۲۱۰ھ میں انتقال فرما گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔

ابوعثمان، سعید بن سلیمان واسطی رضی اللہ عنہ:

آپ ہی سعدویہ ہیں آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور سلیمان بن مغیرہ، مبارک بن فضالہ، لیث بن سعد اور معشر وغیرہ سے

راوی ہیں آپ بغداد میں آئے اور یہاں آ کر تجارت کی آپ کا گھر کرخ میں کاغذیوں کی گلی کی طرف تھا۔ آپ منگل کے دن زوال کے بعد بغداد میں فوت ہوئے اور بدھ کے دن زوال سے قبل ۲۲۵ھ میں دفنائے گئے آپ پر آپ کے بھتیجے علی بن حنین تاجر نے ۴ ذی الحجہ کو نماز پڑھائی۔

ابونصر، قمار رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام عبدالملک بن عبدالعزیز ہے آپ خراسانی اور نسائی ہیں کہتے ہیں آپ ابو مسلم خراسانی کے قتل کے چھ ماہ بعد پیدا ہوئے آپ بغداد میں رض ابو العباس طوسی میں مقیم تھے پھر نسائیہ والی گلی میں منتقل ہو گئے تھے آپ بغداد میں کھجور وغیرہ کی تجارت کرتے تھے آپ ثقہ قابل و فاضل صاحب خیر و صلاح اور پارسا تھے اور حماد بن سلمہ، سعید بن عبدالعزیز تنوخی اور کوثر بن حکیم سے راوی ہیں آپ کی وفات بغداد میں یکم محرم بروز منگل ۲۲۸ھ میں ۹۱ سال کی عمر میں واقع ہوئی اور باب حرب میں دفنائے گئے اخیر عمر میں آپ کی بیٹائی جاتی رہی تھی۔

ابوالحسین، شرح بن نعمان رضی اللہ عنہما، مویوں والے:

آپ ثقہ ہیں اور حماد بن سلمہ، طلح بن سلیمان اور ابو عوانہ سے راوی ہیں آپ کا گھر عسکر مہدی میں سب قاضی کے پاس تھا آپ نے مامون کے زمانہ میں ۲۱۶ھ میں چاشت کے وقت انتقال فرمایا۔

یحییٰ بن غیلان رضی اللہ عنہما:

ابن عبداللہ بن اسماء بن حارثہ خزاعی، آپ ثقہ ہیں بغداد میں مقیم تھے اسی کام کے لیے بصرہ گئے اور بصرہ میں ۲۱۰ھ میں وفات پا گئے آپ بصریوں سے راوی ہیں۔

ابوعمر و معاویہ بن عمرو ازدی رضی اللہ عنہما:

آپ زائدہ بن قدامہ سے ان کی کتابیں اور مصنفات روایت کرتے ہیں اور ابو اسحق فزاری سے کتاب السیرت جو دار الحرب کے سلسلہ میں ہے نقل کرتے ہیں آپ بغداد میں تشریف لائے تو بغدادیوں نے آپ سے حدیثیں سنیں پھر آپ بغداد ہی میں مامون کی خلافت کے زمانہ میں ۱۱۴ھ یا ۱۱۵ھ میں وفات پا گئے۔

ابویعلیٰ، معالی بن منصور رضی اللہ عنہما:

آپ طلب حدیث کے شوق میں بغداد تشریف لائے اور حدیثیں حفظ کیں آپ صدوق اور محدث ہیں اور رائے اور فقہ میں بھی دخل رکھتے ہیں بعض محدث آپ سے رائے کو روایت کرتے ہیں اور بعض نہیں آپ کا گھر کرخ میں قطیۃ الریح میں تھا آپ ۲۱۱ھ میں فوت ہوئے۔

ابوجعفر، محمد بن صباح، بزاز دولابی رضی اللہ عنہما:

آپ باب الکرخ میں مقیم تھے اور اخیر محرم میں ۲۲۲ھ میں وفات پا گئے۔

ابو نصر، بشر بن حارث خراسانی رضی اللہ عنہما:

آپ علاقہ خراسان کے مرو کے باشندے تھے بغداد میں آ کر حدیثیں سنیں اور حفظ کیں اور حماد بن زید، شریک، عبد اللہ بن مبارک اور شمیم وغیرہ سے بہت سماع کیا پھر عبادت کے لیے گوشہ خلوت میں تشریف لے گئے اور حدیثیں بیان کرنی چھوڑ دیں آپ نے بغداد میں بدھ کے دن ۱۱ ربیع الاول ۲۲ھ میں ۶۷ سال کی عمر میں وفات پائی آپ کے جنازے میں بہت سی مخلوق بغدادی اور غیر بغدادی شریک ہوئے اور آپ باب حرب میں دفنائے گئے۔

ابو احمد، ہشیم بن خارجہ رضی اللہ عنہ:

آپ بھی علاقہ خراسان کے مرد اردز کے باشندے ہیں، بغداد میں مقیم ہو گئے تھے، شام پہنچ کر شامیوں سے اور لیث بن سعد سے حدیثیں لکھیں پھر بغداد واپس آ گئے اور بغداد ہی میں پیر کے دن ۲۲ ذی الحجہ ۲۲ھ میں وفات پائی۔

اسحاق بن عیسیٰ الطیالغی رضی اللہ عنہ، ابوالسحق، سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم رضی اللہ عنہم:

ابن عبد الرحمن بن عوف زہری۔ آپ ہارون کے زمانہ میں واسط کے قاضی مقرر ہوئے پھر مامون کی خلافت کے شروع میں جب کہ مامون خراسان میں تھے عسکر مہدی کے قاضی مقرر ہوئے آپ اپنے والد کی کتابیں روایت کرتے ہیں، آپ سے بعض بغدادیوں نے حدیثیں سنیں پھر جب بغداد میں آپ کو عہدہ قضا سے معزول کر دیا گیا تو آپ قم الصلح میں حسن بن سہل سے ملے حسن نے آپ کو اپنے لشکر کی قضا کا عہدہ دے دیا آپ مبارک میں ۶۳ سال کی عمر میں ۲۰ھ میں فوت ہوئے آپ کے بھائی یعقوب بن ابراہیم ہیں۔

ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم رضی اللہ عنہ:

ابن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف زہری آپ ثقہ اور محفوظ و مامون ہیں آپ اپنے والد سے توارخ وغیرہ کی روایت کرتے ہیں آپ سے بغدادیوں نے سماع کیا آپ فضل، ورع اور حدیث میں اپنے بھائی پر مقدم ہیں آپ ایک عرصہ تک بغداد میں رہے پھر حسن بن سہل کے پاس قم الصلح تشریف لے گئے اور وہیں شوال ۲۰۸ھ میں انتقال فرما گئے آپ اپنے بھائی سعد سے ۴۴ سال چھوٹے تھے۔

ابو ایوب، سلیمان بن داؤد بن علی بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی آپ ثقہ ہیں اور ابراہیم بن سعد اور عبد الرحمن بن ابوالزناد وغیرہ سے حدیثیں سنی ہیں آپ سے بغدادی لکھتے ہیں اور روایت کرتے ہیں آپ بغداد میں ۲۱۹ھ میں فوت ہوئے۔

ابو تمام، قران بن تمام اسدی رضی اللہ عنہ:

آپ کوئی ہیں بغداد میں آئے تھے اور جانوروں کی تجارت کیا کرتے تھے آپ سے سماع کیا گیا ہے مگر آپ ضعیف ہیں۔

ابو حفص، عمر بن حفص، عبدی رضی اللہ عنہ:

آپ ثابت البنانی، یزید رقاشی، ابان بن ابو عیاش، ام شیبہ عبدیہ اور مالک بن انس وغیرہ سے راوی ہیں آپ علماء کے

زردیک حدیث میں ضعیف ہیں۔ لوگوں نے آپ سے کتابت حدیث کی مگر پھر چھوڑ دی، آپ مامون کی خلافت کے شروع میں ۱۹۸ھ میں فوت ہوئے۔

ابو عبد اللہ مصعب بن عبد اللہ بن مصعب رضی اللہ عنہ:

ابن ثابت بن عبد اللہ بن زبیر بن عوام آپ بغداد میں بس گئے تھے اور مالک بن انس سے موطا اور زور اور دی ابراہیم بن سعد، عبد العزیز بن ابی حازم اور ابو حازم وغیرہ سے راوی ہیں اگر آپ سے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا جاتا تھا تو توقف کیا کرتے تھے اور توقف نہ کرنے والوں کو برا سمجھتے تھے آپ بغداد میں شوال ۲۳۶ھ میں فوت ہوئے۔
ابو الحسن نصر بن زید بن مجدر رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور صاحب حدیث ہیں آپ نے جزیر بن حازم ابو ہلال اور وہیب وغیرہ سے حدیثیں سنیں اور شروع ہی میں حدیثیں بیان کرنے سے پہلے فوت ہو گئے اصل میں آپ بختان کے تھے اور جعفر اکبر بن ابو جعفر منصور کے آزاد کردہ غلام تھے۔
ابو خالد عتبہ بن سعید بن ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور صاحب حدیث ہیں اور بغداد میں آئے تھے آپ سے بغدادیوں نے حدیثیں سنی ہیں۔
ابو سلمہ منصور بن سلمہ رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور کئی محدثین سے حدیثیں سنی ہیں آپ حدیثیں بیان نہیں کیا کرتے تھے پھر کچھ دنوں حدیثیں بیان کیں پھر سرحد چلے گئے اور وہاں مصیصہ میں مامون کے زمانہ میں ۲۱۰ھ میں وفات پا گئے۔
ابو سہل نصر بن باب رضی اللہ عنہ الخراسانی:

آپ نے داؤد بن ابوالہند، عوف اعرابی اور حجاج بن ارطاہ وغیرہ سے حدیثیں سنیں اور بغداد میں ان علماء سے سماع کر کے ان سے روایتیں بیان کیں پھر آپ نے ابراہیم صالح (سار) سے حدیثیں بیان کیں اس لیے علماء نے آپ کو جہم قرار دے کر آپ کی حدیثیں چھوڑ دیں آپ عسکر مہدی میں بغداد میں فوت ہوئے۔
ابو عبد اللہ موسیٰ بن داؤد ضعی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور صاحب حدیث ہیں اور سفیان ثوری اور زہیر وغیرہ سے حدیثیں سنی ہیں آپ بغداد میں آئے تھے پھر طرسوس کے قاضی مقرر کر دیئے گئے اور طرسوس چلے گئے اور طرسوس ہی میں اپنے عہدے کے زمانہ میں فوت ہو گئے۔
ابو اسحاق ابراہیم بن عباس رضی اللہ عنہ المعروف بسامری:

آپ ابو اویس اور شریک وغیرہ سے راوی ہیں آخری عمر میں ہوش و حواس بحال نہیں رہے تھے اس لیے گھروالے گھر ہی میں رکھتے تھے اور باہر نہیں نکلنے دیتے تھے حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔
ابو صالح، حکم بن موسیٰ بزاز رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اصل میں آپ ملائکہ خراسان کے نساء شہر کے رہنے والے تھے آپ شامیوں میں یحییٰ بن عمر

اور فضل بن زیاد وغیرہ سے راوی ہیں آپ نیک صالح اور حدیث میں ثبت ہیں اور شوال ۲۳۲ھ میں بغداد میں فوت ہوئے۔
ابو احمد ہشام بن سعید رضی اللہ عنہ، بزاز:

آپ ابن لہیعہ اور حماد بن زید سے راوی ہیں اور ثقہ ہیں لیکن قبل اس کے کہ لوگ آپ سے سماع کریں انتقال فرما گئے۔
ابو جعفر محمد بن حجاج مصفر رضی اللہ عنہ:

آپ نے شعبہ اور ابن ابوزبیب وغیرہ سے حدیثیں سنیں لیکن علماء کے نزدیک حدیث میں ضعیف ہیں۔
ابو معاذ سعد بن عبد الحمید رضی اللہ عنہ:

ابن جعفر بن ابی عمیر خلفائے انصار ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کا سماع مالک بن انس وغیرہ سے ثابت ہے۔
ابو الہیثم خالد بن خدّاش بن عجلان رضی اللہ عنہ:

آپ آل مہلب بن ابوصفرہ کے آزاد کردہ غلام تھے ثقہ ہیں اور حماد بن زید اور ابو عوانہ سے راوی ہیں آپ ۲۲۳ھ یا
۲۲۴ھ میں فوت ہوئے۔

ابو نصر منصور بن بشیر بن ابومزاحم رضی اللہ عنہ:

آپ ازد کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ ترک قیدی تھے آپ کا ایک مجموعہ تھا جسے آپ نے چھوڑ دیا لوگوں نے آپ سے
حدیثیں لکھی ہیں آپ ثقہ اور صاحب سنت ہیں اور بغداد میں ذیقعدہ ۲۳۵ھ میں ۸۰ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔
ابو عبد اللہ محمد بن بکار رضی اللہ عنہ:

آپ ابو محشر محمد بن طلحہ قیس بن ربیع اور عنسہ بن عبد الواحد وغیرہ سے راوی ہیں اور بغداد میں ربیع الثانی ۲۳۸ھ میں
فوت ہوئے۔

ابو عمران محمد بن جعفر ورکانی رضی اللہ عنہ:

آپ ابراہیم بن سعد ابو محشر شریک معانی بن عمران ابن ابوالزیاد اور ابو عقیل صاحب بھیمہ وغیرہ سے راوی ہیں آپ
نے بغداد میں رمضان ۲۲۸ھ میں وفات پائی۔

ابوزکریا یحییٰ بن یوسف رقی رضی اللہ عنہ:

آپ عبید اللہ بن عمرو رقی وغیرہ سے راوی ہیں اور ہارون واثق کے زمانہ میں بغداد میں فوت ہوئے۔
ابو محمد خلف بن ہشام بزاز رضی اللہ عنہ:

آپ کا سماع شریک ابو عوانہ اور حماد بن زید وغیرہ سے ہے آپ صاحب قرآن و جرد ہیں اور آپ نے سلیم تلمیذ حمزہ سے
قراءت سیکھی ہے آپ بغداد میں ہفتہ کے دن ۷ جمادی الثانی ۲۲۹ھ میں فوت ہوئے اور مقابر کناسہ میں دفنائے گئے۔

ابو علی حسین بن ابراہیم بن حرب بن زعلان رضی اللہ عنہ الملقب بہ اشکاب:

آپ خراسانی اور نسائی ہیں آپ کے والد آل عباس کے داعیوں میں اسید بن عبد الرحمن کے ساتھ تھے جو نساء میں اٹھے

تھے اور سردار جن لیے گئے تھے اور اسید اصفہان کے حاکم ہو گئے تھے ابراہیم آپ کے ساتھ آپ کے حامیوں میں تھے اور آپ کے ہاں حسین اصفہان میں ۵۴ھ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں پلے بڑھے اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہے اور آپ نے محمد بن راشد شریک بن عبداللہ فلیح اور حماد بن زید وغیرہ سے ملاقاتیں کیں اور قاضی ابو یوسف کو چھٹے رہے حتیٰ کہ رائے میں اچھی خاصی بصیرت پیدا کر لی پھر آپ انہیں بزرگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے لیکن قضاء وغیرہ میں دخل نہیں دیا اور بغداد میں حدیث وفقہ سیکھنے میں مصروف رہے حتیٰ کہ مامون کے زمانہ میں ۲۱۰ھ میں ۷۱ سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔

ثابت بن ولید رضی اللہ عنہ:

ابن عبداللہ بن جمح۔

ابو معاویہ غسان بن مفضل غلابی رضی اللہ عنہ، ابوسلیمان، داؤد بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن زہیر بن عمرو بن جمیل بن اعرج بن ربیعہ بن مسعود بن معاذ بن کوز بن کعب بن بجالہ بن دحل بن مالک بن بکر بن سعد بن صہ بن اذ بن طابخہ بن الیاس بن مضر آپ بغداد میں ربیع الاول ۲۲۸ھ میں فوت ہوئے۔

داؤد بن رشید رضی اللہ عنہ:

آپ مدینہ ابو جعفر میں بس گئے تھے ویسے اصل میں آپ خراسانی ہیں اور خوارزم کے باشندے ہیں آپ شامیوں میں ولید بن مسلم، یقینہ بن ولید اور اسماعیل بن عباس وغیرہ سے راوی ہیں اور آپ سے بغدادیوں نے حدیثیں لکھیں آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔

فضیل بن عبدالوہاب قناد رضی اللہ عنہ:

آپ محمد بن عبدالوہاب کے بھائی ہیں جن سے ہارون بن اسحاق ہمدانی راوی ہیں۔

ابوطالب، عبدالجبار بن عاصم رضی اللہ عنہ:

آپ وہ خراسانی ہیں جو جزیرہ میں تھے آپ نے عبید اللہ بن عمرو، اسماعیل بن عیاش، ابوالخلیج اور یقینہ وغیرہ سے حدیثیں لکھی ہیں آپ بغداد میں عسکر مہدی میں ربیع الثانی ۲۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

ابوسعید عبید اللہ بن عمر بن میسرہ نواری رضی اللہ عنہ:

آپ بصری ہیں بغداد میں آجسے تھے اور حماد بن زید بن زریج اور عبدالرحمن بن مہدی وغیرہ سے راوی ہیں آپ کثیر الحدیث اور ثقہ ہیں۔ آپ بغداد میں ۱۲ ذی الحجہ ۲۳۵ھ میں ۸۴ سال کی عمر میں فوت ہوئے جنازے میں بے شمار لوگ تھے اور عسکر مہدی میں ثلاثہ الابواب کے باہر دفنائے گئے۔

ابوعبداللہ محمد بن ابو حفص معیطی رضی اللہ عنہ:

قبیلہ کے آزاد کردہ غلام ہیں ابو حفص کا نام عمر ہے، محمد ثقہ اور صاحب حدیث ہیں اور یقینہ ابن مبارک ابوالاحوص شریک اور شمیم وغیرہ سے راوی ہیں آپ بغداد ہی کے ہیں ایک دن آپ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے اور ہفتہ کی شب کو

رات کو بستر پر سو گئے رات میں آپ پر فاج گرا اور ہفتہ کے دن عصر کے وقت فوت ہو گئے اور مقبرہ خیزران میں اتوار کو ۶ شعبان ۲۲۲ھ ابو اسحق بن ہارون کے زمانہ میں دفنائے گئے آپ کے جنازے کی نماز طاقات ثلاثہ کے باہر پڑھی گئی جنازے میں بہت رش تھا۔

عیسیٰ بن ہشام نخاس رضی اللہ عنہ:

آپ نے کثرت سے سماع کیا، صاحب حدیث تھے اور حدیثیں بیان کرنے سے پہلے وفات پا گئے۔

ابواللیث، سلم بن قادم رضی اللہ عنہ:

آپ بقیہ اور محمد بن حرب وغیرہ سے راوی ہیں اور بغداد میں ذی قعدہ ۲۲۸ھ میں فوت ہوئے۔

ابومحمد، نعیم بن ہشام رضی اللہ عنہ:

خراسانی کے صاحبزادے ہیں اور حماد بن زید وغیرہ سے راوی ہیں نعیم بغداد میں شوال ۲۲۸ھ میں فوت ہوئے۔

ابوزکریاء، یحییٰ بن عثمان رضی اللہ عنہ:

خراسانی کے صاحبزادے ہیں، ابو جہم کی گلی میں مقیم تھے آپ شامیوں میں سے رشید بن سعد، صقل بن زیاد، بقیہ اور اسماعیل

وغیرہ سے راوی ہیں ربیع الاول ۲۳۸ھ میں فوت ہوئے۔

ابو اسحق، ابراہیم بن زیاد، سلیمان رضی اللہ عنہ:

آپ نے بغداد میں وفات پائی اور ۶ ذی الحجہ ۲۲۸ھ کو بدھ کے دن دفنائے گئے۔

ابو عثمان، بشر بن موسیٰ خفاف رضی اللہ عنہ:

آپ بغداد میں رمضان ۲۲۸ھ کو فوت ہوئے اور جمعہ کے دن عصر کے بعد دفنائے گئے۔

ابوالاحوص، محمد بن حیان، نعیمی رضی اللہ عنہ:

آپ نے کثرت سے سماع کیا، ثقہ ہیں اور ذی الحجہ ۲۲۹ھ کو فوت ہوئے۔

ابوالفضل، شجاع بن مخلد رضی اللہ عنہ:

آپ بغین خراسانیوں کے صاحبزادے ہیں اور ہشیم سے ان کی تمام کتابوں کے راوی ہیں اور اسماعیل بن علیہ وغیرہ سے

بھی راوی ہیں آپ ثقہ اور ثبت ہیں اور بغداد میں دس صفر ۲۳۵ھ میں فوت ہوئے آپ کے جنازے میں بہت لوگ تھے آپ باب

التین کے قبرستان میں دفنائے گئے۔

ابو احمد، مہدی بن حفص رضی اللہ عنہ:

آپ باب کوفہ کے پاس مقیم تھے۔

ابومحمد، عباد بن موسیٰ ختمی رضی اللہ عنہ:

آپ ابراہیم بن سعد، طلحہ بن یحییٰ زرقی اور اسماعیل بن جعفر سے راوی ہیں آپ طرسوس جا کر ۲۰۳ھ کے آغاز میں فوت ہوئے۔

ابو جعفر احمد بن محمد بن ایوب رضی اللہ عنہ:

آپ وراق تھے اور فضل بن یحییٰ بن جعفر بن برمک کے کاتب تھے فرماتے ہیں: میں نے اسلامی لڑائیوں کے واقعات ابراہیم بن سعد سے فضل بن یحییٰ کے ساتھ سنے ہیں اور ابوبکر بن عیاش سے فضل کے بیان کردہ واقعات سنے ہیں آپ منگل کی شب کو ۲۶ ذی الحجہ ۲۲۸ھ کو بغداد میں وفات پا گئے۔

سہل بن نصر رضی اللہ عنہ:

آپ مطبخیہ میں رہائش پذیر تھے۔

ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم بن کا مجار رضی اللہ عنہ:

آپ ابواسرائیل کے صاحبزادے ہیں جو خراسان کے علاقہ مرو کے رہنے والے تھے آپ غلط منظر کر کے نقل کرنے والے ہیں آپ نے قرآن میں وقف لگائے اور ان پر کئی بار نظر ثانی کی آپ ابراہیم بن سعد حماد بن زید عبدالرحمن بن ابوزناد جعفر بن سلیمان اور سلیمان بن اخصر سے راوی ہیں اور خوب سماع کیے ہوئے ہیں اور یمامہ میں محمد بن جابر کے پاس جا کر ان کی کتابیں نقل کیں پھر یمامہ سے ابو عوانہ کی وفات کے دو تین دن بعد بصرہ آئے اور ان سے مل نہ سکے۔

ابوزکریا یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ:

آپ نے حدیثیں لکھنے والوں سے کثرت سے نقل کی ہے اور اس میں آپ مشہور ہیں لیکن حدیثیں بیان نہیں کیں آپ حج کو تشریف لے گئے تھے کہ مدینہ منورہ میں حق تعالیٰ سے جا ملے۔

ابو یحییٰ زہیر بن حرب بن اشتال نسائی رضی اللہ عنہ:

اشتال کو عربی زبان میں شداو بنا دیا گیا آپ بنو حریث بن کعب بن عامر بن صعصعہ عامری کے آزاد کردہ غلام ہیں اور کوفیوں بصریوں اور حجازیوں میں سے جریر بن عبدالحمید، مشیم سفیان بن عیینہ ابن علیہ، عبداللہ بن وہب اور ولید بن مسلم وغیرہ سے راوی ہیں آپ نے مسند تصنیف فرمائی اور اس کی تمام صفحات لکھیں آپ بغداد میں شعبان ۲۳۲ھ کو فوت ہوئے آپ کے جنازے میں بہت لوگ تھے آپ ثقہ اور شہت ہیں۔

ابو محمد خلف بن سالم حرمی رضی اللہ عنہ:

آپ مہالبہ کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ نے مسند لکھی ہیں اور آپ کثیر الحدیث ہیں لوگوں نے آپ سے حدیثیں لکھی ہیں آپ بغداد میں رمضان ۲۳۱ھ کو وفات پا گئے۔

ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ثبت صدوق اور کثیر الحدیث ہیں آپ ایک آزمائش میں مبتلا کیے گئے اور اس میں کوڑے کھائے مگر ثابت قدم رہے آپ کو کوڑے مارنے کا حکم امیر المومنین ابوالفتح نے کیا تھا کیونکہ آپ قرآن کو مخلوق نہیں کہتے تھے۔ اس سے قبل اسی سلسلہ میں آپ کو قید کر دیا گیا تھا پھر خلیفہ متوکل نے برسر اقتدار آ کر آپ کو رہا کر دیا اور آپ کو بلا کر مال کی پیشکش کی مگر آپ نے مال قبول نہیں کیا۔

فرمایا آپ کی وفات حسرت آیات جمعہ کے دن دن چڑھے واقع ہوئی اور عصر کے بعد دفنائے گئے اور آپ کے جنازے میں بغدادیوں کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگ بھی کثرت سے شامل ہوئے جنازے میں اتنا ہجوم کسی جنازے میں دیکھا نہیں گیا۔
ابوعلیٰ ہارون بن معروف رضی اللہ عنہ:

آپ بغداد میں رمضان ۲۳۱ھ کو فوت ہوئے۔

ابوعبید قاسم بن سلام رضی اللہ عنہ:

آپ خراسانیوں کے صاحبزادوں میں سے ہیں آپ اتالیق تھے اور نحوی اور لغوی تھے اور محدث و فقیہ بھی تھے آپ کو ثابت بن نصر بن مالک کے زمانہ میں طرسوں کا قاضی بنا دیا گیا تھا آپ مع اہل و عیال کے وہیں رہے آپ بغداد تشریف لائے اور بغداد میں غرائب احادیث کی وضاحت فرمائی اور کتابیں لکھیں اور آپ سے لوگوں نے حدیثیں سنیں اخیر میں آپ حج کو تشریف لے گئے اور مکہ معظمہ میں ۲۲۴ھ میں وفات پا گئے۔

بشر بن ولید کنذی رضی اللہ عنہ:

آپ قاضی ابویوسف سے ان کی کتابوں کو اور ائماء کو روایت کرتے ہیں اور شریک حماد بن زید مالک بن انس اور صالح مری وغیرہ سے راوی ہیں اور محمد بن طلحہ سے بھی راوی ہیں۔ بغداد کے دونوں حصوں پر آپ قاضی تھے اور آپ بغداد میں محدث و مفتی تھے۔ ایک شخص نے آپ کی چغلی کھائی اور یہ کہا کہ آپ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں یہ بن کرامیر المؤمنین ابواسحق نے آپ کو گھر ہی میں نظر بند کر دیا اور دروازے پر پولیس کا پہرہ لگوا دیا اور فتوؤں پر پابندی لگا دی کہ آئندہ آپ کسی کو کسی قسم کا فتویٰ نہ دیں پھر جب جعفر بن ابواسحق برسر اقتدار آئے تو انہوں نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ سے تمام پابندیاں ہٹائیں پھر آپ کافی زمانہ تک زندہ رہے اور اتنے بوڑھے ہو گئے اور گفتگو کے درمیان توقف فرمانے لگے لہذا محدثین آپ سے رُک گئے اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔

ابوالسریٰ سہل بن محمد رضی اللہ عنہ:

آپ عباس بن عبد اللہ بن مالک کے آزاد کردہ غلام تھے اور ثقہ ہیں۔

ابوعبداللہ محمد بن سلیم عبدی رضی اللہ عنہ:

آپ نے خوب سماع کیا ہے آپ مامون کے زمانہ میں بادریا اور باکسابا کے قاضی تھے میں نے محدثین کو دیکھا کہ وہ آپ کی حدیثوں اور روایتوں سے بچا کرتے تھے۔

بشر بن آدم رضی اللہ عنہ:

آپ نے خوب حدیثیں سنی ہیں۔ میں نے محدثین کرام کو دیکھا کہ وہ آپ کی حدیثوں سے بچا کرتے تھے اور آپ سے لکھنے سے بھی بچا کرتے تھے۔

ابومسلم عبد الرحمن بن یونس رضی اللہ عنہ:

آپ ابو جعفر منصور کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ ۶۴ھ میں پیدا ہوئے اور تحصیل علم حدیث میں مشغول ہوئے اور اس سلسلہ میں آپ نے سفر کے اور محدثین کرام سے خوب خوب سماع کیا اور سفیان بن عیینہ اور یزید بن ہارون سے حدیثیں لکھیں آپ بدھ کے دن سورج کے نکلنے ہی مسجد اسد بن مرزبان میں دس رجب ۲۲۲ھ کو اچانک انتقال فرما گئے۔
ابوزکریا، یحییٰ بن ایوب رضی اللہ عنہما۔

آپ ابوالقاسم محرر کے آزاد کردہ غلام تھے۔

ابوالقاسم زوجہ بنت ابومسلم رضی اللہ عنہما۔

آپ حسین بن قثم کے دادا ہیں، عسکر مہدی میں مقیم تھے آپ ثقہ پارسا اور عالم ہیں سنت کے شیدائی تھے اور جہم کے ماننے والوں کے حق میں سخت نکتہ چیں تھے کیونکہ یہ لوگ سنت کے خلاف ہیں آپ ۱۲ ربیع الاول بروز اتوار ۲۲۳ھ کو فوت ہوئے۔
ابواسحق، ابراہیم بن حاتم بن عبد اللہ ہروی رضی اللہ عنہما، ابو محمد، عبد اللہ بن عون خراز رضی اللہ عنہما۔

آپ نے ہارون واثق باللہ کے زمانہ میں بغداد میں داعی اجل کو لیک کہا۔

ابوالحارث، شریح بن یونس، مروزی رضی اللہ عنہما۔

آپ بنت قریش مستعملی کے شوہر ہیں آپ نے کئی کتابیں لکھیں ان کی تخریج کی اور ان کی حدیثیں لوگوں سے بیان کیں آپ ثقہ ہیں آپ پیر کے دن ۲۳ ربیع الاول کو ۲۳۵ھ میں فوت ہوئے۔
ابوسعید، احمد بن داؤد، حداد، واسطی رضی اللہ عنہما۔

آپ بغداد میں آئے تھے ثقہ ہیں اور حدیثیں بیان کرنے سے اور ان کے لکھے جانے سے قبل فوت ہو گئے۔

ابو ابراہیم، اسماعیل بن ابراہیم بن بسام رضی اللہ عنہما، ترجمانی۔

آپ خراسانیوں کے صاحبزادوں میں سے ہیں آپ کا گھر صحرائے ابوالسری کی طرف تھا آپ ہشیم عطف بن خالد، عبدالعزیز، ماشون، خلف بن خلیفہ اور صالح مری وغیرہ سے راوی ہیں اور کبھی کبھی شریک سے بھی راوی ہیں آپ بغداد میں ۵ محرم الحرام ۲۳۶ھ میں انتقال فرما گئے جنازے میں بہت لوگ تھے آپ صاحب سنت و فضل و خیر تھے۔
ابوعثمان، عمرو، ناقد بن محمد بن کبیر رضی اللہ عنہما۔

آپ ثقہ ثابت اور صاحب حدیث ہیں آپ سے بغدادیوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں آپ گنتی کے حفاظ میں سے ہیں بڑے عالم تھے آپ بغداد میں جمعرات کو ۴ ذی الحجہ ۲۰۲ھ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔

محمد بن عباد، مکی، تلمیذ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہما۔

آپ سامرا میں عسکر خلیفہ میں ۲۳۴ھ میں انتقال فرما گئے۔

ابواحمد، حاجب بن ولید، اعور، معلم رضی اللہ عنہما۔

آپ بغداد میں رمضان المبارک ۲۲۸ھ میں داعی اجل کو لیک فرما گئے۔

ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم بن معمر ہروی ہمدانی رضی اللہ عنہ۔

آپ صاحب سنت اور اہل فضل و خیر تھے اور ثبت و ثقہ ہیں آپ بغداد میں جمادی الاولیٰ ۲۳۶ھ میں فوت ہوئے آپ کے جنازے میں بھی بہت لوگ تھے۔

ابو عبد اللہ محمد بن حاتم بن میمون ہمدانی رضی اللہ عنہ۔

آپ نے تفسیر قرآن میں ایک کتاب لکھی جسے بغداد میں لوگوں نے نقل کی آپ کربخ میں قطیفہ الربیع میں مقیم تھے آپ بغداد میں جمعرات کو ۲۶ ذی الحجہ ۲۳۵ھ میں فوت ہوئے۔

احمد بن حاتم طویل رضی اللہ عنہ، ابواسحق، ابراہیم بن محمد بن عرعہ بن برند رضی اللہ عنہ۔

آپ سامد بن لوی کی اولاد میں سے ہیں آپ بغداد میں رمضان ۲۳۱ھ کو عسکر خلیفہ سے جو سامرا میں تھا واپس آنے کے بعد انتقال فرما گئے۔

ابو حفص احمد بن محمد صفار، ابو محمد عبد الرحمن بن صالح، ازوی رضی اللہ عنہ۔

آپ اصل میں کوفی تھے بغداد میں آئے تھے آپ شریک ابن ابوزائدہ اور ابوبکر بن عیاش سے راوی ہیں اور ملازم بن عمرو سے بھی آپ بغداد میں پیر کے دن ذی الحجہ کی پچھلی تاریخ کو ۲۳۵ھ میں فوت ہوئے۔

ابو علی احمد بن ابراہیم موصلی رضی اللہ عنہ۔

آپ حماد بن زید شریک اور ابوعوانہ وغیرہ سے راوی ہیں آپ بغداد میں ربیع الاول ۲۳۶ھ میں فوت ہوئے۔
ابواسحق، ابراہیم بن ابواللیث، تلمیذ اجمعی رضی اللہ عنہ۔

آپ بغداد میں عسکر مہدی میں مقیم تھے صاحب سنت ہیں لیکن حدیث میں ضعیف ہیں۔

ابویوسف، یعقوب بن ابراہیم بن کثیر، عبدی رضی اللہ عنہ۔

آپ دور قی کے صاحبزادے ہیں اور آپ کے بھائی احمد ہیں۔

ابو عبد اللہ احمد بن ابراہیم بن کثیر رضی اللہ عنہ، ابو عبد اللہ عبد المنعم بن اوریس بن سنان رضی اللہ عنہ۔

آپ بنت وہب بن منبہ کے صاحبزادے ہیں آپ احادیث انبیاء و اولیاء کو اور اسرائیلی روایات کو کتب وہب سے از ابراہیم از وہب روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے معمر بن راشد سے یمن میں ملاقات کی اور ان سے حدیثیں سنیں آپ وہب کی کتابوں اور ان کی حکمتوں پر خوب آگاہ تھے اور بغداد میں رمضان ۲۲۸ھ میں تقریباً سو سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

ابوجعفر محمد بن مصعب رضی اللہ عنہ۔

آپ قاری قرآن پاک تھے آپ نے حدیثیں سنیں اور علماء کی صحبتوں کا فیض اٹھایا اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں آپ بغداد میں ذی قعدہ ۲۲۸ھ میں فوت ہوئے۔

ابوالفضل، محرز بن عون بن ابوعون رضی اللہ عنہ:

فرماتے ہیں: میرے والد نے مجھے بتایا کہ میں ۲۳۲ھ میں پیدا ہوا اور یہ بھی بتایا کہ اسی سال ابو جعفر منصور نے لوگوں کو حج کرایا، آپ نے حدیثیں بیان کیں اور آپ سے لوگوں کے لیے ایک بڑی کتاب لکھی آپ ثبت و ثقہ ہیں آپ ۸۸ سال کی عمر میں بغداد میں ۲۳۱ھ میں فوت ہوئے۔

ابومحمد ولید بن صالح، نخاس:

آپ عبید اللہ بن عمرو ابو معشر، بقیہ بن ولید، حماد بن سلمہ اور عیسیٰ بن یونس سے راوی ہیں۔

عباس بن غالب و راق رضی اللہ عنہما:

آپ مصنف و کعب وغیرہ کے راوی ہیں، آپ بغداد میں صفر ۲۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

ابوالولید، رباح بن جراح رضی اللہ عنہ، موصلی:

آپ بغداد میں آئے تھے آپ معانی بن عمران اور عقیف بن سالم سے راوی ہیں۔

ابوہام، ولید بن شجاع بن ولید رضی اللہ عنہما، سکونی:

آپ بقیہ بن ولید وغیرہ شامیوں اور عراقیوں سے راوی ہیں۔

ابومحمد، نوح بن یزید، مؤدب، تمیز، ابراہیم بن سعد رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں اور آپ میں کچھ لغزش ہے۔

عبد العزیز بن بحر مؤدب رضی اللہ عنہ:

آپ اسماعیل بن جعفر وغیرہ سے راوی ہیں۔

ابویحییٰ، کامل بن طلحہ، حمدری، بصری رضی اللہ عنہما:

آپ بصرہ میں ۲۳۳ھ میں انتقال فرما گئے۔

یوسف بن موسیٰ، قطان رضی اللہ عنہما:

آپ اصل میں کوئی تھے، ری میں بس گئے اور وہاں تجارت کر لی آپ نے جریر بن عبد الحمید سے سماع کیا ہے بغداد میں

آپ کا گھر دار القطن میں تھا۔

ابوعبید اللہ مردویہ رضی اللہ عنہ، صاحب:

آپ کا نام عبدالصمد بن زیاد ہے اور لقب مردویہ ہے آپ فضیل بن عیاض اور ابن عیینہ وغیرہ سے راوی ہیں۔ آپ ثقہ

صاحب سنت اور پارسا تھے آپ سے لوگوں نے حدیثیں لکھی ہیں آپ ذی الحجہ کی پچھلی تاریخ کو ۲۳۵ھ میں فوت ہوئے۔

ابوزکریا، یحییٰ بن اسماعیل واسطی رضی اللہ عنہما، ابو عمرو رضی اللہ عنہما، مقبری:

آپ حفص بن عمر بن عبدالعزیز بن صہبان ازدی ہیں آپ سے بہت سے لوگوں نے قرآن حکیم پڑھا، آپ قرآن پاک

کے اور اس کی تفسیر کے عالم تھے آپ شریک وغیرہ سے عراقیوں سے مدنیوں سے اور شامیوں سے حدیثیں لکھتے ہیں۔
محمد بن سعد رضی اللہ عنہما، تلمیذ و اقدی رضی اللہ عنہما۔

آپ حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس بن عبدالمطلب ہاشمی کے آزاد کردہ غلام ہیں اور بغداد میں اتوار کے دن ۴ جمادی الثانی ۲۳۰ھ کو ۶۲ سال کی عمر میں انتقال فرما گئے اور مقبرہ باب الشام میں دفنائے گئے آپ ہی نے یہ کتاب 'طبقات تالیف فرمائی اور اس کا مواد جمع کیا اور اسے ترتیب دے کر لوگوں میں شائع کی اور آپ ہی سے طبقات روایت کی جاتی ہے آپ کا علم بہت وسیع تھا اور حدیث میں بھی گہری نظر تھی اور روایات میں بھی۔ آپ نے بہت سی کتابیں حدیث، غرائب اور فقہ پر لکھیں (حق تعالیٰ شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین)۔

خراسان کے غازی اور اس میں فوت ہونے والے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ابو عبداللہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ:

ابن عبداللہ بن حارث بن اعرج بن سعد بن رزاح بن عدی بن سہم بن مازن بن حارث بن سلامان بن اسلم بن افضلی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے راہ میں آپ کے پاس سے گزرے اور آپ کو سورہ مریم کے شروع کا کچھ حصہ پڑھایا اس وقت آپ مشرف بہ اسلام ہوئے پھر آپ جنگ اُحد کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور آپ سے باقی سورہ مریم سیکھی اور اس کے بعد آپ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مدینہ ہی میں ٹھہرے رہے پھر جب مسلمانوں کے قبضہ میں بصرہ کا علاقہ آ گیا اور شہر بصرہ آباد ہونے لگا تو بریدہ بصرہ میں چلے گئے اور وہاں ایک گھر کے لیے حد بندی کی پھر آپ بصرہ سے جہاد کے لیے خراسان تشریف لے گئے اور یزید بن معاویہ کے زمانہ میں مرو میں فوت ہو گئے آپ کی اولاد وہیں رہی ان میں سے کچھ بچے بغداد آ کر بس گئے تھے وہ بغداد میں فوت ہوئے۔

باخبار ابوالنضر ہاشم بن قاسم متحدیث شعبہ متحدیث محمد بن ابویعقوب ضعی مجدیث سامع از بریدہ عقب نہریخ از بریدہ: زندگی کا لطف گھوڑے دوڑانے ہی میں ہے۔

ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام محمد بن عمر کے اور ابو برزہ کے کسی بچے کے بیان کے مطابق عبداللہ بن نضله ہے لیکن بعض علماء نے نضله بن عبداللہ بتایا ہے اور بعض نے نضله بن عبید بن حارث بن جناد بن ربیعہ بن عدیل بن انس بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضلی بتایا ہے۔ ابو برزہ قدیم الاسلام ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں اور قتل عبدالعزی بن نخل میں شامل تھے جب کہ ابن نخل کعبہ اقدس کے خلاف میں چھپا ہوا تھا اور آپ کی وفات تک ہر غزوہ میں آپ کے ساتھ رہے پھر آپ بصرہ چلے گئے اور

وہاں گھر بنا لیا۔ بصرہ میں آپ کی نسل ہے پھر جہاد کے لیے خراسان چلے گئے اور وہاں انتقال فرما گئے۔
حکم بن عمرو بن مجدع بن حذیم رضی اللہ عنہ:

ابن حارث بن نعیلہ بن ملیک بن ضمیرہ بن بکر بن عبد منہا بن کنانہ نعیلہ ثعلبہ غفاری بن ملیک کے بھائی ہیں اسی لیے حکم کو غفاری کہا جاتا ہے حالانکہ آپ نعیلہ غفاری کے بھائی کی اولاد ہیں۔ حکم رحمت عالم ﷺ کی صحبت سے آپ کے آخری دم تک فیضیاب رہے پھر بصرہ میں جا بے پھر زیاد بن ابوسفیان نے آپ کو خراسان کا حاکم بنا دیا اور خراسان ہی پر حکومت کی حالت میں آپ کی خراسان ہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ۵۵ھ میں وفات ہوئی۔
عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ:

ابن حبیب بن عبد شمس بن مناف بن قصی آپ کی والدہ اروی بنت ابوالفرعہ ہیں اور ابوالفرعہ کا نام حارث بن کعب بن مطرف بن ضریس ہے جو بنو فراس بن غنم میں سے ہیں۔ عبدالرحمن بصرہ میں جا بے تھے آپ رسول اللہ ﷺ سے کئی حدیثیں روایت کرتے ہیں آپ کا نام عبدالکعبہ تھا پھر جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے آپ کا نام عبدالرحمن رکھ دیا اور آپ سے فرمایا: عبدالرحمن! امارت کا سوال نہ کرنا آپ کو عبداللہ بن عامر نے سجستان کا حاکم مقرر فرما دیا تھا آپ نے علاقہ خراسان میں جہاد کیا اور فتوحات حاصل کیں پھر آپ بصرہ واپس آ گئے اور ۵۵ھ میں بصرہ ہی میں فوت ہوئے آپ کے جنازے کی نماز زیاد بن ابوسفیان نے پڑھائی۔
شم بن عباس رضی اللہ عنہ:

ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف آپ کی والدہ ام فضل، لبابۃ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ ہیں شہم حلیہ میں رحمت عالم ﷺ سے ملتے جلتے تھے آپ نے علاقہ خراسان میں جہاد کیا اس وقت خراسان کے حاکم سعید بن عثمان تھے آپ نے شہم سے کہا: میں آپ کو ایک ہزار سہام دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، پہلے پانچواں حصہ نکالو پھر لوگوں کو ان کے حقوق دو پھر مجھے جو چاہو دو آپ پارسا اور قبا بل شخص تھے آپ کی وفات سمرقند میں ہوئی۔
عبدالرحمن بن یحییٰ رضی اللہ عنہ:

آپ سے بکیر بن عطاء از نبی ﷺ راوی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: حج عرفہ ہے، جس نے صبح صادق سے پہلے عرفہ پالیا اس نے حج پالیا۔

خراسان کے محدثین کرام اور علمائے عظام

یحییٰ بن یحییٰ کنانی رضی اللہ عنہ:

آپ بصری تھے اور نحوی تھے اور عربی زبان و قرآن کے عالم تھے پھر آپ علاقہ خراسان مرو میں آئے اور یہاں کے قاضی بنا دیئے گئے آپ ایک گواہ اور شہم سے فیصلہ فرما دیا کرتے تھے ثقہ ہیں۔

باخبار شہابہ بن سواذ نخعی ابوالطیب، موسیٰ بن یسار، میں نے یحییٰ بن یحییٰ مرو میں عہدہ قضاء پر دیکھا، اکثر اوقات میں نے

دیکھا کہ آپ بازار ہی میں یا راستہ ہی میں فیصلہ فرمادیا کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر کہیں جاتے ہوتے کہ دو جھگڑنے والے آجاتے اور آپ گدھے کو ٹھہرا کر سوار ہونے کی حالت میں فیصلہ فرمادیا کرتے تھے۔
ابو مجلز لاحق رضی اللہ عنہ:

ابن حمید سدوسی آپ ثقہ ہیں اور صاحب احادیث ہیں آپ مرو میں آئے تھے اور یہیں گھر بنا لیا تھا اور مرو کے بیت المال کے منتظم تھے آپ ایک آنکھ سے نابینا تھے اور عہد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ میں فوت ہوئے۔
یزید بن ابوسعید رضی اللہ عنہ، نحوی:

آپ مرو کے باشندے تھے اور صاحب احادیث ہیں۔
ابو یوسف محمد رضی اللہ عنہ شخصی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور سعید بن جبیر سے راوی ہیں آپ مرو کے قاضی تھے۔
ابو القاسم ضحاک بن مزاحم رضی اللہ عنہ:

آپ بخ کے تھے۔
عطاء خراسانی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں آپ شام میں بھی آئے تھے لہذا آپ سے شامی راوی ہیں اور آپ سے مالک بن انس وغیرہ بھی راوی ہیں۔
ابو المنیب عیسیٰ بن عبید رضی اللہ عنہ:

آپ کے پاس حدیثیں ہیں۔ آپ عکرمہ سے راوی ہیں۔
ابو جریر عبدالرحمن بن حسین رضی اللہ عنہ:

آپ جستان کے قاضی تھے۔
ربیع بن انس رضی اللہ عنہ:

باخبار عمار بن نصر خراسانی ربیع بن انس بکر بن وائل کے آدمی ہیں۔ آپ بصرہ کے باشندے تھے آپ کی ابن عمر جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے ملاقات ثابت ہے۔ آپ حجاج کے ڈر سے بھاگ کر مرو چلے گئے تھے اور بزرگاؤں میں گھر بنا لیا تھا پھر دوسرے قریہ "سدوز" میں منتقل ہو گئے تھے اور اسی میں تادم واپس رہے پھر جب اولاد عباس کی دعوت ابھری تو آپ کو خراسان میں بھی بلایا گیا تھا لیکن آپ روپوش ہو گئے تھے اسی اثناء میں آپ کے پاس ابن مبارک پہنچے اور آپ سے چالیس حدیثیں سنیں۔ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے: مجھے ان حدیثوں کے عوض اتنا اتنا مال (مال کی تعین فرما کر) بھی مسرت نہ پہنچاتا۔ ربیع بن انس ابو جعفر منصور کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابراہیم بن میمون، صالح رضی اللہ عنہما:

ابو مسلم خراسانی کے جو دعوت عباسیہ کا ایک سرگرم کارکن تھا ابراہیم اور محمد بن ثابت عبدی دوست تھے اور ابو مسلم کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے اور اس کی باتیں سنا کرتے تھے۔ پھر جب ابو مسلم نے خراسان میں یہ تحریک اٹھائی اور اسے لے کر ابھر تو ایک شخص چپکے سے ان دونوں کے پاس پہنچا اور ابو مسلم کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے قتل کے بارے میں مشورہ کیا تو محمد بن ثابت نے کہا: میری رائے میں تو ابو مسلم کو قتل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایمان قتل سے مانع ہے اور ابراہیم صالح نے کہا: میری رائے میں ابو مسلم کو قتل کر دیا جائے چنانچہ ابو مسلم نے محمد بن ثابت عبدی کو مرو کا قاضی بنا دیا اور ابراہیم صالح کو بلوا کر قتل کر ڈالا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم ابو مسلم کے پاس تشریف لے گئے تھے اور اسے نصیحت فرمائی تھی تو ابو مسلم نے آپ سے کہا اپنے گھر جا کر بیٹھ ہمیں تیرے خیالات معلوم ہو گئے آخر کار آپ گھر آئے اور خوشبو ملی اور کفن پہن کر ابو مسلم کے پاس پھر گئے اور بھرے مجمع میں اسے نصیحت کی اور آڑے ہاتھوں لیا آخر کار ابو مسلم کے حکم سے آپ کو قتل کر کے آپ کی لاش ایک گڑھے میں پھینکوا دی گئی۔

محمد بن ثابت عبدی رضی اللہ عنہما:

آپ اصل میں بصری تھے اور ابوالمتوکل سے راوی ہیں آپ کو مرو کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا آپ سے ابن مبارک وغیرہ راوی ہیں۔

یعقوب بن قعقاع رضی اللہ عنہ:

آپ مرو کے باشندے اور وہاں کے قاضی تھے اور عطاء بن ابورباح سے راوی ہیں اور آپ سے ثوری اور ابن مبارک راوی ہیں۔

منصور بن ابوسریہ رضی اللہ عنہما:

آپ سے ابن مبارک راوی ہیں۔

حسین بن واقد رضی اللہ عنہما:

آپ عبداللہ بن بریدہ سے راوی ہیں اور حدیث میں اچھے ہیں۔

خارجہ بن مصعب رضی اللہ عنہما سرحسی:

لوگ ان کی حدیث سے بچنے اور انہیں چھوڑ دیا۔

ابوعصمہ، نوح بن ابومریم رضی اللہ عنہما، ابو حمزہ سکری رضی اللہ عنہما:

آپ مرو کے باشندے ہیں اور قدیم ہیں۔

ابوعمر و حفص بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما بلخی رضی اللہ عنہما:

آپ نیشاپور کے رہنے والے ہیں۔

عبداللہ تجزی:

آپ بختان کے باشندے ہیں اور ثوری وغیرہ سے راوی ہیں آپ کا سلسلہ نسب نیشاپوریوں سے جاملتا ہے۔

نہشل بن سعید بن وردان رضی اللہ عنہما:

آپ ضحاک بن مزاحم سے راوی ہیں۔

فضل بن موسیٰ رضی اللہ عنہما سینانی:

سینان مرو کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہے جو ریح سقاؤم سے ہے فضل ثقہ ہیں اور آپ سے وکیع بن جراح وغیرہ

راوی ہیں۔

ابو عبدالرحمن، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہما:

آپ ۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے ہوشیار ہونے کے بعد علم حاصل کیا، بہت سی روایتیں بیان کیں اور ابواب و انواع علوم میں بہت کتابیں لکھیں جن کو قوم نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان سے لوگوں نے نقلیں لیں آپ زہد و جہاد پر اشعار بھی کہا کرتے تھے آپ نے عراق، شام، حجاز، مصر اور یمن کے سفر کیے اور وسیع علم کا سماع فرمایا آپ ثقہ، محفوظ و مامون، امام، حجت اور کثیر الحدیث ہیں آپ ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے کہ مقام ہیبت میں ۱۸۱ھ میں ۶۳ سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔

نضر بن محمد رضی اللہ عنہما مروزی:

آپ لوگوں کی نگاہوں میں علم و فقہ میں اور فضل و عقل میں مقدم تھے اور ابن مبارک کے دوست تھے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما

کے شاگرد تھے۔

ابو الحسن، مکی بن ابراہیم رضی اللہ عنہما بلخی:

ثقہ ہیں حج کے ارادے سے بغداد تشریف لائے اور حج کر کے واپس چلے گئے اور آتے جاتے لوگوں سے حدیثیں بیان

کیں لوگوں نے آپ سے حدیثیں لکھیں آپ حدیث میں ثبت ہیں۔

آپ بلخ میں ۲۱۵ھ میں فوت ہوئے۔

نضر بن شمیمیل رضی اللہ عنہما مروزی:

آپ بصری ہیں اور بنو مازن کی برادری کے ہیں اور انشاء اللہ ثقہ ہیں اور صاحب حدیث ہیں اور اشعار کے راوی بھی ہیں

اور نحو و تاریخ کے عالم بھی ہیں آپ مامون کے زمانہ میں ۲۰۳ھ میں فوت ہوئے ہنوز مامون خراسان ہی میں تھے۔

مقاتل بن سلیمان بلخی رضی اللہ عنہما:

آپ کی لکھی ہوئی تفسیر مشہور ہے آپ ضحاک بن مزاحم اور عطاء سے راوی ہیں، محدثین کرام آپ کی حدیثوں سے بچتے ہیں

اور آپ کو منکر قرار دیتے ہیں۔

ابو مطیع، حکم بن عبد اللہ بلخی رضی اللہ عنہما:

آپ بلخ کے قاضی تھے اور مرجہ خیالات کے تھے آپ کی ملاقات عبد اللہ بن حرمہ وغیرہ سے ثابت ہے آپ حدیث میں ضعیف ہیں اور نابینا تھے۔

عمرو بن ہارون بلخی رضی اللہ عنہما:

آپ ابن جریج وغیرہ سے راوی ہیں۔ لوگوں نے آپ سے ایک بڑی کتاب لکھی ہے اور آپ کی حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ ابو محمد، سلم بن سالم بلخی رضی اللہ عنہما:

آپ مرجہ ہیں اور حدیث میں ضعیف ہیں لیکن تنگی تلوار تھے اور بے دھڑک تبلیغ کیا کرتے تھے آپ کی خراسان میں ریاست تھی پھر امیر المومنین ہارون نے آپ کو بلوا کر جیل میں محبوس فرما دیا آپ ہارون کی وفات تک محبوس ہی رہے پھر جب محمد بن ہارون برسر اقتدار آئے تو انہوں نے آپ کو رقبہ کے قید خانہ سے رہا کیا آخر کار آپ بغداد تشریف لائے اور بغداد میں کچھ دنوں ٹھہرے پھر خراسان جا کر فوت ہو گئے۔

ابو معان، مقاتل بن حیان بلخی رضی اللہ عنہما:

آپ سے روایتیں کی جاتی ہیں۔

ابو سعید، خلف بن ایوب بلخی رضی اللہ عنہما:

آپ سے بھی روایتیں کی جاتی ہیں۔

ابو عثمان، شداد بن حکیم بلخی رضی اللہ عنہما:

آپ سے بھی روایتیں کی گئی ہیں۔

ابو تمیلہ مروزی رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام یحییٰ بن واضح ہے آپ انصار کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ نے محمد بن اسحاق سے ملاقات کی ہے اور ان سے روایتیں بھی کی ہیں آپ ثقہ ہیں آپ سے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔

ابو العلاء، حسن بن سوار مروزی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں حج کے ارادے سے بغداد آئے تو لوگوں نے آپ سے روایتیں کیں اور لکھ لیں پھر آپ خراسان واپس جا کر مامون کے آخری عہد میں خراسان میں فوت ہو گئے۔

عبد الصمد بن حسان رضی اللہ عنہما مروزی:

آپ مروزی نیشاپور اور ہرات کے قاضی تھے ثقہ ہیں اور مامون کے آخری عہد میں فوت ہوئے۔

علی بن حسن بن شقیق، تلمیذ ابن مبارک رضی اللہ عنہما:

آپ کی ملاقات حسین بن واقد سے ثابت ہے اور آپ ان سے روایت بھی کرتے ہیں آپ مرو کے باشندے ہیں اور مرو ہی میں فوت ہوئے۔

عبدالعزیز بن البورزمہ مروزی رضی اللہ عنہما:

آپ حماد بن سلمہ اور حماد بن زید وغیرہ سے راوی ہیں اور ثقہ ہیں۔

ابو سہل، نصر بن باب رضی اللہ عنہما:

آپ مرو کے رہنے والے تھے آپ نے داؤد بن ابوالہند، عوف اعرابی اور حجاج وغیرہ سے سماع فرمایا ہے آپ بغداد تشریف لائے تو بغدادیوں نے آپ سے سماع کیا اور روایتیں کیں پھر جب آپ نے ابراہیم صالح سے حدیثیں بیان کیں تو لوگوں نے آپ کو تم قرار دے کر آپ کی حدیثوں کو چھوڑ دیا۔

علی بن اسحاق دارکانی رضی اللہ عنہما:

دارکان مرو کا ایک قریب ہے حجاج اس قریب میں ٹھہرا کرتے تھے جب مرو سے باہر جاتے تھے آپ ابن مبارک کے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں اور آپ کی صحبت سے معروف ہیں آپ ثقہ ہیں جب آپ بغداد آئے تو بغدادیوں نے آپ سے سماع کیا۔ ابو عبد اللہ حسین بن ولید رضی اللہ عنہما:

آپ قریش کے آزاد کردہ غلام تھے۔

ابو بشر، سہل بن مزاحم رضی اللہ عنہما:

آپ مرو کے باشندے تھے اور آپ ایک عبادت گزار عالم اور مفتی تھے۔

ابو وہب، محمد بن مزاحم رضی اللہ عنہما:

آپ ایک وسیع النضر اور قابل عالم تھے ابن مبارک سے راوی ہیں اور آ۲ھ میں فوت ہوئے۔

عتاب بن زیاد مروزی رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ ہیں اور ابن مبارک کے شاگردوں میں سے ہیں۔

ابراہیم بن رسیم رضی اللہ عنہما:

آپ مرو کے باشندے ہیں۔

سفیان بن عبد الملک رضی اللہ عنہما:

آپ بھی مرو کے باشندے ہیں ابن مبارک آپ پر بھروسہ کرتے تھے اور آپ کو اپنی کتابیں دے دیا کرتے تھے۔

سلمہ بن سلیمان رضی اللہ عنہما:

آپ بھی مرو کے رہنے والے ہیں اور ابن مبارک کے شاگرد ہیں اور ان سے معروف ہیں۔

عبداللہ عیاذ بن عثمان رضی اللہ عنہ:

آپ عبدالعزیز بن رواد کے نواسہ ہیں، آپ کے پاس ابن مبارک کی طرف سے کتابیں تھیں۔
محمد بن فضل رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں متروک ہیں اور مرو کے باشندے ہیں۔

عمارہ بن مغیرہ سرحسی رضی اللہ عنہ اور آپ کے بھائی قاسم بن مغیرہ سرحسی رضی اللہ عنہ، ابوسعید صغانی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام محمد بن میر ہے، نابینا تھے ثقہ ہیں۔

عصام بن یوسف بلخی رضی اللہ عنہ:

ابواسحق، ابراہیم بن سلیمان زیات رضی اللہ عنہ:

آپ بخ کے رہنے والے تھے اور مرجمہ خیالات کے تھے۔

ابورجاء قتیبہ بن سعید بلخی رضی اللہ عنہ:

آپ لیث بن سعد اور ابن لہیعہ سے راوی ہیں۔

ابومعاذ نحوی رضی اللہ عنہ:

آپ مرو کے باشندے ہیں اور ابن مبارک سے راوی ہیں۔

ابوعمر و یعمر بن بشر رضی اللہ عنہ:

آپ ابن مبارک کے شاگرد ہیں۔

ری کے علمائے کرام و محدثین عظام

ابوجعفر، عیسیٰ بن ماہان رازی رضی اللہ عنہ:

آپ اصل میں علاقہ مرو کے برزقریہ کے تھے یہ وہی قریہ ہے جس میں شروع میں ربیع بن انس بس گئے تھے اسی قریہ میں ابوجعفر نے ربیع بن انس سے سماع کیا پھر ابوجعفر ری واپس لوٹ گئے اور ری ہی میں فوت ہوئے پھر آپ کو رازی کہا جانے لگا، آپ ثقہ ہیں جب آپ حج کے لیے بغداد و کوفہ آتے تھے تو لوگ آپ سے حدیثیں سنا کرتے تھے۔

یحییٰ بن ضریس رضی اللہ عنہ:

آپ ری کے قاضی تھے اور اسی شہر میں فوت ہوئے۔

سعید بن سنان شیبانی رضی اللہ عنہ:

آپ بنوشیبان کی برادری کے تھے آپ اصل میں کوفی ہیں لیکن بعد میں ری میں جا بسے تھے۔ آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے اور بدخلق تھے۔

ابو عبد اللہ جریر بن عبد الحمید رضی اللہ عنہ:

آپ کو اہل کوفہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ ہی میں پلے بڑھے پھر علم حدیث حاصل کیا اور محدثین سے خوب حدیثیں سنیں پھر ری میں تشریف لے آئے اور یہیں فوت ہو گئے آپ وسیع العلم اور ثقہ ہیں لوگ سفر کر کے آپ سے علم حدیث حاصل کرنے جایا کرتے تھے۔
حکام بن سلم رازی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

ابو عبد اللہ سلمہ ابرش بن فضل رضی اللہ عنہ:

آپ صدوق وثقہ ہیں اور محمد بن اسحاق کے شاگرد ہیں آپ سے غزوات اور تاریخ کے ابتدائی حالات روایت کرتے ہیں آپ ۱۱۰ سال کی عمر میں ری میں فوت ہوئے آپ اتالیق تھے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز انتہائی خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے۔
ابو یحییٰ اسحاق بن سلیمان رضی اللہ عنہ:

آپ عبد القیس کے آزا کردہ غلام تھے آپ ثقہ ہیں اور پارسا اور صاحب فضیلت ہیں کوفہ چلے گئے تھے وہاں کئی سال ٹھہرے رہے پھر ری واپس آ گئے اور ری میں ۹۹ھ میں وفات پا گئے۔
اسحاق بن اسماعیل رضی اللہ عنہ:

آپ کا لقب حیوہ ہے آپ نے حدیثیں بیان کیں اور آپ سے روایتیں کی جاتی ہیں آپ ری میں فوت ہوئے۔

ہمدان کے علمائے کرام

اصرم بن حوشب ہمدانی رضی اللہ عنہ:

جب آپ بغداد آئے تو بغدادیوں نے آپ سے حدیثیں لکھیں پھر آپ ہمدان واپس چلے گئے اور ہمدان میں فوت ہو گئے۔

قم کے محدثین عظام

اشعث بن اسحاق رضی اللہ عنہ، یعقوب بن عبد اللہ اشعری رضی اللہ عنہ:

انبار کے محدثین عظام

ابو جعفر محمد بن عبد اللہ حداء رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور آپ کے پاس حدیثیں ہیں۔

ابو محمد سوید بن سعید انباری رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث (حدیث النورۃ) میں جو انبار سے کئی فرسخ دور ہے مقیم تھے۔

ابو یعقوب اسحاق بہلول رضی اللہ عنہ:

شام میں آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عامر بن عبد اللہ بن جراح بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن حارث بن فہر ہے اور آپ کی والدہ کا نام امیرہ بنت عنم بن جابر بن عبد العزی بن عامر بن عمیرہ ہے، حضرت ابو عبیدہ رسول اللہ ﷺ کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے اور آپ نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی پھر واپس آ کر بدر احد خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شرکت کی، رحمت عالم ﷺ نے مہاجرین و انصار کے تین سو نو جوانوں کا ایک دستہ آپ کی زیر سرکردگی ایک جہنی قبیلہ کی سرکوبی کے لیے ساحل بحر کی طرف بھیجا یہ غزوہ خط کہلاتا ہے۔

باخبار عقیان بن مسلم، محمد بن یثرب، شعبہ و وہیب بن خالد، محمد بن خالد، یثرب خالد، حذافہ بن ابوقلابہ، از انس از نبی ﷺ: کان کھول کر سن لو ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اس امت کے امین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ محمد بن عمر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد شام کے لشکر کا سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بنا دیا تھا آپ جنگ یرموک میں لوگوں کے امیر تھے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن یزید از خالد بن معدان از مالک بن یخامر: آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا یہ حلیہ بیان فرمایا آپ دبلے پتلے تھے چہرے کی رگیں نمایاں تھیں، ہلکی داڑھی تھی میزھی کمر تھی، ٹوٹی یاگری ہوئی داڑھیں تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن ابوبکر بن عبد اللہ بن ابوسرہ ابو عبیدہ کی قوم کے آدمیوں سے: ابو عبیدہ جب بدر میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کی عمر ۴۱ سال تھی اور آپ طاعون عمواس میں عہد فاروقی میں ۱۸ھ میں ۵۸ سال کی عمر میں فوت ہوئے آپ کی قبر عمواس میں ہے جو رملہ سے چار میل دور ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سر اور داڑھی میں حنا اور وسۃ کا خضاب لگایا کرتے تھے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔

ابو عبید اللہ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، مولیٰ ابوبکر رضی اللہ عنہ:

آپ لوٹھی کے بطن سے پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا جو بنی نجح کی لوٹھی تھیں۔ باخبار اسماعیل بن ابراہیم اسدی از یونس از حسن از نبی ﷺ: بلال حبشہ میں سب سے آگے ہیں۔ باخبار عبد اللہ بن زبیر حمیدی، محمد یثرب سفیان بن عیینہ از اسماعیل بن ابوخالد از قیس بن ابوحازم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو دو سو درہم میں خرید لیا تھا۔

باخبار فضل بن دکین و عبد الملک بن عمر و عقیدی و احمد بن عبد اللہ بن یونس باخبار عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابوسلمہ از محمد بن منکدر از جابر بن عبد اللہ از عمر: ابوبکر ہمارے سردار ہیں اور آپ نے ہمارے سردار (بلال) کو آزاد کیا۔ باخبار محمد بن عبید طائسی و فضل بن دکین، محمد یثرب مسعودی از قاسم بن عبد الرحمن: سب سے پہلے اذان دینے والے بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد یثرب ابراہیم بن محمد بن عمار از محمد از عمار: بلال نیزہ لے کر عید و بقر عید اور نماز استسقاء کے موقعوں پر رسول اللہ ﷺ کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ محمد بن عمر، بلال بدر احد اور تمام لڑائیوں میں نبی ﷺ کے ساتھ ساتھ رہے پھر رسول

اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اجازت مانگی کہ مجھے شام جانے کی اجازت دی جائے تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں صدیق اکبرؓ نے فرمایا بلال اللہ سے ڈر کر میری حرمت و حقوق کا خیال رکھو میں بوڑھا ہوں کمزور ہوں اور موت قریب آگئی ہے یہ سن کر بلال رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ دیا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر حسب سابق درخواست کی آپ نے اجازت دے دی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ملک شام کو روانہ ہو گئے اور تادم واپس شام ہی میں رہے۔

تجدیث محمد بن عبد طحانسی، تجدیث اسماعیل بن ابی خالد از قیس، حضرت بلالؓ (رحمت عالم ﷺ کی وفات کے بعد) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں: اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو ٹھہرا لیجئے اور اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو مجھے اللہ کے کاموں کے لیے چھوڑ دیجئے۔

باخبار محمد بن عمر باخبار موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث تمیمی از محمد بن ابراہیم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق میں عہد عمر رضی اللہ عنہ میں ساٹھ سے کچھ اوپر کی عمر میں ۲۰ھ میں فوت ہوئے اور باب صغیر کے پاس مقبرہ دمشق میں دفنائے گئے۔

باخبار محمد بن عمر، سماع شعیب بن طلحہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں بلال ابو بکر کے ہم عمر تھے۔ محمد بن عمر اگر یہ بات صحیح ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ۶۳ سال کی عمر میں ۳ھ میں وفات پائی اس میں اور بلال کی وفات میں ۷ سال کا فرق ہے (اس حساب سے بلال کی عمر ستر سال کی ہوتی ہے) حالانکہ شعیب بن طلحہ بلال کی ولادت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ وہ انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہم عمر بتاتے ہیں۔

باخبار محمد بن عمر، تجدیث سعید بن عبد العزیز از یحییٰ بن یزید، بلال کو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ آپ سخت گندم گوں دہلے پتلے لہنے کو زپشت، بہت بالوں والے ہلکے رخساروں والے تھے آپ کے بالوں میں سفید بال بہت تھے جن میں خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔

ابوالولید عبادہ بن صامت بن قیس رضی اللہ عنہ:

ابن اصرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج جو قافلہ سے ہیں آپ کی والدہ کا نام قرۃ العین بنت عبادہ بن نعلہ بن مالک بن عجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عمرو بن عوف بن خزرج ہے۔ عبادہ بیچہ عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ موجود تھے آپ بارہ لقباء میں سے ایک لقب ہیں آپ بدر احد خندق اور تمام لڑائیوں میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک رہے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے جب مسلمانوں نے شام پر جہاد کا سلسلہ شروع کیا پھر آپ وفات کے وقت تک شام ہی میں رہے۔

باخبار محمد بن عمر، تجدیث ابو حذرہ یعقوب بن مجاہد از عبادہ بن ولید بن عبادہ از ولید بن عبادہ۔ عبادہ طویل القامت، بھاری بھر کم اور حسین و جمیل آدمی تھے آپ ملک شام میں رملہ میں ۳۳ھ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ۲۷ سال کی عمر میں فوت ہوئے آپ کی نسل باقی ہے۔ محمد بن سعد میں نے بعض لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شام میں فوت ہوئے۔

ابو عبد الرحمن، معاذ بن جبل، بن عمرو بن ادی بن سعد سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن شاردہ بن یزید بن جشم بن خزرج کے

بھائی آپ کی والدہ ہند بنت سہل جمہیہ ہیں اور آپ کے اخیافی بھائی عبداللہ بن جد بن قیس بدری ہیں بدر میں معاذ کی عمر میں اکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ بیعت عقبہ میں ستر انصار میں آپ بھی شامل ہیں آپ بدر احد خندق اور تمام لڑائیوں میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے اور رسول اللہ ﷺ نے آپ کو عامل و معلم بنا کر یمن بھیجا آپ یمن ہی میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ سدھار گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا آپ یمن میں سالار لشکر تھے پھر جب آپ مکہ معظمہ تشریف لائے تو آپ نے اس سال حج کا امیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پایا۔

باخبار محمد بن عبداللہ اسدی محمد ریث سفیان ثوری و باخبار عفان بن مسلم محمد ریث وہیب بن خالد از خالد حناہ از ابو قلابہ از انس بن مالک بقول رسول اللہ ﷺ میری امت میں حلال حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ محمد بن عمر پھر معاذ جہاد کے لیے ملک شام کو روانہ ہو گئے۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ باخبار موسیٰ بن عبیدہ از ایوب بن خالد از عبداللہ بن رافع جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ طاعون عمواس میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے معاذ کو اپنا نائب مقرر فرما دیا پھر جب یہ وبا زور پکڑ گئی تو لوگوں نے معاذ سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے ہٹا لے فرمایا: یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے بلکہ تمہارے نبی ﷺ کی دعا ہے اور تم سے پہلے زمانہ کے صلحاء کی موت ہے اور یہ ایک ایسی شہادت ہے جس سے حق تعالیٰ تم میں سے جس کو چاہے نوازے اے اللہ اپنی اس رحمت سے آل معاذ کو بھی بھر پور حصہ عطا فرما پھر آپ کے دو صاحبزادے طاعون میں مبتلا ہو گئے آپ نے دونوں سے پوچھا: کیا حال ہے؟ بولے ابا جان آپ کے رب کی جانب سے یہ ایک برحق امر ہے آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں فرمایا: ان شاء اللہ تم دونوں مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے پھر آپ کی دو بیویاں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئیں اور آپ کے انگوٹھے میں گٹھی نکل آئی آپ اسے منہ میں لے کر چوستے اور فرماتے اے اللہ یہ چھوٹی ہے اس میں برکت عطا فرما کیونکہ تو چھوٹی چیز میں برکت عطا فرماتا ہے آخر کار آپ اسی میں فوت ہو گئے۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ از شیبان از اعمش از شہر از حارث بن عمیرہ زبیدی: میں نزع کے وقت معاذ کے پاس موجود تھا کبھی آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور کبھی ہوش میں آ جاتے تھے ہوش کی حالت میں میں نے سنا آپ فرما رہے تھے: میرا گلہ گھونٹ دیجئے کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ سے انتہائی محبت ہے۔

باخبار کثیر بن ہشام محمد ریث جعفر بن برقان محمد ریث حبیب بن ابومرزوق از عطاء بن ابی رباح از ابو مسلم خولانی: میں مسجد حمص میں گیا تو وہاں میں نے تقریباً تیس بزرگ صحابی موجود پائے اتنے میں میں نے دیکھا کہ ان میں ایک نوجوان ہے جس کی سرگیں آنکھیں ہیں چمک دار دانت ہیں اور وہ خاموش ہے بات نہیں کرتا اگر کسی مسئلہ میں لوگوں کو شک ہوتا ہے تو اس سے پوچھ لیتے ہیں میں نے اپنے ہم نشین سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ فرمایا: یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔

باخبار محمد بن عمر باخبار ایوب بن نعمان از نعمان از نعمان اپنی قوم سے اور تجدیث اسحق بن خارجہ بن عبد اللہ بن کعب بن مالک از ابیہ از جدہ: معاذ طویل القامت گورے چٹے خوبصورت دانتوں والے اور بڑی بڑی آنکھوں والے تھے آپ کی بھویں ملی ہوئی تھیں اور بال بہت ہی گھونگھریا لے تھے آپ بیس یا اکیس سال کی عمر میں جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ تبوک کے بعد ۲۸ سال کی عمر میں یمن تشریف لے گئے اور شام میں طاعون عمواس میں ۲۸ سال کی عمر میں اردن کے نواحی میں عہد فاروقی میں وفات پائی آپ لا ولد ہیں۔

باخبار ابن مسلم تجدیث حماد بن سلمہ از علی بن زید از سعید بن مسیب: حضرت عیسیٰ ۳۳ سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے اور معاذ ۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

باخبار علی بن متوکل از ضمیرہ از عثمان بن عطاء از عطاء: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر قنبر خالد میں ہے جو علاقہ دمشق میں ہے۔
ابو ثابت: سعد بن عبادہ بن ولیم بن حارثہ رضی اللہ عنہ:

ابن ابی حزیمہ بن ثعلبہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ انصاری: آپ کی والدہ عمرہ بنت مسعود بن قیس بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار ہیں آپ مسعود بن زید اشہلی بدری کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ سعد جاہلیت میں عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور تیرنے میں اور تیر اندازی میں بڑے مشاق تھے اس زمانہ میں ان فنون میں ماہر شخص کامل کہا جاتا تھا۔ بیعت عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ سعد بھی تھے اور بارہ نقباء میں سے ایک نقیب آپ بھی تھے آپ اپنے قبیلہ کے سردار تھے اور بڑے سخی تھے آپ بدر میں شریک نہ ہو سکے آپ نے بدر پر روانہ ہونے کی تیاریاں کر لی تھیں اور انصار کے گھر جا کر انہیں جنگ بدر پر ابھار رہے تھے کہ آپ کے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر سعد جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو کیا ہے آپ کو اس میں شریک ہونے کی تڑپ تو تھی۔ اس کے بعد آپ احد خندق اور دیگر تمام لڑائیوں میں نبی ﷺ کے ساتھ شریک رہے پھر جب رسول اللہ ﷺ دنیا سے سدھار گئے تو سفیفہ بنو ساعدہ میں زیر صدارت سعد انصاری جمع ہوئے اور سعد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے سلسلہ میں مشورہ کرنے لگے یہ خبر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بھی پہنچ گئی اور یہ دونوں بزرگ کچھ مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے اور انصار و مہاجرین میں کچھ باتیں ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس مجلس کا رنگ بگڑتا دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ہاتھ پھیلائیے اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور آپ کے بعد مہاجرین و انصار نے بھی بیعت کر لی لیکن سعد رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سعد کو نظر انداز کر دیا اور ان سے کوئی تعرض نہیں کیا حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے اور زمام خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ آئی سعد رضی اللہ عنہ نے آپ سے بھی بیعت نہیں کی ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدینہ کی کسی گلی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مذبحیٹ ہو گئی فرمایا: سعد! کیا ہے (بیعت کیوں نہیں کرتے) سعد: عمر! کیا ہے (یعنی میں بیعت نہیں کروں گا) حضرت عمر: کیا تم جس حال پر ہو اسی پر قائم رہو گے؟ سعد: جی ہاں میں اسی پر قائم رہوں گا اب خلافت حق تعالیٰ نے تم کو دے دی ہے آپ کے ساتھی خلیفہ اول ہمیں آپ سے زیادہ پیارے تھے اللہ کی قسم آپ کی ہمسائیگی مجھے ناپسند ہے حضرت عمر: جو اپنے بڑوسی کو پسند نہ کرے وہ اس کے پاس سے چلا جائے۔ سعد: سن لہجے میں آپ کے پاس ٹھہرنے

والانہیں اور میں آپ کا پڑوس چھوڑ کر آپ کے پڑوس سے بہتر پڑوس میں جانے والا ہوں پھر کچھ دنوں کے بعد سعد شام کی طرف آغاز خلافت عمر میں ہجرت کر گئے اللہ آپ پر رحم فرمائے۔

باخبار محمد بن عمر متحد بیٹ بیٹی بن عبد العزیز بن سعید بن سعد بن عبادہ از عبد العزیز بن سعد علاقہ شام میں بمقام حوران عہد عمر کے ڈھائی سال بعد انتقال فرما گئے۔ محمد بن عمر: گویا آپ ۱۵ھ میں فوت ہوئے۔ عبد العزیز مدینہ میں آپ کی موت کی خبر نہیں لگی حتیٰ کہ بئر منبہ یا بئر سکین پر کچھ بچے ایک انتہائی گرم دن میں دو پہر کو پانی کھینچ رہے تھے کہ انہوں نے ہاتف سے یہ شعر سنا۔

فینلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ زمیناہ بسہمین فلم نخطی فوادہ

”یعنی ہم نے خزرج کے سردار سعد کو قتل کر دیا۔ ہم نے ان کے دو تیر مارے اور ہمارا نشانہ ان کے دل کے چوکا نہیں۔“ یہ شعر سن کر بچے گھبرا گئے اور جس دن یہ شعر سنا گیا تھا وہ دن یاد رکھا گیا تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آپ اسی دن فوت ہوئے آپ ایک سوراخ میں پیشاب کرنے لگے کہ آپ کو اچک لیا گیا اور فوراً انتقال فرما گئے کہتے ہیں آپ کی جلد سبز ہو گئی تھی۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار سعید بن ابو عمرو بے بسماح ابن سیرین سعد نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا پھر پیشاب سے فارغ ہو کر آئے تو اپنے رفقاء سے کہنے لگے میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے بدن میں کچھ ریگلتا جا رہا ہے پھر آپ فوت ہو گئے پھر لوگوں نے جن کا مذکورہ بالا شعر سنا۔

ابو الدرداء رضی اللہ عنہ عویمر:

ابن زید بن قیس بن عائشہ بن امیہ بن مالک بن عامر بن عدی بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج آپ کی والدہ محبہ بنت واقد بن عمرو بن اطنابہ بن عامر بن زید مناتہ بن مالک بن ثعلبہ بن کعب ہیں۔ ابو الدرداء کے والد اپنے گھر کے تمام ممبروں میں سب سے پیچھے مشرف بہ اسلام ہوئے ایک دن عبد اللہ بن رواحہ جو آپ کے جاہلیت میں بھی بھائی تھے اور اسلام میں بھی کلبھاڑی لے کر یہ شعر گنگناتے ہوئے ابو الدرداء کے بت کو توڑنے لگے۔

تبراً من اسماء الشیاطین کلہا الا کل ما یدعی مع اللہ باطل

”یعنی شیطانوں کے تمام ناموں سے بیزار ہو جاؤ دیکھو! ہر وہ شے جو اللہ کے ساتھ پکاری جائے باطل ہے۔“

ابو الدرداء رضی اللہ عنہ آتے ہیں آپ کی اہلیہ ابن رواحہ کے فعل کی آپ کو اطلاع دیتی ہیں آپ دل میں کچھ سوچتے ہیں پھر فرماتے ہیں: اگر اس بت کے پاس کچھ بھلائی ہوتی تو خود اپنا دفاع کرتا پھر گھر سے نکل کر ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو جاتے ہیں۔

باخبار ابو معاویہ ضریر متحد بیٹ اعش از حیمہ از ابو الدرداء: نبی ﷺ کی بعثت سے قبل میں تاجر تھا پھر جب آپ مبعوث ہو گئے تو میں تجارت و عبادت میں مصروف رہا لیکن یہ دونوں کام اکٹھے چل نہ سکے آخر کار میں نے تجارت چھوڑ دی اور عبادت اختیار کر لی۔

محمد بن عمر: بعض کہتے ہیں: ابو الدرداء رضی اللہ عنہ احد میں شریک تھے آپ نے انہیں اس دن دیکھا (جبکہ مسلمان ہر طرف

شکست کھا رہے تھے) اور فرمایا: عومیر بڑے اچھے شہسوار ہیں اور ہلکے پھلکے ہیں ابوالدرداء اونچے طبقہ کے صحابہ میں اور پختہ ارادے والوں میں سے تھے آپ نبی ﷺ سے بہت سی حدیثیں روایت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں شریک رہے۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن معاویہ بن صالح ازربیعہ بن یزید از ابوالدرداء: جب آپ رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث بیان فرماتے تو یہ کہا کرتے تھے: یا اللہ اگر یہ حدیث اس طرح نہ ہو تو اس کے مشابہ اور اس کے ہم شکل ہے۔ محمد بن عمر ابوالدرداء ملک شام چلے گئے تھے اور مرتے دم تک وہیں رہے۔

باخبار عفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن زید از یحییٰ بن سعید ابوالدرداء کو قاضی بنا دیا گیا لوگ آپ کو مبارکبادیاں دینے لگے فرمایا: کیا تم عہدہ قضاء پر مجھے مبارکبادیاں دے رہے ہو حالانکہ میں ایک ایسے گڑھے کے کنارے پر کھڑا کر دیا گیا ہوں جس کی گہرائی عدن ایمن سے بہت زیادہ ہے۔

اگر عہدہ قضاء کا وبال لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس سے بیزاری اور کراہت کی وجہ سے اسے قرعہ ڈال کر حاصل کریں اور اگر اذان کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس میں رغبت و شوق کی خاطر اسے قرعہ ڈال کر حاصل کریں۔ باخبار ابو معاویہ ضریر بن محمد بن اعمش از عمر بن مرہ از سالم بن ابوالجعد از ام درداء از ابوالدرداء: ایک ساعت کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔

باخبار وہب بن جریر و ہشام ابوالولید بن محمد بن اعمش از غیلان بن بشیر از علی بن ولید: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: آپ کو اپنے محبوب فقر سے محبت ہے اور رب کے دیدار کی وجہ سے موت سے پیار ہے اور گناہوں کے مٹ جانے کی وجہ سے بیماری سے الفت ہے۔ باخبار ابو معاویہ ضریر بن محمد بن اعمش از غیلان بن بشیر از علی بن ولید: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: آپ کو اپنے محبوب کے لیے کیا چیز محبوب ہے؟ فرمایا: موت پوچھا گیا: اگر موت نہ آئے تو؟ فرمایا: مال و اولاد کی قلت۔

باخبار عفان بن مسلم و سلیمان بن حرب بن محمد بن ابولہلال بن محمد بن معاویہ بن قرہ: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور آپ کے دوست آپ کی بیماری پر سی کے لیے آئے اور آپ سے پوچھا ابوالدرداء کیا بیماری ہے؟ فرمایا گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہوں پوچھا: کس چیز کو دل چاہتا ہے؟ فرمایا جنت کو بولے طبیب کو لا کر دکھادیں؟ فرمایا: طبیب ہی نے مجھے بستر پر لٹایا ہے۔

باخبار معن بن عیسیٰ بن محمد بن ابو معشر از محمد بن کعب قرظی: نزع کے وقت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس حبیب بن مسلمہ آئے اور بولے ابوالدرداء: کیا حال ہے؟ فرمایا: میں اپنے کو بوجھل پاتا ہوں بولے: میرے خیال میں یہ پیغام موت ہے فرمایا: ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

باخبار محمد بن عمر: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دمشق میں عہد عثمان رضی اللہ عنہ میں ۳۲ھ میں فوت ہوئے شام میں آپ کی نسل ہے۔ محمد بن سعد: مجھے غیر محمد بن عمر نے از ثور بن یزید از خالد معدان بتایا کہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ شام میں ۳۲ھ میں فوت ہوئے۔ ابو عبد اللہ شریح بن حبیب بن حسنہ رضی اللہ عنہ:

حسنہ آپ کی والدہ ہیں جو عدویہ ہیں۔ آپ عبد اللہ بن مطاع بن عمرو کنندی کے جو بنو زہرہ کے حلیف تھے صاحبزادے ہیں آپ مکہ میں شروع ہی میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے آپ دوسری بار حبشہ کے مہاجرین میں سے اور اونچے طبقہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں

ہے ہیں آپ نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر کئی جہاد کیے آپ شام کے ان امراء میں سے ہیں جن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کر لیا تھا، شریبل طاعون عمواس میں شام میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ۶۷ سال کی عمر میں ۱۸ھ میں فوت ہوئے۔
ابو سلیمان، خالد بن ولید بن مغیرہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن عمیر بن مخزوم، آپ کی والدہ کا نام عصماء ہے آپ لہبایہ صفزی بنت حارث بن حرب بن نجیر بن ہرم بن رویہ بن عبد اللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ ہیں اور ام فضل بن حارث کی اور بنو العباس بن عبد المطلب کی ہمیشہ ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ قریش کے شہسواروں اور ان کے سخت لوگوں میں سے تھے آپ بدر احد اور خندق کی لڑائیوں میں مشرکوں کے ساتھ تھے پھر جب حق تعالیٰ نے آپ کو خیر و برکات سے نوازا نا چاہا تو آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرمادی۔ جب قضیہ کے سال رسول اللہ ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تو خالد موجود نہ تھے آپ نے ان کے بھائی سے ان کے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہیں؟ بولے: اللہ انہیں لے آئے گا، فرمایا: اسلام کے جاہلوں میں خالد کا ہم مثل کوئی نہیں اگر خالد کے مسلمانوں پر لائے ہوئے مہصاب کو اور مشرکوں کے خلاف مسلمانوں سے مل کر سرگرمی عمل دیکھا جائے تو مسلمانوں کی حمایت میں ان کی دوڑ دھوپ مقدم رہے گی یہ خبر خالد کو بھی لگ گئی اس سے ان کے دل میں اسلام کی مزید محبت بڑھ گئی اور اس نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آنے کے لیے آپ کی رغبت میں چار چاند لگا دیئے اور آپ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کا پکا ارادہ فرمایا پھر آپ نے رحمت عالم ﷺ سے ملنے کے لیے اپنے کسی ساتھی کو ڈھونڈھا اتفاق سے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ مل گئے آپ نے ان کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا آپ نے دوڑ کر اس پر لبیک کہا اور آپ کے خیال کو سراہا فرماتے ہیں پھر ہم دونوں اس نیک مقصد کے حاصل کرنے کے لیے چل پڑے جب ہم بدہ میں پہنچے تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی مل گئے بولے مرحبا مرحبا ہم نے کہا آپ پر بھی مرحبا ہو پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے آپ کو سارا واقعہ بتایا اور یہ بھی کہ ہم حاضر دربار رسالت ہونے کے لیے جا رہے ہیں آخر کار عمرو بھی ہمارے ساتھ ہو گئے اور ہم سب مدینہ پہنچ گئے اور یکم صفر ۸ھ میں ہم حاضر خدمت اقدس ہوئے جب میں نے نبی ﷺ کو دیکھا تو آپ کو شرف نبوت کی وجہ سے سلام کیا آپ نے مجھے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا پھر میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا میں تم کو پہلے ہی سے عاقل سمجھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ تمہاری عقل تمہیں صحیح راہ دکھائے بغیر نہ رہے گی پھر میں نے آپ سے بیعت کی اور عرض کی آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں کیونکہ میں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے بہت کچھ گھوڑے دوڑائے ہیں فرمایا: اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ! مجھ پر یہ بڑا بھاری بوجھ ہے آخر آپ نے دعا فرمائی: یا اللہ خالد نے تیری راہ سے روکنے کے لیے جو گھوڑے دوڑائے ہیں ان کے اس گناہ کو معاف فرما دے خالد کہتے ہیں: میں نے اسلام لانے میں سبقت کی اور عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما نے بھی اور ان دونوں نے بھی آپ سے بیعت کی اللہ کی قسم جس دن میں مسلمان ہوا ہوں آپ کسی صحابی کو کفایت میں میرے برابر نہیں سمجھتے تھے۔

باخبار عبد الملک بن عمرو ابو عامر عقدی، تحدیث اسود بن شیبان از خالد بن سمیر از عبد اللہ بن رباح انصاری، تحدیث ابو قتادہ انصاری شہسوار رسول اللہ ﷺ بسماح رسول اللہ ﷺ (شکر کے سالاروں کا ذکر کرتے ہوئے اور یکے بعد دیگرے ہر ایک کی

شہادت کی خبر دیتے ہوئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے) آپ نے فرمایا: پھر جنڈا خالد بن ولید سیف اللہ نے لیا (آپ نامزد سالاروں میں سے نہ تھے) رسول اللہ ﷺ نے اپنی دو انگلیاں اٹھا کر فرمایا: یا اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں ان کے ذریعہ انتقام لے۔ اسی دن سے خالد کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔

باخبار یعلیٰ و محمد پسران عبید و عبد اللہ بن نمیر متحد یث اسماعیل بن ابو خالد از قیس بن ابو حازم از رسول اللہ ﷺ: خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جس کو اللہ نے کافروں پر بھیایا ہے (یعنی اور محمد والی حدیثوں میں ہے: خالد کو ایذا نہ دو کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔

باخبار و کعب بن جراح و عبد اللہ بن نمیر و محمد بن عبید طنافسی از اسماعیل بن ابو خالد از قیس بن ابو حازم: میں نے حیرہ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے سافر ماتے تھے: جنگ موتہ میں میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹیں اور میں نے یعنی چوڑی تلوار پر قناعت کی جو میرے ہاتھ میں تھی۔

محمد بن عمر آپ نے فتح مکہ کے دن خالد کو حکم فرمایا کہ لیط سے مکہ میں داخل ہوں آپ لیط سے مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے قریش کی ایک جماعت کو اور ان کے ادھر ادھر سے جمع کیے ہوئے لوگوں کو جن میں صفوان بن امیہ عکرمہ بن ابو جہل اور اسمیل بن عمرو بھی تھے اپنے آگے مزاحم پایا انہوں نے تلواریں میانوں سے نکال لیں اور مسلمانوں پر تیر برسوں کے خالد نے بھی مسلمانوں کو جوش دلا کر حملہ کر دیا اور ان میں ۲۴ آدمی قتل کیے پھر جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ معظمہ فتح کر لیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو عزی کی طرف روانہ کیا آپ عزی کا بندھہ ہدم کر کے حاضر خدمت رسالت ہوئے آپ اس وقت مکہ ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے پھر آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بنو جذیمہ کی طرف بھیجا جو بنو کنانہ کا ایک ذیلی قبیلہ تھا یہ لوگ مکہ کے نشیب میں ایک دن کی مسافت پر تھے اور ان کی آبادی غمیصاء کہلاتی تھی آپ نے ان کی قرار واقعی سرکوبی فرمائی پھر جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد عرب مرتد ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ان کے مقابلہ پر کھڑا کیا اور انہیں اسلام کی طرف لوٹایا اور ارتداد پر باقی رہنے والوں کی سرکوبی کی۔

باخبار ابو معاویہ ضریر متحد یث ہشام بن عروہ از عروہ: بنو سلیم میں لوگ مرتد ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے خالد کو بھیجا آپ نے ان کے کچھ لوگوں کو ایک باڑے میں جمع کر کے آگ میں جلا دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آکر کہا آپ ایسے شخص کو معزول کر دیجئے جس نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے عذاب دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: نہیں اللہ کی قسم میں اس تلوار کو جو اللہ نے کافروں پر کھینچ رکھی ہے میان میں داخل نہیں کروں گا جب تک وہ خود ہی اسے نیام میں داخل نہ کرے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے آپ مسیلہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔

باخبار محمد بن عمر متحد یث شیبان بن عبد الرحمن از جابر از عامر از براء بن عازب و متحد یث طلحہ بن محمد بن سعید از محمد بن سعید از سعید بن مسیب: جب خالد رضی اللہ عنہ اہل یمامہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ آپ عراق کی طرف بڑھیں چنانچہ آپ یمامہ سے نکل کر حیرہ پہنچے اور خفان میں اتر پڑے اس وقت حیرہ کا چودہری ایک بادشاہ تھا جسے نعمان بن بشیر کی موت کے

بعد کسراى نے مقرر کر دیا تھا پھر خالد کے استقبال کے لیے بنو قبیصہ، بنو ثعلبہ اور عبدالمطلب بن حیان بن یثعلبہ نکلے اور حیرہ کے سلسلہ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ایک لاکھ جزیرہ دے کر اس شرط پر صلح کر لی کہ آپ سواد کی طرف چلے جائیں آپ نے صلح منظور فرمائی اور صلح نامہ لکھ کر ان کے حوالہ کر دیا اسلام میں سب سے پہلا یہی جزیرہ ہے پھر خالد رضی اللہ عنہ عین التمر کی طرف بڑھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام کی دعوت ٹھکرادی آخر کار حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے پر زور جنگ کی اور حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی بہت سے دشمن لڑائی میں کام آئے اور بچے کھچے قید کر لیے گئے اور ان کی عورتیں اور بچے بھی قید کر لیے گئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ قیدی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیئے پھر آپ اہل یمن کی طرف بڑھے اور فرات کے نیچے ایک شہر پر حملہ آور ہوئے مگر آپ سے شہریوں نے دو لاکھ جزیرہ پر صلح کر لی صلح کرنے والے ہانی بن جابر طائی تھے پھر آپ آگے بڑھے اور ساحل فرات پر بانقیہ میں جا اترے بانقیہ کے باشندوں نے رات بھر آپ سے جنگ کی صبح کو صلح کے خواستگار ہوئے آپ نے ان سے بھی صلح کر لی اور انہیں صلح نامہ لکھ کر دے دیا صلح باہن بصیر انے ایک ہزار درہم پر صلح کی تھی اس کا گھر ساحل فرات پر تھا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہ حکم لکھ کر بھیجا کہ آپ ملک شام چلے جائیں لکھتے ہیں: میں نے آپ کی فوج کا آپ کو سالار مقرر کر دیا ہے اور کچھ ہدایات کی ہیں امید ہے کہ آپ انہیں پڑھ کر ان پر عمل کریں گے آپ شام کی طرف روانہ ہو جائیں حتیٰ کہ آپ کو میرا یہ خط مل جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھ کر اپنے دل میں سوچا شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کوشش کی ہے کہ عراق میرے ہاتھ پر فتح نہ ہو۔ آخر کار خالد نے اپنی جگہ ثنی بن حارث شیبانی کو اپنا نائب بنایا اور راہ تانے والوں کو لے کر شام کو روانہ ہو گئے اور دومتہ الجندل پہنچ گئے وہاں آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خط ملا اور شریک بن عبدہ عجلانی کے ساتھ عہد کی ہدایات بھی ملیں لہذا خالد عہد صدیقی میں شام کے ایک امیر تھے اور آپ نے شام میں بہت سی شاندار فتوحات حاصل کیں آپ ہی نے اہل دمشق سے صلح کی اور انہیں تحریر لکھ کر دی اور اہل شام نے آپ کے لیے اسے نافذ کیا پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے سدھار گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ برسر اقتدار آئے تو آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور آپ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو نامزد فرما دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں برابر جہاد کرتے رہے آپ نے بڑے بڑے معرکے سر کیے بڑی بڑی نازک گھاٹیوں سے گزرے اور اللہ کی راہ میں بڑی بہادری اور پیش قدمی کا اظہار کرتے رہے حتیٰ کہ دنیا سے سدھار گئے آپ نے محص میں ۲۱ھ میں انتقال فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت لکھ گئے اور محص سے ایک میل کے فاصلہ پر ایک قبضہ میں دفنائے گئے۔

محمد بن عمر: میں نے اس قبضہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا وہ تو کبھی کا فنا ہو گیا۔

باخبار عبد اللہ بن زبیر حمیدی: محمد بن سفیان بن عیینہ: محمد بن اسماعیل بن ابی خالد: میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا فرماتے تھے: جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حق تعالیٰ ابو سلیمان پر رحم فرمائے ہمارا ان کے بارے میں کچھ ایسی باتوں کا گمان تھا جن کو حقیقت سے واسطہ نہ تھا۔

باخبار مسلم بن ابراہیم: محمد بن جویریہ بن اسماء ازناض: حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے صرف گھوڑا، اسلحہ اور غلام چھوڑا پھر یہ خبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی گئی فرمایا: ابو سلیمان پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم نازل فرمائے آپ ہمارے گمان کے بالکل برعکس ثابت ہوئے۔

عیاض بن غنم بن زہیر بن ابوشداد رضی اللہ عنہ:

ابن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن حارث بن فہر آپ حدیبیہ سے قبل مشرف بہ اسلام ہوئے اور حدیبیہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ موجود رہے آپ ایک نیک انسان اور نرم طبع تھے اور شام میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے پھر جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے تو اپنے تمام محروسہ علاقہ کا عیاض کو نائب بنا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا: ابو عبیدہ اپنے علاقہ پر کس کو نائب بنا گئے؟ لوگوں نے کہا: عیاض کو آپ نے عیاض کو بحال رکھا اور انہیں لکھا: میں نے تم کو اس تمام علاقہ کا حاکم بنا دیا جس پر ابو عبیدہ حاکم تھے لہذا اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض انجام دیتے رہو۔ ابو الیمان حمصی از صفوان بن عمرو از شیوخ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیاض کو جب حمص کی فوج کا سالار بنایا تو ان کے لیے روزانہ ایک دینار ایک بکری اور چوتھائی صاع (تقریباً ۲/۳ پاد) اناج مقرر فرما دیا۔

محمد بن عمر: عیاض حمص پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے حاکم رہے حتیٰ کہ عہد فاروقی میں شام میں ۲۰ھ میں پندرہ سال وفات پا گئے آپ نے نہ مال چھوڑا اور نہ کسی کا آپ پر قرض تھا بلکہ پھلکے تھے۔

سعید بن عامر بن حذیم بن سلامان رضی اللہ عنہ:

ابن ربیعہ بن سعد بن یحییٰ بن عمرو بن حصیص، آپ خیبر سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور نبی ﷺ کے ساتھ خیبر میں اور بعد والے تمام غزوات میں شریک رہے ہمارے علم میں مدینہ میں آپ کا کوئی گھر نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو عیاض کی وفات کے بعد ان کی جگہ مقرر فرما دیا تھا یعنی شام کے حمص کا اور اس کے نواح کے علاقہ کا حاکم بنا دیا تھا۔ آپ پر جمع میں اچانک غشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ جب اس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تو آپ نے ان سے بے ہوشی کا سبب پوچھا، فرمایا: خبیث رضی اللہ عنہ کے قتل کے وقت میں بھی موجود تھا اور میں نے ان کی بددعائی تھی اللہ کی قسم جب کسی مجلس میں مجھے اس کا تصور آ جاتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اس واقعہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں آپ کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی تھی۔

محمد بن سعد: یحییٰ بن عمرو بن حصیص از جریر بن عثمان از حبیب بن عبید از سعید بن عامر بن حذیم، آپ قرشی تھے اور حمص کے امیر تھے جب حمص فتح ہوا تو آپ اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے کسی کہنے والے نے کہا: اے جوان تیری چھلانگ کے کیا کہنے سعید نے کہا: یہ کون ہے جس نے مجھے قرحہ کہا اور میرے والدین کا تجویز کیا ہوا نام نہیں لیا کیا یہ فرشتوں کی لعنت کی پرواہ نہیں کرتا؟

محمد بن عمر: سعید نے خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں ۲۰ھ میں انتقال فرمایا۔

ابو محمد، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ:

ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی، آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں آپ نے نبی ﷺ کے ساتھ شریک ہو کر مکہ اور حنین کی لڑائی لڑی اور آپ حنین میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ثابت قدم رہے جب کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، فضل جتہ الوداع میں بھی موجود تھے رسول اللہ ﷺ نے آپ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھالیا تھا اور آپ رحمت

عالم ﷺ کو غسل دینے والوں میں اور آپ کی تجہیز و تکفین میں شریک رہے پھر آپ شام چلے گئے اور طاعون عمواس میں اردن کے نواح میں خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں ۱۸ھ میں وفات پا گئے۔

ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ:

آپ مشرف بہ اسلام ہو کر نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھاتے رہے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے اور آپ سے راوی بھی ہیں۔

باخبر سلیمان بن عبدالرحمن دمشقی محمد بیث ولید بن مسلم بحدیث یحییٰ بن عبدالعزیز ازدی از عبداللہ بن نعیم ازدی از ضحاک بن عبدالرحمن عزیب از ابو موسیٰ اشعری: رسول اللہ ﷺ نے ابو مالک اشعری کے لیے جھنڈا باندھا اور حکم فرمایا کہ ہوازن کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر نکلتے دیں۔

ابو عمرو عوف بن مالک الشجعی رضی اللہ عنہ:

آپ جنین سے پہلے اسلام لائے اور جنین میں شریک ہوئے فتح مکہ کے دن اشجج کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا پھر آپ عہد صدیقی میں شام چلے گئے اور حمص میں ٹھہر گئے آپ عبدالملک کی خلافت کے آغاز تک زندہ رہے اور ۳۷ھ میں فوت ہوئے۔ ابو عبداللہ ثوبان رضی اللہ عنہ، مولیٰ رسول اللہ ﷺ:

آپ اہل سرہ میں سے ہیں۔ ابن سعد: لوگ کہتے ہیں آپ قبیلہ حمیر کے ہیں آپ کو غلام بنا لیا گیا تھا آخر کار آپ کو رسول اللہ ﷺ نے خرید لیا اور آزاد کر دیا آپ برابر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے حتیٰ کہ آپ داعی اجل کو لبیک فرما گئے پھر ثوبان ملک شام چلے گئے اور حمص میں جا ترے آپ کا حمص میں ایک گھر ہے جو وقف ہے آپ حمص میں عہد معاویہ میں ۵۴ھ میں انتقال فرما گئے۔ کھل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ:

آپ کھل بن عمرو بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ ہیں آپ کی والدہ حمیمہ ہیں پھر حنظلیہ ہیں آپ اپنی والدہ کی نسبت کی وجہ سے حنظلیہ کہلاتے ہیں آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ احد و خندق اور تمام غزوات میں شریک رہے پھر ملک شام چلے گئے اور دمشق میں جا ٹھہرے اور وہیں فوت ہو گئے۔

شدا بن اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ:

ابن منذر بن حرام بن عمرو بن زید مناۃ بن عامر بن عمرو بن مالک بن نجار آپ شاعر حسان بن ثابت کے بھتیجے ہیں آپ منتقل ہو کر فلسطین میں مقیم ہو گئے تھے اور عہد معاویہ کے اخیر میں ۹۵ سال کی عمر میں وہیں ۵۸ھ میں وفات پا گئے بیت المقدس میں آج بھی آپ کی نسل موجود ہے آپ سرگرم عبادات و اعمال رہتے تھے اور نہایت مستعد تھے آپ کعب احبار سے راوی ہیں۔

فضالہ بن عبید بن نافذ بن فیس رضی اللہ عنہ:

ابن صہیبہ بن اصرم بن نجیب بن کلفہ بن عوف بن عمرو بن عوف انصاری آپ رحمت عالم ﷺ کے ساتھ احد و خندق اور تمام غزوات میں شریک رہے پھر شام چلے گئے اور دمشق میں گھر بنا لیا عہد معاویہ میں آپ وہاں کے قاضی تھے اور عہد معاویہ میں

دمشق ہی میں فوت ہوئے وہاں آپ کی نسل موجود ہے۔

ابو ابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے صاحبزادے:

آپ کا نام عبد اللہ بن عمرو بن قیس بن زید بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار ہے آپ انصاری اور خزرجی ہیں آپ کے والد اور بھائی قیس بن عمرو بدر میں شریک تھے لیکن عبد اللہ شریک نہ تھے آپ کی والدہ ام حرام بنت ملحان ہیں جو انس بن مالک کی خالہ ہیں۔ آپ شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے اور بیت المقدس میں ٹھہر گئے تھے وہاں آپ کی نسل موجود ہے آپ رسول اللہ ﷺ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باخبار قبیسہ بن عقبہ بن عبد یث سفیان از منصور از ہلال بن یوسف از ابوالمثنیٰ حمصی از ابو ابی بن اہلیہ عبادہ بن صامت: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا عنقریب ایسے امراء آنے والے ہیں جن کو کام نماز سے مشغول کر دیں گے اور وہ نماز دیر کر کے پڑھیں گے حتیٰ کہ نماز وقت پر نہ پڑھیں گے لہذا تم نماز وقت پر پڑھ لو پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں؟ فرمایا: ہاں۔
عبدالرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو بن زید بن نجدہ از بنو عمرو بن عوف انصاری آپ شام چلے گئے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے راوی ہیں کہ آپ نے کوفے کی طرح ٹھونکیں مارنے سے اور درندوں کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا۔
عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان رضی اللہ عنہ:

ابن قیس بن عمرو بن زید بن امیہ از بنو عمرو بن عوف آپ کے والد سعد قاری بدر میں شریک تھے عمیر نے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا اور آپ سے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو سعید بن عامر بن حدیم کی وفات کے بعد حص کا حاکم بنا دیا تھا۔
ابو یحییٰ عمر و بن عیسیٰ بن خالد رضی اللہ عنہ:

ابن حذیفہ بن عمرو بن خلف بن مازن بن مالک بن ثعلبہ بن یہشہ بن سلیم بن منصور بن عکرمہ بن نضفہ بن قیس بن عیلان بن مضر۔

باخبار معن بن عیسیٰ بن محمد یث معاویہ بن صالح از ابو یحییٰ سلیم بن عامر و ضمیرہ ابو طلحہ بسماخ الوامدہ باہلی از عمرو بن عیسیٰ: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ عکاظ میں ٹھہرے ہوئے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ! اس امر (اسلام) میں کون آپ کے ساتھ ہیں؟ فرمایا: میرے ساتھ ابو بکر و بلال رضی اللہ عنہم ہیں کہتے ہیں پھر میں مسلمان ہو گیا میں نے اپنے کو چوتھا مسلمان پایا میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے ساتھ رہوں یا اپنی قوم میں چلا جاؤں؟ فرمایا اپنی قوم میں چلے جاؤ کیونکہ عنقریب تم اپنے ملنے والوں کو لے کر لوٹو گے اور اسلام کو زندہ کرو گے پھر میں آپ کے پاس فتح مکہ سے قبل آیا میں نے آپ کو سلام کر کے کہا یا رسول اللہ میں عمرو بن عیسیٰ سلمی ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ مسائل پوچھوں جو مجھے معلوم نہیں اور آپ کو معلوم ہیں اور مجھے مفید ہوں گے اور

آپ کو مضر نہ ہوں گے۔

محمد بن عمرو مشرف بہ اسلام ہو کر اپنی قوم بنو سلیم میں چلے گئے آپ صفہ اور حاذہ میں جو بنو سلیم کے علاقے تھے مقیم تھے آپ اپنے وطن ہی میں رہے حتیٰ کہ بڑا احد خندق حدیبیہ اور حنین کی لڑائیاں ختم ہو گئیں پھر بعد میں رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ آئے اور آپ کی صحبت سے فیض اٹھاتے رہے اور حدیثیں سنتے رہے آپ نبی ﷺ سے راوی بھی ہیں۔ پھر آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد شام چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے۔

حارث بن ہشام بن مغیرہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم آپ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ حنین میں شریک ہوئے رسول اللہ ﷺ نے حنین کے مال غنیمت میں سے سواونٹ دیئے آپ مسلمان ہونے کے بعد مکہ ہی میں مقیم رہے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رب سے جا ملے پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خط میں مسلمانوں کو رومیوں سے جنگ کے لیے مدعو کیا تو حارث بن ہشام عکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو مل کر مدینہ آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خیموں میں آ کر سلام کیا اور انہیں مرجا کہا اور اپنی انتہائی مسرت کا اظہار کیا پھر یہ حضرات مسلمانوں کے ساتھ مل کر رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے پھر یہ حضرات اور حارث بن ہشام قتل اور اجنادین کی لڑائیوں میں شامل ہوئے آپ شام میں طاعون عمواس میں عہد عمر رضی اللہ عنہ میں ۱۸ھ میں فوت ہوئے۔

عکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ:

ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم ہے عکرمہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور رسول اللہ ﷺ نے آپ کو حجۃ الوداع کے سال بنو ہوازن کے صدقات وصول کرنے پر مقرر فرما دیا رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت عکرمہ تالہ میں ہوازن میں اپنے عہد پر تھے عہد صدیقی میں عکرمہ جہاد کے لیے شام چلے گئے اور جنگ اجنادین میں جام شہادت نوش فرما گئے آپ کے اولاد نہیں۔

ابو یزید، سہیل بن عمرو بن عبد شمس رضی اللہ عنہ:

ابن عبد و بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حالت شرک میں جنگ حنین میں شریک تھے حتیٰ کہ ہجرانہ میں جب رسول اللہ ﷺ حنین سے واپس آ رہے تھے آپ مشرف بہ اسلام ہوئے آپ نے اس دن غنیمت حنین میں سے آپ کو سواونٹ دیئے۔

باخبار محمد بن عمرو باخبار عبد الحمید بن جعفر از عبد الحمید از زیاد بن میناز ابو سعید بن ابوفضالہ انصاری (آپ کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت حاصل تھی) میں اور سہیل بن عمرو ساتھ ساتھ اس زمانہ میں ملک شام گئے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں شامیوں سے جہاد کا حکم دیا تھا میں نے سہیل سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے تمہارا اللہ کی راہ میں ایک ساعت ٹھہرنا گھر میں رہ کر عمر بھر کے عملوں سے بہتر ہے۔ سہیل نے کہا میں مرتے دم تک جہاد کرتا رہوں گا اور مکہ واپس نہیں جاؤں گا چنانچہ

آپ تادم و اجیل شام ہی میں رہے آخر کار طاعون عمواس میں عہد فاروقی میں وفات پا گئے۔

ابوجندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی، آپ شروع میں مکہ ہی میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے آپ کے والد نے زنجیر میں باندھ کر آپ کو مجوس کر لیا تھا اور مدینہ کی طرف ہجرت سے روک دیا تھا پھر آپ صلح حدیبیہ کے بعد چھوٹ کر ابوبصیر سے عیص میں جا ملے اور ابوبصیر کی وفات تک انہیں کے پاس رہے پھر ابوجندل اپنے پاس والے تمام مسلمانوں کو لے کر مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آ گئے اور آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑتے رہے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ سدا ہار گئے پھر آپ سب سے پہلے شام کی طرف جانے والے مسلمانوں میں شامل ہو کر شام چلے گئے اور برابر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ طاعون عمواس میں ۱۸ھ میں عہد عمر رضی اللہ عنہ میں شام میں فوت ہو گئے ابوجندل رضی اللہ عنہ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔

یزید بن ابوسفیان بن حرب بن امیہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، آپ کی والدہ کا نام زینب بنت نوفل بن حلف بن قوالہ کنانہیہ ہے یزید فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حنین میں شریک ہوئے آپ نے حنین کے مال غنیمت میں سے آپ کو سواوٹ دیئے اور سولہ سو درہم دیئے لوگوں میں آپ کا برابر ذکر خیر رہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف جانے والے فوجی دستوں کے سالاروں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے آپ کا جھنڈا باندھا اور فرمایا اگر تم کٹھے کسی پھندے میں پھنس جاؤ تو یزید کو اپنا امیر بنا لو اور اگر الگ ہو تو ہر ایک کا امیر اس کے ساتھ ہے وہ حسب مصلحت اپنے فرائض انجام دے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پیدل چل کر رخصت کیا اور فرمایا میں اپنے ان قدموں کو اللہ کی راہ میں ثواب کی غرض سے رکھ رہا ہوں اور آپ انہیں وصیت فرمانے لگے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے جب کہ یزید اپنے عہدے پر بحال تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دمشق کا والی بنا دیا آپ مرتے دم تک اسی عہدے پر بحال رہے آخر طاعون عمواس میں فوت ہو گئے، آپ کے کوئی اولاد نہیں۔

ابوعبدالرحمن معاویہ بن ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ:

ابن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، آپ کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس ہے آپ کی نسل ہے کہا جاتا ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے سال (۶ھ میں) مسلمان ہوئے لیکن آپ نے اپنے والد ابوسفیان سے اسلام کو چھپائے رکھا فرماتے ہیں پھر فتح مکہ کے سال (۸ھ میں) رسول اللہ ﷺ مکہ میں تشریف لائے میں نے آپ کے پاس آ کر اپنا اسلام ظاہر کیا آپ نے مجھے خوش آمدید کہا آپ رسول اللہ ﷺ کے کاتب وحی مقرر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حنین و طائف میں شریک رہے رسول اللہ ﷺ نے آپ کو حنین کے مال غنیمت میں سے سواوٹ دیئے اور چالیس اوقیہ چاندی بلال سے تلوا کر دی آپ رسول اللہ ﷺ سے احادیث کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو یزید بن ابوسفیان کی وفات کے بعد دمشق کا حاکم بنا دیا آپ برابر دمشق پر حاکم رہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو اسی عہدے پر بحال رکھا اور تمام شام کا علاقہ آپ کے سپرد کر دیا حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ بیس سال تک امیر کی حیثیت سے شام پر حکمران رہے پھر

آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی خلافت پر اجماع کر لیا گیا اور آپ بیس سال تک خلیفہ کی حیثیت سے برسرِ اقتدار رہے آخر کار نصف رجب المرجب ۶۰ھ میں ۷۸ سال کی عمر میں شب جمعرات کو انتقال فرما گئے۔

ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ:

ابن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، آپ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے اور شام چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے آپ دمشق میں ٹھہرے ہوئے تھے۔

عبد اللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ:

سعدی کا نام عمرو بن وددان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی ہے آپ فتح مکہ کے سال مشرف بہ اسلام ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھاتے رہے آپ سے راوی ہیں پھر آپ شام میں دمشق میں آئے اور یہیں انتقال فرما گئے۔

ضرار بن خطاب رضی اللہ عنہ:

ابن مرداس بن کبیر بن عمرو بن حبیب بن عمرو بن شیمان بن محارب بن فہر، آپ شاعر تھے فتح مکہ کے سال اسلام لانے اور نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا آپ شہسوار تھے اور اسلام میں بہترین ثابت ہوئے پھر جہاد کے لیے شام چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے۔

ابو قرقظانہ وائلہ بن اسقع بن عبد العزیٰ رضی اللہ عنہ:

ابن عبد یاسیل بن ناشب بن عنزہ بن سعد بن لیث بن بکر کنانی، آپ مدینہ کی کسی نواحی بستی میں مقیم تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے (آپ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے) اور مشرف بہ اسلام ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے آپ اصحاب صفہ میں سے تھے فرماتے ہیں میں بیس اہل صفہ میں سے ہوں اور ان سب میں چھوٹا ہوں، آپ نے رسول اللہ ﷺ سے حدیثیں سنیں پھر آپ کی وفات کے بعد ملک شام چلے گئے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث معاویہ بن صالح از ابوالزہریرہ: وائلہ ملک شام میں ۸۵ھ میں ۹۸ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔
ابو المغیرہ حمصی از اسماعیل بن عیاش از ابن خالد: وائلہ ۸۳ھ میں ۱۰۵ سال کی عمر میں فوت ہوئے آپ بیت المقدس میں مقیم تھے وہیں فوت ہوئے آپ مختلف جہادوں میں شریک ہوتے رہتے تھے اور دمشق و حمص سے گزارتے رہتے تھے۔

عبد اللہ بن صالح از معاویہ بن صالح از علاء بن حارث از کحول: میں اور ابوالزہریرہ وائلہ سے ملنے گئے اور میں نے ان سے کہا ابوالاسقع! ہم سے وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو۔

ولید بن مسلم تحدیث ابو مسلم مولیٰ بنو یزید: میں نے وائلہ کو دیکھا اپنے گھر کے صحن میں دو پہر کا یا شام کا کھانا کھا رہے تھے

اور لوگوں سے بھی کھانا کھانے کے لیے فرما رہے تھے۔

ابورقیہ تمیم داری رضی اللہ عنہ:

آپ تمیم بن اوس بن خارجہ بن سود بن جذیمہ بن دارع بن عدی بن دار بن ہانی بن حبیب بن غمارہ بن نخم بن کعب ہیں آپ نمائندہ کی حیثیت سے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نعیم بن اوس بھی تھے دونوں نے اسلام قبول فرمایا رسول اللہ ﷺ نے دونوں کے نام ملک شام میں صحری اور بیعت عینون لکھ دیا آپ کا شام میں ان دونوں قطعات کے علاوہ کوئی اور قطعہ نہ تھا تمیم رسول اللہ ﷺ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے رہے اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے اور روایتیں بھی آپ سے کرتے ہیں آپ برابر مدینہ میں رہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ملک چلے گئے۔

بسر بن ابورطاة رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عمیر بن عویر بن عمران بن جلیس بن سیار بن نزار بن متعیس بن عامر بن لوی ہے۔ محمد بن عمر نبی ﷺ کی وفات کے وقت آپ کسن تھے کسی مدنی سے یہ روایت نہیں کہ آپ نے نبی ﷺ سے حدیثیں سنیں آپ شام چلے گئے تھے محمد بن عمر کے علاوہ شامیوں سے روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے نبی ﷺ کو پایا اور آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں اور عثمانی تھے اور عبدالملک بن مروان کے زمانہ تک زندہ رہے۔

حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ:

ابن مالک اکبر بن وہب بن ثعلبہ بن وائلہ بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فہر۔ باخبار احمد بن محمد بن ولید ازرقی مکی متحد بیٹ داؤد بن عبدالرحمن از ابن جریج از ابن ابوملیکہ از حبیب بن مسلمہ فہری: میں سرکار رسالت کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے اتنے میں میرے والد صاحب آگئے اور بولے یا رسول اللہ! میرے ہاتھ اور پیر آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ قریب ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے کہتے ہیں کہ آپ اسی سال ہلاک ہو گئے۔

محمد بن عمر: ہماری روایت میں ہمارے اصحاب کے پاس یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو حبیب ۱۲ سال کے تھے لیکن آپ کے ساتھ مل کر آپ نے کوئی جہاد نہیں کیا مگر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا اور آپ سے حدیثیں بھی یاد کیں اور روایت کیں۔ حبیب شام میں منتقل ہو گئے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے صفین وغیرہ میں برابر لڑتے رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے اور آپ سے رومیوں کو کافی نقصان پہنچا کرتا تھا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو ارمینینہ کا حاکم مقرر فرما دیا آپ وہیں ۲۲ھ میں پچاس سال کی عمر سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔

ضحاک بن قیس بن خالد اکبر رضی اللہ عنہ:

ابن وہب بن ثعلبہ بن وائلہ بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فہر۔

محمد بن عمر: ہماری روایت کے بموجب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت ضحاک بالغ نہیں ہوئے تھے اور دوسروں کی

روایت کے بموجب آپ نے نبی ﷺ کو پایا اور آپ سے حدیثیں سنیں۔

باخبار عوف بن مسلم، یثمدیث حماد بن سلمہ، باخبار علی بن زید از حسن: جب یزید فوت ہوئے تو ضحاک نے قیس بن یثمد کو لکھا: سلام علیک کے بعد معلوم ہو کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: قیامت سے پہلے دھویں کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ابھریں گے جن میں لوگوں کے دل بھی ان کے جسموں کی طرح مریں گے صبح کو انسان مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا لوگ دنیا کی پونجی سے اپنے اخلاق اور مذہب فرودخت کر ڈالیں گے، دیکھو یزید بن معاویہ فوت ہو گئے اور تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے ماں جانی ہو لہذا ہم سے سبقت نہ کرو جب تک ہم اپنے لیے خلیفہ نہ جن لیں۔

محمد بن عمر: جب معاویہ بن یزید بن معاویہ فوت ہو گئے اور لوگوں میں خلافت کے بارے میں شام میں اختلاف پیدا ہوا تو ضحاک نے لوگوں کو عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دعوت دی پھر عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کو شام کا حاکم بنا دیا لیکن شامیوں نے مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مروان نے ضحاک پر چڑھائی کر دی اور مرج راھط میں دونوں کا مقابلہ ہوا اور ضحاک ۱۵ ذی الحجہ ۶۳ھ میں جنگ میں کام آ گئے۔

قبائش بن اشیم رضی اللہ عنہ:

ابن عامر بن طلوح بن یثمد اور یثمد شراخ بن کعب بن عامر بن لیث بن بکر بن عبد مناة بن کنانہ ہیں۔ آپ جنگ بدر میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور اچھے کارنامے انجام دے چکے تھے پھر آپ نے اسلام قبول فرمایا اور نبی ﷺ کے ساتھ مل کر بعض لڑائیوں میں شریک رہے۔ جنگ یرموک میں آپ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی فوج کے بازو پر تھے پھر آپ شام میں جا بے آپ سے حدیثیں بھی مروی ہیں۔

باخبار سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی یثمدیث محمد بن شعیب بن عمر ابو خالد (ثور بن یزید) رحمی از ابن سیف کلاعی از عبد الرحمن بن زیاد از قبائش بن اشیم لیشی از رسول اللہ ﷺ: دو آدمیوں کی نماز کہ ان میں سے ایک دوسرے کا امام بن جائے اللہ کے نزدیک ان آٹھ آدمیوں کی نماز سے بہتر ہے جو الگ الگ نماز پڑھیں اور چار آدمیوں کی نماز کہ ان میں سے ایک امام ہو الگ الگ نماز پڑھنے والے سو آدمیوں کی نماز سے بہتر ہے (ابن شعیب کہتے ہیں) میں نے ابو خالد سے پوچھا تیری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا الگ الگ بلا جماعت کے نماز پڑھنا۔

ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام صدی بن عجلان ہے آپ سلیمان سے راوی ہیں۔

باخبار کثیر بن ہشام یثمدیث جعفر بن برقان یثمدیث میمون (بن مہران) از ابو امامہ: میں جنگ صفین میں شریک تھا لوگ مجروح کو قتل نہیں کیا کرتے تھے نہ بھاگنے والوں کا تعاقب کیا کرتے تھے اور نہ مقتول کا سامان لیا کرتے تھے۔

باخبار فضل بن دکین یثمدیث حماد بن سلمہ از ابو غالب: میں نے ابو امامہ کی داڑھی زرد دیکھی۔ یثمدیث از ابو الیمان حمصی از جریر بن عثمان از حبیب بن عبید از ابو امامہ: آپ اس شخص کی طرح حدیث بیان کیا کرتے تھے جس پر سنی ہوئی حدیث کا ادا کر دینا

فرض ہو۔

نخبر از عبد اللہ بن صالح از معاویہ بن صالح از حسن بن جابر: میں نے ابو امامہ سے علم (احادیث) کے لکھنے کے بارے میں پوچھا فرمایا میرے علم میں اس میں کوئی حرج نہیں۔

ابو الولید بن مسلم بتحدیث عثمان بن ابوالعاتکہ از سلیمان بن حبیب: ابو امامہ نے لوگوں سے کہا: یہ مجلسیں تم کو اللہ کی طرف سے علم پہنچانے کے مقامات ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ آپ کو دے کر ہماری طرف بھیجا گیا تھا اسے ہمیں پہنچا دیا لہذا تم لوگ ہم سے سنی ہوئی حدیثیں دوسروں تک جوں کی توں پہنچا دو۔ کہتے ہیں: ابو امامہ شام میں عبد الملک کے زمانہ میں ۸۶ھ میں ۶۱ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

ابو نجیح، عمر باض بن ساریہ نسلمی جنی اللہ عنہ:

محمد بن عمر آپ نے عبد الملک کے آغاز عہد میں ملک شام میں ۵۷ھ میں انتقال فرمایا۔

عمرو بن مرہ جنی اللہ عنہ:

آپ عہد رسالت میں بوڑھے تھے۔

عتبہ بن ندر نسلمی جنی اللہ عنہ:

آپ دمشق میں مقیم تھے اور ۸۴ھ میں وفات پا گئے۔

عتبہ بن عبد سلیم جنی اللہ عنہ:

آپ شام میں مقیم تھے۔ پشیم بن عدی: آپ ۹۱ھ یا ۹۲ھ میں فوت ہوئے اور بقول محمد بن عمر ۸۷ھ میں ۹۴ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

ابوصفوان، عبد اللہ بن بسر، مازنی جنی اللہ عنہ:

مازن بن منصور سلیم بن منصور کے بھائی ہیں۔

نخبر از ابوالیمان جمحی از اسماعیل بن عیاش از جریر بن عثمان وصفوان بن عمرو: ہم دونوں نے عبد اللہ بن بسر صحابی کو دیکھا ہے آپ ننگے سر تھے اور سر اور داڑھی زرد تھی۔

ابوالیمان بحدیث جریر بن عثمان: میں نے دیکھا عبد اللہ کے کپڑے سٹے ہوئے تھے اور کرتے پر چادر اوڑھ رکھی تھی اگر آپ کو راہ میں کوئی پتھر نظر آجاتا تو اسے ہٹا دیا کرتے تھے۔

بحدیث صفوان بن عمرو: کہتے ہیں میں نے عبد اللہ کی پیشانی مجددوں کے گئے دیکھے۔ محمد بن عمر: عبد اللہ ۸۸ھ میں ۹۴ سال کی عمر میں فوت ہوئے آپ شام میں فوت ہونے والے صحابہ جنی اللہ عنہم میں سب سے پچھلے ہیں۔

ابو حوالہ عبد اللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ:

بقول یثیم بن عدی آپ ازدی ہیں اور بقول محمد بن عمر آپ بنو معیص بن عامر بن لوی ہیں اور ابو محمد کنیت تھی آپ اردن میں بس گئے تھے اور عہد معاویہ کے اخیر میں ۵۸ھ میں ۷۲ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار کعب بن حسن از عبد اللہ بن شقیق از عنزی (زائدہ یا مزیدہ) بن حوالہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے (پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلہ میں پورا واقعہ بیان کیا)۔

کعب بن مرہ بنہزی رضی اللہ عنہ:

بنہزی بن سلیم کی برادری کے ہیں آپ اردن میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے نبی ﷺ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبد اللہ بن حوالہ کی روایت کے ہم مثل روایت بیان کی ہے کعب ۵۷ھ میں فوت ہوئے۔

کعب بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ، کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ:

آپ نے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے آپ سے ایک حدیث بیان کی ہے جو یہ ہے عبد اللہ بن صالح از معاویہ بن صالح از عبد الرحمن بن جبیر از جبیر از کعب بن عیاض میں نے نبی ﷺ سے سنا فرماتے تھے: ہر قوم کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔

ابو یحییٰ مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کنندی:

آپ نے عبد الملک کے زمانہ میں ۹۱ سال کی عمر میں ۸۷ھ میں وفات پائی۔
عبد اللہ بن قرط ازدی پھر شمالی رضی اللہ عنہ، حکم بن عمیر شمالی ازدی رضی اللہ عنہ:

آپ حص میں مقیم تھے۔ باخبار عمار بن نصر تجدیث بقیہ بن ولید از عیسیٰ بن ابراہیم از موسیٰ بن ابو حبیب بسماح حکم بن عمیر شمالی رضی اللہ عنہ، دو اور دو سے زیادہ جماعت ہے۔

عبد اللہ بن عائد شمالی رضی اللہ عنہ:

آپ نے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا پھر شام میں بس گئے۔

ابو الیمان حمصی: بحدیث صفوان بن عمرو از ابو سفیان محمد بن زیاد الالہانی: نصیف بن حارث نے وفات کے وقت عبد اللہ سے کہا: اگر آپ ہم سے خواب میں ملیں تو اپنی موت کے واقعات ہم سے بیان کرنا آخر ایک زمانہ کے بعد آپ خواب میں نظر آئے پوچھا: آپ ہم سے اپنی موت کے واقعات بیان کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ہم بیچ گئے اور قریب تھا کہ نہ بچیں گے ہم بوڑھا بنا دینے والے واقعات کے بعد بیچ گئے اور ہم نے اپنے رب کو بہترین رب پایا اس نے ہمارے گناہ معاف فرمادئے اور ہر ایسوں سے درگزر فرمائی ہاں جو احراض تھے وہ نہ بچے میں نے پوچھا: احراض کیا؟ فرمایا: احراض وہ ہیں جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے۔

ابو ثعلبہ حسنی رضی اللہ عنہ:

حسین قضا سے ہیں ابو ثعلبہ کا نام ان کے ساتھیوں کی خبر کے بموجب جرہم بن ناش ہے لیکن مجھے ابو مسر دشتی سے خبر پہنچی

ہے کہ آپ کا نام جرثومہ بن عبد الکریم ہے۔

تحدیث عفان بن مسلم، تحدیث وہیب، تحدیث نعمان بن راشد، از زہری، از عطاء بن یزید، لیشی، از ابو ثعلبہ نشی: رسول اللہ ﷺ نے میری انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی اور آپ میرے ہاتھ کو ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی کھٹکھٹانے لگے پھر نبی ﷺ غافل ہو گئے تو میں نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی پھر آپ نے مجھے دیکھا مگر میرے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں دیکھی فرمایا غالباً ہم نے تم کو تکلیف پہنچائی اور تم کو تاوان میں زیر بار کیا۔

باخبار محمد بن عمر باخبار عبد الرحمن بن صالح از جحجیح بن وہیب: ابو ثعلبہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ خیبر کی تیاری میں لگے ہوئے تھے آپ نے بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خیبر میں شرکت کی پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں نشین کا وفد آیا یہ سات آدمی تھے جو ابو ثعلبہ کے پاس ٹھہرے تھے۔

محمد بن عمر: ابو ثعلبہ شام میں عبد الملک کے آغاز عہد میں ۹۷ھ میں فوت ہوئے۔

ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ:

پہم بن عدی: آپ تبوک میں نبی ﷺ کے ساتھ شریک تھے۔

عبد الرحمن بن قتادہ سلمی رضی اللہ عنہ:

آپ نبی ﷺ کی صحبت میں رہے آپ سے راوی ہیں اور شام میں آ گئے۔

باخبار معن بن عیسیٰ، تحدیث معاویہ بن صالح از راشد بن سعد از عبد الرحمن بن قتادہ سلمی صحابی بسماع رسول اللہ ﷺ: حق تعالیٰ شانہ نے آدم کو پیدا کیا اور تمام مخلوق آپ کی پشت سے لے کر فرمایا یہ جنتی ہیں اور میں بے پرواہ ہوں اور یہ جہنمی ہیں اور میں بے پرواہ ہوں یہ سن کر ایک شخص بولا یا رسول اللہ! پھر ہم عمل کس چیز پر کرتے ہیں؟ فرمایا تقدیر پر یعنی جو تقدیر میں ہوتا ہے انسان وہی عمل کرتا ہے۔

نعیم بن ہبائر غطفانی رضی اللہ عنہ:

باخبار معن بن عیسیٰ از معاویہ بن صالح از ابو الزاہر یہ از کثیر بن مرہ از نعیم بن ہبائر اسی طرح نام ہے (فرماتے ہیں اور ولید بن مسلم بھی اپنی حدیث میں نعیم بن ہبائر ہی کہتے ہیں اور دوسرے نعیم بن حماد کہتے ہیں آپ صحابی ہیں نبی ﷺ سے راوی ہیں اور آپ کے بعد دمشق میں آئے تھے۔

عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ عنہ مزنی:

آپ صحابی ہیں شام میں آئے تھے آپ ہی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے وہ روایت کی جو مروی ہے یعنی حدیث ولید بن مسلم نے کہا ہم سے ایک دمشقی شیخ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہم سے یونس بن میسرہ بن جلیس نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن مزنی سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے: بیت المقدس میں ہدایت کی بیعت ہوگی فرماتے ہیں ابو مسرہ از ابو سعید بن عبد العزیز از ربیعہ بن یزید از عبد الرحمن صحابی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ نبی ﷺ ان کے

بارے میں فرمایا اے اللہ انہیں راہنما اور راہ یاب بنا انہیں بھی ہدایت عطا فرما اور ان سے لوگوں کو بھی۔
ابوسیارہ مصعبی رضی اللہ عنہ:

آپ بنو بجالہ کے حلیف تھے۔ باخبر عثمان بن عمر باخبر سعید بن عبدالعزیز از سلیمان بن موسیٰ از ابوسیارہ: میں نے کہا
یا رسول اللہ! میرے قبضہ میں شہد کی کھیاں ہیں فرمایا: ان کی زکوٰۃ ادا کر میں بولا: مکھیوں والا پہاڑ میری نگرانی میں دے دیجئے آخر
آپ نے اسے میری نگرانی میں دے دیا۔
وحشی بن حرب حبشی رضی اللہ عنہما قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ:

آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد مسلمان ہو گئے تھے نبی ﷺ کی صحبت میں رہے آپ سے حدیثیں سنیں اور مسیلہ
کذاب کے قتل میں شرکت کی فرمایا کرتے تھے: میں نے سب سے بہتر شخص کو قتل کیا اور سب سے بدتر کو بھی آپ حمص میں جا بسے تھے
وہیں فوت ہوئے وہاں آج تک آپ کی اولاد ہے۔ ولید بن مسلم از وحشی بن حرب جو آپ کی اولاد میں سے ہیں از ابیہ از جدہ از
نبی ﷺ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ولید بن مسلم از وحشی بن حرب از ابیہ از جدہ (وحشی بن حرب) جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد
بن ولید رضی اللہ عنہ کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے جھنڈا باندھ کر دیا تو مجھ سے فرمایا: وحشی! خالد کے ساتھ جاؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو جیسے تم
اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے لڑا کرتے تھے چنانچہ میں خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوا اور ہمارا ابو حنیفہ سے مقابلہ ہوا انہوں نے دویا
تین بار مسلمانوں کو شکست دی پھر حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ میں جسنے کی توفیق عطا فرمائی ان کے سروں پر تلواریں پڑ رہی تھیں حتیٰ
کہ میں نے دیکھا کہ تلواروں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور میں ان کے سروں پر پڑنے کی گھنٹیوں کی طرح آوازیں سن رہا تھا
پھر میں نے اپنے حریف کے تلوار ماری حتیٰ کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں خون کی وجہ سے جم گیا پھر حق تعالیٰ شانہ نے اپنی مدد نازل
فرمائی اور ابو حنیفہ کو شکست دی اور اللہ نے مسیلہ کذاب کو قتل کیا پھر کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا
آپ فرماتے تھے خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جو اللہ نے مشرکوں پر بہائی ہے۔

باخبر محمد بن مصعب قرظی ثقیفی رضی اللہ عنہما ابو بکر بن ابی مریم از راشد بن سعد: سب سے پہلے چمکیلے کپڑے پہننے والے اور شراب
کی سزا میں حمص میں مار کھانے والے وحشی ہیں۔

عثمان بن عثمان ثقیفی صحابی رضی اللہ عنہ:

سبحان از ابوالیمان حمصی از جریر بن عثمان از ابن ابی العوف از عثمان بن عثمان ثقیفی صحابی از رسول اللہ ﷺ: اللہ تعالیٰ موت سے
ایک سال قبل اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ موت سے ایک ماہ قبل اپنے بندہ کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ
موت سے تھوڑی دیر قبل اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے پوچھا گیا نواق کیا ہے؟ فرمایا دو دو دو دہ دو دہنے کے درمیان کا فاصلہ۔
مسلم بن حارث رضی اللہ عنہ:

آپ نے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے پھر آپ شام چلے گئے تھے۔

ولید بن مسلم: متحد بیٹ عبد الرحمن بن حسان کنانی متحد بیٹ حارث بن مسلم بن حارث تمیمی از مسلم بن مسلم بن حارث ہمیں رسول

اللہ ﷺ نے ایک دستہ میں بھیجا پھر جب ہم قلعہ کے قریب پہنچے تو ہم نے قلعہ والوں کا شور و غل سنا میں نے گھوڑے کے اڑ لگائی اور قلعہ والوں کے پاس آ کر کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو جو جاؤ گے یہ سن کر انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا میرے رفقاء بولے تم نے ہم کو مال غنیمت سے محروم کر دیا جب کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں آئے والا تھا پھر جب ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو میرے فضل کی آپ کو خبر دی گئی آپ نے میری کوشش کو سراہا اور فرمایا ان کے ہر آدمی کے بدلہ تمہارے لیے اتنا اتنا اجر ہے پھر فرمایا میں تم کو ایک تحریر لکھ کر دیتا ہوں جس میں اپنے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے اماموں کو تمہارے بارے میں وصیت کر دوں گا فرماتے ہیں پھر آپ نے تحریر لکھ کر اور اس پر مہر لگا کر مجھے دے دی پھر آپ کی وفات کے بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ دستاویز لایا آپ نے اس کی مہر توڑی اور مجھے کچھ دیا پھر مہر لگا کر وہ دستاویز مجھے دے دی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی پھر جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ برسرِ اقتدار آئے تو آپ نے حارث کو بولویا اور آپ نے انہیں کچھ دے کر فرمایا اگر میں چاہتا تو یہ عطیہ تمہیں پہنچا دیتا لیکن میں نے یہ چاہا کہ تم مجھ سے وہ حدیث بیان کرو جو تم اپنے والد سے اور وہ نبی ﷺ سے بیان کرتے ہیں آخر کار میں نے آپ سے وہ حدیث بیان کی۔

مالک بن ہمیرہ سلمی رضی اللہ عنہ:

باخبار عبداللہ بن نمیر از محمد بن اسحاق از یزید بن ابویحبیب از مرثد بن عبداللہ یزنی از مالک بن ہمیرہ صحابی: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس میت پر تین صفیں باندھی گئیں اس پر (جنت) واجب ہوگی۔

عبداللہ بن معاویہ عاصری رضی اللہ عنہ:

مخبر از عوف از اسحاق بن زبیر شامی بحديث عبداللہ بن حارث زبیری بحديث عبداللہ بن سالم زبیری بحديث یحییٰ بن جابر بحديث عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر بحديث عبداللہ بن معاویہ عاصری: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے تین باتوں پر عمل کر لیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، صرف اللہ کی عبادت کی اور یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں اور خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔

عمر و بکالی رضی اللہ عنہ:

باخبار یزید بن ہارون باخبار جریری از ابومیمہ جہمی۔ میں ملک شام گیا اچانک میں نے ایک شخص دیکھا جس کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے اور وہ حدیثیں بیان فرما رہے ہیں اور ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں (حماد بن سلمہ والی حدیث میں ہے ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں) میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ ایک صحابی ہیں اور دنیا میں موجودہ لوگوں میں سب سے زیادہ عالم ہیں یہ عمرو بکالی ہیں میں نے پوچھا ان کی انگلیوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جنگ یرموک میں کٹ گئی تھیں۔

سنان بن عرفہ صحابی رضی اللہ عنہ:

آپ شام میں بس گئے تھے رسول اللہ ﷺ سے اس عورت کے بارے میں جو مردوں میں فوت ہو جائے اور اس مرد کے بارے میں جو عورتوں میں فوت ہو جائے راوی ہیں کہ دونوں کو حیم کر دیا جائے یعنی غسل نہ دیا جائے۔

ابو ہند داری رضی اللہ عنہ:

باخبار ابو عبدالرحمن، عبداللہ بن یزید، مقرئ، محمد بن حیوہ بن شریح، محمد بن ابوصحرا، حمید بن زیاد، محمد بن کھول، بسماع ابو ہند داری، بسماع رسول اللہ ﷺ، جو ریا کاری اور شہرت کی جگہ پر کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت کے دن ریا کاری جیسا معاملہ کرے گا اور اس کی تشہیر فرمائے گا، یہ حدیث ابن لہیعہ بھی از ابوصحرا از کھول روایت کرتے ہیں، اور فرمایا ابو ہند داری تمیم داری کے بھائی ہیں۔

معاویہ ہذلی رضی اللہ عنہ:

نخبر از ابوالیمان حمصی، محمد بن جریر بن عثمان از سلیم بن عامر از معاویہ ہذلی صحابی، منافق نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جھٹلاتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جھٹلاتا ہے اور جنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جھٹلاتا ہے اور مارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔

نہیک بن صریم سکونی رضی اللہ عنہ:

باخبار یحییٰ بن عبدالحمید حمانی از محمد بن ابان قرشی از یزید بن یزید بن جابر از بسر بن عبید اللہ از ابواورس خولانی از نہیک بن صریم سکونی از رسول اللہ ﷺ، تمہاری بقیہ فوج دجال سے نہر اردن پر جنگ کرے گی تم نہر کے مشرقی ساحل پر ہو گے اور وہ مغربی ساحل پر۔ مجھے معلوم نہیں کہ اردن کہاں ہے۔

سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ عنہ:

نخبر از بقیہ بن ولید، محمد بن ابوشریح، حضرمی صبارہ بن مالک، بسماع مالک از عبدالرحمن بن جبیر از جبیر از سفیان بن اسید حضرمی، بسماع رسول اللہ ﷺ، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک بات کہو اور وہ تمہاری وجہ سے اسے سچ سمجھ لے حالانکہ تم اس میں جھوٹے ہو۔

ابوالجیر رضی اللہ عنہ:

آپ نے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے۔ ابن بقیہ: محمد بن سعید بن سنان، محمد بن ابوالزاہریہ از جبیر بن نصیر از ابوالجیر صحابی: ایک دن رسول اللہ ﷺ بھوکے تھے اور آپ نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ رکھا تھا آپ نے فرمایا: لوگو! کان کھول کر سن لو دنیا میں بہت سے کھانے پینے والے اور عیش و آرام کرنے والے قیامت کے دن بھوکے تنگے ہوں گے، لوگو! دیکھو بہت سی اپنی عزت کرنے والے خود کو ذلیل کرنے والے ہیں اور بہت سے اپنے کو ذلیل سمجھنے والے اپنی عزت کرنے والے ہیں دیکھو بہت سے اس مال میں جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے گھسنے والوں اور اس سے عیش کرنے والوں کا اللہ کے نزدیک کوئی حصہ نہیں دیکھو جنت کے کام سخت ہیں جیسے کوئی پہاڑ پر چڑھتا ہو اور آخرت کے کام آسان ہیں لیکن انسان ان سے محروم رہتا ہے، دیکھو گھڑی بھری شہوت طویل غم پیدا کر دیتی ہے۔

ابوالاسد رضی اللہ عنہ، سلمی کے دادا:

نخبر از بقیہ بن ولید، متحد ریث عثمان بن زفر، جنی بحد ریث ابوالاسد سلمی اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساتواں شخص تھا آپ کے حکم سے ہم نے ایک ایک درہم اکٹھا کر کے سات درہم کا قربانی کے لیے ایک جانور خریدا ہم بولے یا رسول یہ جانور گراں ہے فرمایا قربانی کے لیے بہترین جانور وہی ہے جو گراں ہو اور موٹا ہو، پھر نبی ﷺ کے حکم سے ایک نے اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور دوسرے نے دوسرا اور تیسرے نے ایک پیر اور چوتھے نے دوسرا پیر اور پانچویں ایک سینگ اور چھٹے نے دوسرا سینگ اور ساتویں نے اسے ذبح کر دیا اور ذبح کرتے وقت سب نے اللہ اکبر کہا۔

ثوبان بن یمر، صحابی، ذوالاصابع رضی اللہ عنہ:

آپ یعنی ہیں اور اس مکہ میں سے ہیں جو ملک شام میں بیت المقدس میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ولید بن مسلم، متحد ریث عثمان بن عطاء از عطاء از ابو عمران از ذوالاصابع میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اگر ہم آپ کے بعد زندہ رہیں تو آپ ہمیں کہاں پر ٹھہرنے کا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا بیت المقدس میں، شاید اللہ تم کو اولاد عطا فرمائے اور وہ اس مسجد کو آباد کرے اور اس میں صبح و شام آتے جاتے رہیں۔

مازن بن خیشمہ رضی اللہ عنہ:

نخبر از اسماعیل بن عیاش از صفوان بن عمرو از عمرو بن قیس بن ثور بن مازن بن خیشمہ: میرے دادا مازن نے اور زبل کے دادا خضیل نے ہم دونوں کو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جب وہ سکون و سکا سک کے درمیان اترے ہوئے تھے اور لوگوں سے جہاد کر رہے تھے حتیٰ کہ لوگ مسلمان ہو گئے پھر معاذ نے سکون و سکا سک کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بطور وفد کے بھیجا اور رسول اللہ ﷺ نے سکون و سکا سک میں رشتہ اخوت قائم کر دیا۔

ابوحنس انصاری رضی اللہ عنہ:

آپ ہی سے نبی ﷺ نے فرمایا تھا: امارت کا سوال نہ کر۔

ابوریحانہ رضی اللہ عنہ، انصاری، صحابی:

نخبر از ابوالیمان حمصی از جریر بن عثمان از سعید بن مرشد بسماع عبد الرحمن بن حوشب از ثوبان بن شہر بسماع کریب بن ابرہہ (آپ گرجہ مران کی چھت پر عبدالملک کے ساتھ بیٹھے تھے کہ غرور کا ذکر چھڑ گیا) بسماع ابوریحانہ بسماع رسول اللہ ﷺ: ادنیٰ غرور والا بھی جنت میں نہ جائے گا ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! مجھے اپنے کوزے کے قبضہ کو اور اپنے جوتے کے تسمہ کو خوبصورت بنانا محبوب ہے فرمایا یہ غرور میں داخل نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے مغرور وہ شخص ہے جو حق والوں کو بے وقوف سمجھے اور لوگوں کو اپنی نگاہوں میں حقیر جانے۔

ذوتمر رضی اللہ عنہ، نجاشی کا بھتیجہ:

بعض حدیثوں میں آپ کا نام ذوتمر بھی آتا ہے مگر ذوتمر عام ہے اور صحیح ہے آپ اصل میں یمنی ہیں لیکن بعد میں شام میں

آجے تھے لوگ آپ سے راوی ہیں آپ نے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے۔

باخبار روح بن عبادہ و محمد بن مصعب بخدیث اوزاعی از حسان بن عطیہ از خالد بن معدان (اور بقول محمد بن مصعب) از جبیر بن نفیر از ذویجہ صحابی بسماع رسول اللہ ﷺ. عنقریب رومی تم سے پر امن صلح کر لیں گے۔

ابو خیرہ صحابی رضی اللہ عنہ:

محمد بن حمران: بخدیث داؤد بن مساور بخدیث معقل بن ہمام از ابو خیرہ صحابی: ہم نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر جب ہم واپس ہونے لگے تو آپ نے ہمیں پیلوکی ایک مسواک دے کر فرمایا اس سے مسواک کیا کرو۔
عبداللہ صنابھی رضی اللہ عنہ:

باخبار سوید بن سعید بخدیث حفص بن میسرہ از زید بن اسلم از عطاء بن یسار بسماع عبداللہ صنابھی بسماع رسول اللہ ﷺ: سورج شیطان کے سینک سے نکلتا ہے پھر جب وہ نکلتا ہے تو شیطان اس سے مل جاتا ہے اور جب بلند ہو جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اور جب ٹھیک سر پر آتا ہے تو آلتا ہے اور جب ڈوبے لگتا ہے تو آلتا ہے اور جب ڈوب جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے لہذا ان تینوں اوقات میں نماز نہ پڑھو۔
قیس جذامی رضی اللہ عنہ:

باخبار زید بن یحییٰ بن عبید اللہ دمشقی بخدیث ابن ثوبان از ثوبان از کثیر بن مرہ از قیس جذامی صحابی بقول رسول اللہ ﷺ: شہید کو چھ نعین عطا فرمائی جاتی ہیں اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی ہر گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور وہ اپنا جنتی ٹھکانا دیکھ لیتا ہے اور اس کا بڑی آنکھوں والی گوری حور سے نکاح کر دیا جاتا ہے اور وہ بڑی گھبراہٹ سے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ایمان کا جوڑا پہنا دیا جاتا ہے۔
بسر بن جحاش قرشی رضی اللہ عنہ:

باخبار یزید بن ہارون باخبار جریر بن عثمان از عبدالرحمن بن میسرہ از جبیر بن نفیر از بسر ایک دن رسول اللہ ﷺ نے اپنی ہتھیلی پر تھوکا اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا: حق تعالیٰ فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے: تو مجھے کہاں عاجز کر سکتا ہے حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا پھر میں نے تجھے درست کیا اور ہموار کر دیا اب تو دو چادروں میں ملبوس ہو کر چلتا ہے اور زمین پر تیرے پیروں کی چاپ پڑتی ہے پھر تو نے مال جمع کیا اور لوگوں سے روک کر رکھا آخر کار جب تیری سانس یہاں (حلق کی طرف اشارہ کر کے) پہنچی تو اب تو کہتا ہے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اب صدقہ کا وقت کہاں۔ یزید بن ہارون: لوگ کہتے ہیں: آپ بسر بن جحاش ہیں لیکن لوگوں نے یہ یہ لفظ ابن جحاش سے بدل ڈالا۔
سلمہ بن نفیل حضرمی رضی اللہ عنہ:

مگر بعض کے نزدیک آپ سکونی ہیں۔ باخبار سلیمان بن عبدالرحمن دمشقی بخدیث ولید بن مسلم بخدیث محمد بن مہاجر انصاری بخدیث ولید بن عبدالرحمن جرشی از جبیر بن نفیر از سلمہ بن نفیل حضرمی: حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتح عطا فرمائی، میں حاضر

خدمت ہو اور آپ کے اس قدر قریب آ گیا کہ میرے کپڑے آپ کے کپڑوں سے چھو جانے والے تھے میں نے کہا: یا رسول اللہ! گھوڑے باندھ دیئے گئے اور اسلحہ لوگوں نے چھوڑ دیئے اور کہنے لگے کہ لڑائی نے اپنے ہتھیار رکھ دیئے فرمایا: غلط کہتے ہیں جنگ اب آئی ہے، لڑائی اب ابھری ہے، حق تعالیٰ ہمیشہ لوگوں کے دل ٹیڑھے کرتا رہے گا تم ان سے لڑو گے اور حق تعالیٰ ان سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا حتیٰ کہ لوگوں پر اسی حال پر اللہ کا حکم آجائے اور دارالاسلام کے اترنے کی جگہ شام ہے (فرماتے ہیں) اشعث بن شعبہ از ارطاة بن منذر از ضمہ بن حبیب از خالد بن اسد بن حبیب از سلمہ بن نفیل میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کیا آپ کی روزی آسمان سے اتری ہے فرمایا ہاں میں نے کہا باقی کو کیا کیا فرمایا آسمان پر اٹھائی گئی۔

یزید بن اسد بن کرز رضی اللہ عنہ:

ابن عام بن عبد اللہ بن عبد شمس بن جریر بن شق (کاہن) بن صعب بن یثکر بن رہم بن افرك بن نذیر بن قسری بن عبصر بن انمار، بجلی آپ وفد میں حاضر دربار رسالت ہوئے اور آپ سے راوی ہیں۔

باخبار عثمان بن محمد بن ابوشیبہ، محمد بن ہشیم باخبار ابوالحکم یسار، اسماعیل خالد قسری، حدیث پدر من از پدر پدر من بقول رسول اللہ ﷺ: اے زید جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر۔

محمد بن عمرو وغیرہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یزید نے کوفہ میں گھر کی حد بندی نہیں کی اور نہ آپ کوفہ گئے ہاں شام میں آپ کی اولاد میں سے خالد بن عبد اللہ بن یزید قسری جا بے آپ ولید بن عبد الملک کی طرف سے مکہ کے حاکم مقرر کیے گئے اور ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کے حاکم بنے آپ نے کوفہ میں چند قطععات خرید لیے اور وہاں گھر بنا لیا وہاں آپ کی نسل کثیر تعداد میں ہے۔

غطفیف بن حارث کندی رضی اللہ عنہ:

باخبار معن بن عیسیٰ، محمد بن معاویہ بن صالح از یونس بن سیف از غطفیف بن حارث کندی: میں بہت سی باتیں بھول گیا لیکن یہ نہیں بھولا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نماز میں آپ کا سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر تھا۔

باخبار مالک بن اسمعیل، محمد بن عبد السلام بن حرب از اسحق بن عبد اللہ بن ابوفروہ از مکحول از عائذ اللہ بن ابوادریس از غطفیف صحابی از رسول اللہ ﷺ: جو اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد کرے اس کی زبان کاٹ لو۔

ابوالیمان، بشیر بن عقرہ رضی اللہ عنہ، جہنی:

باخبار سعید بن منصور، محمد بن حجر بن حارث غسانی (رملہ والوں میں سے) از عبد اللہ بن عوف کنانی (آپ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی طرف سے رملہ کے حاکم تھے) میں عبد الملک بن مروان کے پاس موجود تھا کہ انہوں نے بشیر بن عقرہ جہنی سے جس دن عمرو بن سعید بن عاص قتل کیے گئے سے فرمایا: ابوالیمان: آج مجھے تمہاری تقریر کی ضرورت ہے اٹھو اور تقریر کرو بشیر نے کہا میں نے نبی ﷺ سے سنا فرماتے تھے جو تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس سے اس کی غرض صرف ریا کاری اور شہرت ہو حق تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہرت و ریاء کے موقف میں کھڑا فرمائے گا۔

جلاح (غالبا) بن اشد رضی اللہ عنہ:

باخبار سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی بخدیث ولید بن مسلم بخدیث محمد بن عبد اللہ نصری از مسلمہ بن عبد اللہ جہنی از خالد بن جلاح از جلاح: ہم بازار میں کام کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور اسے سنگسار کیا گیا پھر ایک شخص نے آکر ہم سے اس کا پتہ پوچھا لیکن ہم نے اسے اس کا پتہ نہیں بتایا حتیٰ کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم سے اس خبیث کا پتہ پوچھ رہا ہے جسے آپ نے آج سنگسار کیا ہے فرمایا خبیث نہ کہہ اللہ کی قسم وہ تو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پیارا ہے۔

عطیہ بن عمر وسعدی رضی اللہ عنہ:

ولید بن مسلم: بخدیث ابن جابر بخدیث عروہ بن محمد بن عطیہ سعدی از محمد از عطیہ سعدی: ہم بنو سعد بن لیث کے ایک وفد میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمایا حق تعالیٰ جو تجھے دے دے اسے پہلے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کر کیونکہ اونچا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچا ہاتھ دیا جانے والا ہے اور اللہ کے مال سے سوال کیا جانے والا ہے اور وہ دیا جاتا ہے رسول اللہ ﷺ ہم سے ہماری زبان میں باتیں فرما رہے تھے۔

عتبہ بن عمرو سلمی رضی اللہ عنہ:

ولید بن مسلم از صفوان بن عمرو سلکسی از ابوالہشبی الاملوکی از عتبہ بن عمرو سلمی بسماع رسول اللہ ﷺ: جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے سات ہیں۔

تواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ، عصمہ صحابی رضی اللہ عنہ:

بخبر از ابوالیمان حمصی از جریر بن عثمان از ابوالولید از ہر ہوزنی از عصمہ صحابی: رسول اللہ ﷺ نماز میں مغرب کے وقت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

غرفہ بن حارث کندی رضی اللہ عنہ:

عبد الرحمن بن مہدی: بخدیث ابن مبارک از حرمہ بن عمران از عبد اللہ بن حارث از دی بسماع غرفہ بن حارث کندی: میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا آپ کے پاس قربانی کے اونٹ لائے گئے فرمایا ابوالحسن کو بلا دو آخر آپ کو بلایا گیا فرمایا نیز سے کے نیچے والا حصہ لے لو اور آپ نے اوپر والا حصہ لے لیا اور دونوں اونٹوں کو نخر کرنے لگے پھر جب آپ فارغ ہو گئے تو اپنے نخر پر سوار ہو گئے اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھالیا۔

شرحیل بن اوس رضی اللہ عنہ:

بخبر از ابوالیمان حمصی از جریر بن عثمان از ابوالحسن از شرحیل بن اوس صحابی از رسول اللہ ﷺ (تین بار) جو شراب پئے اسے کوڑے مارو اگر چوتھی بار پئے تو اسے قتل کر دو۔

حاجس بن سعد طائی رضی اللہ عنہ:

مخبر از ابوالیمان حمصی از جریر بن عثمان از عبد اللہ بن عابر: حاجس بن سعد کو مسجد میں تشریف لائے (آپ نے رسول اللہ ﷺ کو پایا ہے) آپ نے دیکھا لوگ صدر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں فرمایا کعبۃ اللہ کی قسم یہ ریاکار ہیں انہیں دھکاؤ ان کو دھکا دے والے اللہ کے اور اس کے رسول کے فرماں بردار ہیں آخر پیچھے والے لوگ ایک دوسرے کو صدر مسجد سے ہٹانے لگے فرمایا: کہا جاتا ہے: سحر کے وقت فرشتے مسجد کے اگلے حصہ میں ہوتے ہیں۔

جبکہ بن ازرق صحابی رضی اللہ عنہ:

عبد اللہ بن صالح: بخدیث معاویہ بن صالح از راشد بن سعد از جبکہ بن ازرق صحابی: رسول اللہ ﷺ نے بہت پتھر والی ایک دیوار کی طرف غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھی جب آپ دو رکعت نماز پڑھ چکے تو ایک بچھونے آپ کو ڈس لیا لوگوں نے آپ کے زخم پر دم کیا پھر آپ نے اپنی حالت سنبھل جانے کے بعد فرمایا حق تعالیٰ نے مجھے شفاء عطا فرمائی تمہارے دم کرنے کی وجہ سے نہیں۔

ابن سعدہ رضی اللہ عنہ، صاحب جیوش:

عبد الرزاق بن ہمام: باخبار ابن جریج از عثمان بن ابوسلیمان از ابن سعدہ صاحب جیوش: میں نے نبی ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے میں بھاری ہو گیا ہوں لہذا مجھ سے رکوع و سجود میں جاہل نہ کرو پھر جیسے میرا رکوع فوت ہو جائے وہ اسے میرے قیام کی تاخیر میں پالے گا۔

عمارہ بن زکمرہ رضی اللہ عنہ:

ولید بن مسلم: مخبر عنہ بن معدان بسماع ابودوس مخصی از ابن عاصم مخصی از عمارہ بن زکمرہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: میرا کامل بندہ وہ ہے جو مجھے یاد رکھے اگرچہ دشمن کے مقابلہ پر ہو۔
ابوسلمی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ ﷺ کا چرواہا:

باخبار سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی: بخدیث ولید بن مسلم: بخدیث عبد الرحمن بن یزید بن جابر از عبد اللہ بن عطاء از عبد اللہ بن عطاء بن زبیر: بخدیث ابوسلام اسود بسماع ابوسلمی (ابن جابر والی حدیث میں ہے میں ان سے کوفہ کی مسجد میں ملا تھا) میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے: واہ واہ سبحان اللہ پانچ چیزیں میزان میں کس قدر بھاری ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور نیک بچہ جو مسلمان کا فوت ہو جائے اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے۔
عریب رضی اللہ عنہ:

مخبر از محمد بن شعیب بن سائبور باخبار سعید بن سنان از یزید بن عبد اللہ بن عریب از عبد اللہ از عریب: نبی ﷺ سے اس (وآخرین من دونہم لاتعلمونہم اللہ یعلمہم یعنی اور ان کے علاوہ دوسرے جن کو تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے) کی تفسیر پوچھی گئی فرمایا: وہ جن ہیں۔ فرماتے ہیں اسی سند سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جن اسے دیوانہ نہیں بناتا جس کے گھر میں

اصیل گھوڑا ہو۔ اسی سند سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے الذین ینفقون اموالہم سرا وعلانیۃ الخ (یعنی جو اپنے مال چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے) کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا یہ گھوڑوں والے ہیں اسی سند سے ہے کہ آپ نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں میں قیامت تک خیر و برکت بندھی ہوئی ہے اور گھوڑے والوں کی گھوڑوں پر اعانت کی جاتی ہے اور اسی سند سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑے پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور ہاتھ سکیڑتا نہیں: گھوڑوں کے پیشاب اور ان کی لید میں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک عمدہ مشک کی طرح ہوں گی۔

ابو زہم بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ:

آپ ان اشعری حضرات میں سے تھے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر سرکار رسالت ہوئے تھے جب کہ آپ خیبر میں تھے یہ چون اشخاص تھے جن میں سے چھ شخص بنو عک کے تھے یہ سب مسلمان ہو گئے تھے اور نبی ﷺ کے ساتھ رہے تھے آپ کی وفات کے بعد ابو زہم شام چلے گئے اور وہاں بس گئے تھے۔

اکہم بن عمرو اشعری رضی اللہ عنہ:

آپ بھی اس گروہ میں شامل تھے جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا تھا آپ بھی مسلمان ہو کر نبی ﷺ کے ساتھ رہے پھر ملک شام چلے۔

عمرو بن مالک علی رضی اللہ عنہ:

آپ کے ماموں اشعری ہیں آپ مذکورہ بالا گروہ میں شامل تھے اور مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے آپ مالک بن عمرو کے والد ہیں، مطہر بن حمی علی کا خیال ہے کہ آپ ان کی والدہ کے ماموں ہیں۔

رفاعہ بن زید جذامی رضی اللہ عنہ:

آپ وفد میں شامل ہو کر نبی ﷺ کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے آپ کو نبی ﷺ نے اجازت دی اور آپ کچھ دن مدینہ ٹھہرے تاکہ قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں پھر آپ نے نبی ﷺ سے اجازت مانگی کہ اپنی قوم کو خط کے ذریعہ اسلام کی دعوت دیں: قوم نے لپک کر آپ کی دعوت قبول کی۔ رسول اللہ ﷺ ان کے گوشہ کی طرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیج چکے تھے زید نے ان پر حملہ کیا اور انہیں قتل و قید کیا آخر رفاعہ نبی ﷺ کی طرف لوٹے آپ کے ساتھ آپ کی قوم میں سے ابو زید اور ابواسماء پسران عمرو اور سوید اور برفوع پسران زید اور ثعلبہ بن عدی تھے رفاعہ نے پرچہ اٹھا کر آپ کو پڑھ کر سنایا اور زید نے جو کچھ کیا تھا اس کی تفصیل بتائی آپ نے فرمایا مقتولوں کا کیا کروں؟ ابو زید نے کہا جو زندہ ہیں انہیں رہا کر دیجئے اور جو قتل ہو گئے سو ہو گئے فرمایا ابو زید نے صحیح بات بتائی ہے پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زید کے پاس بھیجا آپ نے جا کر تمام قیدی چھڑوا دیئے اور لوٹا ہوا مال واپس دلادیا۔

فروہ بن عمرو جذامی رضی اللہ عنہ:

باخبر محمد بن عمر بحدیث ابو بکر از زامل بن عمرو فروہ جذامی علاقہ بلقاء میں عمان پر قبضہ کے حامل تھے اور نبی ﷺ نے

دعوت نامہ ہرقل کو اور حارث بن ابوشمر کو بھیجا تھا اور فروہ کو نہیں بھیجا تھا پھر فروہ مشرف بہ اسلام ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کو اپنے اسلام کے بارے میں لکھا اور اپنے پاس آپ کی خدمت میں ایک پیامبر مسعود بن سعد کو بھی بھیجا اور آپ کو ایک خچر (فضہ) ایک گدھا (یعفور) ایک گھوڑا (ظرب) کستانی کپڑے اور ریشمی جبہ جس پر سونے کا کام تھا بطور ہدیہ کے بھیجا۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ کا خط اور ہدیہ قبول فرمایا اور قاصد کو ۲۲/۲ اوقیہ چاندی دینے کا حکم فرمایا جب قیصر کو فروہ کے اسلام کی خبر لگی تو آدمی بھیج کر ان کو قید کر دیا آپ قید خانہ ہی میں فوت ہو گئے پھر مرنے کے بعد آپ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔

عبداللہ بن سفیان ازدی رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ خولانی رضی اللہ عنہ:

بخبر از ابو الیمان حمصی از اسماعیل بن عیاش از محمد بن زیاد از ابو عبیدہ خولانی: میں نے اپنے بال بڑھالیے تاکہ انہیں بت کے نام پر جو جاہلیت میں ہمارے پاس تھا کاٹوں لیکن اللہ نے اس میں دیر فرمادی حتیٰ کہ میں نے بال مشرف بہ اسلام ہو کر کاٹے۔
ابو سفیان مدلوک رضی اللہ عنہ:

باخبار سلیمان بن عبدالرحمن دمشقی محمد یث مطرب بن علاء فزاری دمشقی بحدیث میری پھوپھی امہ یا امیہ بنت ابو العتاء اور قطبہ ہماری آزاد کردہ لونڈی بسامع ابو سفیان مدلوک: میں اپنے موالی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ساتھ مسلمان ہو گیا آپ نے مجھے بلایا اور میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور مجھے برکت کی دعادی: دونوں خواتین کہتی ہیں کہ ان کے سر پر جہاں جہاں رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پڑا تھا وہاں کالا تھا اور باقی سفید ہو گیا تھا۔
ہانی ہمدانی رضی اللہ عنہ:

باخبار سلیمان بن عبدالرحمن دمشقی محمد یث خالد بن یزید بن عبدالرحمن بن ابوماک ہمدانی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا ہانی سے: میں یمن سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے برکت کی دعادی اور یزید بن ابوسفیان کے پاس ٹھہرا دیا حتیٰ کہ میں ان کے ساتھ شام چلا گیا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کی طرف بھیجا تھا۔

ابو مریم غسانی رضی اللہ عنہ:

آپ ابوبکر بن عبداللہ بن ابومریم کے دادا ہیں جن سے ولید بن مسلم وغیرہ راوی ہیں۔

بخبر از بقیہ بن ولید از ابوبکر بن عبداللہ بن ابومریم بحدیث پدر من از پدر خویش: میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سے ایک بھاری پتھر اٹھا کر پھینکا آپ کو حیرت ہوئی اور آپ نے دعا فرمائی۔

ابو مریم اسدی صحابی رضی اللہ عنہ:

بشام بن عمار: محمد یث صدقہ بن خالد قرشی محمد یث یزید بن ابومریم محمد یث قاسم بن ابوجحیرہ از فلسطینی اسدی ابومریم (معاویہ بن ابوسفیان سے) ہمیں آپ سے کیا آرام پہنچا؟ میں نے ایک حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی آپ فرماتے تھے جسے اللہ نے مسلمانوں کی چیز پر حاکم بنایا اور وہ لوگوں کی ضرورت بیماری اور فاقہ سے محجوب رہا اللہ قیامت کے دن اس کی ضرورت احتیاج

اور فاقہ سے پردے میں رہے گا۔
عبدالرحمن بن عکاش حضرت نبی ﷺ:

جن سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے میں نے اپنے رب کو (خواب میں) بہترین صورت میں دیکھا۔

ابو رہم بیاعی رضی اللہ عنہ: ربیعہ بن عمرو جرشی رضی اللہ عنہ:

بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے اور آپ سے راوی ہیں آپ ثقہ ہیں اور مرج راہط کی جنگ میں ذی الحجہ ۶۲ھ میں شہید ہوئے۔

عبداللہ بن سیدان سلمی رضی اللہ عنہ:

مذکور ہے کہ آپ نے نبی ﷺ کو دیکھا ہے، آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا تو آپ کا خطبہ اور نماز نصف دن سے پہلے ہوئی فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمعہ پڑھا تو آپ کی نماز اور خطبہ بھی نصف دن سے پہلے ہوا اور میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ کا خطبہ اور نماز بھی زوال سے قبل ہوئی۔
خالد بن حواتری رضی اللہ عنہ:

آپ حبشی ہیں اور صحابی ہیں۔

عمیر بن جابر بن غاضرہ رضی اللہ عنہ:

ابن اشرس کنڈی آپ کو صحبت ملی آپ حنا کا خضاب کیا کرتے تھے۔

حشر رضی اللہ عنہ:

آپ کو نبی ﷺ نے اپنی گود میں لیا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ یہ سو حضرات ہیں اور سات نفر ہیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد شامیوں کا پہلا طبقہ

جنادہ بن ابوامیہ ازدی رضی اللہ عنہ:

آپ ابوبکر عمر اور معاذ رضی اللہ عنہم سے ملے ہیں اور ان سے حدیثیں یاد کی ہیں آپ ثقہ ہیں اور صاحب غزوہ ہیں۔ محمد بن عمر آپ عہد عبدالملک میں ۸۰ھ میں فوت ہوئے۔

ابوالعقیف رضی اللہ عنہ:

میں اس وقت موجود تھا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔

ابوعبدالرحمن، جبیر بن نفیر حضرت نبی ﷺ:

آپ عہد صدیقی میں مشرف بہ اسلام ہوئے آپ اپنی روایت کردہ احادیث میں ثقہ ہیں اور عہد عبدالملک میں ۸۰ھ میں

فوت ہوئے۔ اور عمر معاذ رضی اللہ عنہما اور ابو ثعلبہ سے راوی ہیں۔

نختر از ابوالیمان از جریر بن عثمان از سلیم بن عامر بقول جبیر بن نفیر: میں نے شروع ہی سے اسلام کو دیکھا ہے اور اس میں نیک و بد ہر قسم کے مسلمان دیکھے ہیں۔ نختر از عبد اللہ بن صالح از ابوالراہرہ اور ابن جبیر: ہم نے جبیر کو کبھی ان کی قومی مجلس میں چبھتے اٹھتے نہیں دیکھا۔

سفیان بن وہب خولانی رضی اللہ عنہما:

آپ کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔

ذوالکلاع رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام سمیع بن حوشب ہے۔

یزید بن عمیرہ زبیدی رضی اللہ عنہما:

فرماتے ہیں: بعض کے نزدیک آپ کبھی ہیں آپ صاحب معاذ ہیں اور آپ نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ملاقات کی ہے۔ ان شاء اللہ آپ ثقہ ہیں۔

عبدالرحمن بن غنم بن سعد اشعری رضی اللہ عنہما:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو لوگوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے ملک شام بھیجا تھا آپ کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت ہے اور آپ سے راوی بھی ہیں آپ کے والد غنم بن سعد ہیں۔

غنم بن سعد رضی اللہ عنہما:

آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے اشعری گروہ میں شامل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں اور آپ کے بعد کسی غزوے میں کام آئے اور جام شہادت نوش فرما گئے۔

مالک بن یحیٰم الہبانی رضی اللہ عنہما:

آپ کو سکسی بھی کہا جاتا ہے آپ معاذ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں ہیں اور ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور عہد عبد الملک میں فوت ہوئے۔

اوسط بن عمرو بجلی رضی اللہ عنہما:

آپ اسماعیل بن اوسط کے والد ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہے اور ان سے راوی ہیں آپ قلیل الحدیث ہیں۔

ابوعذیبہ حضرمی رضی اللہ عنہما:

فرماتے ہیں: میں شامیوں میں چوتھا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہم حج پر آئے تھے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ عراقیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جب وہ آپ کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور جو جواب آپ سے نہیں دیا اسے بھی۔

ابوالیمان از جریر بن عثمان از عبدالرحمن بن میسرہ از ابو عذبہ حضرمی: میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے والے شامیوں میں چوتھا شخص تھا ہم لوگ حج کے لیے آئے تھے ہم آپ ہی کے پاس تھے کہ اتنے میں آپ کو خبر ملی کہ انہوں نے اپنا امام بنا دیا ہے آپ نے پہلے امام کی جگہ لوگوں کو ایک امام دے دیا تھا پھر اس امام کو بھی لوگوں نے ہٹا دیا یہ سن کر آپ غصہ میں آ گئے اور نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے اور نماز میں بھول گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا یہاں شامی کون ہے؟ کہتے ہیں میں اور میرے ساتھی کھڑے ہو گئے فرمایا: شامیو! اعرابوں کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ شیطان نے ان میں انڈے اور بچے دے دیئے ہیں پھر فرمایا یا اللہ انہوں نے مجھے الجھنوں میں ڈال دیا ہے انہیں بھی الجھنوں میں ڈال دے یا اللہ ان پر بہت جلد ثقی لڑکے کو مسلط فرما جو ان میں جاہلیت والا حکم نافذ کرے اور ان کے مخلصوں کے کارنامے قبول نہ کرے اور ٹیڑھوں سے تجاوز نہ کرے۔
عمیر بن اسود رضی اللہ عنہ:

آپ نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے اہل کتاب کے بارے میں پوچھا اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور ثقہ اور قلیل

الحدیث ہیں۔

ابو حریبہ کنذی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبداللہ بن قیس ہے فرماتے ہیں میں ملک شام میں معاذ کے پاس آیا۔

عمرو بن اسود سکونی رضی اللہ عنہ:

آپ عمر و معاذ رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں اور صاحب احادیث ہیں۔

عاصم بن حمید سکونی رضی اللہ عنہ:

آپ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں آپ معاذ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی ﷺ سے نماز عشاء کی تاخیر کے سلسلہ میں راوی

ہیں۔

غضیف بن حارث کنذی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔ ابوالیمان حمصی: از صفوان بن عمرو: جب غضیف کی بیماری نے زور پکڑا تو آپ کے پاس فوج کے شیوخ

آئے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی سورہ یٰسین پڑھنے والا نہیں؟ آخر صالح بن شریح سکونی نے سورہ یٰسین پڑھی وہ ابھی چالیس آیتوں

سے آگے بھی نہ بڑھے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا شیوخ نے کہا جب مرنے والے کے پاس سورہ یٰسین پڑھی جاتی ہے تو حق تعالیٰ

اس کی وجہ سے تکلیف میں تخفیف فرمادیتے ہیں۔

ابوالیمان از صفوان بن عمرو از سلیم بن عامر کلابی: خالد بن یزید اگر کہیں جاتے یا بیمار ہو جاتے تو غضیف کو حکم فرما جاتے کہ

لوگوں کو نماز پڑھا دین پھر جب لشکر آپ کے بارے میں سنتا تو سب آ موجود ہوتے اتفاق سے جمعہ آ پڑا یہ خاموش جمعہ نہ تھا کیونکہ

آپ کا وعظ مسجد کے سب پچھلے لوگ بھی سن لیتے تھے آپ نے خطبہ میں فرمایا لوگو! جانتے ہو؟ تمہارا گروی ہونا۔ کون سا گروی ہونا

ہے؟ یہ سونے چاندی والا گروی ہونا نہیں اگر ایسا ہوتا تو تمہیں یہ بات پسند ہوتی کہ تمہاری گردنوں کو ان کی لذتوں سے تعلق نہ رہے

حق تعالیٰ نے فرمایا: ہر شخص اپنے عملوں میں گروی ہے تم مسافر ہو جس کی سواری آجاتی ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن اس میں لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ غصیف عہد مروان میں فوت ہوئے۔

ابو عبد اللہ صنابحی رضی اللہ عنہ:

آپ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ باخباہ عمر بن سعید بن سعید بن عبد العزیز از یزید بن بہرام از صنابحی (یزید سے) یزید اگر تم میرے گھر میں تین دن ٹھہرو تو مجھے دفن نہ کرنا جب تک میرے لیے محفوظ قبر نہ پالو یعنی میری قبر اکھاڑی نہ جائے۔

معدان بن ابوطحہ یعمری رضی اللہ عنہ:

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور ثقہ ہیں۔

عمر و بن حارث عتسی رضی اللہ عنہ:

آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ہم میں سے حاجی کہاں سے اہرام باندھے؟ فرمایا: ذوالحلیفہ سے۔

حارث بن معاویہ کنذی رضی اللہ عنہ:

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ سے سماع کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے شام و اہل شام کے حالات پوچھے اور آپ نے تمام حالات بتائے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔

یزید بن اسود جرشی رضی اللہ عنہ:

بخبر از ابوالیمان از صفوان بن عمرو از سلیم بن عامر خبری: ایک دفعہ قحط واقع ہوا اور حضرت معاویہ اور اہل دمشق استسقاء کی نماز کے لیے نکلے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیٹھ کر پوچھا: یزید بن اسود کہاں ہیں لوگوں نے یزید کو آواز دی اور آپ لوگوں کے کندھوں سے پھلا نگتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کے حکم سے منبر پر چڑھ کر آپ کے پیروں میں بیٹھ گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا اللہ آج ہم اپنے میں سب سے نیک و افضل کی دعا کے ساتھ تجھ سے بارش مانگتے ہیں یا اللہ ہم یزید بن اسود جرشی کی سفارش سے تجھ سے پانی مانگتے ہیں یزید دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگو چنانچہ یزید نے اور ان کے ساتھ تمام حاضرین کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھادیئے تھوڑی دیر میں مغرب میں ابر نمودار ہوا اور ہوا کے ذریعہ تمام آسمان پر چھا گیا اور خوب بارش ہوئی حتیٰ کہ لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔

شرحبیل بن سمط رضی اللہ عنہ:

باخباہ یزید بن ہارون باخباہ جریر بن عثمان از عبد الرحمن بن ابوعوف جرشی از عبد اللہ بن یحییٰ ہوزنی: میں حبیب بن مسلمہ کے ساتھ شرحبیل کے جنازے میں شریک تھا آپ ہی ہیں جنہوں نے عہد عثمان میں آخری بار یا دوسری بار حصص کو تقسیم کیا تھا پھر حبیب بن مسلمہ فہری آگے بڑھے اور آپ نے (گویا آپ لمبے ہونے کی وجہ سے سواری پر ہیں) ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا لوگو! اپنے بھائی پر نماز پڑھو اور خوب توجہ سے دل لگا کر ان کے لیے دعا مانگو اور اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی ضرور شامل کر لو یا اللہ اس موحد مسلمان کے

گناہ معاف فرما اور آپ کو ان میں شامل فرمائے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر گامزن رہے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا اور دشمنوں پر اپنے اللہ سے مدد مانگو۔

ابو اسلام اسود رضی اللہ عنہ:

آپ حمص سے منتقل ہو کر دمشق آگئے تھے فرمایا برکت میں دوبارہ اضافہ کیا جاتا ہے۔

ابو اسحاق کعب بن احبار بن ماتع رضی اللہ عنہ:

آپ حمیر میں اولاد ذورین سے ہیں آپ یہودی تھے پھر اسلام قبول فرمایا اور مدینہ منورہ تشریف لائے پھر ملک شام میں حمص میں جا بے اور وہیں عہد عثمانی میں ۳۲ھ میں وفات پا گئے۔

باخبار یزید بن ہارون و عقیق بن مسلم متحد بیٹ حماد بن سلمہ از علی بن زید از سعید بن مسیب عباس (کعب سے) آپ عہد رسالت و عہد صدیقی میں مسلمان کیوں نہیں ہوئے اور عہد فاروقی میں کیوں اسلام قبول کیا؟

کعب میرے والد نے تو رات سے کچھ تحریر نقل کر کے مجھے دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس پر عمل کرتے رہو اور اپنی تمام کتابوں پر مہر لگا دی تھی اور مجھ سے عہد لے لیا تھا کہ مہر نہ توڑوں اور فرمایا تھا کہ تم پر میرا یہ حق ہے اسے ضائع نہ کرنا پھر میں نے اب عہد فاروقی میں اسلام کی ترقی دیکھی اور میں نے کوئی حرج نہیں سمجھا تو مجھ سے میرے دل نے کہا: شاید میرے والد نے مجھ سے علم چھپایا ہے اور اس پر پردہ ڈالا ہے کاش میں مہر توڑ کر کتابوں کا مطالعہ کر لوں آخر کار میں نے مہر توڑ کر کتابوں کا مطالعہ کیا تو ان میں نبی ﷺ کی صفت اور آپ کی امت کی صفت پائی اس لیے میں فوراً مسلمان ہو گیا پھر آپ نے عباس کو اپنا دوست بنا لیا۔

باخبار غلیل بن عمر عبدی بحدیث عمر عبدی متحد بیٹ قتادہ: کعب خلافت عمر میں مشرف بہ اسلام ہوئے فرماتے ہیں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کعب کا ذکر کر کے فرمایا: ابن حمیر یہ کے پاس بہت کچھ علم ہے۔

یزید بن شجرۃ رباوی رضی اللہ عنہ:

عہد معاویہ بن ابوسفیان میں آپ اور آپ کے ساتھی ۵۸ھ میں سمندر میں قتل کیے گئے۔

حارث بن عبدازدی سلوکی رضی اللہ عنہ:

آپ معاذ کے شاگرد ہیں اور آپ کی حدیثیں ہیں۔



دوسرا طبقہ

یعنی

شام کے تابعین کرام

عبداللہ بن محیریز رضی اللہ عنہ:

باخبار محمد بن عمر بسام عبداللہ بن جعفر بن محیریز (قبیصہ بن ذویب سے) ابواسحاق! آپ لوگ سرحد میں معطل کر کے فوج کو حرم میں لے آئے اور حرم میں اور مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کر دی۔ قبیصہ: زبان روک کر رکھو اللہ کی قسم ایسا نہیں کیا گیا پھر آپ کو عبدالملک نے بلا بھیجا آپ نقاب ڈال کر عبدالملک کے سامنے کھڑے کیے گئے عبدالملک: تم نے کیا بات کہی تھی جس سے فرات سے لے کر عریش (عریش مصر) تک تمام پانی گدلا ہو گیا پھر زبیر سے کہا خاموش رہا کرو کیونکہ رحم و سنجیدگی قریش میں ہے اس دن محیریز نے سمجھا کہ جان بچی سولا کھوں پائے۔

ابواسحاق قبیصہ بن ذویب بن حلقہ رضی اللہ عنہ، خزاعی، قمیری:

آپ ثقہ ہیں اور آپ سے زہری راوی ہیں اور عبدالملک مہر پرا فرستے آپ ہی نے زہری کی عبدالملک سے ملاقات کرائی تھی اور عبدالملک نے زہری کا وظیفہ مقرر کیا تھا اور ان سے تعلق پیدا کیا تھا اور وہ زہری کے شاگرد ہو گئے تھے۔ قبیصہ عبدالملک کی خلافت کے اخیر میں ۸۶ھ یا ۸۷ھ میں ملک شام میں فوت ہوئے۔

ابوشجرہ کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ، حضرمی:

آپ ثقہ ہیں۔ عبداللہ بن صالح ازلیث بن سعد محدث یزید بن ابوجیب: عبدالعزیز بن مروان نے کثیر کو لکھا (آپ نے حمص میں ستر بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا تھا لیٹ کہتے ہیں: وہ چند مقدم کہلاتا تھا) کہ مجھے وہ حدیثیں لکھ کر بھیج دیجئے جو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے سنی ہیں البتہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ لکھئے کیونکہ وہ ہمارے پاس ہیں۔

ابومسلم عبداللہ بن ثوب رضی اللہ عنہ، خولانی:

آپ ثقہ ہیں اور یزید بن معاویہ کے زمانہ میں فوت ہوئے باخبار مسلم بن ابراہیم محمد بن ہشام دستوائی: محمد بن قتادہ: کعب (مسلم خولانی سے) ابومسلم! آپ کہاں کے ہیں؟ فرمایا عراقی ہوں پوچھا: کون سے عراقی؟ فرمایا: بصری۔

ابو ادریس عائد اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، خولانی:

باخبار یحییٰ بن معین: ابو ادریس خولانی حمین کے سال پیدا ہوئے میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ فرمایا شامیوں کی حدیث سے روشن ہے آپ ثقہ ہیں اور آپ سے زہری راوی ہیں۔

یعلیٰ بن شداد بن اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ:

آپ مشہور شاعر حسان بن ثابت کے بھتیجے ہیں آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور آپ سے روایت کی جاتی ہے۔
عبدالرحمن بن عمرو سلمی رضی اللہ عنہ:

آپ ۱۱۰ھ میں عہد ہشام بن عبدالملک میں فوت ہوئے۔
شہر بن حوشب اشعری رضی اللہ عنہ:

باخبار محمد بن عمر: آپ ۱۱۲ھ میں فوت ہوئے۔ حدیث میں ضعیف ہیں۔ باخبار ابو عبد اللہ شامی میں نے عبد الحمید بن بہرام سے پوچھا: شہر بن حوشب کب فوت ہوئے؟ فرمایا ۹۸ھ میں۔
عبداللہ بن عامر مکھسبی رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں اور ۱۱۸ھ میں فوت ہوئے۔
ابو عبد الرحمن قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

آپ جویریہ بنت ابوسفیان بن حرب کے آزاد کردہ غلام ہیں اور بعض کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں آپ کے لیے شامیوں کی بعض حدیثوں میں کثیر کی حدیث ہے کہ آپ نے چالیس بدری صحابی پائے آپ عہد ہشام میں عمار از صدقہ بن خالد از ابن جابر میں نے ابو عبد الرحمن قائم کو دیکھا آپ سفیدی نہ بدلتے تھے۔
مسلم بن مشکم رضی اللہ عنہ:

آپ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے اور ابوالدرداء اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور آپ سے عبد اللہ بن علاء بن زید راوی ہیں۔

مسلم بن قرظہ اشجعی رضی اللہ عنہ:

آپ اپنے چچا عوف بن مالک اشجعی سے راوی ہیں۔

ابو عثمان سعید بن ہانی خولانی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور ۱۲۷ھ میں فوت ہوئے۔

ابوالزاہریہ حضرمی (بعض کے نزدیک حمیری):

آپ کا نام حدیر بن کریب ہے آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں آپ عہد مروان بن محمد میں ۱۲۹ھ میں فوت ہوئے۔

عبداللہ بن حجر رضی اللہ عنہ:

ابوالیمان از جریر بن عثمان از ابن ابوعوف از عبد اللہ بن حجر (منبر پر لوگوں کو بلبوس دیکھ کر) یہ حسن اور یہ جمال فقدان و غمگینی

کے بعد رکین چڑھے یہ پگڑیوں کی بندش اور یہ منقش چادریں تم بھول ہو گئے اور لوگ مٹی لوگ دیتے ہیں اور تم لیتے ہو لوگ کھاتے ہیں اور تم سوار ہوتے ہو لوگ بنتے ہیں اور تم پہنتے ہو اور لوگ کھتی کرتے ہیں اور تم کھاتے ہو۔
حجاج بن عبدالشمالی رضی اللہ عنہ:

آپ عبدالملک بن مروان کی خلافت میں فوت ہوئے۔

ابوہل، کلثوم بن ہانی کندی رضی اللہ عنہ:

روح بن سعید بن عبدالعزیز از ابو زرہ شیبانی از کلثوم بن ہانی سے کہا گیا کہ حدیث بیان کیجئے جب لوگوں نے آپ کو نامزد کیا تو آپ کو غرور سے ڈر معلوم ہوا اور فرمایا میرے دل میں خیر نہیں کتنی کثرت سے حدیثیں سنی گئیں اور بھول گئیں شیبانی کہتے ہیں اگر چاہتے تو آپ حدیث بیان کر سکتے تھے۔

ضمیرہ بن ربیعہ از شیبانی بقول کلثوم بن ہانی: جب تمہارے بھائیوں میں کسی کو عامل بنا دیا جائے تو اسے سلام علیک کہہ کے

الگ ہو جاؤ۔

حکیم بن عمیر رضی اللہ عنہ:

آپ معروف و قلیل الحدیث ہیں اور ابو احوص بن حکیم شامی کے والد ہیں۔ ابو الیمان از صفوان بن عمرو: میں نے حکیم کی

پیشانی پر جعدے کے نشان دیکھے۔

ابوعبید (یا) ابو عامر، نوف بکالی رضی اللہ عنہ:

باخبار موسیٰ بن اسماعیل از جعفر بن سلیمان از ابو عمران از نوف بکالی اور آپ اہلیہ کعب کے بیٹے ہیں۔

تبیح، اہلیہ کعب اخبار کے فرزند:

آپ عالم تھے اور آپ نے کتابیں پڑھی تھیں اور کعب سے بہت سارا علم سنا تھا۔

ابوحسنہ، مسلم بن کبیس (یا) کبیس:

از صفوان بن عمرو: آپ لوگوں کے لیے رضا کارانہ قرآن شریف لکھا کرتے تھے اور ان کا بدیہ مقرر نہیں فرماتے تھے، اگر

کوئی کچھ دے دیتا لیتے تھے ورنہ کسی سے سوال نہیں کیا کرتے تھے۔



تیسرا طبقہ

مکحول و مشقی رضی اللہ عنہما:

باخبار ولید بن مسلم متحد ریث عبد اللہ بن علاء بسماح مکحول: میں عمرو بن سعید بن عاص کا غلام تھا انہوں نے مجھے مصر کے ایک ہندی شخص کو بطور ہبہ کے دے دیا انہوں نے مجھ پر (یہ ہبہ کر کے) انعام فرمایا میں نے مصر نہیں چھوڑا جب تک مجھے یہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو کچھ یہاں علم تھا وہ سب میں نے سن لیا ہے پھر میں مدینہ آیا اور میں نے مدینہ نہیں چھوڑا جب تک مجھے یہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو کچھ یہاں علم تھا وہ سب میں نے سن لیا ہے پھر میری ملاقات شعیب رضی اللہ عنہ سے ہوئی میں نے ان کے ہم مثل کسی کو نہیں پایا۔

باخبار ولید بن مسلم متحد ریث نمیر بن عقبہ حبشی بسماح مکحول: میں شریح کے پاس چھ ماہ تک آتا جاتا رہا میں نے ان سے اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جس پر قناعت کر کے وہ فیصلہ کرتے تھے اور اسے میں سنتا تھا۔

باخبار ولید بن مسلم از سعید وا بن جابر بسماح مکحول: میں نے مسجد دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا میں نے سوچا یہ صحابی ہیں میں انہیں سلام نہیں کروں گا اور نہ ان سے کچھ پوچھوں گا لیکن پھر میں نے ان سے جنازہ اٹھانے کے بعد یا جنازے میں شامل ہونے کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا فرمایا ہم نماز میں تھے اور نماز کی طرف لوٹے لہذا اس کے درمیان وضو کی کیا ضرورت؟ باخبار عمر بن سعید متحد ریث سعید بن عبد العزیز: میں نے مکحول پر لوہے کی انگوٹھی دیکھی جس پر چاندی چڑھی ہوئی تھی لوہا بالکل نظر نہیں آتا تھا اس پر یہ عبارت کندہ تھی ”رب باعد مکحولاً من النار“ یعنی اے میرے رب مکحول کو آگ سے دور رکھ۔

باخبار معن بن عیسیٰ متحد ریث عبد اللہ بن راشد شامی: میں نے مکحول کے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی باخبار فضل بن دکین متحد ریث محمد بن راشد: مکحول جب نماز پڑھتے تو اکثر سبز چادر لٹکا لیا کرتے تھے باخبار عمر بن سعید متحد ریث سعید بن عبد العزیز: مکحول ان لوگوں میں تھے جو عطیہ کو فرض سمجھتے تھے اور اسے لیتے تھے اور اس سے جہاد میں قوت حاصل کیا کرتے تھے۔

ابو الیمان بن سعید بن عبد العزیز: مکحول ہشام کی ملاقات کے لیے آئے۔ تو ہشام نے آپ کو ڈاک کے گھوڑوں پر سوار کیا۔ باخبار محمد بن مصعب قرظانی متحد ریث معقل بن عبد الاعلیٰ قرظی (اولاد بنو معیط سے) میں نے مکحول سے سنا ایک آدمی سے فرما رہے تھے: اس فساد کا کیا ہوا؟ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ مکحول کابل کے تھے اور آپ کی زبان میں لکنت تھی قدر یہ تھے اور حدیث وردایت میں ضعیف ہیں۔ باخبار عمر بن سعد: مکحول ۱۸ھ میں فوت ہوئے لیکن بعض کے نزدیک ۱۳ھ میں فوت ہوئے۔

رجاء بن حیوہ رضی اللہ عنہ:

آپ اردن میں مقیم تھے آپ ثقہ عالم فاضل اور جید علماء میں سے ہیں۔ باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری متحد ریث ابن عون رجاء حدیث اس کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے باخبار سلیمان ابو داؤد طیالسی باخبار شعبہ از محمد بن عبد اللہ بن ابو یعقوب اپنی

روایت کردہ حدیث میں کہ ایک شخص نے کہا کہ رجاہ کی کنیت ابو نصر تھی۔ باخباہ سلیمان بن حرب محمدیث جریر بن حازم: میں نے رجاہ کو دیکھا سر سرخ تھا اور داڑھی سفید تھی۔

خالد بن معدان کلاعی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔ باخباہ قیسہ بن عقبہ محمدیث سفیان از ثور از خالد بن معدان خشکی اور تری کا کوئی تنفس میرے لیے موت سے فدیہ نہیں بن سکتا اگر موت ایک نشانہ ہوتی جس کی طرف لوگ پہل کر کے جانا چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلے اس کے پاس جاتا یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اپنی فوت کی وجہ سے مجھ سے پہل کر جاتا ابوالیمان از صفوان بن عمرو: میں نے خالد کی پیشانی پر محمدیث کے نشان دیکھے۔ اسماعیل بن عیاش از صفوان بن عمرو از خالد: خالد اپنی داڑھی کو زرد کر لیا کرتے تھے۔ بالاتفاق خالد ۱۰۳ھ میں یزید بن عبد الملک کے زمانہ میں فوت ہوئے باخباہ یزید بن ہارون خالد روزے میں فوت ہوئے۔

عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر حضرمی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں بعض لوگ آپ کی حدیث کو منکر کہتے ہیں آپ عہد ہشام میں ۱۱۸ھ میں فوت ہوئے۔ راشد بن سعد رضی اللہ عنہ، حمیری، حمصی:

آپ ثقہ ہیں اور عہد ہشام میں ۱۰۸ھ میں فوت ہوئے۔ عباوہ بن نسی رضی اللہ عنہ، کندی:

آپ ثقہ ہیں اور عہد ہشام میں ۱۱۸ھ میں فوت ہوئے۔ سعید بن مرشد رضی اللہ عنہ:

آپ سے جریر بن عثمان راوی ہیں آپ نے جنگ صفین پائی۔ نمیر بن اوس اشعری رضی اللہ عنہ:

آپ دمشق کے قاضی تھے، قلیل الحدیث ہیں اور عہد ہشام میں ۱۲۲ھ میں فوت ہوئے۔ سلیمان بن حبیب حماربی رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں اور ۱۲۶ھ میں فوت ہوئے۔ عبداللہ بن ابوزکریا خزاعی، دمشقی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں، قلیل الحدیث ہیں اور صاحب غزوات ہیں اور عہد ہشام میں ۱۱۸ھ میں فوت ہوئے۔ ہشام بن عمار از صدقہ بن خالد از ابن جابر: میں نے ابن ابوزکریا کو دیکھا کہ سفیدی کو نہیں بدلتے تھے۔

عبدالرحمن بن میسرہ حضرمی رضی اللہ عنہ:

اسماعیل بن عیاش از جریر بن عثمان از عبدالرحمن بن میسرہ: میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیے کہ میں حدیثوں کو سمجھوں اور انہیں یاد رکھوں آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی اب جو کچھ میں

سنا ہوں اسے سمجھ لیتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں۔

ابو مخرمہ سعدی رضی اللہ عنہ:

ہشام بن عمار از صدقہ بن خالد از ابن جابر: میں نے ابو مخرمہ کو دیکھا اپنی سفیدی نہیں بدلا کرتے تھے۔

ابو ایوب سلیمان بن موسیٰ اشدق:

آپ ثقہ ہیں آپ کی تعریف ابن جریج نے کی ہے۔ معتمر بن سلیمان از برد: لوگ موسموں میں وظائف کے لیے جمع ہو جایا

کرتے تھے اور سلیمان ہی لوگوں کی طرف سے درخواست کیا کرتے تھے۔ سلیمان عہد ہشام میں ۱۱۹ھ میں فوت ہوئے۔

ابو راشد رضی اللہ عنہ، حبرانی، حمیری:

اسامیل بن عیاش از صفوان بن عمرو از ابو راشد حمرانی: ابو راشد کی داڑھی زرد رہتی تھی۔

عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ:

آپ نے ۱۲۲ھ میں وفات پائی۔

ابوزرعہ، یحییٰ بن ابو عمرو شیبانی رضی اللہ عنہ، علی بن ابوطحہ رضی اللہ عنہ:

آپ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کے راوی ہیں اور آپ سے راوی معاویہ بن صالح ہیں۔

یحییٰ بن جابر طائی رضی اللہ عنہ:

آپ کی حدیثیں ہیں آپ عہد ولید بن یزید بن عبدالملک بن ۱۲۶ھ میں فوت ہوئے۔

ضمضم ابوالہشاشی املوکی رضی اللہ عنہ:

اسامیل بن عیاش از صفوان بن عمرو: ضمضم اپنی داڑھی زرد رنگ لیا کرتے تھے۔

یونس بن سیف رضی اللہ عنہ:

آپ معروف وصاحب احادیث ہیں اور عہد ہشام بن عبدالملک میں ۱۲۰ھ میں فوت ہوئے۔

عبدالرحمن بن عریب حمیری رضی اللہ عنہ:

اسامیل بن عیاش از صفوان بن عمرو از عبدالرحمن: آپ کی داڑھی زرد تھی۔

عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ کنندی:

آپ صالح الحدیث ہیں بقول محمد بن عمر آپ کی وفات عہد ولید بن یزید بن عبدالملک میں ۱۲۵ھ میں ہوئی۔

ابوطحہ رضی اللہ عنہ:

آپ کی حدیثیں ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ کی وفات ۱۲۳ھ میں ہوئی۔

ابو عتبہؓ کنڈی

آپ کی بھی حدیثیں ہیں بقول محمد بن عمر آپ کی وفات ۱۲۳ھ میں ہوئی۔

ابو عتبہ کنڈیؓ

آپ قبیل الحدیث ہیں بقول محمد بن عمر آپ نے عہد ہشام بن عبدالملک میں ۱۲۵ھ میں وفات پائی۔

یزید بن سبیؓ

آپ ثقہ ہیں اور بقول محمد بن عمر آپ نے عہد ہشام بن عبدالملک میں ۱۲۵ھ میں وفات پائی۔

مہاصر بن حبیبؓ

آپ معروف ہیں اور آپ نے عہد مروان بن محمد میں ۱۲۸ھ میں وفات پائی۔



چوتھا طبقہ

عروہ بن رؤیم نخعی رضی اللہ عنہ:

آپ کثیر الحدیث ہیں اور ۳۲ھ میں فوت ہوئے۔

عطیہ بن قیس رضی اللہ عنہ:

آپ معروف ہیں اور صاحب احادیث ہیں۔ ہشام بن عماد از صدقہ بن خالد از ابن جابر میں نے عطیہ کو دیکھا آپ اپنی

سفیدی نہیں بدلا کرتے تھے۔

ازہر بن سعید رضی اللہ عنہ، حرازی، تمیمی:

آپ قلیل الحدیث ہیں اور عہد مروان بن محمد میں ۱۲۹ھ میں فوت ہوئے۔

سعید بن ہانی رضی اللہ عنہ:

آپ عہد مروان بن محمد میں ۱۲۹ھ میں فوت ہوئے۔

اسد بن وداعہ رضی اللہ عنہ، طائی، حمصی:

آپ پرانے ہیں اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں آپ ابو جعفر منصور کی خلافت کے آغاز میں ۱۳۷ھ میں فوت ہوئے۔

بلال بن سعد رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔ ہشام بن عماد از صدقہ بن خالد از ابن جابر میں نے بلال کو دیکھا خضاب نہیں لگاتے تھے۔

ابو العباس ولید بن ابوما لک ہمدانی رضی اللہ عنہ:

آپ کی حدیثیں ہیں آپ کا کتب خانہ کوفہ میں تھا آپ ۷۲ سال کی عمر میں ولید بن یزید بن عبد الملک میں ۱۲۵ھ یا

۱۲۶ھ میں فوت ہوئے۔

یزید بن ابوما لک ہمدانی رضی اللہ عنہ:

آپ کی حدیثیں ہیں آپ دمشق میں عہد مروان بن محمد آخری سلطان بنو امیہ میں ۱۳۰ھ میں ۷۲ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

خالد بن عبد اللہ بن حسین رضی اللہ عنہ:

ہشام بن عماد از صدقہ بن خالد از ابن جابر میں نے خالد کو دیکھا خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔

نعمان بن منذر غسانی دمشقی رضی اللہ عنہ:

آپ کثیر الحدیث ہیں اور بنو ہاشم کی خلافت کے شروع میں ۳۲ھ میں فوت ہوئے۔

عمر و بن مہاجر رضی اللہ عنہ:

آپ اسماء بنت یزید بن سکن النصار یہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پہرہ داروں کے افسر تھے باخبار محمد بن عمر خنجر معاویہ بن صالح بسام مہاجر ابو عمرو بسام اسماء بنت یزید بن سکن: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے اپنی اولاد کو پوشیدہ طور پر قتل نہ کرو یعنی مدت رضاعت میں صحبت سے بچو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ فعل شہسوار کو پاتا ہے اور اسے لڑھکا دیتا ہے یعنی ایسا بچہ گھوڑے پر جمتا نہیں۔ عمر وثقہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں آپ عہد ابو جعفر میں ۷۴ سال کی عمر میں ۱۳۹ھ میں فوت ہوئے۔

حجیر بن سعد رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔

ابولقمان حضرمی رضی اللہ عنہ:

آپ معروف ہیں بقول محمد بن عمر آپ مروان بن محمد کی خلافت کے اخیر میں ۱۳۰ھ میں فوت ہوئے۔

عامر بن ابوالحجیب رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں۔

علاء بن حارث رضی اللہ عنہ:

آپ بھی قلیل الحدیث ہیں لیکن کھول کے تمام شاگردوں میں زیادہ علم والے ہیں اور سب میں پرانے ہیں آپ کے جب تک حواس درست رہے مفتی رہے اور ابوالعباس کے آخری زمانہ میں ۱۳۶ھ میں وفات پا گئے۔

یحییٰ بن حارث ذماری رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں اور اپنے زمانہ میں قراءت کے زبردست عالم تھے اور لوگ آپ ہی سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے آپ عہد ابو جعفر میں ۷۰ سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔

حسین بن جابر رضی اللہ عنہ:

آپ پرانے ہیں آپ کا سماع امامہ اور عبداللہ بن بسر مازنی سے ثابت ہے آپ زندہ رہے حتیٰ کہ معاویہ بن صالح نے آپ سے روایت کی۔

صقر بن نسیر رضی اللہ عنہ:

آپ معروف ہیں اور ۱۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ قدیم اور معروف ہیں ابوالیمان از جریر بن عثمان از سلیم بن عامر میں بیت المقدس گیا اور دمشق میں ام الدرداء کے پاس سے گزرا آپ نے مجھے ایک دینار دیا اور طلاء (مشروب) پلایا کہتے ہیں سلیم عہد مروان بن محمد میں فوت ہوئے۔

ابو عبید اللہ رضی اللہ عنہ:

ہشام بن عمار از صدقہ بن خالد از ابن جابر میں نے ابو عبید اللہ کو دیکھا خضاب نہیں لگاتے تھے۔

حاتم بن حریث حمصی رضی اللہ عنہ:

آپ معروف ہیں اور عہد ابو جعفر کے شروع میں ۱۳۸ھ میں فوت ہوئے۔

ضمیرہ بن حبیب رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

ربیعہ بن یزید رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔

ابو عبد رب رضی اللہ عنہ:

ہشام بن عمار از صدقہ بن خالد از ابن جابر آپ کو میں نے دیکھا خضاب نہیں کیا کرتے تھے۔

ابو بشر رضی اللہ عنہ، مسجد مشق کے مؤذن:

آپ عہد مروان بن محمد میں ۱۳۰ھ میں فوت ہوئے۔



پانچواں طبقہ

محمد بن ولید زبیدی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں آپ تمام شامیوں میں فتوے اور حدیث میں بڑے عالم تھے آپ کی زہری سے ملاقات ہے اور ان سے راوی ہیں اور ان سے حدیثیں لکھی ہیں آپ خلافت ابو جعفر میں ستر سال کی عمر میں ۱۲۸ھ میں فوت ہوئے۔

یحییٰ بن یحییٰ عسائی رضی اللہ عنہ:

آپ دمشق میں تھے اور فتوؤں اور فیصلوں میں ماہر تھے آپ حدیثوں کے بھی راوی ہیں آپ ابو العباس کی خلافت کے اخیر میں ۱۳۵ھ میں فوت ہوئے۔

ابو کنانہ و صہب بن عطاء کنانی رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں ضعیف ہیں اور دس ذی الحجہ ۱۴۹ھ میں دمشق میں عہد ابو جعفر میں فوت ہوئے۔

عبدالرحمن بن یزید بن جابر زدی رضی اللہ عنہ:

آپ اپنے بھائی یزید بن یزید سے بڑے تھے آپ عہد ابو جعفر میں ۸۰ سے کچھ اوپر کی عمر میں ۱۵۴ھ میں فوت ہوئے اور ثقہ ہیں۔

یزید بن یزید بن جابر زدی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور اپنے بھائی عبدالرحمن سے چھوٹے ہیں لیکن ان سے پہلے فوت ہوئے یعنی ۱۳۴ھ میں فوت ہو گئے ابھی ۶۰ سال کی عمر بھی نہ تھی۔

یونس بن میسرہ بن حلہس رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں جب فرقد مسودہ سلطان بنو ہاشم کے شروع میں مسجد دمشق میں گھسا اور اس نے مسجد میں قتل عام کیا تو اس دن یونس بھی کام آئے اور ابو مسرہ کے دادا عبدالاعلیٰ بھی یہ واقعہ ابو العباس کی خلافت کے شروع کا ۱۳۳ھ کا ہے۔

ابو خالد ثور بن یزید رضی اللہ عنہ کلاعی، حمصی:

آپ حدیث میں ثقہ ہیں کہتے ہیں آپ تقدیر کے منکر تھے آپ عہد ابو جعفر میں بیت المقدس میں ۶۰ سال سے کچھ اوپر کی عمر میں ۱۵۳ھ میں فوت ہوئے، ثور کے دادا صفین میں شریک تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور اسی جنگ میں کام آئے اسی لیے جب ثور کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا تو کہتے مجھے اس سے محبت نہیں جس نے میرے دادا کو قتل کیا۔

ابوبکر بن عبداللہ بن ابومریم غسانی رضی اللہ عنہ:

آپ کثیر الحدیث ہیں اور ضعیف ہیں اور آپ سے بہت روایتیں منقول ہیں۔ باخبار یزید بن ہارون ابوبکر عبادت گزار اور سرگرم اعمال تھے آپ کو روزے کی حالت میں موت آئی لیکن آپ نے روزہ نہیں توڑا حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کو ایک سیب چھیل کر دیا اور آپ نے اس سے روزہ کھولا۔ آپ کی اہلیہ سے کہا گیا تم آپ کے کپڑوں میں جوئیں کیوں نہیں دیکھتیں؟ بولیں کس وقت دیکھوں دن رات نماز میں لگے رہتے ہیں مجھ سے نہ دن میں ملتے ہیں نہ رات میں۔

صفوان بن عمرو سلسکی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور معتمد علیہ ہیں۔

سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تنوخی:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔ باخبار عمر بن سعید سعید کی کنیت ابو محمد تھی آپ دمشق میں عہد مہدی میں ستر سے کچھ اوپر کی عمر میں ۱۶۱ھ میں فوت ہوئے۔

ابوعبدالرحمن سعید بن بشیر ازدی رضی اللہ عنہ:

آپ اصل میں بصری ہیں ملک شام چلے گئے تھے اور دمشق میں بس گئے تھے آپ کا گروہ قدریہ سے تعلق ہے اور ہارون کی خلافت کے آغاز میں ۷۷ھ میں دمشق ہی میں آپ نے وفات پائی۔

ابوالعباس ہشام بن غازی بن ربیعہ بن عمرو جرشی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور لوگ آپ سے راوی ہیں۔

عبداللہ بن علاء بن زبر رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

شعیب بن ابوجزہ رضی اللہ عنہ:

ابوجزہ کا نام دینار تھا اور حمصی تھے۔

ابوعبدالرحمن یحییٰ بن حمزہ رضی اللہ عنہ:

آپ کثیر الحدیث اور صالح الحدیث ہیں دمشق میں قاضی تھے اور عہد ہارون میں ۱۸۳ھ میں فوت ہوئے۔

صدوقہ بن خالد رضی اللہ عنہ مہمینی:

آپ ثقہ ہیں۔

سلیمان بن سلیم کندی رضی اللہ عنہ ابوفضالہ فرج بن فضالہ حمصی رضی اللہ عنہ:

آپ ضعیف ہیں اور بغداد کے بیت المال پر مقرر تھے آپ عہد ہارون میں ۱۷۱ھ میں فوت ہوئے۔

چھٹا طبقہ

ابو محمد بقیہ بن ولید، حمصی رضی اللہ عنہ:

اگر آپ ثقہ راویوں سے روایت کرتے ہیں تو ثقہ ہیں اور غیر ثقہ سے روایت کرتے ہیں تو ضعیف ہیں آپ عہد محمد بن ہارون میں ۱۹۷ھ میں فوت ہوئے۔

ابو محمد سوید بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ:

آپ بنو سلیم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں آپ ولید بن عبد الملک کے آخری عہد میں ۹۰ھ میں پیدا ہوئے اور عہد مہدی میں ۶۰ھ میں فوت ہوئے باخبار ابو عبد اللہ شامی: سوید بعلک کے قاضی تھے آپ محتاج تھے آپ کی داؤد بن ابوشیمان دمشق سے ملاقات ہو گئی داؤد نے کہا: ابو محمد! آپ علم و حدیث کے بعد بھی قاضی بن گئے؟ بولے ہاں خدارا ذرا مجھے اپنا جبہ اٹھا کر دکھاؤ کیا جبہ کے نیچے کوئی اور کپڑا ہے؟ داؤد بولے: ہاں ہے سوید نے اپنا جبہ اٹھا کر دکھایا اور کہا لیکن میرے جبہ کے نیچے کوئی کپڑا نہیں پھر سوید نے کہا خدارا بتاؤ کیا یہ سبز چادر تمہاری ہی ہے؟ داؤد بولے: جی ہاں میری ہی ہے سوید نے کہا اللہ کی قسم یہ سبز چادر جسے تم مجھ پر دیکھ رہے ہو میری نہیں ہے بلکہ ماگنی ہوئی ہے۔ تو کیا اس کے بعد میں قاضی نہ بنوں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے بیت المال کا افسر بنا دیا جاتا باوجودیکہ وہ عہدہ قضا سے بدتر ہے لیکن میں پھر بھی اسے قبول کر لیتا۔

ابو الزرقاء عبد الملک بن محمد برسمی حمیری رضی اللہ عنہ: ابو عبد اللہ محمد بن حرب ابرش خولانی رضی اللہ عنہ:

آپ دمشق کے قاضی تھے۔

ابو العباس ولید بن ابو مسلم رضی اللہ عنہ:

باخبار ابو عبد اللہ شامی: ولید کے خمس کے قیدیوں میں سے ہیں پھر یہ اولاد مسلمہ بن عبد الملک کے قبضہ میں چلے گئے پھر جب بنو ہاشم نے ان سے حکومت چھین لی اور وہ شام کی طرف بھاگ گئے تو دوسرے غلاموں کے ساتھ خمس کے غلام بھی اپنے ساتھ لے گئے ولید بن مسلم اور آپ کے خاندان والے صالح بن علی کے قبضہ میں گئے صالح نے انہیں اپنے صاحبزادے فضل کو بیہ کر دیا اور فضل نے سب کو آزاد کر دیا پھر ولید آل مسلمہ کے پاس سوار ہو کر گئے اور ان سے اپنا نفس خرید لیا۔ چنانچہ مجھے سعید بن مسلمہ بن عبد الملک نے بتایا کہ میرے پاس ولید آئے اور میرے لیے اپنی غلامی کا اعتراف کیا آخر میں نے انہیں آزاد کر دیا ولید کا ایک بھائی جلد تھا اس کی شام میں قدر و منزلت اور جاہ و عزت تھی ولید ثقہ ہیں وسیع علم والے ہیں اور کثیر الحدیث ہیں آپ نے عہد ہارون میں ۱۹۳ھ میں حج کیا آپ حج سے واپس آ رہے تھے کہ راستہ ہی میں دمشق پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے۔

عمر بن عبد الواحد رضی اللہ عنہ:


آپ ثقہ ہیں اور آپ سے روایتیں کی جاتی ہیں۔

ابو عبد اللہ، ضمیر بن ریحہ رضی اللہ عنہ:

آپ آزاد کردہ غلام ہیں، ثقہ ہیں، معتمد علیہ ہیں اور بڑے علم والے ہیں وہاں آپ سے افضل کوئی بھی نہیں نہ ولید اور نہ کوئی اور، آپ عبد اللہ بن ہارون کے زمانہ میں آغاز رمضان میں ۲۰۲ھ میں فوت ہوئے۔
ابو اسماعیل، مبشر بن اسماعیل حلبی رضی اللہ عنہ:

آپ کلب کے آزاد کردہ غلام ہیں حلب میں مقیم تھے آپ ثقہ اور مستند ہیں اور عبد اللہ بن ہارون کے زمانہ میں حلب میں ۲۰۰ھ میں فوت ہوئے۔
شعیب بن اسحاق رضی اللہ عنہ:

آپ زملہ بنت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ ہیں اور دمشق میں ۱۸۹ھ میں عہد ہارون میں فوت ہوئے۔



ساتواں طبقہ

ابو المغیرہ حمصی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبدالقدوس بن حجاج ہے۔

ابو الیمان، حمصی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام حکم بن نافع ہے آپ حمص میں ذی الحجہ ۲۲ھ میں ابو اسحاق بن ہارون کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

حسن بن واقع رضی اللہ عنہ:

آپ ضمہ سے راوی ہیں اور رملہ میں ابو اسحاق بن ہارون کے زمانہ میں ۲۲ھ میں فوت ہوئے۔ مجھے اس نے بتایا جس

نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کس قبیلہ کے ہیں؟ فرمایا ربیعہ کا ہوں۔

ابو مسہر، عبدالاعلیٰ بن مسہر غسانی، دمشقی رضی اللہ عنہ:

آپ شامیوں میں سے سعید بن عبدالعزیز تنوخی وغیرہ سے راوی ہیں آپ کو دمشق سے عبداللہ بن ہارون کے پاس رقدہ میں

لایا گیا اور عبداللہ نے آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھا فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے اور آپ نے قرآن کو مخلوق کہنے سے انکار کیا

اس پر مامون نے تلوار اور چھرا منگوا لیا تاکہ آپ کی گردن اڑادی جائے پھر جب آپ نے جان جاتی دیکھی تو کہہ دیا کہ قرآن مخلوق

ہے مامون نے آپ کو چھوڑ دیا اور کہا اگر آپ تلوار منگانے سے قبل اقرار کر لیتے تو میں آپ کی بات مان لیتا اور آپ کو آپ کے گھر

بھیج دیتا لیکن اب آپ میرے پاس سے جانے کے بعد کہہ دیں گے کہ میں نے قتل کے ڈر سے اقرار کر لیا تھا پھر حکم دیا کہ انہیں بغداد

لے جا کر جیل میں مرتے دم تک بند رکھو چنانچہ آپ کو رقدہ سے بغداد ربیع الثانی ۲۱۸ھ میں لایا گیا اور اسحاق بن ابراہیم سے قبل آپ کو

جیل میں بند کر دیا گیا ابھی آپ کو جیل میں چند ایام ہی گزرے تھے کہ آپ کا شروع رجب ۲۱۸ھ میں جیل میں انتقال ہو گیا پھر آپ

کا جنازہ خمبیر و تکفین اور دفنانے کے لیے جیل سے باہر لایا گیا اور بغداد یوں کا ایک جم غفیر جنازے میں شریک ہوا۔

ہشام بن عمار دمشقی رضی اللہ عنہ:

آپ ولید بن مسلم کے راوی ہیں۔

ابو الحسن، علی بن عیاش رضی اللہ عنہ، حمصی:

آپ جریر بن عثمان اور شعیب بن ابو حمزہ سے راوی ہیں۔

ابوزکریا، یحییٰ بن صالح و حاضی، حمصی رضی اللہ عنہ:

آپ سعید بن عبدالعزیز اور یحییٰ بن حمزہ سے راوی ہیں۔

ابو محمد حجاج بن ابومنیج رضی اللہ عنہ

آپ کا نام یوسف بن عبید اللہ بن ابوزیاد ہے آپ عبدہ بنت عبد اللہ بن یزید بن معاویہ بن اوسیان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ عبید اللہ بن ابوزیاد ہشام بن عبد الملک کی بیوی کے رضاعی بھائی تھے یعنی عبدہ بنت عبد اللہ بن یزید بن معاویہ کے۔ زہری جب رصافہ میں تشریف لائے (اس سے قبل آپ لوگوں میں تقریباً بیس سال رہے) تو عبید اللہ آپ کو چٹ گئے اور آپ کا علم اور آپ کی کتابیں سنیں پھر ان کتابوں کو آپ سے آپ کے فرزند یوسف نے سنا اور ان سے آپ کے پوتے حجاج نے کتابیں سنیں۔ آپ سے حجاج نے سماع ابو جعفر کے اخیر زمانہ میں کیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں یہ کتابیں ان کے حوالہ کیے جاتا ہوں تاکہ یہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ حجاج! عبید اللہ بن ابوزیاد ۱۵۸ھ یا ۱۵۹ھ میں اسی سے کچھ اوپر سال کی عمر میں فوت ہوئے اس وقت آپ کے سر کے بال سیاہ تھے اور داڑھی سفید تھی، کانوں تک بال رکھے ہوئے تھے حجاج نے جمادی الاول ۲۱۶ھ میں فرمایا تھا آج میں ۶۷ سال کا ہوں۔



آٹھواں طبقہ

ابو عمرو خطاب رضی اللہ عنہ:

ابن عثمان بن سلیم بن مہاجر (ابوفوزہ) آپ طحی کے آزاد کردہ غلام تھے اور اسماعیل بن عیاش اور محمد بن حمید سے راوی ہیں۔

ابوالفضل یزید بن عبد ربہ جرجسی حمصی رضی اللہ عنہ:

آپ بقیہ وغیرہ سے راوی ہیں۔

ابوعبد الملک عطار ہشام بن اسماعیل خزاعی رضی اللہ عنہ:

آپ محمد بن شعیب بن شاہور وغیرہ سے راوی ہیں۔

بشر بن شعیب بن ابو حمزہ حمصی رضی اللہ عنہ:

آپ سے لوگوں نے حدیثیں لکھی ہیں آپ ابوالیمان حمصی سے قبل ابن معروف کے پاس فوت ہوئے۔

جزیرہ میں آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی

عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ:

آپ ہی سے قیس بن ابوحازم یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جیسے ہم نے کسی کام پر مقرر کیا پھر اس نے ایک سوئی چھپالی تو یہ قیامت کے دن چوری ہوگی۔ عدی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ڈر سے کوفہ سے بھاگ کر جزیرہ میں آگئے تھے آپ جزیرہ ہی میں فوت ہوئے آپ عدی بن عدی جزیری کے (جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں) والد ہیں۔

وابصہ بن معبد اسدی رضی اللہ عنہ:

آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تمہا صنفوں کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز کو لوٹانے کا حکم فرمایا۔ آپ کی اولاد میں عبدالرحمن بن صخر ہیں جو ہارون رشید کے زمانہ میں رقد کے قاضی تھے۔

ابو وہب ولید بن عقبہ بن ابومعیط رضی اللہ عنہ:

ابن ابوعمر بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف آپ کی والدہ کا نام ارووی بنت کریر بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف ہے آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں ولید حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما سے بچ کر کوفہ چھوڑ کر جزیرہ رقد میں آگئے تھے اور یہیں فوت ہوئے آج بھی یہاں آپ کی اولاد ہے۔

باخبار عمرو بن عاصم کلابی از محمد بن مسلم سخر از عبد اللہ بن شداد از ابو عذرہ جزری، آپ نے نبی ﷺ کو پایا تھا۔
محمد بن خالد سلمی رضی اللہ عنہ کے دادا:

باخبار عبد اللہ بن جعفر رقی بن محمد بن خالد سلمی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے (جن کے لیے صحبت ثابت ہے) میں نے نبی ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: جب اللہ کی طرف سے بندے کے لیے کوئی ایسا مرتبہ پہل کر جاتا ہے جو اسے ابھی اس کے عملوں سے نہیں پہنچا تو حق تعالیٰ اسے اس کی ذات اہل و عیال اور مال میں فتنہ میں ڈال کر آزما تا ہے پھر اس پر اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے تاکہ اسے وہ مرتبہ مل جائے جو اس کے لیے اللہ کی طرف سے سبقت کر چکا ہے۔

جزیرہ میں علمائے تابعین وغیرہ

ابو ایوب، میمون بن مہران رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔ باخبار یثیم بن عدی باخبار عمرو بن میمون بن مہران: میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کس قبیلہ کے ہیں؟ فرمایا میرے والد بنو نصیر بن معاویہ کے مکاتب تھے پھر کتابت کی قسطیں ادا کر کے آزاد ہو گئے اور میں ام نمر کا جو شمال والے قبیلہ ازد کی ایک خاتون تھیں غلام تھا انہوں نے مجھے آزاد کر دیا آزاد ہونے کے بعد میں کوفہ ہی میں رہا حتیٰ کہ مجامع کا فتنہ اٹھا پھر میں جزیرہ چلا آیا۔ یثیم: فتنہ مجامع کا آغاز ۸۰ھ میں ہوا تھا اور دجیل کا واقعہ ۸۱ھ کے اخیر میں پیش آیا تھا اور فتنہ مجامع شروع ۸۲ھ میں ختم ہو گیا تھا۔

باخبار عبد اللہ بن جعفر رقی بن محمد بن ابوالحسین بسماع میمون بن مہران میں جماعت کے سال ۳۰ھ میں پیدا ہوا تھا، میمون عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی طرف سے خراج جزیرہ کی وصولیابی پر مامور تھے اور آپ کے صاحبزادے عمرو بن میمون دیوان پر تھے۔ لوگ کہتے ہیں میمون بن مزاز تھے اور خراج کی وصولیابی پر مقرر تھے ایک دن آپ اپنی دوکان پر تھے کہ عمر رضی اللہ عنہما کو استغناء لکھ بھیجا عمر رضی اللہ عنہما نے لکھا کہ تم درہم حق کے ساتھ لیتے ہو اور حق ہی پر خرچ کرتے ہو پھر اس سے استغناء کا کیا معنی؟ لہذا آپ عمر کے زمانہ میں اسی عہدے پر مامور رہے حتیٰ کہ عمر فوت ہو گئے اور یزید بن عبد الملک برسر اقتدار آ گیا پھر میمون چند ماہ خراج پر بحال رہے اس سے قبل آپ عمر سے پہلے محمد بن مروان کی طرف سے حران کے بیت المال کے افسر تھے اس سلسلہ میں آپ کو غیلان قدری نے ایک رسالہ نصیحت آمیز لکھ کر بھیجا میمون نے فرمایا میری دونوں بتلیاں گر جائیں میں اس سے پہلے کسی کام پر مامور نہیں ہوا پوچھا گیا عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے بھی نہیں؟ فرمایا عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے بھی نہیں۔

ابن سعد: باخبار سلیمان بن عبد اللہ انصاری رقی بن محمد بن ابوالحسین: میمون خضاب نہیں لگاتے تھے۔ ابن سعد: باخبار محمد بن عمر سخر خالد بن حیان از عیسیٰ بن کثیر: میمون عہد ہشام بن عبد الملک میں کالیہ میں فوت ہوئے آپ جزیرہ والوں پر علم و فتوے میں غالب تھے۔

باخبار عبداللہ بن جعفر رقی متحد یث ابوالخ میمون کے اہل میں فوت ہوئے۔

یزید بن اصم رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عمرو بن عدس بن عبادہ بن بکاء بن عامر بن صعصعہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام برزہ بنت حارث بن حزن بن نجیر بن ہزم بن رویہ بن عبداللہ بن عامر ہے برزہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث کی ہمیشہ ہیں اور لبا بہ بنت حارث ہے اور جو خالد بن ولید بن مغیرہ کی والدہ ہیں یزید ثقہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں آپ ابو ہریرہ ابن عباس اور اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے راوی ہیں آپ رقبہ میں آگے تھے۔

باخبار محمد بن عمر باخبار ثوری از ابو ذرہ از یزید بن اصم: میں نے اپنی خالہ جان میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس رات گزارنی میرے پاس سحری لائی گئی میں نے دیکھا کہ صبح صادق ہوگئی ہے چنانچہ میں ڈرا اور میں نے خالہ جان سے ذکر کیا فرمایا تجھے کیا خبر؟ پیچھے موڑ کر پی لے۔ باخبار محمد بن عمر باخبار سلیمان بن عبداللہ بن اصم: یزید عہد یزید بن عبدالملک میں ۱۰۳ھ میں فوت ہوئے۔

ثابت بن حجاج کلانی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور جعفر بن برقان وغیرہ سے راوی ہیں۔

عدی بن عدی بن عمیرہ کنذی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔ ابن سعد: باخبار کثیر بن ہشام متحد یث جعفر بن برقان از میمون بن مہران: عدی بن عدی عہد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ میں جزیرہ کے قاضی تھے۔

عبدالرحمن بن سائب ہلالی رضی اللہ عنہ:

آپ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ کے بھتیجے ہیں اور میمونہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہیں آپ قلیل الحدیث ہیں۔

ابوفزارہ رقی رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں ٹھیک نہیں۔

ابراہیم بن ابوحرہ رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں۔

یزید بن رفیع رضی اللہ عنہ:

آپ نصیبین کے ہیں اور آپ کی حدیثیں ہیں آپ عہد مروان بن محمد کے اخیر میں ۱۳۰ھ میں فوت ہوئے۔

سالم افطس بن عجلان رضی اللہ عنہ:

آپ محمد بن مروان بن حکم بن ابوالعاص کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ کو عبدالرحمن بن علی نے مسودہ کے شام میں داخل ہونے کے شروع میں ۱۳۲ھ میں قتل کر دیا تھا آپ حرانی ہیں اور ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔

ابوسعید، عبداللہ بن مالک جزری رضی اللہ عنہ:

آپ محمد بن مروان بن حکم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور حرانی ہیں اصل میں آپ اصطر کے رہنے والے تھے پھر حران آئے تھے آپ نصیف لما کے چچا زاد بھائی ہیں اور ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔
زید بن ابوانیسہ رضی اللہ عنہ:

آپ رہا کے باشندے ہیں اور رہا ہی میں فوت ہوئے اور غنی کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ ثقہ کثیر الحدیث عالم اور علم کے راوی ہیں۔ محمد بن عمر آپ ۱۲۵ھ میں فوت ہوئے محمد بن سعید بن میں نے ایک حرانی سے سنا کہ تھا کہ زید ۱۱۹ھ میں فوت ہوئے۔
ابوعبداللہ علی بن ندیمہ رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔ باخبار ابورباب حکم بن جنادہ سوائی جب جنگ مدائن ہوئی تو سعد بن ابی وقاص نے جابر بن سرہ سوائی کو دو غلام اکاسرہ کی اولاد میں سے دیئے ان میں سے ایک تو ندیمہ ابوعلی بن ندیمہ تھا اور دوسرا ابوزہیر مطلب بن زیاد بن ابوزہیر کا دادا تھا جابر نے ان دونوں کو آزاد کر دیا (فرماتے ہیں) علی بن ندیمہ حران میں ۱۳۶ھ عہد ابوجعفر کے شروع میں فوت ہوئے۔
ابوعون، حصیف بن عبدالرحمن حرانی رضی اللہ عنہ:

آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے ثقہ ہیں اور عہد ابوجعفر کے شروع میں فوت ہوئے۔
۱۳۷ھ میں فوت ہوئے۔

خصاف بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

آپ نصیف کے بھائی ہیں اور ان سے راوی بھی ہیں دونوں بھائی جڑواں پیدا ہوئے تھے۔

عمرو بن میمون بن مطران رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں رقبہ میں مقیم تھے آپ بقول محمد بن عمرو ابوجعفر منصور کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

جعفر بن برقان کلابی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور صدوق ہیں آپ اپنے زمانہ کے راوی، مفتی اور عالم تھے لیکن حدیث میں کثیر الخطا ہیں رقبہ میں مقیم تھے اور

۱۵۵ھ میں عہد ابوجعفر میں فوت ہوئے۔

نضر بن عربی عامری رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں ضعیف ہیں اور عہد مہدی میں فوت ہوئے۔

غالب بن عبید اللہ جزری رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں ضعیف ہیں اور اچھے نہیں ابوجعفر کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

عبداللہ بن محرر رضی اللہ عنہ، عامری:

آپ حدیث میں ضعیف ہیں اور اچھے نہیں اور عہد ابوجعفر میں فوت ہوئے۔

ابوسعید موسیٰ بن امین رضی اللہ عنہ:

آپ بخوامیہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور صدوق ہیں آپ عہد ہارون میں حران میں کھانے میں فوت ہوئے۔
 سلیمان بن عبد اللہ بن علاشہ کلانی رضی اللہ عنہ:

آپ قلیل الحدیث ہیں حران میں مقیم تھے اور یہاں کے قاضی تھے۔
 ابوالیسر محمد بن عبد اللہ بن علاشہ کلانی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور مہدی کی طرف سے عہدہ قضاء پر مامور تھے۔
 زیاد بن عبد اللہ بن علاشہ کلانی رضی اللہ عنہ:

آپ مہدی کی طرف سے عہدہ قضاء پر اپنے بھائی کے نائب تھے۔
 بحیر بن ابوعیسیٰ رضی اللہ عنہ:

آپ رہا میں مقیم تھے اور ہمیں فوت ہوئے اور اپنے بھائی زید سے چھوٹے تھے ضعیف ہیں۔ محدثین کرام آپ کی حدیثیں نہیں لکھتے۔
 ابوالسلیح حسن بن عمر رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: باخبار عبد اللہ بن جعفر رقی: ابوالسلیح کی ولادت رقبہ میں ہوئی آپ عمر بن ہبیرہ فزاری کے آزاد کردہ غلام ہیں اور میمون بن مہران سے راوی ہیں آپ برابر مغرب و عشاء کے درمیان منبر کی طرف نماز پڑھتے رہے آپ عہد ہارون میں ۹۵ سال کی عمر میں ۸۱ھ میں فوت ہوئے۔ ابن سعد: باخبار سلیمان بن عبد اللہ انصاری رقی: میں نے ابوالسلیح کو حنا کا خضاب لگائے ہوئے دیکھا۔

ابو وہب عبید اللہ بن عمرو بن ابوالولید اسدی رضی اللہ عنہ:

آپ بنو اسد کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ ثقہ صدوق اور کثیر الحدیث ہیں اور اکثر غلطی کرتے ہیں آپ عبد الکریم جزری سے روایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ حافظ ہیں آپ کے زمانہ میں آپ کے فتویٰ کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا آپ رقبہ میں ۱۸۰ھ میں عہد ہارون میں فوت ہوئے۔

ابوالعطوف جراح بن منہال رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں ضعیف ہیں۔
 ابو عمرو مروان بن شجاع رضی اللہ عنہ:

آپ مروان بن محمد بن مروان بن حکم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور حران کے باشندے ہیں اور ثقہ صدوق اور ضعیف سے راوی ہیں آپ ہی کو خصیفی کہا جاتا تھا آپ بغداد میں بطور تالیق کے امیر المؤمنین موسیٰ اور ان کی اولاد کے ساتھ آئے تھے آپ بغداد میں عہد ہارون میں ۱۸۲ھ میں فوت ہوئے۔

ابو الحسن، عتاب بن یشرؓ:

آپ بنو امیہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور حران کے باشندے ہیں آپ ان شاء اللہ صدوق وثقہ ہیں اور ضعیف کے راوی ہیں اور حدیث میں درست ہیں۔

ابو عبد اللہ محمد بن سلمہؓ:

آپ باہلہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ حران کے رہنے والے تھے آپ ان شاء اللہ صدوق وثقہ ہیں آپ فاضل راوی اور مفتی ہیں اور عہد ہارون میں ۱۹۱ھ کے اخیر میں فوت ہوئے۔

ابو قتادہ، حرانیؓ:

آپ کا نام عبد اللہ بن واقد ہے اور آپ بنو حمان کے آزاد کردہ غلام ہیں اور آپ صاحب فضل و عبادت ہیں اور حدیث میں کچھ نہیں۔

ابو یزید، فیض بن اسحاقؓ:

آپ رقبہ کے باشندے تھے اور محدث، مورخ اور مجاہد ہیں آپ رقبہ میں عبد اللہ بن ہارون کی خلافت میں ۲۱۶ھ میں فوت ہوئے۔

معمر بن سلیمان رقی، نخعیؓ:

آپ عہد ہارون میں شعبان ۱۹۱ھ میں فوت ہوئے۔

ابو یزید، خالد بن حیان، خزازیؓ:

آپ ثقہ اور ثبت ہیں اور عہد ہارون میں رقبہ میں ذیقعدہ ۱۹۱ھ میں ستر وین سال میں فوت ہوئے۔

ابو عبد الرحمن، عبد اللہ بن جعفر بن غیلانؓ:

آپ آل ابو معیط کے آزاد کردہ غلام تھے اور ابو اسحاقؓ اور عبد اللہ بن عمرو سے راوی ہیں آپ کی نگاہ کمزور تھی اور حنا کا خضاب لگایا کرتے تھے آپ رقبہ میں ۲۱ شعبان ۲۲۰ھ میں عہد ابو اسحاق بن ہارون میں فوت ہوئے۔

ابو سعید، یحییٰ بن عبد اللہ بن ضحاک بن باب لت حرانیؓ:

باب لت طخارستانی تھا اور اکابر سلاطین میں سے تھا۔ آپ ابو بکر بن ابومریم اور صفوان بن عمرو سے راوی ہیں۔

ابو جعفر، عبد اللہ بن محمد بن علی بن نفیل، حرانیؓ:

آپ زہیر بن معاویہ کے شاگرد ہیں آپ موصل میں تھے۔

مغیرہ بن زیادؓ، معافی بن عمران بن محمدؓ:

ابن عمران بن نفیل بن جابر بن وہب بن عبید اللہ بن لبید بن جبلیہ بن غنم بن دوس بن محاسن بن سلمہ بن فہم ازدی، آپ ثقہ، فاضل، صالح اور صاحب سنت ہیں باخبر احمد بن عبد اللہ بن یونس، سفیان ثوری، معافی کو یا قوت کہا کرتے تھے اور موصل والے آپ پر فخر کیا کرتے تھے۔

دار الخلافہ کے اور سرحدوں کے محدثین و علماء

ابو عمرو اوزاعی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عبدالرحمن بن عمرو ہے۔ اوزاع ہمدان کا ذیلی قبیلہ ہے آپ اوزاع قبیلہ کے تھے ۸۷ھ میں پیدا ہوئے آپ ثقہ، مستند، فاضل، صدوق، انتہائی صالح اور کثیر الحدیث ہیں اور صاحب علم و فقہ اور حجت ہیں۔ آپ کا کتب خانہ یمامہ میں تھا اسی لیے آپ نے یحییٰ بن ابوکثیر وغیرہ (مشائخ اہل یمامہ) سے سماع فرمایا ہے آپ بیروت کے باشندے ہیں اور بیروت ہی میں ۷۵ھ میں ستر سال کی عمر میں ابو جعفر کے اخیر عہد میں فوت ہوئے۔

ابو اسحاق فزازی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام ابراہیم بن محمد حارث بن اسماء بن خارجہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر ہے آپ ثقہ، فاضل، صاحب سنت اور غازی ہیں اور حدیث میں کثرت سے غلطی کرنے والے ہیں آپ مصیصہ میں ۱۸۸ھ میں عہد ہارون میں فوت ہوئے۔

ابو عمرو عیسیٰ بن یونس بن ابواسحاق، سہیبی، ہمدانی رضی اللہ عنہ:

اصل میں آپ کوفہ کے تھے سرحد میں حدیث لے کر گئے اور ثقہ اور ثبت ہیں آپ عہد ہارون میں حدیث میں ۹۱ھ کے شروع میں راہی ملک عدم ہوئے۔

ابو محمد مخلد بن حسین رضی اللہ عنہ:

آپ بصری ہیں اور ہشام بن حسان کی اہلیہ کے صاحبزادے ہیں اور ہشام سے راوی ہیں اور ثقہ اور فاضل ہیں آپ منتقل ہو کر مصیصہ میں آئے تھے اور یہیں ۱۹۱ھ میں عہد ہارون میں فوت ہوئے۔

ابو یوسف، محمد بن کثیر رضی اللہ عنہ:

آپ صنعاء کے باشندے تھے لیکن شام میں پلے بڑھے اور مصیصہ میں آئے آپ ثقہ ہیں اور عمر اور اوزاعی وغیرہ سے راوی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں حافظہ درست نہیں رہا تھا آپ عبداللہ بن ہارون کے زمانہ میں ۲۱۲ھ کے اخیر میں فوت ہوئے۔

ابو محمد حجاج بن محمد اعور رضی اللہ عنہ:

آپ سلیمان بن مجالد کے، جو امیر المومنین ابو جعفر منصور کے آزاد کردہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ اصل میں بغدادی تھے پھر معد اہل و عیال کے مصیصہ آگئے اور یہاں سا لہا سال رہے پھر بغداد واپس آ کر بغداد میں ۲۰۶ھ میں عہد عبداللہ

بن ہارون میں فوت ہوئے آپ ثقہ ہیں اور ابن جریج وغیرہ سے کثیر الحدیث ہیں بغداد آنے کے بعد مرنے سے قبل حافظہ میں تغیر آ گیا تھا۔

ابو عبد اللہ محمد بن یوسف فریبی رضی اللہ عنہ:

آپ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔

حسینی مدنی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام اسحاق بن ابراہیم ہے۔

ابو الحسن آدم بن ابویاس رضی اللہ عنہ:

آپ خراسانیوں کی مروالروز والوں کی اولاد میں سے ہیں آپ نے بغداد میں علم حدیث پڑھا اور شعبۂ سے کثرت سے صحیح سماع کیا پھر آپ عسقلان چلے گئے اور یہیں جمادی الثانی ۲۲۰ھ میں ابوالحسن بن ہارون کی خلافت میں ۸۸ سال کی عمر میں فوت ہوئے آپ ٹھکنے تھے اور دراق (روی فروش) تھے۔

یشم بن جمیل رضی اللہ عنہ:

ابن سعد: میں نے موسیٰ بن داؤد سے سنا فرماتے تھے: یشم علم حدیث سیکھنے کے شوق میں دوبارہ یوالیہ ہوئے آپ اصل میں بغداد کے تھے پھر منتقل ہو کر انطاکیہ آئے جسے آپ ثقہ کہتے تھے۔

ابو الحسن علی بن بکار بصری رضی اللہ عنہ:

آپ عالم و فقیہ تھے اور مصیصہ ۲۰۸ھ میں عہد عبد اللہ بن ہارون میں فوت ہوئے۔

ابو عبد اللہ حارث بن عطیہ بصری رضی اللہ عنہ:

آپ مصیصہ میں ۱۹۹ھ میں مامون کے زمانہ میں فوت ہوئے۔ آپ عالم تھے۔

خلف بن حمیم کوفی رضی اللہ عنہ:

آپ عالم ہیں اور مصیصہ میں ۲۱۳ھ میں عبد اللہ بن ہارون کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابو عبد اللہ محمد بن عیینہ خزازی رضی اللہ عنہ:

آپ بھی عالم ہیں اور مصیصہ میں ۲۱۷ھ میں عبد اللہ بن ہارون کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابو عثمان سعید قاری صیاد رضی اللہ عنہ:

آپ خراسان کے ہیں سرحد میں آئے تھے آپ فقیہ عالم اور زاہد ہیں اور مصیصہ میں ۲۲۱ھ میں ابوالحسن بن ہارون کے

زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابوالموفقؓ

آپ عالم ہیں اور کفر بیا میں بس گئے تھے آپ مصیہ میں ۲۲۰ھ میں امیر المؤمنین ابوالفتح کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابوالمنذرؓ

آپ مصیہ میں قاضی تھے اور عالم و فقیہ ہیں اور مصیہ میں ۲۲۲ھ میں معتمد ابوالفتح بن ہارون کے زمانہ میں فوت

ہوئے۔

ابوالحسن منصور بن ہارونؓ

آپ عالم و فقیہ ہیں اور مصیہ میں ۲۲۲ھ میں ابوالفتح کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابوزکریاء طحانؓ

آپ عالم ہیں اور مصیہ میں ۲۲۵ھ میں ابوالفتح بن ہارون کے زمانہ میں فوت ہوئے۔



مصر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ابو عبد اللہ عمرو بن عاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم رضی اللہ عنہ:

آپ نجاشی کے پاس حبشہ میں مشرف بہ اسلام ہوئے پھر ہجرت کر کے رسول اللہ ﷺ کے پاس یکم صفر ۸ھ میں مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا آپ نے عمرو کو غزوہ ذات السلاسل میں سپہ سالار مقرر فرمایا اور فتح مکہ کے دن آپ کو ہذیل کے مشہور بت سواع کے ہدم کے لیے بھیجا آپ نے جا کر سواع کا ہدم کیا، آپ نے انہیں جیفر اور عبد پسران جلدی کی طرف بھی دعوت اسلام کے لیے بھیجا یہ دونوں قبیلہ ازد کے تھے اور عمان میں رہتے تھے ابھی عمرو عمان ہی میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے آپ کی وفات کی خبر سن کر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو امیر شام بنا کر بھیجا آپ نے شام میں بہت سے شہر فتح کیے اور آپ جنگ یرموک میں بھی شریک تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو فلسطین کا اور اس کے نواحی علاقہ کا حاکم بنا دیا پھر آپ کو لکھا کہ مصر چلے جائیں چنانچہ آپ ساڑھے تین ہزار مسلمانوں کو لے کر مصر کی طرف بڑھے اور مصر فتح کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی آپ کئی سال تک مصر پر حاکم رہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو معزول کر کے آپ کی جگہ عبد اللہ بن سعد بن ابوسرح کو حاکم بنا دیا پھر عمرو مدینہ میں ٹھہر گئے پھر جب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھے اور بغاوت کی تو عمرو شام چلے گئے اور سیح میں فلسطین میں اپنی زمین میں جا ٹھہرے حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا پھر عمرو رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مل گئے اور ان کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے انتقام کی تحریک چلاتے رہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جنگ صفین میں شامل ہوئے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مصر کا حاکم بنا دیا چنانچہ آپ مصر چلے گئے اور مصر ہی میں گھر بنا لیا اور مصر ہی میں مصر پر حکمرانی کے زمانہ میں عید الفطر کے دن عہد معاویہ رضی اللہ عنہ میں ۴۳ھ میں وفات پائے اور اہل مصر کے مقبرہ مقطم میں پہاڑ کے دامن میں دفنائے گئے موت کے وقت حکم فرمایا مجھے بٹھا دو لوگوں نے آپ کو بٹھا دیا پھر آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میں مرجاؤں تو میری تجھین و عقیقین کی تیاری میں لگ جاؤ اور مجھے کفن میں تین کپڑے دو اور میرے تہبند کو باندھ دو کیونکہ مجھ سے جھگڑا کیا جانے والا ہے اور میرے لیے بعلی قبر کھدواؤ اور مجھے تیزی سے لے جا کر لحد میں اتار دو اور میری قبر پر مٹی ڈال دو پھر دونوں ہاتھ مضبوطی سے ملا کر اور انہیں اٹھا کر تین باریہ فرمایا اے اللہ تو نے عمرو بن عاص کو چند باتوں کا حکم فرمایا تھا جن کو اس نے چھوڑ دیا اور چند باتوں سے منع کیا تھا جن کا اس نے ارتکاب کیا لہذا تیرے سوا کوئی معبود نہیں حتیٰ کہ آپ کی روح نفس عنصری سے پرواز کر گئی، عبد اللہ بن صالح بصری از حرمہ بن عمران باخبار ابوفراس مولیٰ عبد اللہ بن عمرو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ شب عید الفطر میں فوت ہوئے، عبد اللہ بن عمرو آپ کا جنازہ صبح صبح لے کر نکلے اور جہانہ میں آپ کا جنازہ رکھ دیا حتیٰ کہ تمام گلیاں لوگوں سے بھر گئیں پھر عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ پر نماز پڑھی میرے خیال میں عید کی نماز کے لیے تمام آنے والوں نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھی اور

سب آپ کی تدفین میں شریک ہوئے۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن ہاشم رضی اللہ عنہما:

محمد بن عمر: عبداللہ اپنے والد سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے اور نبی ﷺ کی صحبت میں رہے آپ بڑے نیک اور بڑے قابل تھے۔ باخبار ابو بکر بن عبداللہ بن ابواولیس از سلیمان بن بلال از صفوان بن سلیم از عبداللہ بن عمرو: میں نے آپ سے نبی ﷺ سے سنی ہوئی حدیثیں لکھنے کی اجازت مانگی آپ نے اجازت دے دی پھر میں نے سنی ہوئی حدیثیں لکھ لیں۔ عبداللہ نے اپنی اس کتاب کا نام صادقہ رکھ لیا تھا۔

باخبار معن بن عیسیٰ بن محمد بن یحییٰ از مجاہد: میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ دیکھا اور اس کے بارے میں پوچھا فرمایا یہ صادقہ ہے اس میں وہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے براہ راست بلا کسی واسطہ کے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہیں۔

باخبار محمد بن عمر باخبار ابن ابو ذبیب باخبار عمر بن عبداللہ بن سولیف اس کی خبر سے جس نے عبداللہ کو دیکھا آپ کا سر اور داڑھی سفید تھی۔ باخبار عوفان بن مسلم و یحییٰ بن عباد بن محمد بن حماد بن سلمہ بن عمر بن علی بن زید از عریان بن ہاشم: میں اپنے والد کے ساتھ ایک وفد میں یزید بن معاویہ کے پاس گیا اتنے میں ایک لہبا بڑا نگا سرخ اور بڑے پیٹ والا شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا میرے والد نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو کہا گیا: یہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ہیں۔ باخبار عوفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن سلمہ باخبار علی بن زید از عبدالرحمن بن ابوبکر: نے عبداللہ کا حلیہ بیان فرمایا کہ آپ سرخ طویل اور بڑے پیٹ والے تھے۔

باخبار عمرو بن عاصم کلابی بن محمد بن حوشب بن محمد بن مسلم مولیٰ بنو مخزوم: نابینا ہونے کے بعد عبداللہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ باخبار عمرو بن عاصم کلابی بن محمد بن ہام بن یحییٰ بن محمد بن قتادہ از حسن از شریک بن خلیفہ: میں نے عبداللہ بن عمرو کو دیکھا کہ آپ سریانی میں پڑھ رہے ہیں۔

ابن سعد: عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ سے الگ تھلگ تھے اور اپنے والد ہی کے ساتھ ملک شام چلے گئے تھے اور جنگ صفین میں شریک تھے پھر اس کے بعد نادام ہو کر فرمایا: مجھے صفین سے کیا عرض؟ میں مسلمانوں سے کیوں لڑوں؟ اور آپ اپنے والد کے ساتھ مصر چلے گئے۔ مرض الموت میں عمرو نے عبداللہ کو مصر پر حاکم بنا دیا تھا شروع میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بحال رکھا لیکن پھر معزول کر دیا آپ حج اور عمرہ کرتے رہتے تھے اور شام آتے جاتے رہتے تھے پھر مصر واپس چلے جاتے تھے کیونکہ آپ نے مصر میں عبدالمملک میں بے گھر بنا لیا تھا آپ مصر ہی میں فوت ہوئے اور اپنے گھر میں دفنائے گئے ابوالیمان حمصی از صفوان بن عمرو از شیوخ: عبداللہ کی موت کے بارے میں اسی طرح بیان کرتے ہیں لیکن محمد بن عمر کہتے ہیں آپ ملک شام میں ۹۵ھ میں ۹۲ سال کی عمر میں فوت ہوئے آپ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں۔

خارجہ بن حذافہ بن غانم رضی اللہ عنہ:

ابن عامر بن عبداللہ بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب: آپ قدیم الاسلام ہیں اور نبی ﷺ کی صحبت یافتہ ہیں پھر آپ مصر چلے گئے تھے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ کو مصر کا قاضی مقرر فرمایا تھا پھر جب اس دن کی صبح آئی جس دن خارجی

نے عمرو کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن اس دن عمرو نماز کو نہیں آئے اور آپ نے خارجہ کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا خارجی نے آگے بڑھ کر خارجہ کو عمرو بن العاص سمجھ کر قتل کر دیا پھر اسے گرفتار کر کے عمرو کے سامنے لایا گیا اور لوگوں نے اس سے کہا تو نے عمرو کو قتل نہیں کیا بلکہ خارجہ کو قتل کیا ہے تو اس نے کہا میں نے تو عمرو ہی کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ نے خارجہ کا ارادہ کیا تھا پھر یہ جملہ ضرب اللشل بن گیا۔

ابن سعد: عبد اللہ بن صالح ازلیث بن سعد از یزید بن ابوصیب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص کو لکھا: بیعت رضوان کرنے والوں میں سے ہر ایک کے دو دو سو درہم مقرر کرو اور تم بھی امارت کے ساتھ یہ وظیفہ لو اور خارجہ بن حذافہ کا بھی وظیفہ مقرر کرو کیونکہ شجاعت میں وہ پیش پیش ہیں اور عثمان بن قیس سہمی کا بھی، کیونکہ وہ مہمان نوازی میں بڑھے ہوئے ہیں۔
عبد اللہ بن سعد بن ابوسرح رضی اللہ عنہ:

ابن حارث بن صیب بن جذیمہ بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی آپ قدیم الاسلام ہیں اور کا تب وحی تھے پھر مرتد ہو کر مدینہ سے مکہ چلے گئے نبی ﷺ نے فتح مکہ کے دن آپ کا خون مباح کر دیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے آپ کے لیے امن کی درخواست کی نبی ﷺ نے آپ کو امن دے دیا آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے بیعت کر لیں رسول اللہ ﷺ نے اس دن آپ سے اسلام پر بیعت کر لی اور فرمایا اسلام تمام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کو مصر کا حاکم بنا دیا تھا چنانچہ آپ مصر چلے گئے اور وہاں گھر بنا لیا تھا آپ کی مصر میں امارت کے زمانہ ہی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے ہیں۔
حمیہ بن جزاء بن عبد یغوث رضی اللہ عنہ:

ابن عیینہ بن عمرو بن زبید بن مذحج۔ آپ بنوہم کے حلیف تھے اور شروع ہی میں مکہ میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے اور حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں چلے گئے تھے آپ نے سب سے پہلے غزوہ مریسج (غزوہ بنی مصطلق) میں حصہ لیا اس دن نبی ﷺ نے آپ کو خمس ۱/۵ پر اور مسلمانوں کے حصوں پر عامل بنا دیا تھا اور اس کے بعد بھی آپ کو خمسوں پر عامل بنایا گیا پھر آپ مصر میں جا کر بس گئے تھے۔

عبد اللہ بن حارث بن جزاء زبیدی رضی اللہ عنہ:
آپ نبی ﷺ کے صحبت یافتہ ہیں مصر میں جا بے تھے اسی لیے آپ سے مصری راوی ہیں عبد اللہ بن صالح از ابن لہیعہ از عبید اللہ بن ابو جعفر میں نے عبد اللہ بن حرقانیہ گزری دیکھی میں نے ابن لہیعہ سے پوچھا: حرقانیہ کیا؟ فرمایا: سیاہ۔
ابو عمرو حقیقہ بن عامر بن عیسیٰ جہنی رضی اللہ عنہ:

آپ نبی ﷺ کے صحبت یافتہ ہیں پھر جب نبی ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو شام کی طرف بلایا تو عقبہ نے آپ کی دعوت قبول فرمائی اور شام و مصر کی فتوحات میں شریک رہے پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفین میں شریک ہوئے پھر مصر واپس لوٹ گئے اور مصر ہی میں عہد معاویہ کے اخیر میں فوت ہوئے اور مقطم میں جو مصریوں کا مقبرہ ہے دفنائے گئے۔
باخبار ولید طایسی تجدیث لیث بن سعد بخدیث ابو عشانہ: میں نے عقبہ کو دیکھا سیاہ خضاب لگاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے

کہ ہم نکلے ہوئے بالوں کو تو بدل لیتے ہیں لیکن جڑیں تغیر قبول نہیں کرتیں۔

نبیہ بن صواب مہری رضی اللہ عنہ:

باخبار پشتم بن عدی باخبار عبدالرحمن بن زیاد بن انعم از یزید بن ابوصیب اس سے جس نے نبیہ (صحابی) سے سنا نبی ﷺ کے پاس ایک حمیری آیا اور اسلام قبول کرتے ہی فوت ہو گیا۔ فرمایا اس کے لیے کوئی مسلمان وارث ڈھونڈو لوگوں نے مسلمان وارث ڈھونڈا مگر پانہ سکے فرمایا اس کا مال قضاہ میں نسب میں جو شخص مشکوک ہوا سے دے دو عبداللہ بن انیس اس قسم کے تھے اور آپ اولاد برک بن وبرہ (کلب بن وبرہ کے بھائی) میں سے تھے اور بنو سلمہ (انصار) کے حلیف تھے۔

علقمہ بن رمثہ بلوی رضی اللہ عنہ:

آپ کا تعلق قضاہ سے ہے۔ عبداللہ بن صالح ازلیث بن سعد بحدیث یزید بن ابوصیب از سوید بن قیس تحیمی از زہیر بن قیس بلوی از علقمہ بن رمثہ بلوی رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا پھر رسول اللہ ﷺ ایک دستہ کے ساتھ نکلے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے رسول اللہ ﷺ کو اودھ آگئی پھر آپ نے جاگ کر فرمایا اللہ تعالیٰ عمرو پر رحم فرمائے ہم نے آپس میں کہا ہر وہ شخص مراد ہے جس کا نام عمرو ہو پھر آپ کو اودھ آگئی اور جاگنے کے بعد وہی کلمہ فرمایا اور تیسری بار بھی جاگ کر یہی کلمہ فرمایا ہم نے پوچھا: یا رسول اللہ کون عمرو؟ فرمایا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ لوگوں نے کہا ان کا کیا قصہ ہے؟ فرمایا مجھے وہ اس لیے یاد آئے کہ جب میں لوگوں کو صدقہ کے لیے کہا کرتا تھا تو آپ بہت صدقہ لایا کرتے تھے میں کہتا: عمرو یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو فرماتے: اللہ کے پاس سے۔ عمرو نے سچ فرمایا کیونکہ اللہ کے پاس عمرو کے لیے بہت بھلائی ہے ابو بکر زہیر سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر جب فتنہ اٹھا تو میں نے سوچا کہ میں ان کی جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ فرمایا تھا فرمایا پیروی کروں گا لہذا میں ان سے جدا نہیں ہوا۔

ابوزمعه بلوی رضی اللہ عنہ:

نخمر از حسان بن غالب مصری از ابن لہیعہ از عبدالعزیز بن عبدالملک بن ملیل: ابوزمعه صحابی موت کے وقت افریقہ میں تھے آپ نے لوگوں سے کہا جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر برابر کر دو۔

ابو خراش سلمی رضی اللہ عنہ:

عبداللہ بن یزید مقبری متحدیث حیوہ بن شریح بحدیث ابوعثمان ولید بن ابوالولید بحدیث عمران بن ابوانس از ابو خراش: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: جس نے اپنے بھائی کو سال بھر تک چھوڑے رکھا تو اس کا یہ چھوڑنا گویا اس کا خون کرنا ہے۔

ابوبصرہ غفاری رضی اللہ عنہ:

آپ نبی ﷺ کے صحبت یافتہ ہیں مصر میں آئے تھے اور مصر ہی میں فوت ہوئے اور اہل مصر کے مقبرہ مقطم میں دفنائے گئے آپ کے صاحبزادے بصرہ ہیں۔

بصرہ بن ابوبصرہ رضی اللہ عنہ:

آپ نبی ﷺ کے صحبت یافتہ ہیں اور آپ سے راوی ہیں۔

جمیل بن بصرہ بن ابوبصرہ غفاری رضی اللہ عنہ:

آپ معاہدے کے باپ اور دادا کے نبی ﷺ کے صحبت یافتہ ہیں اور آپ سے راوی ہیں۔

ابو بردہ رضی اللہ عنہ:

آپ بھی نبی ﷺ کے صحبت یافتہ ہیں، مصر میں بس گئے تھے۔ شجر از سعید بن ابومریم از نافع بن یزید بحدیث ابوصحر از

عبداللہ بن معتب (یا) مغیث بن ابوبردہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: عنقریب دو کاہنوں میں سے ایک شخص اٹھے گا اور قرآن اس طرح پڑھائے گا کہ اس کے بعد اس طرح کوئی اور نہیں پڑھائے گا۔ نافع از ربیعہ: ہم کہا کرتے تھے کہ وہ شخص محمد بن کعب قرظی ہیں اور دو کاہن قرظہ اور نصیر ہیں۔

عبداللہ بن سعد صحابی رضی اللہ عنہ:

آپ مصر میں بس گئے تھے۔ عبدالرحمن بن مہدی از معاویہ بن صالح از علاء بن حارث از حزام بن معاویہ از عبداللہ بن

سعد: میں نے رسول اللہ ﷺ سے حیض والی عورت کے ساتھ کھانے پینے کے بارے میں پوچھا فرمایا اس کے ساتھ کھاؤ پیو۔ فرماتے ہیں اور میں نے آپ سے گھر میں نماز کے بارے میں اور مسجد میں نماز کے بارے میں پوچھا فرمایا دیکھتے ہو میرا گھر مسجد سے کس قدر قریب ہے لیکن مسجد کی بہ نسبت مجھے گھر میں نماز زیادہ پیاری ہے الایہ کہ فرض نماز ہو۔

خرشہ بن حارث رضی اللہ عنہ:

ولید بن مسلم از ابن لہیعہ بحدیث یزید بن ابوجیب از خرشہ بن حارث صحابی از رسول اللہ ﷺ اگر تم دیکھو کہ کسی کو باندھ کر

قتل کیا جا رہا ہے تو اس کے قتل میں حاضر نہ ہو کیونکہ شاید اسے مظلومیت کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی آئے اور تم بھی اس میں حصہ دار بن جاؤ۔

جنادہ ازدی رضی اللہ عنہ:

باخبار عبداللہ بن نمیر از محمد بن اسحاق از یزید بن ابوجیب از مرثد بن عبداللہ یزنی از حدیفہ ازدی میں رسول اللہ ﷺ کی

خدمت میں سات عورتوں کے ساتھ جمعہ کے دن حاضر ہوا ہم سب کا روزہ تھا آپ کے سامنے کھانا تھا آپ نے ہمیں کھانے کے لیے بلایا ہم نے عرض کیا کہ ہمارا روزہ ہے پوچھا: کیا تم نے گذشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ ہم نے کہا: نہیں، پوچھا: کل رکھو گے ہم نے کہا: نہیں، فرمایا: روزہ کھول لو آخر کار ہم نے روزہ کھول لیا پھر رسول اللہ ﷺ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لے گئے پھر جب منبر پر بیٹھ گئے تو پانی کا ایک گلاس منگایا اور آپ نے سب کے سامنے وہ پانی پی لیا تاکہ آپ لوگوں کو بتادیں کہ جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔

سعید بن یزید ازدی رضی اللہ عنہ، ابوسعد خیر انماری رضی اللہ عنہ:

بخیر از اسحاق بن زریق بخیر عمرو بن حارث زبیدی بخیر ابوعمر و عبداللہ بن عامر جہنی بخیر قیس بن حارث عامری

بحدیث ابوسعید الخدری (قرطاس میں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے ستر ہزار جنت میں داخل ہوں گے اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ستر ہزار ہوں گے یہ تعداد ہمارے مہاجرین کو شامل ہوگی اور ہمارے دیہاتیوں میں سے بھی ایک جماعت کو پورالے لے گی۔

معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ:

آپ نے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا اور آپ سے حدیثیں روایت کیں آپ مصر میں بس گئے تھے آپ سے شامیوں اور مصریوں میں سے زبان بن فائدہ وغیرہ راوی ہیں۔

ابوالیقظان صحابی رضی اللہ عنہ:

حسن بن موسیٰ ازلیعہ متحدیث ابو عشانہ میں نے ابوالیقظان صحابی سے سنا: خوش ہو جاؤ اللہ کی قسم عام دیکھنے والوں کی بہ نسبت رسول اللہ ﷺ سے بہت محبت ہے حالانکہ تم نے آپ کو دیکھا نہیں۔

معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ:

آپ نے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا اور آپ سے راوی ہیں اور آپ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت ہے اور مسئلہ صحیح میں آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں اور عثمانی تھے۔ باخبار عقیان بن مسلم متحدیث حماد بن سلمہ باخبار ثابت از صالح بن حمیر (ابو حمیر) از معاویہ بن حدیج صحابی: جس نے میت کو غسل دیا اسے کفن پہنایا، جنازے کے ساتھ گیا اور دفن میں شریک ہوا وہ بخشا ہوا ہو کر واپس لوٹے گا۔

زیاد بن حارث صدیقی رضی اللہ عنہ:

کسی سفر میں آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور آپ کی رکاب کے ساتھ تھے پھر جب صبح صادق ہوئی تو نبی ﷺ نے فرمایا اے صداء کے بھائی! اذان دے آپ نے اذان دے دی پھر بلال کبیر کہنے کے لیے آئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صداء کے بھائی! اذان دے دی ہے اور مؤذن کبیر کہتا ہے فرماتے ہیں پھر انہوں نے کبیر کہی اور نبی ﷺ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی زیاد مصر چلے گئے تھے اس لیے آپ سے مصری راوی ہیں۔

ابومعمر مسلمہ بن مخلد بن صامت رضی اللہ عنہ:

ابن نیار بن لوزان بن عبدود بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ انصاری۔ متحدیث معن بن عیسیٰ متحدیث موسیٰ بن علی بن رباح از علی بن رباح از مسلمہ میں چار سال کا تھا جو مسلمان ہوا تھا اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت ۱۴ سال کا تھا۔ محمد بن عمر مسلمہ رسول اللہ ﷺ سے راوی ہیں آپ مصر چلے گئے تھے اور مصر ہی میں بس گئے تھے آپ خربتہ کے باشندوں کے ساتھ تھے یہ لوگ اہل مغرب میں بہت سخت اور مستعد تھے خربتہ میں آپ کی شہرت اور تعریف ہے اور وہاں کے باشندے آپ کو عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پھر آپ مدینہ آگئے اور مدینہ ہی میں عہد معاویہ بن ابوسفیان میں فوت ہو گئے۔

سرق رضی اللہ عنہ:

باخبار احمد بن محمد بن ولید از رقی مکی متحد بیٹ ہشام بن خالد از زید بن اسلم از عبد الرحمن بن بیلمانی، میں مصر میں تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کیا میں تم کو ایک صحابی کونہ بتاؤں؟ میں نے کہا: ہاں ضرور بتاؤں اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا میں نے ان کے پاس جا کر ان سے پوچھا: آپ کون ہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے، فرمایا میں سرق ہوں میں نے کہا سبحان اللہ! کیا یہ نام آپ کے مناسب ہے حالانکہ آپ صحابی ہیں؟ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میرا نام سرق رکھا ہے لہذا میں اس نام کو کبھی چھوڑنے والا نہیں میں نے پوچھا رسول اللہ ﷺ نے آپ کا نام سرق کیوں رکھا؟ فرمایا ایک دیہاتی دو اونٹ فروخت کرنے کے لیے لایا میں نے ان دونوں کو خرید لیا اور میں نے ان سے کہا چلو تا کہ ان کی قیمت میں تم کو دے دوں پھر میں اپنے گھر میں داخل ہو کر واپس آیا اور میں نے اونٹوں کی قیمت میں اپنی دوسری ضرورت پوری کر لی اور پھر اندر چلا گیا جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ دیہاتی چلا گیا لیکن جب میں گھر سے باہر آیا تو دیہاتی موجود ہے آخر کار دیہاتی مجھے پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لے گیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا میں بولا یا رسول اللہ! میں نے اونٹوں کی قیمت سے اپنی ایک ضرورت پوری کر لی۔ فرمایا اچھا تو قیمت اب ادا کر دو میں بولا: اب تو میرے پاس نہیں ہے آپ نے فرمایا تم سرق (چور) ہو، عمر ابی! انہیں لے جا کر فروخت کر ڈال اور اپنا حق پورا پورا لے (فرماتے ہیں) لوگ اس سے میرا بھاؤ کرنے لگے اور وہ ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا: تم کیا چاہتے ہو؟ لوگ بولے تو کیا چاہتا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسے تجھ سے چھڑا لیں بولا: اللہ کی قسم تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ اللہ کا محتاج نہیں جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ باخبار یزید بن ہارون و یحییٰ بن حماد از جویریہ بن اسماء از عبد اللہ بن یزید، مولیٰ منعبث از مصری از سرق رضی اللہ عنہم نے بقول یزید ایک گواہ سے اور عدی علیہ کی قسم سے فیصلہ فرمایا اور بقول یحییٰ، قسم و گواہ سے فیصلہ فرمایا۔

سندر رضی اللہ عنہ، مولیٰ رسول اللہ ﷺ:

بعض کے نزدیک آپ ابن سندر ہیں۔ باخبار محمد بن عمر متحد بیٹ اسامہ بن زید لیشی از عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے: ابوروح زباع جذامی کا ایک غلام سندر تھا ابوروح نے دیکھا کہ وہ اس کی لونڈی کے بوسہ لے رہا ہے غصہ میں آ کر ابوروح نے اس کا عضو مخصوص اور ناک اور کان کاٹ ڈالے غلام شکایت لے کر نبی ﷺ کے پاس آیا آپ نے اس کے مالک کو بلا کر اسے سمجھایا اور فرمایا جس کو مشکہ کیا گیا یا جلایا گیا وہ آزاد ہے اور اللہ کا اور اس کے رسول کا آزاد کردہ ہے غلام بولا یا رسول اللہ میرے بارے میں حکام کو وصیت فرما دیجئے فرمایا میں ہر مسلمان کو تیرے بارے میں وصیت کرتا ہوں پھر جب نبی ﷺ سدھار گئے تو سندر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا: میرے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کیجئے آپ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا حتیٰ کہ آپ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور عمر رضی اللہ عنہم برسر اقتدار آئے اس نے آپ کے پاس بھی آ کر کہا میرے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی وصیت کا خیال کیجئے فرمایا یا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح میں تیرا وظیفہ مقرر کر دوں گا اور اگر تو چاہے تو میں کسی شہر میں تجھے جائیداد دلوادوں گا بولا مجھے مصر میں زمین دلواد دیجئے کیونکہ وہ زرخیز علاقہ ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سلسلہ میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو لکھا اما بعد سندر آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی وصیت کا خیال کیجئے عمرو رضی اللہ عنہ نے

سندر کو مصر میں زمین دے دی اور سندر اس کی آمدنی پر زندگی بسر کرتا رہا پھر جب وہ فوت ہو گیا تو اس زمین پر حکومت نے قبضہ کر لیا پھر اسے اصمغ بن عبدالعزیز نے لے لیا اور اس سے بہتر ان کے پاس کوئی زمین نہ تھی۔ محمد بن عمر اصمغ کا باغ مصر میں آج بھی منیہ الاصمغ کے نام سے مشہور ہے۔ معیہ مصریوں کی زبان میں باغ کو کہتے ہیں۔

باخبار کامل بن طلحہ باخبار ابن لہیعہ باخبار عمرو بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے (سندر کا حسب سابق واقعہ ہے اس میں ہے) پھر نبی ﷺ نے زنباع کو بلا کر فرمایا ان پر ایسا بوجھ نہ لادو جو ان کی طاقت سے باہر ہو اور تم جو کچھ کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ اور جو پینتے ہو وہی انہیں پہناؤ اگر ان سے خوش ہو تو انہیں رکھو اور اگر ناخوش ہو تو بیچ ڈالو اور اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ دو جس کے اعضاء کاٹ دیئے گئے ہوں یا اسے آگ میں جلادیا گیا ہو وہ آزاد ہے اور وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا آزاد کردہ ہے پھر آپ نے سندر کو آزاد کر دیا (آگے حسب سابق حدیث ہے اور اس میں ہے) پھر عمر نے اسے وسیع زمین اور گھر دے دیا اور اللہ کے مال میں سندر زندگی گزارنے لگا پھر اس کی موت کے بعد یہ جائیداد لے لی گئی۔ عمرو بن شعیب پھر اس کے بعد وہ زمین اصمغ بن عبدالعزیز کو دے دی گئی آج وہ ان لوگوں کا سب سے افضل مال ہے۔

باخبار کامل بن طلحہ متحد بیٹ ابن لہیعہ متحد بیٹ یزید بن ابو حبیب ازربیعہ بن لقیط تھی از عبداللہ بن سندر از سندر: زنباع بن سلامہ کا ایک غلام تھا زنباع اس پر ناراض ہوا اور اسے خصی کر دیا اور اسے مثلہ کر دیا پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ نے زنباع کو سخت ست کہا اور غلام کو آزاد کر دیا اور فرمایا جس نے اپنے غلام کو مثلہ کیا اس کا غلام آزاد ہے غلام بولا یا رسول اللہ میرے بارے میں وصیت فرمادیتے؟ فرمایا میں تیرے بارے میں ہر مسلمان کو وصیت کرتا ہوں یزید کہتے ہیں: سندر کا فر تھا۔

عبداللہ بن صالح مصری از حرمہ بن عمران ان سے جنہوں نے ابن سندر مولیٰ نبی کی طرف سے بیان کیا: ایک دن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ گھومتے ہوئے آگئے ابن سندر لوگوں کے ساتھ تھا اور ابن سندر اور اس کے ساتھ کچھ لوگ عمرو کے آگے آگے چل رہے تھے اور ان کے پیروں سے غبار اڑ رہا تھا عمرو نے پگڑی کا شملہ ناک پر ڈھانپ رکھا تھا پھر آپ نے فرمایا غبار نہ اڑاؤ کیونکہ یہ داخل تو ہو جاتا ہے مگر نکلتا نہیں اور جب پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے تو تحفص والی ہوا میں مل جاتا ہے پھر ہم میں سے کسی نے ان لوگوں سے کہا ایک طرف ہٹ کر چلو آخر کار بجز ابن سندر کے سب ہٹ گئے ابن سندر سے پوچھا گیا تو کیوں نہیں ہٹا عمرو نے کہا اس سے تعرض نہ کرو کیونکہ خصی کا غبار مصر نہیں ابن سندر یہ سن کر ناراض ہو کر بولا: عمرو! اللہ کی قسم اگر تم مومن ہوتے تو مجھے ایذا نہ پہنچاتے عمرو نے جواب دیا اللہ تجھ سے درگزر کرے میں الحمد للہ مومن ہوں ابن سندر نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے بارے میں وصیت کی درخواست کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا میں تیرے بارے میں ہر مومن کو وصیت کرتا ہوں۔

ابو قاطمہ از دی رضی اللہ عنہ:

باخبار محمد بن اسماعیل بن ابوفدیکہ متحد بیٹ حماد بن ابو حمید زرقی از ابو عقیل مولیٰ زرقین از عبداللہ بن ایاس بن ابوقاطمہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا تھا آپ نے فرمایا: کون سندر دست رہنا اور بیمار نہ ہونا چاہتا ہے ہم نے کہا: ہم یا رسول اللہ آپ نے فرمایا: ہائیں! اور ہم نے آپ کے چہرے میں کراہت محسوس کی پھر آپ نے فرمایا کیا تم حملہ

آورد گدھوں کی طرح بننا چاہتے ہو؟ لوگ بولے یا رسول اللہ نہیں فرمایا کیا تم ارباب مضائب اور ارباب کفارات بننا پسند نہیں کرتے؟ لوگ بولے کیوں نہیں یا رسول اللہ فرمایا اللہ کی قسم اللہ مومن کو آزما تا ہے اور اسی لیے آزما تا ہے کہ اس کے نزدیک مومن کی عزت ہوتی ہے اور ایک مقام ہوتا ہے جس پر مومن اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں پہنچتا جب تک اسے مصائب میں نہ ڈالا جائے۔

باخبار ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن یزید مرقی بتحدیث ابن لہیعہ از حارث بن یزید حضرمی از کثیر اعرج از ابو فاطمہ صحابی مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد سجدوں کی کثرت رکھنا کیونکہ جو اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سجدے سے جنت میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس سے اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔

ابو جعہ رضی اللہ عنہ:

آپ رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت میں رہے اور شامی ہیں پھر مصر جا بے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے احادیث کے راوی ہیں۔ باخبار محمد بن مصعب قرظانی بتحدیث اوزاعی از اسید بن عبد الرحمن از خالد بن دریک از عبد اللہ بن مجیر یزید میں نے ایک صحابی سے کہا (میرے خیال میں آپ نے ان کی کنیت ابو جعہ بتائی) کہ آپ نے جو حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو وہ ہم سے بیان کیجئے فرمایا میں تم سے ایک بہت عمدہ حدیث بیان کرتا ہوں ایک دن ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صبح کا کھانا کھایا ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ہم سے بہتر ہے؟ ہم آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے اور آپ کے ساتھ ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی فرمایا: ہاں میری امت کے وہ لوگ تم سے بہتر ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔

ابو سعاد رضی اللہ عنہ:

آپ رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت میں رہے آپ مصر میں بس گئے تھے۔

عبد الرحمن بن عدیس بلوی رضی اللہ عنہ:

آپ نے نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا اور آپ سے حدیثیں سنیں۔ آپ ان میں سے تھے جو محاصرہ کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف گئے حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا آپ ان کے سر براہ تھے۔

ابو الشموس بلوی رضی اللہ عنہ:

آپ نے بھی نبی ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھایا اور مصر میں جا بے تھے۔



مصر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد

پہلا طبقہ

ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن عسیلہ رضی اللہ عنہ، صنابچی، حمیری:

آپ ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں اور ابو بکر، عمر اور بلال رضی اللہ عنہم سے راوی ہیں۔

باخبار عبد اللہ بن نمیر از محمد بن اسحاق از یزید بن ابی حبیب از مرثد بن عبد اللہ یزنی از عبد الرحمن بن عسیلہ صنابچی: میری

ملاقات سے صرف پانچ دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدھارے جب آپ سدھارے تو میں جھم میں تھا پھر میں نے آپ کے بہت

سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے شب قدر کے بارے میں پوچھا فرمایا: ۲۳ ویں شب ہے۔

ابو تمیم حیشانی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور عمرو علی رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور پرانے زمانہ میں عہد عبد الملک میں ۷۷ھ یا ۷۸ھ میں فوت ہوئے۔

عبد اللہ بن زریخ عافقی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور آپ کی حدیثیں بھی ہیں آپ عمر اور علی رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ صفین

میں موجود تھے اور عہد عبد الملک بن مروان میں ۸۱ھ میں انتقال فرما گئے۔

وہب بن شماسہ حیشانی کے بھائی:

حیشان قضاہ کا ذیلی خاندان ہے وہب کے والد کا نام ولیم بن ہوش ہے وہب ثقہ اور قلیل الحدیث ہیں۔

عبد الرحمن بن شماسہ رضی اللہ عنہ:

آپ صالح الحدیث ہیں۔

دوسرا طبقہ

ابوالخیر، مرشد بن عبداللہ یزنی، حمیری رضی اللہ عنہما:

آپ ثقہ عبادت گزار اور صاحب فضل ہیں اور عہد ولید بن عبدالملک میں ۹۰ھ میں فوت ہوئے۔

ابوعبدالرحمن، جمیلی، حمیری رضی اللہ عنہما:

آپ کا نام عبداللہ بن یزید ہے اور ثقہ ہیں اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں۔

ابوقیس رضی اللہ عنہ، مولیٰ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔

ابوعبید اللہ وردان رضی اللہ عنہ، مولیٰ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ:

آپ عمرو سے راوی ہیں اور مصر کا مشہور بازار (سوق وردان) آپ ہی کے نام پر نامزد ہے۔

قنبر رضی اللہ عنہ، مولیٰ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ:

آپ عمرو رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔

علی بن رباح کعمی رضی اللہ عنہ:

مصری آپ کو علی بن رباح کہتے ہیں اور عراقی علی بن رباح۔ آپ ثقہ ہیں اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ سے راوی ہیں۔

ابوعشائہ معافری رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام حمی بن یومن ہے آپ صاحب احادیث ہیں اور آپ سے روایتیں کی جاتی ہیں آپ ہشام بن عبدالملک کے

زمانہ میں ۱۱۸ھ میں فوت ہوئے۔

ابوقبیل، معافری رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام حمی بن ہانی ہے فرماتے ہیں مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ یاد ہے آپ صاحب حدیث ہیں اور

آپ سے حدیثیں مروی ہیں آپ مروان بن محمد کے زمانہ میں ۱۲۷ھ میں فوت ہوئے۔

عبداللہ بن ہبیرہ سبائی رضی اللہ عنہ:

آپ صاحب احادیث ہیں اور یزید بن عبدالملک کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

شقی بن ماتع رضی اللہ عنہ، اصمعی، حمیری:

آپ صاحب احادیث ہیں اور ہشام بن عبد الملک کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

شعیب بن پیمان رضی اللہ عنہ:

آپ صاحب احادیث ہیں۔

ابو مصعب، مشرح بن ہاعان رضی اللہ عنہ:

آپ بھی صاحب احادیث ہیں۔

ابو الہیثم رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام سلیمان بن عمرو بن عبد الغنوار ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔

تیسرا طبقہ

ابو رجاء یزید بن ابو حبیب رضی اللہ عنہ:

آپ بنو عامر بن لؤی قرشی کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں اور مروان بن محمد کے زمانہ میں (۱۲۸ھ) میں

فوت ہوئے۔

جعفر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن شریح بن حسنہ ازدی، بنو زہرہ بن کلاب کے حلیف، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف جو فوج بھیجی تھی

اس کے سالاروں میں سے ایک سالار شریح بن جعفر ثقہ ہیں اور مصر میں ۳۲ھ میں فوت ہوئے۔

عبید اللہ بن ابو جعفر رضی اللہ عنہ:

آپ بنو امیہ کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ ثقہ ہیں اور اپنے زمانہ میں بقیہ میں آپ ۳۵ھ یا ۳۶ھ میں فوت ہوئے۔

بکر بن سوادہ جذامی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور ہشام بن عبد الملک کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

عبد اللہ بن رافع عافقی، حمیری رضی اللہ عنہ:

آپ کی حدیثیں ہیں اور ہشام بن عبد الملک کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ولید بن ابو عبدہ رضی اللہ عنہ:

آپ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور صاحب احادیث ہیں۔

سعید بن ابولہلال رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔

ابوعقیل زہرہ بن معبد رضی اللہ عنہ:

چوتھا طبقہ

عمرو بن حارث بن یعقوب رضی اللہ عنہ انصار کے آزاد کردہ غلام:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور ابو جعفر کے زمانہ میں ۱۴۷ھ یا ۱۴۸ھ میں فوت ہوئے۔

ابویزید حیوہ بن شریح نجفی رضی اللہ عنہ:

آپ قبیلہ کنندہ کے ہیں اور ثقہ ہیں اور ابو جعفر کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

موسیٰ بن علی بن رباح نجفی رضی اللہ عنہ:

آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں۔ مکی بن ابراہیم: میں مصر میں ۶۴ھ میں گیا تھا اس وقت مجھ سے کہا گیا تھا کہ موسیٰ بن علی

اسکندریہ میں فوت ہو گئے۔ محمد بن عمر: آپ مہدی کے زمانہ میں ۶۳ھ میں فوت ہوئے۔

سعید بن ابویوب رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ اور عجت ہیں اور ابویوب کے والد کا نام مقلاص ہے۔

عبدالرحمن بن شریح رضی اللہ عنہ:

آپ حدیث میں منکر ہیں اور مہدی کے زمانہ میں ۶۷ھ میں فوت ہوئے۔

عیاش بن عباس، قتبانی رضی اللہ عنہ، یحییٰ بن ایوب غافقی رضی اللہ عنہ:

آپ منکر ہیں۔

پانچواں طبقہ

ابو عبد الرحمن، عبد اللہ بن عقبہ بن لہیعہ، حضرمیؓ:

آپ اسی قبیلہ کے تھے کثیر الحدیث ہیں مگر ضعیف ہیں جن لوگوں نے آپ سے شروع میں حدیثیں سنیں آپ سے روایات میں ان کا حال ان سے اچھا ہے جنہوں نے اخیر زمانہ میں حدیثیں سنیں لیکن مصریوں کے نزدیک آپ کے حافظہ میں تغیر نہیں آیا تھا اور آپ کی ابتدائی اور انتہائی حالت ان کے نزدیک یکساں ہیں ہاں انہیں دوسروں کی حدیثیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور وہ انہیں سن کر خاموش ہو جاتے تھے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لوگ کتابیں لا کر انہیں میرے سامنے پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں انہیں بتاتا کہ یہ میری حدیثیں نہیں ہیں۔

ابن سعد: ابن لہیعہ مصر میں انوار کے دن ۱۵ رجب الاول ۷۷ھ میں ہارون کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

ابو الجارث لیث بن سعدؓ، مولیٰ قیس:

آپ ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں ۹۳ھ یا ۹۴ھ میں پیدا ہوئے آپ ثقہ، کثیر الحدیث اور صحیح الحدیث ہیں۔ آپ اپنے زمانہ میں مصر میں مستقل مفتی تھے اور دولت مند بزرگ، سخی اور مہمان نواز تھے اور مہدی کے زمانہ میں ۱۶ شعبان ۱۶۵ھ میں جمعہ کے دن فوت ہوئے۔

مفضل بن فضالہ، قینیؓ:

آپ حدیث میں منکر ہیں اور مصر کے قاضی تھے۔

رشدین بن سعد، قینی:

آپ رشدین بن ابورشدین ہیں اور ضعیف ہیں اور ہارون کے زمانہ میں ۱۸۸ھ میں فوت ہوئے۔

عوث بن سلیمان حضرمیؓ:

آپ مہدی کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

بکر بن مضرؓ، نافع بن یزیدؓ:

چھٹا طبقہ

عبداللہ بن وہب رضی اللہ عنہ:

آپ قریش کے آزاد کردہ غلام ہیں آپ علم کے بحر ذخار اور ان روایات میں ثقہ ہیں جن میں حدیثا کہا ہے اور تدلیس کیا کرتے تھے۔

ابوصالح، عبداللہ بن صالح رضی اللہ عنہ، جہنی رضی اللہ عنہ:

آپ لیث بن سعد کے کاتب و راوی ہیں۔ آپ نے ابواسحق کے زمانہ میں مصر میں ۱۰ محرم ۲۲۳ھ میں وفات پائی۔

سعید بن عقیل رضی اللہ عنہ، سعید بن ابومریم رضی اللہ عنہ، یحییٰ بن یکیر رضی اللہ عنہ:

عبداللہ بن عبدالحکم رضی اللہ عنہ، عمرو بن خالد رضی اللہ عنہ:

آپ زہیر بن معاویہ کے شاگرد ہیں۔

نعیم بن حماد رضی اللہ عنہ:

آپ خراسانی اور مرو کے باشندے ہیں آپ نے بڑی سرگرمی سے حجاز و عراق میں علم حدیث حاصل کیا پھر آپ مصر میں بس گئے اور ابواسحق بن ہارون نے آپ کو مصر سے بلا کر قرآن کے بارے میں پوچھا لیکن آپ نے لوگوں کی مرضی کے مطابق فتویٰ دینے سے انکار کر دیا آخر کار آپ کو سامرا میں قید کر دیا گیا اور قید خانہ ہی میں آپ کا ۲۲۸ھ میں انتقال ہوا۔

ایلیہ کے محدثین و علماء

طلحہ بن عبدالمکمل ایلی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں اور آپ سے مالک بن انس وغیرہ راوی ہیں۔

عقیل بن خالد رضی اللہ عنہ:

زہری کے شاگرد ہیں اور ثقہ ہیں۔

ابوصحرا ایلی رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام یزید بن ابومسیب ہے اور آپ صاحب الحدیث ہیں۔ باخبر محمد بن عمر: ابوصحرا عابد و پارساتھے رات بھر نماز پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے آپ کے ساتھ گھر میں ایک یہودی عورت بھی رہا کرتی تھی وہ آپ کی حالت دیکھ کر اور آپ پر ترس کھا کر رویا کرتی تھی ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی: اے اللہ یہ یہودی عورت مجھ پر ترس کھا کر روتی ہے حالانکہ اس کا دین میرے دین کے خلاف ہے لہذا اے اللہ مجھ پر رحمت کے سلسلہ میں تیری بڑی شان ہے اور مجھ پر رحم کھانا تیرے لائق ہے فرماتے ہیں: ابوصحرا ایلی ہر سال حج کے موسم میں محمد بن منکدر، صفوان بن سلیم، یزید بن خصیفہ، سلیمان بن نجیم اور ابوحازم سب مل کر عمر بن ذر

سے ملاقات کرتے تھے اور عمران سے قصے بیان کیا کرتے تھے اور انہیں آخرت یاد دلایا کرتے تھے ان کا حج کے دنوں میں یہی دستور رہا کرتا تھا اور پھر سال بھر تک ملاقات نہیں ہوتی تھی۔

زریق بن حکم رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔

حسین بن رستم رضی اللہ عنہ، یونس بن یزید ایلی رضی اللہ عنہ:

آپ شیریں بیان اور کثیر الحدیث ہیں لیکن حجت نہیں کیونکہ اکثر منکر روایت بیان کرتے ہیں۔

ابو الصباح، عبد الجبار بن عمر ایلی رضی اللہ عنہ:

آپ ثقہ ہیں۔ آپ ازبید بن ابوسب از ابن عمر از نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کریمہ گھیننے کے بارے میں وہی

فرمایا جو تہبند گھیننے کے بارے میں فرمایا آپ عبد الجبار سے راوی ہیں۔

عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ اور ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مقلدی وغیرہ:

افریقہ کے محدثین و علماء

خالد بن ابو عمران رضی اللہ عنہ:

آپ افریقہ کے تونس کے باشندے ہیں آپ ان شاء اللہ ثقہ ہیں اور مدلس نہیں۔

اندلس کے محدثین و علماء

معاویہ بن صالح خضرمی رضی اللہ عنہ:

آپ ان کے قاضی تھے اور ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔ آپ نے اپنی پوری عمر میں صرف ایک حج کیا اور مدینہ سے گزرے

پھر وہاں جس عراقی نے آپ سے ملاقات کی، کی آپ سے اس حج میں عبدالرحمن بن مہدی، زید بن حباب، عکلی، محمد بن عمرو اقدی،

حماد بن خالد خیاط اور معن بن عیسیٰ نے ملاقات کی۔



طبقات ابن سعد

حصہ ہشتم

صالحات و صحابیات رضی اللہ عنہم

طبقات ابن سعد کے اس حصہ میں رسول اللہ ﷺ کی دادیوں، نانیوں، والدہ محترمہ، ازواج مطہرات اور آنحضرت ﷺ کی صاحبزادیوں اور صحابیات رضی اللہ عنہم کے تذکرے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیٹیوں کے تذکرے بھی ہیں اور کچھ صحابیات کو دیکھ کر ایمان لانے والیوں کے تذکرے ہیں۔

ترجمہ

محمد زاغ رحمانی

مصنف

محمد بن سعد (التونی ۲۳۰ھ)

نفسِ اکیسی
اُردو بازارہ کراچی طبعی

طبقات ابن سعد

کے اردو ترجمہ کے دائمی حقوق طباعت و اشاعت

چوہدری طارق اقبال گامندری

مالک ”نفیس“ ایسی ٹیکنی محفوظ ہیں

نام کتاب طبقات ابن سعد (حصہ ہشتم)

مصنف علامہ محمد بن سعد المتوفی ۲۴۰ھ

مترجم محمد راغب رحمانی

اضافہ عنوانات و حواشی مولانا عبدالمنان صاحب

ناشر نفیس ایسی ٹیکنی اردو بازار - کراچی

قیمت /- روپے

نفیس ایسی ٹیکنی
اردو بازار، کراچی

فہرست مضامین

طبقات ابن سعد (حصہ ہفتم)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۹	اسیمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا	۱۷	نذر عقیدت
//	رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہنیں	۱۸	صالحات و صحابیات
//	ضباعہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام سے کن باتوں پر
//	ام الحکم بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	۲۰	بیعت لی؟
//	صفیہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا	//	بیعت کا طریقہ
۵۰	ام الزبیر بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا		مسلمان مہاجر اور بیعت کرنے والی قرشی اور انصاری
//	ام ہانی بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	۲۷	عورتوں کے اسمائے گرامی اور دیگر خواتین عرب
//	ام طالبہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	//	حضرت خدیجہؓ کا حسب و نسب
//	جمانہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	//	حضرت خدیجہ بنت ابی سفيان کا نسب
//	امامہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	//	حضرت خدیجہ بنت ابی سفيان کا نکاح
//	ام حبیبہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	۳۱	رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں
//	ہند بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	//	حضرت فاطمہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا
//	اروی بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	۳۹	حضرت زینب بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا
۵۱	ام عمرو بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	۳۲	حضرت رقیہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا
//	اروی بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	۳۳	حضرت ام کلثوم بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا
//	درہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	۳۴	حضرت امامہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا
//	عزہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	۳۶	رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھو بیاں
//	خالدة بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	//	حضرت صفیہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا
//	فاطمہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	//	اروی بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب
//	رقیة بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	۴۷	عاتکہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا
۵۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات	۴۸	ام حکیمہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا
//	خدیجہ الکبریٰ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا	۴۹	برہ بنت ابی سفيان رضی اللہ عنہا

۱۲۱	خولہ.....	۵۲	سودہ بنت زینب.....
۱۲۲	شراف.....	۵۵	حضرت عائشہ بنت ابی بکرؓ.....
//	ازواج مطہرات کے مہر.....	۷۱	حضرت حفصہ بنت عمرؓ.....
	رسول اللہ ﷺ کی منگیتوں کے لیے سعد بن عبادہؓ کا	۷۲	حضرت ام سلمہ بنت ابی سلمہؓ.....
۱۲۳	بادیہ.....	۱۸	حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیانؓ.....
//	ازواج مطہرات کی رہائش گاہیں.....	۲۸	حضرت زینب بنت جحشؓ.....
۱۲۷	امہات المؤمنین میں مساویاتہ تقسیم	۹۳	حضرت زینب بنت خزیمہؓ.....
۱۳۰	سرور عالم ﷺ کا امہات المؤمنین کو پردہ کا حکم.....	۹۴	حضرت جویریہ بنت ابی سفیانؓ.....
۱۳۲	پردے سے پہلے کے حالات.....	۹۶	حضرت صفیہ بنت ابی بکرؓ.....
	امہات المؤمنین کے سامنے بے پردہ کون آ سکتا	۱۰۲	حضرت ریحانہ بنت ابی بکرؓ.....
۱۳۳	تھا؟.....	۱۰۳	حضرت میمونہ بنت ابی بکرؓ.....
	رحمت عالم ﷺ نے امہات المؤمنین کو کیوں چھوڑا اور	۱۰۹	علیہرگی کے اسباب
۱۳۴	انہیں کیوں اختیار دیا؟.....	//	الکلابیہ.....
	سرور عالم ﷺ پر چڑھائی کرنے والی دو امہات المؤمنین	۱۰۰	انماء.....
	کون کون تھیں؟ اور آپ کا ازواج مطہرات کو اختیار	۱۱۳	ثقیلہ.....
۱۳۷	دینا.....	//	ملیکہ.....
۱۳۵	رحمت عالم ﷺ کی قوت باہ.....	۱۱۴	بنت جندب.....
//	شرمگاہوں سے پردہ.....	//	سبا.....
	بعض علماء کے نزدیک وفات سے قبل نبی ﷺ کے لیے	۱۱۵	نبی ﷺ کی منگیتر عورتیں جن سے آپ نے نکاح نہیں کیا
۱۳۶	تمام عورتیں حلال کر دی گئی تھیں.....	//	لیلیٰ بنت خطیمہ.....
	بعض کے نزدیک امہات المؤمنین کے لیے نبی ﷺ کی	۱۱۶	ام ہانی بنت ابی بکرؓ.....
	وفات کے بعد کسی سے نکاح کرنا حلال نہیں اور نہ نبی	۱۱۷	ضیاعہ.....
//	ﷺ کو ان کے بعد حلال رہا تھا.....	//	صفیہ.....
	ان آیتوں کی تفسیر جو ازواج مطہرات کے ذکر میں ہیں	۱۱۸	ام شریک بنت ابی بکرؓ.....
۱۳۹	کیا مرد ادب کے لیے عورتوں کو مار سکتا ہے؟.....	۱۲۰	خولہ بنت ابی بکرؓ.....
۱۵۲	رحمت عالم ﷺ کا ازواج مطہرات کو حج کرانا.....	//	امامہ بنت ابی بکرؓ.....
	حضرت ماریہ بنت ابی بکرؓ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ﷺ		

۱۷۵	صخرہ	۱۵۷	کی والدہ ماجدہ
//	میونہ	۱۶۰	امہات المؤمنین کی تعداد
//	حنہ	۱۶۲	ازواج مطہرات کی عدت کا ذکر
//	حبیبہ ام حبیب	۱۶۳	بیعت کریمہ خواتین اسلام کے اسماء
۱۷۶	ام قیس	//	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
//	آمنہ	//	زینبہ رضی اللہ عنہا
//	جدامہ		ام ایمن، برکہ، رسول اللہ ﷺ کی آزاد کردہ لونڈی اور
۱۷۷	ام حبیبہ	//	دانی
//	نفسیہ	۱۶۶	سلی رضی اللہ عنہا
//	حولاء	//	خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت حبیب
//	فاطمہ	//	ہند بنت حسین
//	بئرہ	//	ام رمثہ یا رمیثہ
۱۷۸	برکہ	//	مخینہ
//	قلیہ	۱۶۷	ہند بنت اشاشہ
//	بیرہ	//	ام مطح
//	حبیبہ	//	اروی بنت گریز
//	عاتکہ	//	ام کلثوم
۱۷۹	شفاء	۱۶۹	امامہ
//	خالہ	۱۷۰	ام خالد
//	ام فروہ	۱۷۱	ہند بنت عتبہ
//	قریبہ	۱۷۳	ام کلثوم
۱۸۰	ام عامر	//	فاطمہ
//	اسماء	۱۷۴	رملہ
۱۸۲	ریطہ	//	امینہ
//	امیمہ	//	جویریہ
//	جاریہ	//	ام حکم
۱۸۵	بیرہ	//	ہند

۲۰۰	عزہ	۱۸۸	فاطمہ
//	اسماء	//	ام حکیم
۲۰۳	سلمیٰ	//	جویریہ
۲۰۴	ہمینہ	۱۸۹	حفصہ
//	حرمہ	//	قریبہ الصغرئی
//	فاطمہ	//	فاطمہ
//	حنہ	۱۹۰	سمیہ
//	خرنق	//	عاتکہ
۲۰۵	سٹیہ	۱۹۲	فاطمہ
//	ام معبد	//	لیلیٰ
۲۰۶	ام عبداللہ	//	شفاء
//	ریطہ	۱۹۳	رملہ
//	زینب	//	ریطہ
۲۰۷	بنت خباب	//	زینب
//	کعبیہ	//	تومہ
//	ام مطاع اسلمیہ	۱۹۴	سہلہ
۲۰۸	ام شان اسلمیہ	//	ام کلثوم
//	امیہ	۱۹۵	فاطمہ
۲۰۹	ام خدیہ ہلالیہ	//	فاطمہ
//	ام سنبلیہ مالکیہ	//	عمیرہ
//	ام کرز	//	فاطمہ
//	ام معقل		
۲۱۰	ام صدیقہ خولہ	۱۹۸	حرب کی مسلمان مہاجر بیعت شدہ اور انجلی خواتین اسلام کے اسماء
//	سودہ جہنیہ	//	ام رومان
۲۱۱	امیہ یا امامہ	//	ام الفضل
//	برزہ	۲۰۰	لیلیہ صغرئی
//	النجوم	//	ہزیلہ

	قبیلہ اوس کی بیعت کرنے والی انصاریہ	۲۱۱	ام حکیم
۲۲۲	خواتین اسلام	//	قبیلہ
//	الرباب	//	تماضر
//	عقر ب	۲۱۳	اسماء
//	ہند	//	اسماء
۲۲۳	امامہ	//	ام سباع
//	حواء	//	ماویہ مولاہ تجیر
//	ام ایاس	۲۱۴	ام طارق
//	ام الحکم	۲۱۵	ام فروہ
//	ام سعد	//	میمونہ بنت گردوم
//	خولہ	۲۱۶	میمونہ
//	عمیرہ	//	ام الحصین، احمیہ
۲۲۴	ام عامر شہلیہ	۲۱۷	ام جندب ازدیہ
//	الرباب	//	ام حکیم بنت وداع خزاعیہ
//	ام نیر	//	ام مسلم اشجعیہ
۲۲۵	ام عمرو	۲۱۸	ام کیشہ قضاعیہ
//	نانکہ	//	ام سائب
//	عقر ب	//	قبیلہ جہنیہ
//	الحیاء	//	سلامہ بنت خمر
//	ام حنظلہ	//	بسیرہ، حمیضہ بنت یاسر کی دادی
//	ام سہیل	۲۱۹	سراء بنت نبہان غنویہ
۲۲۶	امامہ	//	زرینہ خادمہ رسول اللہ ﷺ
//	حواء	//	قبیلہ، ام بنی النمار
//	امیہ	۲۲۰	قبیلہ بنت خرمہ تمیمیہ
۲۲۷	ہند	//	عمہ العاص بن عمرو طفاوی
//	ملیکہ	//	ام ولد شیبہ
//	صعبہ	//	خلیدہ

۲۳۱ ام عبد اللہ	۲۲۷ امیہ
۲۳۲ سلامہ	// فاطمہ
// لکنی بنو حارث بن خزرج (عبید بن مالک بن اوس)
// لیلی	۲۲۸ میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام
// اسماء	// امامہ
// عمیرہ	// امامہ
// ام ضحاک	// عمیرہ
۲۳۳ بنو ظفر (کعب بن خزرج بن عمرو [عبیدت] بن مالک بن اوس) میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام	// لیلی
// لیلی	// ثقیفہ
// لکنی	۲۲۹ جمیلہ
// ام ہبل	// امیہ
// حبیبہ	// ام عامر
// عمرہ	// جمیلہ
۲۳۴ عمیرہ	// عمیرہ
// سہیمہ	۲۳۰ ام شہیل
// ام سلمہ	// امیہ
// حبیبہ	// عمیرہ
// ام جندب	// الوقصاء
// عمیرہ	// النوار
// بشیرہ	// ام عبد اللہ
۲۳۵ امیہ	// ام عیسیٰ
// بشیرہ	// ہند
// عمیرہ	۲۳۱ ام منظور
// عائشہ	// ام عمرو
// خلیدہ	// ام الربیع
		// سہیمہ
		// لبابہ

۲۳۹	سلمیٰ	۲۳۵	ام حارث
//	النوار	//	عیساء
//	کبشہ	//	حبیبہ
//	ام ثابت	۲۳۶	شہمیلہ
//	عمیرہ	//	بُریدہ
//	نسیہ	//	ام سماک
۲۴۰	سمیہ		بنو عمر و بن عوف بن مالک بن اوس میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام
//	مطیعہ	//	انثوس
//	فریجہ یا قریبہ	//	حبیبہ
//	حبہ	//	عصیمہ
//	ام جمیل	۲۳۷	جیلہ
		//	شموس
۲۴۰	بنو خطمہ بن شہم بن مالک بن اوس میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام	//	تمیمہ
//		//	لیلیٰ
//	ہند	//	عائشہ
۲۴۱	کبشہ	//	لبابہ
//	لیلیٰ	۲۳۸	نسیہ
//	سعدی	//	انیسہ
//	صفیہ	//	عمیرہ
//	ملیکہ	//	حفصہ
//	رفاعہ	//	سعیدہ
۲۴۲	رائعہ	//	عمیرہ
//	عمارہ	//	عمیرہ
//	عمیرہ		بنی عبید بن زید بن مالک بن عوف میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام
//	انپسہ	۲۳۹	
//	نسیہ	//	ثیبہ

۲۴۶	کبشہ	۲۴۲	جعادرہ یعنی بنو سعید بن ترہ بن مالک بن اوس بنو عبد الشہل والوں کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام
۲۴۷	معاذہ	۲۴۳	سلی
۲۴۸	ام الحکم یا ام حکیم	۲۴۴	بنو سلم بن امری القیس بن مرثہ بن مالک بن اوس کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام
۲۴۹	نانکہ	۲۴۵	خیرہ
۲۵۰	فریجہ	۲۴۶	بنو خزرج بن حارثہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر کی پھر بنو حارث بن خزرج کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام
۲۵۱	الرباب	۲۴۷	حجہ
۲۵۲	زینج	۲۴۸	جیلہ
۲۵۳	خلیدہ	۲۴۹	حبیبہ
۲۵۴	ام ثابت	۲۵۰	زینب
۲۵۵	کبشہ	۲۵۱	ام ثابت
۲۵۶	سعاد	۲۵۲	عمرہ
۲۵۷	ام حباب فریجہ	۲۵۳	لیلیٰ
۲۵۸	عقرب	۲۵۴	ام ایوب
۲۵۹	بنو ساعدہ بن کعب بن خزرج کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام	۲۵۵	مندوس یا سندوس
۲۶۰	مندوس	۲۵۶	امیمہ یا ابیمہ
۲۶۱	سلی	۲۵۷	ہزیلہ
۲۶۲	فریجہ	۲۵۸	انیسہ یا انیسہ
۲۶۳	ام شریک	۲۵۹	کبشہ
۲۶۴	مندوس	۲۶۰	ہزیلہ
۲۶۵	لیلیٰ	۲۶۱	انیسہ
۲۶۶	قلیبہ	۲۶۲	ام زید
۲۶۷	غزیه	۲۶۳	قریبہ
۲۶۸	کبشہ یا کبشہ	۲۶۴	
۲۶۹	عمرہ	۲۶۵	
۲۷۰	عمرہ	۲۶۶	
۲۷۱	نانکہ	۲۶۷	

۲۵۷	خواتین، خوبیاضہ یعنی ابن عامر بن زریق بن عبد عبد بن حارثہ بن مالک بن غضب بن ششم بن خزرج کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام	۲۵۲	خواتین قواقلہ یعنی بنوعوف بن خزرج کبیر کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام
//	ایسہ	//	قرۃ العین
//	حلیہ	//	حییہ
۲۵۸	خالدہ	//	بشرہ
//	کبشہ، کبشہ	//	عمرہ
//	ام شریل	//	لیلیٰ
//	بشیرہ	//	خولہ
//	فارحہ	۲۵۳	امامہ
//	امامہ	//	خولہ
۲۵۹	امیہ	۲۵۵	قریبہ
//	ایسہ	//	جلیلہ یا حییہ
//	خواتین، خوزریق یعنی ابن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن ششم بن خزرج میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام	//	ام انس
//	امامہ	//	بزلیہ
//	ام رافع	۲۵۶	خواتین، ہوجلی یعنی سالم بن غنم بن عوف بن خزرج کی بیعت کرنے والی خواتین
//	قلیہ	//	ام مالک
//	حییہ	//	جلیلہ
۲۶۰	ہبیبہ	//	ملیکہ
//	ام قیس	۲۵۷	رملہ
//	ام سعد	//	ام سعد ام سعید
//	حبہ	//	خولہ
//	کبشہ	//	فہم
//	لیلیٰ	//	زیب
//		//	لیلیٰ

۲۶۳	عائشہ	۲۶۰	شقیہ
//	فکیہ	۲۶۱	انیسہ
//	قیسہ	//	ام سعد
//	زینب	//	ام ثابت
//	حمیمہ	//	ام سہل
//	ملیکہ	//	خولہ
//	ہند	//	خواتین بنو حنیبلہ بن عبد حارثہ بن مالک
۲۶۵	سلافہ	//	بنو غضب بن حشم بن خزرج میں سے
//	زباب	//	بیعت کرنے والی خواتین اسلام
//	ام حارث	//	انیسہ
//	اروی	//	سیدہ
//	ام حارث	//	خواتین بنو سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن
//	الربیع	۲۶۲	سارودہ بن تزیید بن حشم بن خزرج میں سے
//	عمیرہ	//	بیعت کرنے والی خواتین اسلام
//	اسماء	//	اشموس
۲۶۶	ادام	//	ہند
//	امامہ	//	لمیس
//	آمنہ	//	ام عمرو
//	خساء	//	ام معاذ
//	ام زید	//	ام حبان
//	ام ثابت	//	ادام
//	امامہ	۲۶۳	ہند
۲۶۷	ام عبید اللہ	//	حمیمہ
//	ام رزن	//	ہند
//	سعاد	//	ام جمیل
//	عمیرہ	//	ام ثعلبہ
//	نعمیکہ	//	ام حارث

۲۷۳	کبشہ	۲۶۸	عصیمہ
//	شوس	//	ہزلیہ
//	ام سلیط نجاریہ	//	ام سلیم
۲۷۵	خواتین بنی عدی بن نجار میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام	//	ام منج
//	نوار	//	انیسہ
//	ام عبید	۲۶۹	ام بشر
//	انیسہ	//	مخلی
۲۷۶	ام سہل	//	ام عمرو
//	ام منذر	//	ام جمیل
//	ام سلیم	//	مخلی
//	عمیرہ	//	عمرہ
//	ثمینہ	//	فکیہ
۲۷۷	اسماء ککشم	۲۷۰	خواتین بنی ادی بن سعد برادر سلمہ بن سعد میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام
//	ام حارثہ	//	صحیہ
//	ام حکیم	//	ام عبداللہ
//	ام سلیم	//	خواتین بنو نجار یعنی تیم اللہ بن ثعلبہ بن عمرو بن خزرج بن حارثہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر کی پھر بنو مازن بن نجار کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام
۲۸۵	ام حرام	//	ام عمارہ
//	ام عبداللہ	//	فاطمہ
//	ام بردہ	۲۷۳	زنوب
۲۸۶	خولہ	//	جمیلہ
//	خواتین بنو دینار بنو نجار میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام	//	نانکہ
//	سعیدہ	۲۷۴	آخیلہ
//	مندوس	//	شقیقہ
//	ہزلیہ	//	

۲۹۳	کبشہ	۲۸۶	سحیراء
//	لبنی	۲۸۷	ام حارث
//	عمرۃ الاولیٰ		خواتین بنو مالک بن نجار میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام
//	عمرۃ الثانیہ	//	
//	عمرۃ الثالثہ	//	فارعہ
//	عمرۃ الرابعہ	//	زغیبہ
۲۹۴	عمرۃ الخامسہ	//	حبیبہ
//	ضباعہ	//	کبشہ
//	ام ثابت	۲۸۸	فارعہ یا فریحہ
//	ام کل، ام ثابت	//	عمیرہ
//	ام سعد	//	سودہ
//	ام جمیل	//	عمرہ
//	ام سناک، رومیہ	۲۸۹	ام ہشام
۲۹۵	ام سلمہ سعاد	//	جعدہ
//	ام خالد	//	عقراء
//	ام سلیم	//	خولہ
//	رقیہ	//	خولہ
//	ام زید	۲۹۰	زغیبہ
//	ام عطیہ انصاریہ	//	ام الربیع
۲۹۶	خنساء	//	حبیبہ
//	ام ورقہ	۲۹۱	عمیرہ
۲۹۷	تمیمہ بنت وہب	//	ام ثابت، زملہ
//	ام ہشام انصاریہ یا ام بشیر	//	الربیع
۲۹۸	ام العلاء انصاریہ	۲۹۲	عمیرہ
//	عمہ حصین بن محسن	//	عمرہ
//	ام نجید	//	عمیرہ
//	ام ہانی انصاریہ	//	عمرہ

صالحات و صحابیات		۱۵	طبقات ابن سعد (حصہ ہفتم)	
۳۰۸	ام الحسن البصری	۲۹۸	حواء عمرو بن معاذ انصاری کی دادی	
//	فاطمہ		وہ خواتین اسلام جو رسول اللہ ﷺ سے روایت نہیں کرتیں بلکہ اپنے شوہروں وغیرہ سے روایت کرتی ہیں	
//	ام سلمہ	۲۹۹		
//	ام سعد			
۳۰۹	کبشہ	//	زینب	
//	زینب	//	ام کلثوم	
//	زینب	۳۰۰	ام کلثوم	
۳۱۰	ام عمرو	۳۰۱	زینب	
//	ام حفص	//	فاطمہ	
//	حفصہ	۳۰۲	ام کلثوم	
//	عمرہ	//	عائشہ	
۳۱۱	ہند	۳۰۳	عائشہ	
//	عادیہ	//	حفصہ	
//	امیمہ دختر بخاری	//	اسماء	
//	صفیرہ بنت جحش، بصریہ	۳۰۴	صفیہ	
//	جمانہ بنت سائب بن نجدة الفزاری	//	زینب بنت مہاجر احمسیہ	
۳۱۲	ہند بنت حارث فراہیہ	//	مئیہ	
//	ناکلہ بنت فرائصہ حنفیہ	۳۰۵	سکینہ	
//	ریطہ حنفیہ	//	سہیہ	
//	معاذہ عدویہ بنت عبد اللہ اہلیہ صلہ بن اشیم بصریہ	//	ام حکیم بنت قارظہ اہلیہ عبد الرحمن بن عوف	
//	ام الراح رباب بنت صلح	//	صفیہ	
//	ام الہذیل، حفصہ بنت سیرین	۳۰۶	ام سلمہ	
//	خجیرہ	//	فاطمہ	
۳۱۳	ام الحجاج، عائشہ بنت عمرہ جدلیہ	۳۰۷	سکینہ	
//	صہباء بنت کریم	//	ام عثمان	
//	ام موسیٰ	۳۰۸	ام محمد	
//	ام خدائش	//	ام محمد	

۳۱۷ لبثہ رقیقہ ام عبد ربیعہ بن حکم	۳۱۳ ام ذرہ
.. حملک کوفیہ ام بکرہ اسلمیہ
.. عزیلہ ام طلق
۳۱۸ صفینہ بنت زیاد	۳۱۳ ام شیبیب عبدیہ بصریہ
.. قمیرہ، اہلیہ مسروق عالیہ
.. کبشہ بنت حارث، اہلیہ شریح اہلیہ ابوالسفر
.. ام اسماعیل بنت ابی خالد ہمشیرہ سکیئہ ام حبیہ
.. زینب اہلیہ قیس بن ابی حازم عائذہ اسدیہ
.. جدہ صالح بن حیوان عمرہ بنت یحییٰ
.. ارباب	۳۱۵ مریم بنت طارق
۳۱۹ سلمیٰ بنت کعب اسدیہ جمرہ بنت دجاجہ عامریہ کوفیہ
.. ام کلثوم لیلیٰ بنت سعد
.. ام قیس ام محمد برکہ بن سائب بن برکہ کئی
.. فاطمہ بنت محمد عمرہ بنت قیس بن عدویہ بصریہ
.. ندبہ، مولاة ابن عباس	۳۱۶ ظبیہ بنت معلل
.. میمونہ ام عبد الرحمن ذقرہ
۳۲۰ ام ثور ام علقمہ، مولاة عائشہ
.. بنیدہ کبشہ بنت ابی مریم
.. ملیکہ صافیہ
.. حجر ام حبیب بنت ذویب بن قیس خزیمیہ
.. رقیقہ	۳۱۷ طفیلہ مولاة ولید بن عبد اللہ بن جمیح
.. تمت بالخیر ام عیسیٰ بن عبد الرحمن سلمیٰ

نذر عقیدت

میں اس کتاب کو اپنے عم محترم:

جناب منشی سلطان علی مرحوم

پیدائش ۱۸۷۹ء و وفات ۱۹۴۲ء لوہار پرتاب پورہ ضلع جالندھر (مشرقی پنجاب) کے نام نامی سے معنون کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مرحوم ان تمام خوبیوں کا مجموعہ تھے جو کسی انسان کو دین و دنیا میں سربلند رکھتی ہیں۔ مرحوم ہی کی نیکی، اخلاص، مندی اور عبادت گزاری کا نتیجہ ہے کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر شعبہ میں ممتاز ہے۔ بالخصوص حاجت مندوں کی دستگیری، بے لوث اعانت اس خاندان کا طرہ امتیاز ہے۔ میرے لیے تو اس خاندان کا ہر فرد مرکزِ محبت ہے۔

نیاز کیش

محمد اقبال سلیم گاہندی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صالحات و صحابیات

چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری

ہر انسانی معاشرہ عورت اور مرد دونوں اصناف کی ہم آہنگی اور ہم مساعی جمیلہ سے بنتا ہے اور اسلامی معاشرے میں تو عورت کو اتنی اہمیت اور منزلت حاصل ہے کہ اس کے تفصیلی بیان کے لیے ایک پوری کتاب کی ضخامت بھی شاید پوری طرح کافی نہ ہو سکے۔ اسلامی تاریخ کے صفحات خواتین اسلام کے زریں کارناموں سے روشن ہیں ابتدا ہی سے مسلمان خواتین نے عائلی اور قومی زندگی میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔ اور کیا ایک مسلمان عورت کے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک مقدس خاتون حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھیں۔ وہ مقدس جرات مند اور اللہ والی خاتون جس نے انسانوں سے بھری ہوئی اس زمین پر ہر مرد اور ہر عورت سے پہلے یہ شرف حاصل کیا کہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت اور اس کے سچے رسول ﷺ پر ایمان لا کر اور دل کی گہرائیوں میں یقین کامل پیدا کر کے خود اپنی ذات کو اور اپنی پیاری لڑکیوں کو کفار کے طعنوں ایذا رسانیوں، ترک موالات، توہین و تشکیک اور طرح طرح کے مصائب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے رخصتی سے پہلے لڑکیوں کو طلاق دی گئی۔ بول چال بند ہوئی، اپنا گھر چھوڑ کر شعب بنی ہاشم کی گھائیوں میں رہنا پڑا، دانے کو ترسنا پڑا، منہ منہ سے لڑکیوں کو بھوک اور پیاس میں تلملاتے دیکھنا پڑا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن ہماری اور سارے اہل ایمان کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف یہ کہ ہمت نہیں ہاری، ساری سختیوں کا مقابلہ کیا بلکہ کبھی ایک لفظ شکوہ کا زبان پر نہ آیا۔ یہ ہے عورت کا کارنامہ۔

حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، نوجوان کسن لڑکی جس کو نوناہ کا حمل تھارات کی تاریخوں میں پیٹ پر روٹی باندھ کر شہر مکہ سے باہر اور کئی میل دور ہجرت کے موقع پر بیابان میں سنگلاخ کو ہستانی علاقہ میں تن تنہا جاتی ہے تاکہ اللہ کے سچے رسول ﷺ اور ان کے جاں نثار ساتھی اولین مرد مسلمان ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا پہنچا سکے اس حالت میں جاتی ہے کہ قدم قدم پر کفار قریش نیزوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں کہ انہیں قتل کر دیں۔ اللہ اللہ۔ کیا جرات و ہمت اس کسن نوجوان لڑکی کی جو خود اپنے اولین حمل کے باعث پریشان حال ہے کیا ہر مسلمان عورت کو فخر سے یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ہیں اسماء رضی اللہ عنہا کی بہن۔

طبقات ابن سعد کا جو حصہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ یہ انہیں مقدس خواتین کا تذکرہ ہے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کی داویوں، نانیوں، والدہ محترمہ، ازواج مطہرات اور آنحضرت ﷺ کی صاحبزادیوں اور صحابیات کے تذکرے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیٹیوں کے تذکرے بھی ہیں اور کچھ صحابیات کو دیکھ کر ایمان لانے والیوں کے تذکرے ہیں۔

طبقات ابن سعد کو ہماری ابتدائی تاریخ اور بزرگ صحابہ و تابعین کے احوال میں قدیم ترین مآخذ کا مقام حاصل ہے اور پیش نظر جلد اسی کتاب کی آخری جلد ہے۔ ہم اسے اس نیت اور یقین کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان خاتون اسے پڑھے گی اور دیانت داری کے ساتھ اپنی زندگی کا مقابلہ ان اللہ والیوں کی زندگی سے کر کے دیکھے گی کہ اسے ان مقدس صلحائت سے کیا نسبت روحانی ہے؟

میں بارگاہ رب العزت میں شکر یہ کہ ساتھ سر بسجود ہوں کہ اس نے مجھ جیسے نااہل کو یہ توفیق بخشی کہ اتنی گراں بہا کتاب اور آٹھ حصوں پر مشتمل طبقات ابن سعد کا یہ آخری حصہ ایسے زمانے میں پیش کیا جا رہا ہے جبکہ المیہ مشرقی پاکستان سے ہر پاکستانی کا دل و دماغ مجروح ہے اور ہم پھر نئے عزم اور نئے ولولے سے پاکستان کی تعمیر نو میں مشغول ہیں ان حالات میں صلحائت و صحابیات کی پیش کش خواتین پاکستان کے ارادوں میں عزم و استقلال کی ایک نئی روح پھونک دے گی۔ اس کتاب کی تکمیل میں جن دوستوں نے پیشگی خریداری قبول کر کے میری ہمت افزائی کی ہے ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔

میرے بھائی عبدالستار نے جس اخلاص و محبت سے طبقات ابن سعد کی اشاعت میں میری جو اعانت فرمائی ہے اس کے شکر یہ کے لیے میں الفاظ نہیں پاتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اس نیک کام میں تعاون کا اجر دے۔ آمین!

وما توفیقی الا باللہ



رسول اللہ ﷺ نے خواتین اسلام سے کن باتوں پر بیعت لی؟

اور

بیعت کا طریقہ

محمد بیٹ عبد اللہ بن ادریس اودی از حصین بن عبد الرحمن از عامر شعمی: نبی ﷺ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر خواتین سے بیعت لی۔

باخبار و کعب بن جراح از سفیان از منصور از ابراہیم: نبی ﷺ نے خواتین سے کپڑے کے پیچھے سے بیعت لی۔
باخبار و ہب بن جریر بن حازم محمد بیٹ شعبہ از مغیرہ از شعمی: جب رسول اللہ ﷺ نے خواتین سے بیعت لی تو اپنے دست مبارک پر قطری چادر رکھ لی (یعنی ہاتھ چادر میں لپیٹ لیا) پھر ان سے بیعت لی، اکثر راویوں کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا: میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔

باخبار سفیان بن عیینہ از زہری از عروہ: نبی ﷺ بیعت کے وقت عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے (یعنی خواتین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا کرتے تھے)۔

باخبار معن بن عیسیٰ باخبار مالک بن انس از محمد بن منکدر از امیہ بنت رقیقہ: میں عورتوں کے ساتھ جو رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرنے کے لیے آئی تھیں، آئی، ہم نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ سے ان باتوں پر بیعت کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی نہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ ہم کسی پر الزام لگائیں گی (بہتان باندھیں گی) اور نہ ہم ایتھے کاموں میں آپ کی نافرمانی کریں گی، فرمایا: جہاں تک مقدور ممکن ہوگا (اور کہہ لو) فرماتی ہیں: ہم نے کہا: ہم سے زیادہ رسول اللہ ﷺ ہم پر شفیق و مہربان ہیں یا رسول اللہ! آئیے ہم آپ سے بیعت کر لیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ میرا ایک عورت سے قول سو عورتوں سے قول کی طرح ہے۔

باخبار و کعب بن جراح و فضل بن دیکین و محمد بن عبد اللہ اسدی: محمد بیٹ سفیان ثوری از محمد بن منکدر از باخبار امیہ بنت رقیقہ: میں ان عورتوں کے ساتھ جو رسول اللہ ﷺ کے پاس بیعت کرنے آئی تھیں، آئی، آپ نے وہی شرطیں متعین فرمائیں جو قرآن پاک میں ہیں کہ نہ چوری کرنا، نہ زنا کرنا، نہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، اور نہ کسی پر بہتان باندھنا، پھر فرمایا: جہاں تک ممکن و مقدور ہو، میں بولی: رسول اللہ ﷺ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں۔ ہم نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ہم سے مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا: میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ میرا ایک عورت سے قول سو عورتوں سے قول کی طرح ہے۔

باخبار معن بن عیسیٰ باخبار مالک بن انس از ہشام بن عروہ از عروہ از صدیقہ: نبی ﷺ نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔
باخبار عبداللہ بن موسیٰ باخبار اسرائیل از منصور از ابراہیم: نبی ﷺ اس حال میں عورتوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے ہاتھ پر کپڑا ہوتا تھا۔

باخبار وکیع بن جراح و یعلیٰ بن عبید و ابن نمیر باخبار اسماعیل بن ابی خالد از قیس بن ابی حازم: جب خواتین نبی ﷺ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ پر چادر پھیلا لی اور ان سے چادر کے پیچھے سے بیعت کی، کچھ خواتین شرطوں سے خوفزدہ ہو کر بلا بیعت کے واپس ہو گئیں، آپ نے شرطوں کو قبول کرنے والی خواتین سے چادر کے پیچھے سے بیعت کی اور فرمایا: جنت میں تم میں سے تھوڑی جائیں گی (آپ نے انگلیاں سمیٹ کر قلت کی طرف اشارہ کیا)۔

باخبار وکیع بن جراح از عبدالحمید بن بہرام از شہر بن حوشب از اسماء بنت یزید: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔

باخبار فضل بن دکین باخبار اسماعیل بن شیط عامری بسماح شہر بن حوشب بقول اسماء: میں ان عورتوں کے ساتھ جو رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرنے آئی تھیں، آئی رسول اللہ ﷺ ہمارے سامنے تشریف لائے، میری چچا زاد بہن نے آپ سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا ان کے ہاتھ میں سونے کے گنگن اور سونے کی انگوٹھیاں تھیں آپ نے اپنا ہاتھ سکیڑ کر فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔
باخبار فضل بن دکین، متحد بیث قیس بن جابر از شیخ احمسی از طارق بن تمیمی: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، آپ دھوپ میں تشریف فرما تھے اور ایک زرد کپڑا زیب بدن تھا جس سے آپ نے سر ڈھانپ رکھا تھا پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے کسی حجرے کے پاس بچنے تو اس میں چھ خواتین تھیں آپ نے انہیں سلام کیا اور ہاتھ پر ایک زرد کپڑا لپیٹ کر ان سے بیعت کی۔

باخبار ابوالولید ہشام بن عبدالملک طیالسی و یحییٰ بن حماد، متحد بیث ابویعقوب، اہلق بن عثمان، متحد بیث اسماعیل بن عبدالرحمن بن عطیہ اپنی دادی ام عطیہ سے: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خواتین انصار ایک گھر میں جمع ہوئیں پھر آپ نے ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا فرماتی ہیں: عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہمیں سلام کیا، ہم نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کا ایک پیغامبر ہوں جسے آپ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، ہم نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے پیغامبر کو خوش آمدید کہتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم ان شرطوں کے ساتھ بیعت کرتی ہو؟ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کروگی، نہ چوری کروگی، نہ زنا کروگی، نہ اپنی اولاد کو قتل کروگی اور نہ کسی پر بہتان باندھوگی؟ بولیں: ہاں ہاں، فرماتی ہیں: پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کے باہر سے ہاتھ بڑھا دیا اور ہم نے گھر کے اندر سے ہاتھ بڑھائے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ! گواہ رہ! فرماتی ہیں: اور آپ نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم عید و بقر عید کے دن اپنے ساتھ جوان اور حیض والی عورتوں کو بھی عید گاہ ساتھ لیتی جائیں اور یہ بھی کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں اور آپ نے ہمیں جنازے کے پیچھے جانے سے روک دیا۔ اسماعیل فرماتے ہیں: میں نے اپنی دادی سے پوچھا: یہ جو آپ نے فرمایا کہ عورتیں نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: آپ نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔

باخبار عبداللہ بن مسلمہ بن قعب بن اخبار حجاج بن صفوان مدینی از اسید بن ابی اسید براد ایک بیعت کرنے والی خاتون سے: رسول اللہ ﷺ نے ہم سے جو عہد لیا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ ہم نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی یعنی چہرہ نہ کھر چھیں گی اگر بیان نہ پھاڑیں گی بال نہ کھیریں گی اور شور و غل اور واویلا نہ کریں گی۔

باخبار یعقوب بن ابراہیم بن سعد زہری از ابراہیم بن سعد از صالح بن کیسان از حارث بن فضیل انصاری بحديث ابن شہاب بقول عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم: رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا: کیا تم مجھ سے ان باتوں پر بیعت نہ کرو گے جن پر عورتوں نے بیعت کی ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، کسی پر بہتان نہ باندھو گے اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہ کرو گے ہم نے کہا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! چنانچہ ہم نے ان باتوں پر آپ سے بیعت کی، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اس بیعت کے بعد کسی نے کوئی گناہ کیا اور اسے سزا مل گئی (یعنی حد جاری کر دی گئی) تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی اور جسے سزا نہیں ملی اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے خواہ وہ اسے معاف فرمادے یا اس پر اسے سزا دے۔

باخبار فضل بن دکین، محمد بن یزید شیبانی، اسماعیل بن شہر بن حوشب، محمد بن یزید بن عمار، ام سلمہ انصاریہ یہ ان خواتین میں شامل تھیں جن سے رسول اللہ ﷺ نے چند باتوں پر بیعت لی تھی ان کے ساتھ ان کی خالہ جان بھی تھیں یہ رسول اللہ ﷺ سے کئی حدیثیں روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں: ایک خاتون نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ معروف کیا ہے جس میں آپ کی نافرمانی ہمارے لائق نہیں؟ فرمایا: نوحہ نہ کرنا۔

باخبار عارم بن فضل باخبار حماد بن زید از ایوب از حفصہ بنت سیرین از ام عطیہ: رسول اللہ ﷺ نے بیعت کے وقت ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم نوحہ نہ کریں، چنانچہ بجز پانچ خواتین کے کسی نے بھی عہد پورا نہیں کیا، وہ پانچ ام سلیم، ام العلاء بنت ابی سہرہ زوجہ معاذ، ام معاذ اور ایک اور خاتون ہیں۔

باخبار عفان بن مسلم، باخبار عمرو بن فروخ، باخبار مصعب بن نوح: ہم نے اپنی ایک بوڑھی عورت کو پایا، آپ ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تھی اور یہ بھی آپ سے بیعت کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئی تھیں فرماتی ہیں: منجملہ دیگر باتوں کے ایک یہ بات بھی تھی کہ نوحہ نہ کرنا، ایک بڑی بی بولیں: یا رسول اللہ! لوگوں نے ایک مصیبت میں جس کا میں شکار ہو گئی تھی، میرا ساتھ دیا تھا اب وہ مصیبت کا شکار ہیں، میں ان کا ساتھ دینا چاہتی ہوں، فرمایا: جاؤ اور ان کا ساتھ دو چنانچہ میں گئی اور فارغ ہو کر پھر آئی اور آپ سے بیعت کی فرماتی ہیں: یہی وہ معروف ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ (وہ معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں)۔

باخبار سعید بن منصور، باخبار جریر از منصور از سالم بن ابی الجعد از ابوالفتح ہذلی: ایک خاتون نبی ﷺ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں آپ نے انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی پھر جب آپ نے فرمایا (عورتیں نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں تو آپ نے فرمایا تم نوحہ نہ کرنا، وہ بولیں: یا رسول اللہ! ایک عورت نے میرا ساتھ دیا ہے، کیا میں اس کا بدلہ اتاروں؟ رسول اللہ ﷺ نے توقف فرمایا حتیٰ کہ انہوں نے یہ بات دو تین بار پوچھی آخر کار آپ نے انہیں رخصت نہیں دی، پھر انہوں نے اقرار کر لیا، آپ نے اس

سے بیعت کر لی۔

باخبار معلى بن اسد عقی سجد بیٹ وہیب از یوب از بکر بن عبداللہ: رسول اللہ ﷺ نے بیعت میں عورتوں سے اقرار کر لیا کہ گریبان نہ پھاڑیں گی اور شور و غل اور او ویلانہ کریں گی اور چہرہ نہ نوحیں گی اور یہودہ باتیں نہ کہیں گی۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ باخبار عمرو بن ابی زائدہ بسام از شعبی: جب عورتوں نے بیعت کا ارادہ کیا تو ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی (ہند بولیں: بے شک ہم اس کا اقرار کرتی ہیں) اور چوری نہ کرو گی (ہند بولیں: کبھی کبھی میں ابوسفیان کا کچھ مال چوری چھپے لے لیا کرتی ہوں) ابوسفیان بولے: تم نے میرے مال میں سے جو مال چوری لے لیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور نہ زنا کرو گی (ہند بولیں: کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟) اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی (ہند بولیں: آپ نے انہیں قتل کیا)۔

باخبار عبداللہ بن جعفر رقی باخبار ابوالیح از میمون بن مہران: چند خواتین حاضر خدمت رسالت ہوئیں ان میں ایک خاتون ہند بنت عتبہ بن ربیعہ (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ) بھی تھیں یہ عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئی تھیں پھر جب آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور نہ چوری کرنا تو ہند نے کہا: یا رسول اللہ! ابوسفیان خلیل آدمی ہیں اگر میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے غلہ میں سے کچھ لے لوں تو کیا مجھ پر گناہ ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے تازہ کھجوروں میں انہیں رخصت دے دی، خشک کھجوروں میں نہیں دی، فرمایا: اور نہ زنا کرنا، ہند بولیں: کیا آزاد (شریف) عورت بھی زنا کرتی ہے؟ فرمایا: اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، بولیں: آپ نے جنگ بدر کے موقع پر ہمارے کسی بچہ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ فرمایا: اور اچھے کام میں عورتیں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ میمون فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نبی کی اطاعت نیک کاموں ہی میں فرض فرمائی ہے اور معروف اللہ کی اطاعت ہے۔

باخبار یعلیٰ و محمد پسران عبید اللہ شیبانی: متحد بیٹ محمد بن اسحق از شخصے از انصار اپنی والدہ سلمی بنت قیس سے: میں بھی انصار خواتین کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، آپ نے ہم سے یہ عہد بھی لیا کہ اپنے شوہروں کو دھوکا نہ دینا، فرماتی ہیں پھر جب ہم واپس لوٹ آئیں تو ہم نے سوچا کاش ہم رسول اللہ ﷺ سے یہ پوچھ لیتے کہ شوہروں کو دھوکا دینا کیا ہے؟ فرمایا: شوہروں کو دھوکا دینا یہ ہے کہ غیر شوہر سے محبت کرو اور شوہر کا مال اسے ہدیہ میں دو۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار حماد بن زید از عطاء خزاسانی: رسول اللہ ﷺ نے عورتوں سے ایک عہد یہ بھی لیا تھا کہ نوحہ نہ کریں اور خلوت میں مردوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔

باخبار وکیع بن جراح از ابوالاشہب و مبارک از حسن: جب نبی ﷺ نے عورتوں سے بیعت کی تو ان سے یہ عہد بھی لیا کہ صرف حرم کے ساتھ باتیں کریں۔

باخبار فضل بن وکیع: متحد بیٹ ضبابی بن عمرو: ہم کسی بیماری میں حسن بھری کی بیمار پرسی کے لیے گئے آپ نے کہا جب عورتوں سے بیعت کی آیت اتری تو رسول اللہ ﷺ نے عورتوں سے بیعت لی اور ان سے یہ شرط بھی کی کہ مردوں سے باتیں نہ

کریں اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

باخبر محمد بن فضل از ولید بن جمیع از ابوسلمہ بن عبدالرحمن: اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں مکہ معظمہ آتے تو دونوں بنت ثابت کے گھر ٹھہرا کرتے تھے بنت ثابت ان سات عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے مکہ میں رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تھی۔

باخبر فضل بن دکین، متحد بیٹ عبدالسلام بن حرب از یونس بن عبید از زیاد بن جبیر از سعد: جب رسول اللہ ﷺ نے عورتوں سے بیعت کی تو آپ کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی گویا وہ مضری خاتون ہے اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! چونکہ ہم اپنے باپوں، شوہروں اور بیٹوں پر بوجھ ہیں لہذا ہمارے لیے ان کا کس قدر مال حلال ہے؟ فرمایا تازہ کھجوریں جن کو تم کھا سکتی ہو اور ہدیہ کے طور پر بھی بھیج سکتی ہو۔

باخبر فضل بن دکین، متحد بیٹ سفیان بن عیینہ از عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین از شہر بن حوشب از اسماء بنت یزید: نبی ﷺ تشریف لائے میں بھی عورتوں میں تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ہم نے آپ کو آپ کے سلام کا جواب دیا۔

باخبر محمد بن عمر، متحد بیٹ یعقوب بن محمد بن عبدالرحمن از عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی صعصعہ بقول ام عمارہ: بیعت عقبہ کے دن لوگ رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا معاملہ کر رہے تھے اور عباس بن عبدالمطلب رسول اللہ ﷺ کا دست مبارک چکڑے ہوئے تھے پھر جب میں اور ام منیع باقی رہ گئیں تو میرے شوہر عرفہ بن عمرو نے بلند آواز سے کہا: یا رسول اللہ! یہ دو عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئی ہیں فرمایا میں نے جن شرطوں پر تم سے بیعت کی ہے انہیں شرطوں پر ان سے بیعت کی۔ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا فرماتی ہیں: پھر ہم اپنے مردوں کی طرف لوٹ آئیں، راہ میں ہمیں ہماری قوم کے دو آدمی (سلیط بن عمرو اور ابوداؤد مازنی) ملے جو آپ سے بیعت کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیعت کر چکے ہیں سب سے پیچھے اسعد بن زرارہ نے بیعت کی آپ عقبہ والی رات میں ستر بیعت کرنے والوں کے سردار تھے۔

باخبر عبدالعزیز بن خطاب، متحد بیٹ نائلہ کوفیہ، ابوالعزیز ارکی آزاد کردہ لوڈی ازام عاصم از سوداء: میں بیعت کرنے کے لیے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی فرمایا خضاب کر کے (مہندی لگا کر) آؤ چنانچہ میں خضاب کر کے آئی، پھر آپ نے مجھ سے بیعت کی۔

باخبر اسماعیل بن ابان وراق، متحد بیٹ نائلہ ازام عاصم از سوداء: میں بیعت کرنے کے لیے حاضر دربار رسالت ہوئی فرمایا جا کر خضاب کرو پھر آؤ میں تم سے بیعت کر لوں گا۔

باخبر محمد بن عمر، متحد بیٹ اسامہ بن زید لیشی از عمرو بن شعیب از ابیہ از جدہ: جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمان خواتین نے آپ سے ملاقات کی اور عرض کی کہ ہمارے مردوں نے آپ سے بیعت کر لی ہے ہم بھی آپ سے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں فرماتی ہیں پھر آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوا لیا اور اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیا، پھر آپ نے وہ پیالہ ایک ایک عورت کو دیا آپ نے ان سے اسی طرح بیعت کی۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث سفیان بن عیینہ از ابن ابی حصین از شہر بن حوشب از اسماء بنت یزید: ہم نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی آپ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کریں نہ چوری کریں نہ زنا کریں اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں اور فرمایا: میں تم سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تم سے اقرار کر لیا ہے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث اسامہ بن یزید از داؤد بن حصین از ابوسفیان ابن ابی احمد کے آزاد کردہ غلام بسماع ام عامر اشہلیہ: میں اور لیلیٰ بنت حطیم اور حواء بنت یزید بن سکین بن کرز بن زوراء مغرب کے بعد اپنی اپنی چادریں اوڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے میرا نسب پوچھا میں نے اپنا نسب بتایا اور میری دونوں سہیلیوں کا نسب بھی پوچھا ان دونوں نے اپنا اپنا نسب بتایا آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا اور پوچھا: کیا کام ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم اسلام پر آپ سے بیعت کرنے آئی ہیں کیونکہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتی ہیں اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے بحق تسلیم کرتی ہیں فرمایا: الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی ہدایت فرمائی پھر فرمایا: میں نے تم سے بیعت کر لی ام عامر کہتی ہیں میں آپ کے قریب گئی تو آپ نے فرمایا: میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا میرا ہزار عورتوں سے قول ایک عورت سے قول کی طرح ہے ام عامر فرمایا کرتی تھیں: ہم نے سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابی حبیبہ از عاصم بن عمر بن قتادہ: جن خواتین نے نبی ﷺ سے سب سے پہلے بیعت کی وہ ام سعد بن معاذ، کبشہ بنت رافع بن عبید اور ام عامر بنت یزید بن سکین اور حواء بنت یزید بن سکین ہیں اولاد ظفر میں سے لیلیٰ بنت حطیم ہیں اور بنو عمرو بن عوف میں سے لیلیٰ، مریم اور تیمہ دختران ابوالبنات ابوسفیان جو احد میں شہید ہوئے ہیں اور شوس بنت ابو عامر راہب اور ان کی بیٹی جمیلہ بنت ثابت بن ابی الالاح اور طیبہ بنت نعمان بن ثابت بن ابی الالاح ہیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث محمد بن عبد اللہ (زہری کے بھتیجے) از زہری: میں عمرو بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ہمیرہ ولید بن عبد الملک کے وزیر کے کاتب تھے انہوں نے تحریر کے ذریعہ عروہ سے اس آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ یعنی اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن خواتین آئیں تو انہیں آزماؤ آخر آیت تک) کا مطلب پوچھا آپ نے انہیں لکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے دن قریش سے اس شرط پر صلح کر لی تھی کہ ان میں سے جو اپنے ولی کے بغیر مدینہ آئے گی یا آئے گا تو آپ انہیں قریش ہی کو لوٹادیں گے چنانچہ اس شرط کے بموجب آپ مردوں کو لوٹاتے رہے لیکن جب ہجرت کر کے عورتیں آئیں اور ان کا امتحان لینے کے بعد اسلام بھی ثابت ہوا تو اللہ نے انہیں لوٹانے کی اجازت نہیں دی اور نبی ﷺ کو حکم دیا کہ جب یہ خواتین مشرکوں سے روک لی گئیں تو مسلمان مشرکوں کو ان کے مہر ادا کر دیں اگر مشرک بھی ایسا ہی کریں اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَاسْتَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ﴾ یعنی تم نے ان پر جو کچھ خرچ کیا ہے وہ کافروں سے لے لو۔

اس عرصہ میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط مسلمان ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے سرکار رسالت کی خدمت میں حاضر ہوئیں پھر ان کے دو بھائی انہیں شرط کے بموجب واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچے اور آپ سے ان کا مطالبہ کیا لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ ام کلثوم کو بھیجنے سے انکار فرمادیا آخر کار دونوں ناامید ہو کر مکہ واپس چلے گئے اور قریش کو خبر کر دی پھر قریش نے ام کلثوم

کولانے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا اور عورتوں کے روکے جانے کو تسلیم کر لیا، پھر فرمایا اور کافروں کو بھی اپنے اخراجات کا مسلمانوں سے مطالبہ کرنا چاہئے مسلمانو! یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ تم کو یہی حکم فرما رہا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ نہ لگے اور کافروں سے مل جائے پھر تم بدلہ کا موقعہ پاؤ تو تم انہیں ان کے خرچ کے برابر دوجن کی بیویاں چلی گئی ہیں اور تم اللہ سے ڈر جاؤ جس پر تمہارا ایمان ہے یعنی اگر تمہاری کوئی بیوی مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی جائے تو اگر ان کی کوئی عورت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آجائے پھر تم کو غنیمت یا مال نے ملے تو اس مال میں سے تم اس عورت کا جو تمہارے پاس آگئی ہے اپنی عورت کے مہر کے عوض مہر ادا کر دو یہ فیصلہ مومنوں نے تو مان لیا، لیکن مشرکوں نے اسے نہ مانا، مسلمانوں کے پاس مشرکوں کی جس قدر بیویاں مسلمان ہو کر آگئی ہیں اور ان کا مہر ابھی مسلمانوں نے کافروں کو ادا نہیں کیا تو کافروں کو اتنا مال دے دو جتنا مال انہوں نے مسلمانوں کو ان کی بیویوں کے سلسلہ میں دیا ہے، ہمیں کوئی مسلمان عورت ایسی معلوم نہیں جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی گئی ہو لیکن اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر بالفرض ایسا ہو تو ایسا کرو، پھر فرمایا کافر عورتوں کی نوا میں پر قبضہ نہ کرو اس سے غیر اہل کتاب کی عورتیں مراد ہیں اس حکم کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملکہ بنت ابوامیہ لیسٹی ام عبید اللہ بن عمر کو طلاق دے دی جن سے بعد میں معاویہ بن ابی سفیان نے نکاح کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنت جردان خزاعیہ کو بھی طلاق دے دی جن سے ابوہم بن حذیفہ نے نکاح کر لیا اور عیاض بن غنم فہری نے اس دن ام الحکم بنت ابی سفیان بن حرب کو طلاق دی جن سے عبداللہ بن عثمان ثقفی نے نکاح کر لیا اور عبدالرحمن بن ام الحکم پیدا ہوئے۔

باخبار عبداللہ بن عمر، باخبار سفیان از ابیہ از عکرمہ (قامتحتونہن کی تفسیر میں) امتحان کی صورت یہ ہے کہ آنے والی خاتون سے اقرار کرایا جائے کہ اسے اللہ کی اور اللہ کے رسول ﷺ کی محبت ہی لائی ہے کسی شخص کی محبت نہیں لائی اور نہ وہ اپنے شوہر سے بھاگ کر آئی ہے۔



مسلمان، مہاجر اور بیعت کرنے والی قرشی اور انصاری عورتوں کے اسمائے گرامی اور دیگر خواتین عرب:

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حسب و نسب اور رسول اللہ ﷺ

سے نکاح

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب:

آپ خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی صاحبزادی ہیں۔ باخبار ہشام بن محمد بن سائب کلبی از محمد بن سائب کلبی از ابوصالح از ابن عباس: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ ہیں آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت زائدہ بن اصم بن ہرم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہم بن مالک ہیں اور فاطمہ کی والدہ ہالہ بنت عبد مناف بن حارث بن معقد بن عمرو بن ہصیص بن کعب لؤی اور قلابہ کی والدہ عاتکہ بنت عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب لؤی بن غالب ہیں اور عاتکہ کی والدہ عطیاء بنت لعینی ریطہ بنت کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب اور ریطہ کی والدہ ناکلہ بنت حدافہ بن جح بن عمرو بن ہصیص بن کعب لؤی بن غالب بن فہر بن مالک ہیں۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح:

نکاح سے قبل خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ورقہ بن نوفل سے کیا گیا لیکن آپ کا ورقہ سے نکاح نہیں ہوا اور آپ کا سب سے پہلا نکاح ابو ہالہ ہند بن نباش بن زرارہ بن وقدان بن حبیب بن سلامہ بن غوی بن جرہہ بن اسید بن عمرو بن تمیم سے ہوا آپ کے والد (خویلد) اپنی قوم میں شریف و معزز تھے آپ مکہ میں آئے تھے اور بنو عبد الدار بن قصی کے حلیف بن گئے تھے اور قریش اپنے حلفاء سے شادی بیاہ کا معاملہ کر لیا کرتے تھے ابو ہالہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ہند پیدا ہوئے ہالہ بھی مرد ہی تھے پھر ابو ہالہ کے بعد آپ کا نکاح عتیق بن عابد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم سے ہوا ان سے آپ کے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تجویز کیا گیا پھر آپ سے صفی بن امیہ بن عابد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم آپ کے چچا زاد بھائی نے نکاح کر لیا ان سے آپ کے یہاں ایک لڑکا محمد پیدا ہوا۔ اسی محمد کی اولاد کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عالی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اولاد طاہرہ کہا جاتا ہے مدینہ میں ان کی نسل اور اولاد باقی تھی پھر ختم ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام ہند کی کنیت سے پکاری جاتی تھیں۔ باخبار محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن ابی الزناد از ابیہ از عروۃ از عائشہ: خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام ہند تھی۔

باخبار محمد بن عمر باخبار مغیرہ بن عبد الرحمن اسدی اپنے گھر والوں سے: ہم نے حکیم بن خزام سے پوچھا: نبی ﷺ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا میں کون بڑا تھا؟ فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ سے ۱۵ سال بڑی تھیں رسول اللہ ﷺ کی پیدائش سے پہلے میری پھوپھی پر نماز حرام ہو گئی تھی (یعنی انہیں حیض آنے لگا تھا) انہوں نے مسلمانوں کی اصطلاح و زبان میں بات کی۔

باخبار علی بن محمد بن عبد اللہ قرشی از ابو عمرو مدینی باخبار طلحہ بن عبد اللہ تمیمی از ابو البختری خزاعی و ابو الزبیر از سعید بن جبیر از

ابن عباس: مکہ کی عورتیں عید کے دن جو رجب میں آتی تھی حج ہوئیں اور عید کے احترام میں ہر رسم بجالائیں، جب یہ خواتین ایک بت کے پاس بیٹھی ہوئی پوجا کر رہی تھیں کہ اچانک ان کے سامنے ایک شخص مرد کی صورت و ہیبت میں ان کے سامنے ظاہر ہوا حتیٰ کہ ان کے قریب آیا اور اس نے بلند آواز سے اعلان کیا: اے خواتین تماء، عنقریب تمہارے شہر میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جسے احمد کے نام سے پکارا جائے گا، انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے معبوث کیا جائے گا، لہذا جو خاتون ان کی زوجیت کی سعادت حاصل کر سکے ضرور حاصل کر لے۔ خواتین نے اس پر کنکریاں پھینکیں اور اس کی مذمت کی اور اسے سخت ست کہا لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کی بات سن کر نیچی نگاہ کر لی اور عورتوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کا جو معاملہ کیا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایسا نہیں کیا۔

باخبار محمد بن عمر از موسیٰ بن شیبہ از عمیرہ بنت عبید اللہ بن کعب بن مالک از ام سعد بنت سعد بن ربیع از نفیثہ بنت امیہ بمشیرہ یعلیٰ بن امیہ: خدیجہ الکبریٰ ایک معزز و شریف بڑی دولت مند اور تاجرہ خاتون تھیں آپ ملک شام مال تجارت بھیجا کرتی تھیں عوام قریش کے اونٹوں پر جس قدر مال ہوتا تھا اسی قدر ان کے تہا اونٹوں پر ہوتا تھا آپ مردوں سے تجارت کرایا کرتی تھیں سرمایہ آپ کا ہوتا تھا اور فتح میں آپ اور آپ کا شریک مرد دونوں برابر کے حصہ دار ہوتے تھے۔ جب رحمت عالم ﷺ پچیس سال کے ہوئے جب کہ آپ کو مکہ والے امین ہی کے لقب سے پکارا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے غلام میسرہ کے ساتھ میرا تجارتی مال ملک شام لے جا کر فروخت کریں میں جو کچھ آج تک اپنے شرکاء کو دیتی آئی ہوں اس سے دگنا آپ کی خدمت میں پیش کروں گی رسول اللہ ﷺ نے آپ کی درخواست منظور کر لی اور آپ ﷺ آپ کا مال تجارت لے کر بصرہ کی منڈی پہنچ گئے اور وہاں تمام سامان فروخت کر دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خرید کر واپس لوٹے اس دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دگنا فائدہ ہوا اور آپ نے رحمت عالم ﷺ کی خدمت میں مقررہ مال سے دگنا پیش کیا، نفیثہ فرماتی ہیں: اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بیچ والی بنا کر آپ سے نکاح کی درخواست پیش کی جو آپ نے منظور کر لی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا جان عمرو بن اسد بن عبد العزیٰ کو بلا بھیجا، عمرو آگئے اور رسول اللہ ﷺ اپنے چچا کے پاس چلے گئے اور آپ کے کسی چچا نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ اس سلسلہ میں عمرو نے کہا: نکاح باعث عار نہیں کہ اس سے ناک کئے، رحمت عالم ﷺ نے شام سے واپس آ کر پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے قاسم اور عبد اللہ (ظاہر اور طیب) پیدا ہوئے، ان کے یہ نام اس لیے تجویز ہوئے کہ یہ اسلام میں پیدا ہوئے اور بچوں میں زینب رقیۃ ام کلثوم اور فاطمہ پیدا ہوئیں، دالی سلمیٰ عقبہ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں اور بچوں کی پیدائش سے قبل ہی دودھ پلانے والی عورتوں کو یہی تلاش کر کے لاتی تھیں اور ہر دو بچوں کے درمیان ایک سال کا وقفہ ہوتا تھا۔

باخبار محمد بن عمر باخبار محمد بن عبد اللہ بن مسلم از محمد از جبیر بن مطعم و متحد بیث ابن ابی الزناد از ہشام بن عروہ از عائشہ و متحد بیث ابن ابی حبیبہ از داؤد بن حصین از عکرمہ از ابن عباس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ ﷺ سے کرایا کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد جنگ فجار میں کام آگئے تھے محمد بن عمر فرماتے ہیں: اس پر ہمارے اصحاب کا اجماع ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔

باخبار ہشام بن محمد بن سائب از محمد بن سائب از ابوصالح از ابن عباس: نبی ﷺ سے نکاح کے وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا ۲۸ سال کی تھیں آپ نے تقریباً پانچ سو درہم مہر پر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا آپ کی تمام بیویوں کے اسی قدر مہر باندھے گئے محمد بن عمر اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہمارا اور ہمارے آس پاس کے علماء کا قول ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا واقعہ فیل سے ۱۵ سال قبل پیدا ہوئیں اور آپ رسول اللہ ﷺ سے نکاح کے وقت چالیس سال کی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر باخبار منذر بن عبد اللہ حزامی از موسیٰ بن عقبہ از ابو حبیہ: مولیٰ زبیر بسماع حکیم بن حزام: جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ ۲۵ سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چالیس سال کی تھیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مجھ سے دو سال بڑی تھیں آپ واقعہ فیل سے ۱۸ سال قبل پیدا ہوئی تھیں اور میری ولادت ۱۳ سال قبل ہوئی تھی۔

باخبار محمد بن عمر بحديث معمر از زہری از عروہ از صدیقہ: خواتین میں سب سے پہلے مشرف بہ اسلام ہونے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ باخبار محمد بن عمر از ابن ابی الذئب از زہری رسول اللہ ﷺ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں چھپ کر نماز پڑھتے رہے جب تک اللہ کی اس سلسلہ میں مشیت رہی۔

باخبار یحییٰ بن فرات قزاز بحديث سعید بن شمیم ہلالی از اسد بن عبیدہ بجلی از ابن یحییٰ بن عقیف از عقیف کنذی: میں مکہ میں اپنی بیوی کے لیے کپڑے اور عطر خریدنے کے لیے آیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرا فرماتے ہیں: میں ان کے گھر سے بیت اللہ کو دیکھ رہا تھا سورج کے ارد گرد حلقہ تھا اور وہ بلند ہو گیا تھا اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے اور کعبہ اقدس کے قریب جا کر آسمان کی طرف اپنا سراٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے پھر کھڑے کھڑے قبلہ رخ ہو کر نیت باندھ لیتا ہے حتیٰ کہ ایک بچہ آ کر آپ کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آ کر دونوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں پھر یہ نوجوان رکوع کرتا ہے اور وہ بچہ اور خاتون بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں پھر وہ نوجوان سراٹھاتا ہے اور وہ بچہ اور وہ خاتون بھی رکوع سے سراٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ نوجوان سجدہ میں گر جاتا ہے اور وہ دونوں بھی سجدے میں گر جاتے ہیں فرماتے ہیں میں بولا: عباس! میں ایک بڑی بات دیکھ رہا ہوں عباس: بڑی بات کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ میں بولا: نہیں مجھے معلوم نہیں بولے: یہ میرے بھتیجے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں کیا تم اس بچہ کو جانتے ہو؟ میں بولا: نہیں فرمایا: یہ میرے بھتیجے علی بن ابوطالب بن عبد المطلب ہیں کیا تم اس خاتون کو پہچانتے ہو؟ میں بولا: نہیں فرمایا: یہ میرے اس بھتیجے کی اہلیہ خدیجہ بنت خویلد ہیں میرے اس بھتیجے کا جو تمہارے سامنے ہیں خیال ہے کہ ان کے پروردگار نے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے انہیں اس دین کا حکم فرمایا ہے اس لیے وہ اس پر قائم ہیں اللہ کی قسم میرے علم میں روئے زمین پر اس دین کو (اس وقت) ماننے والے یہی تین اشخاص ہیں عقیف کہتے ہیں: اس کے بعد مجھے رہ رہ کے خیال آتا تھا کہ کاش میں چوتھا ہوتا۔

باخبار محمد بن عمر از محمد بن صالح و عبد الرحمن بن عبد العزیز: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت سے تین سال قبل دس رمضان المبارک کو ۶۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔

باخبار محمد بن عمر بحديث معمر بن راشد از زہری از عروہ از صدیقہ: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال نماز فرض ہونے سے قبل

ہجرت سے تین سال پہلے ہو گیا تھا۔

باخبر محمد بن عمر، باخبر منذر بن عبداللہ حزامی از موسیٰ بن عقبی از ابو حبیبہ: مولیٰ زبیر بسماع حکیم بن حزام: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ۶۵ سال کی عمر میں رمضان ۱۰ ہجری میں انتقال فرمایا پھر ہم آپ کا جنازہ آپ کے گھر سے لے کر نکلے اور آپ کو حجون میں دفن کیا، نبی ﷺ آپ کی قبر میں اترے اس زمانہ میں جنازے پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا، پوچھا گیا: ابو خالد! یہ کب کا واقعہ ہے؟ فرمایا تقریباً ہجرت سے تین سال قبل کا واقعہ ہے یعنی بنو ہاشم کے شعب ابوطالب سے نکلنے کے کچھ دنوں کے بعد کا، فرماتے ہیں: آپ نبی ﷺ کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ تھیں اور آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہے، ہجر حضرت ابراہیم بن ماریہ کے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام ہند تھی کیونکہ آپ کے سابق شوہر ابو صالح تمیمی سے ہند پیدا ہوئے تھے۔



رحمتِ عالم ﷺ کی صاحبزادیاں

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا:

آپ رسول اللہ ﷺ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد ہیں آپ نبوت سے پانچ سال قبل پیدا ہوئیں جس سال قریش بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔

باخبر مسلم بن ابراہیم، متحد بیٹ منذر بن ثعلبہ از علباء بن احمد یثکری، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیام ڈالا، نبی ﷺ نے فرمایا میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے عقد کے بارے میں فیصلہ الہی کا منتظر ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا پیام اور آپ کا جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے دہرایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابوبکر! یہ رسول اللہ ﷺ کا انکار ہے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم پیام ڈال کر دیکھو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیام ڈالا تو آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عمر! رسول اللہ ﷺ نے تمہیں بھی انکار فرمادیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا: تم فاطمہ رضی اللہ عنہا پر پیام ڈالو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بعد میں اپنا پیام ڈالوں؟ گھر والوں نے کہا: نبی ﷺ سے تمہاری قرابت قریب کی ہے آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیام ڈالا اور آپ نے ان کا نکاح علی سے کرادیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ اور کچھ خانگی سامان ۴۸۰ درہم میں فروخت کیا، نبی ﷺ نے فرمایا: ۲/۳ درہموں کی خوشبو خرید لو اور ۱/۳ کا دیگر سامان فراہم کر لو۔

باخبر فضل بن دکین، متحد بیٹ موسیٰ بن قیس حضرمی، بسماع حجر بن عئیس (موسیٰ فرماتے ہیں حجر نے عہد جاہلیت میں خون کھایا ہے اور آپ جنگ جمل وصفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے) حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیام ڈالا پھر نبی ﷺ نے فرمایا: علی! فاطمہ تمہارے لیے ہے، میں جھوٹا نہیں، آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ آپ نے حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پیام سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا۔

باخبر رکیج بن جراح از عباد بن منصور، بسماع عطاء: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیام لائے تو نبی ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ علی تمہارا ذکر کر رہے تھے، آپ خاموش رہیں پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ سے نکاح کرادیا۔

باخبر سفیان بن عیینہ از ابن نجیح از ابو نجیح از شخصے از علی: میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی پر پیام ڈالوں، میں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، فرمایا: کیسے؟ فرماتے ہیں پھر مجھے آپ کے بیٹے ہوئے تحائف یاد آ گئے اور میں نے پیام ڈال دیا، پوچھا: تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں بولا: نہیں، فرمایا تمہاری حطیہ زرہ کہاں گئی؟ جو فلاں فلاں دن میں نے تم کو دی تھی، میں بولا: وہ

تو میرے پاس ہے فرمایا: وہی فاطمہ کو دے دو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دی۔

باخبار یزید بن ہارون، باخبار جریر بن حازم، باخبار ایوب از عکرمہ! جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیام ڈالا تو رحمت عالم ﷺ نے پوچھا: کتنا مہر دو گئے؟ بولے: مہر میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، فرمایا تمہاری حطمیہ زرہ جو میں نے تم کو تحفہ کے طور پر دی تھی، کہاں گئی؟ بولے وہ تو میرے پاس ہے، فرمایا وہی مہر میں دے دو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ مہر میں دے دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا، عکرمہ فرماتے ہیں اس زرہ کی قیمت چار درہم تھی۔

باخبار معن بن عیسیٰ، متحد بیث جریر بن حازم از ایوب از عکرمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مہر میں ایک زرہ دی جس کی قیمت چار درہم تھی۔ باخبار معن بن عیسیٰ، متحد بیث محمد بن مسلم از عمرو بن دینار از عکرمہ: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے لوہے کی ایک زرہ پر نکاح کیا۔

باخبار و کعب بن جراح از علی بن مبارک از یحییٰ بن ابی کثیر از عکرمہ: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی چاہی تو آپ سے نبی ﷺ نے فرمایا: کچھ دو بولے میرے پاس کچھ نہیں، فرمایا: تمہاری حطمیہ زرہ کہاں گئی؟ باخبار ابو غسان مالک بن اسماعیل نہدی، متحد بیث عبدالرحمن بن حمید روا سی، متحد بیث عبدالکریم بن سلیمان از ابن بریدہ از بریدہ: کچھ انصار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: تمہارے سامنے فاطمہ ہیں، چنانچہ آپ حاضر دربار رسالت ہوئے، رحمت عالم ﷺ نے پوچھا: کیا کام ہے؟ بولے: فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کا میرے سامنے ذکر کیا گیا ہے (مجھے آپ اپنی فرزندگی میں قبول فرما لیجئے) آپ نے اس پر مسرت کا اظہار کیا اور علی کو مہر جہا و اہلہ کہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان انصار کے پاس گئے جنہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا اور نتیجہ سننے کے انتظار میں بیٹھے تھے، انصار بولے: کیا خبر لائے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: نتیجہ تو مجھے معلوم نہیں البتہ میرے پیام پر آپ نے میرا خیر مقدم ضرور فرمایا ہے، انصار بولے: تم کو رسول اللہ ﷺ کا مہر جہا کہا یا اہلہ کہا ہی کافی ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا: دولہا کے لیے ولیمہ کرنا ضروری ہے، سعد بولے: میرے پاس ایک مینڈھا ہے (میں اسے پیش کرتا ہوں) اور انصار نے جوار کے کچھ صاع جمع کر دیئے، پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وداع کر دیا گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: میرے آنے تک کچھ نہ کرنا، پھر آپ نے پانی کا برتن منگا کر وضو کیا اور وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کیا پھر وہ پانی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ڈالا اور یہ دعا کی اے اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما اور ان دونوں پر برکت نازل فرما، اور ان دونوں کی نسل کو برکت عطا فرما۔ مالک بن اسماعیل فرماتے ہیں: میرے پاس ان کا کچھ نسب ہے۔

باخبار خالد بن مخلد، متحد بیث سلیمان، متحد بیث جعفر بن محمد از محمد: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مہر میں لوہے کی ایک زرہ دی اور ایک بوسیدہ چادر دی۔ باخبار عارم بن فضل، متحد بیث حماد بن زید از ایوب از عکرمہ: نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب ان کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا: فاطمہ کو اپنی حطمیہ زرہ دے دو۔ باخبار حسن بن موسیٰ، متحد بیث زہیر از جابر از محمد بن علی: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ایک بکری کے چمڑے پر اور ایک بوسیدہ چادر پر نکاح کیا۔

باخبار و کعب بن جراح از منذر بن عقبہ از علباء بن احمر یفکری: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے

موقعہ پر اپنا ایک اونٹ ۴۸۰ درہم میں فروخت کیا، نبی ﷺ نے فرمایا اس رقم کا دو تہائی خوشبو پر صرف کرو اور ایک تہائی کپڑوں پر۔
باخباہر ابواسامہ از جالد از عامر از علی: جب میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو بجز مینڈھے کی کھال کے میرے اور ان کے لیے کوئی بشر نہ تھا ہم رات کو اسی پر سو جاتے تھے اور دن کو اس پر اونٹ کو چار رکھ دیا کرتے تھے اور ہمارے پاس کوئی خادم بھی نہ تھا۔

باخباہر محمد بن فضل از یحییٰ بن سعید از محمد بن ابراہیم: نبی ﷺ کی صاحبزادیوں کا اور ازواج مطہرات کا پانچ پانچ سو درہم مہر تھا یعنی ساڑھے بارہ اوقیہ (ایک اوقیہ ۴۰ درہم کے برابر)۔

باخباہر عبد الوہاب بن عطاء از سعید بن ابی عروبہ از ایوب از عمرہ: جب نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرایا تو آپ نے فرمایا: فاطمہ کو کچھ دو، علی بولے: یا رسول اللہ! میرے پاس کچھ نہیں، فرمایا: تمہاری ہلمیہ زرہ کہاں گئی؟

باخباہر محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن علی از محمد بن عمر بن علی: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رجب میں مدینہ میں نبی ﷺ کی آمد کے پانچ ماہ بعد نکاح کیا اور جنگ بدر سے واپس آ کر رخصتی ہوئی، رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ ۱۸ سال کی تھیں۔

باخباہر محمد بن عمر بن محمد بن ابراہیم بن شعیب از یحییٰ بن شہیل از ابو جعفر: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو آپ ابو ایوب انصاری کے مکان میں تقریباً ایک سال ٹھہرے پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا تو آپ نے علیؑ سے فرمایا: کوئی گھر تلاش کر لو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھر تلاش کر لیا اور نبی ﷺ سے کچھ دنوں کے بعد اس میں منتقل ہو کر اسی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ خلوت کی پھر رحمت عالم ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: میں تمہیں اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہؑ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ حارثہ بن نعمان سے فرمائیں کہ تم میرے پاس سے منتقل ہو جاؤ، نبی ﷺ نے فرمایا: حارثہ ہمارے پاس سے (ایک دفعہ) منتقل ہو چکے ہیں اب مجھے ان سے شرم آتی ہے کہ ان سے منتقل ہونے کو کہوں، یہ خبر حارثہ تک بھی پہنچ گئی اور آپ گھر خالی کر کے دوسری جگہ منتقل ہو گئے اور نبی ﷺ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! مجھے خبر لگی ہے کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس منتقل کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے گھر ہیں اور یہ ہونجار کے گھروں میں آپ سب سے زیادہ قریب ہیں اور میں اور میرا مال اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے یا رسول اللہ! اللہ کی قسم آپ مجھ سے جو مال لے لیں وہ مجھے اس مال سے ہجرت زیادہ پیارا ہے جسے آپ چھوڑ دیں، نبی ﷺ نے فرمایا تم سچے ہو حق تعالیٰ تم پر اپنی برکت نازل فرمائے، چنانچہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حارثہ کے گھر میں بلا لیا۔

باخباہر محمد بن اسماعیل بن ابی ندیک از محمد بن موسیٰ از عون بن محمد بن علی بن ابوطالب از ام جعفر از اسماء بنت عمیس: جب تمہاری دادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بنا سنوار کر تمہارے دادا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا تو ان دونوں کے بستر اور تکیوں میں کھجور کی چھال کا بھر اوتھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زمانہ میں سب سے بڑھیا ولیمہ کیا تھا آپ نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر اور اس

سے کچھ بچے لے کر ولیمہ کیا تھا۔

باخبار انس بن عیاض از جعفر بن محمد: جب علی نے فاطمہ سے خلوت کی تو دونوں کا بستر ایک مینڈھے کی کھال تھی جب دونوں سونا چاہتے تو اسے اپنی اون پر الٹ لیا کرتے تھے اور نکلے چڑے کے تھے جن میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی۔ باخبار عبید اللہ بن موسیٰ باخبار اسرائیل از جابر از محمد بن علی: فاطمہ کے مہر میں ایک بوسیدہ یعنی منقش چادر اور بکری کی ایک کھال تھی۔

باخبار عبد الوہاب بن عطاء از سعید بن ابی عروبہ از ابو یزید مدنی (عالم) از عکرمہ: جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرایا تو آپ کے جہیز میں تاروں سے بندھی ہوئی چار پائی اور چڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے اور چڑے کا ایک لگن اور ایک گھڑا بھی تھا لوگ مقام بطحاء میں آئے اور ان چیزوں کو گھر میں رکھ دیا نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ میرے آنے تک فاطمہ کے قریب نہ جانا یہودی دولہا کو دولہن سے چھڑائے رکھتے تھے جب فاطمہ رخصت ہو کر آگئیں تو دولہا دولہن کچھ دیر تک گھر کے ایک کونے میں بیٹھے رہے پھر رسول اللہ ﷺ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا ام ایمن دروازے کے پاس گئیں آپ نے پوچھا کیا یہاں میرے بھائی ہیں؟ ام ایمن بولیں اب علی آپ کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں آپ نے تو اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا ہے فرمایا: ہاں وہ اسی طرح ہیں پھر آپ نے پوچھا: کیا اسماء بنت عمیس ہیں؟ ام ایمن نے کہا: ہاں ہیں آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پانی منگوا پانی یا تو لگن میں لایا گیا کسی اور برتن میں رسول اللہ ﷺ نے اس میں کلی کی اور اس میں اپنا دست مبارک ڈالا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس پانی کو آپ کے کندھوں پر سینہ پر اور ہاتھوں پر ڈالا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا دیا آپ شرماتی ہوئی اور کپڑوں میں الجھتی ہوئی آئیں آپ نے حسب سابق ان پر بھی پانی ڈالا پھر ارشاد فرمایا: فاطمہ! میں نے اپنی بہترین اصل سے تمہارا نکاح کرانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔

باخبار سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی: محمد بن یحییٰ بن محمد بن سعید بن ابی عروبہ از قتادہ از سعید بن مسیب از ام ایمن: رحمت عالم ﷺ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا علی سے نکاح کرایا۔ اور آپ کو حکم فرما دیا کہ میرے آنے تک فاطمہ کے پاس نہ جائیں پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی اجازت دے دی گئی (یہودی دولہا کو دولہن سے کچھ دن چھڑائے رکھتے تھے) پوچھا کیا یہاں میرے بھائی ہیں؟ ام ایمن بولیں: یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا: علی بولیں: علی آپ کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ آپ نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کرا دیا ہے فرمایا: ام ایمن: بات یہی ہے پھر آپ نے برتن میں پانی منگوا اور اس میں اپنے دونوں ہاتھ دھوئے پھر آپ نے علی کو بلا دیا علی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے آپ نے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینہ پر اور کندھوں کے درمیان چھڑکا پھر آپ نے فاطمہ کو بلا دیا آپ بلا دوپٹہ کے لگاتی اور شرماتی ہوئی تشریف لائیں حتیٰ کہ آپ نے اس پانی میں کچھ ان پر بھی چھڑکا پھر فرمایا اللہ کی قسم میں نے اپنی بہترین آل سے تمہارا نکاح کرانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ام ایمن فرماتی ہیں: آپ نے مجھے جہیز کی تیاری پر مامور فرمایا میں نے جو جہیز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے تیار کیا اس میں ایک تکیہ بھی تھا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے اور ایک درہی تھی جو آپ کے گھر میں بچھادی گئی تھی۔

باخبار موسیٰ بن اسماعیل، متحد بیٹ دارم بن عبدالرحمن بن ثعلبہ حنفی ایک ایسے شخص سے جس کے انصار ماموں ہیں بخبر از جدہ من: میں بھی ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دلہن بنایا تھا، آپ کو دو چادریں دی گئی تھیں جو زعفران میں رنگی ہوئی تھیں اور چاندی کے دو بازو بند تھے پھر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئیں تو گھر میں چبوترے پر بکری کی ایک کھال تھی اور ایک تکیہ تھا جس میں گھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک مشکیزہ، ایک چھلی، ایک رومال اور ایک پیالہ تھا۔

باخبار سفیان بن عیینہ از عمر و از عمر مہ: علی نے لوہے کی ایک زرہ سے فاطمہ کو طلال کر لیا تھا (یعنی مہر میں لوہے کی زرہ دی تھی)۔
باخبار ہودہ بن خلیفہ، متحد بیٹ عوف از عبداللہ بن عمرو بن ہند: جس شب فاطمہ دلہن بنا کر علی کے پاس بھیجی گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے علی سے فرمایا: میرے آنے تک کوئی نئی بات نہ کرنا تھوڑی دیر کے بعد نبی ﷺ دروازہ پر پہنچ کر کھڑے ہو گئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی اور اندر تشریف لے گئے دیکھا علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دو ایک گوشہ میں ہیں آپ نے ان سے فرمایا: مجھے یقین تھا کہ تم اللہ سے اور اس کے رسول سے ڈرتے ہو پھر آپ نے پانی منگا کر مضمضہ کیا اور اس پانی میں کلی کی اور وہ پانی دولہا و دلہن دونوں کے سینوں پر چھڑکا۔

باخبار عفان بن مسلم، متحد بیٹ حماد بن سلمہ، باخبار عطاء بن سائب از سائب از علی: جب نبی ﷺ نے میرا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کر لیا تو ان کے ساتھ ایک روئیں دار چادر ایک چڑے کا تکیہ جس کے اندر گھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، دو چکیاں ایک مشکیزہ اور دو گھڑے بھیجے ایک دن علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: میں کنوئیں سے پانی کھینچتے کھینچتے اپنے سینہ میں تکلیف محسوس کرنے لگا، آپ کے والد کے پاس قیدی آئے ہیں آپ جا کر ان سے ایک قیدی مانگ لائیں چنانچہ آپ نبی ﷺ کے پاس آئیں آپ نے پوچھا: پیاری بچی کیا کام ہے؟ آپ کو خادم مانگنے سے شرم آئی اور بولیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں اور بلا سوال کے لوٹ آئیں، علی نے پوچھا: کیا کر کے آئیں بولیں مجھے سوال سے شرم آئی پھر دونوں حاضر خدمت ہوئے، علی بولے: یا رسول اللہ پانی کھینچتے کھینچتے میں اپنے سینہ میں تکلیف محسوس کرنے لگا، فاطمہ رضی اللہ عنہا بولیں: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم چکی پیتے پیتے میرے ہاتھ بھی گھس گئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیدی عطا فرما کر وسعت بخشی ہے آپ ہمیں بھی ایک خادم عطا فرمادیں، فرمایا میں اصحاب صفہ کو جو رات کو بھوکے سوتے ہیں اور میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ کر تم کو کوئی غلام نہیں دوں گا، بلکہ میں یہ غلام بیچ کر ان کی قیمت اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا، آخر کار دونوں واپس چلے گئے پھر آپ ان کے پاس رات میں پہنچے جب کہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے تھے اور ایک چادر اوڑھ لی تھی جس سے سر تو ڈھک لیے تھے مگر اوجھی ہونے کی وجہ سے پیر کھلے ہوئے تھے اور اگر پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتے تھے، نبی ﷺ کو دیکھ کر دونوں نے اٹھنا چاہا آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر قائم رہو، کیا میں تم کو غلام کے سوال سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ دونوں بیک زبان بولے: ضرور بتائیے فرمایا یہ چند کلمے ہیں جو مجھے جبرئیل نے سکھائے ہیں ہر نماز کے بعد دس دفعہ سبحان اللہ دس دفعہ الحمد للہ اور دس دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور جب سونے کے لیے لیٹو تو ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، علی فرماتے ہیں: جب سے رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ کلمے سکھائے ہیں میں نے کبھی یہ کلمے نہیں چھوڑے، آپ سے ابن کواء نے پوچھا: کیا جنگ صفین کی شب کو بھی؟ فرمایا: اے عراقیو اللہ تمہیں غارت کرے، ہاں جنگ صفین کی شب کو بھی

میں نے یہ کلمے نہیں چھوڑے۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار جریر بن حازم متحد بیٹ عمرو بن سعید: علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سختی سے پیش آتے تھے، بولیں: میں رسول اللہ ﷺ سے تمہاری شکایت کروں گی چنانچہ فاطمہ شکایت کرنے کے لیے تشریف لے گئیں، علی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور ایک ایسی جگہ ٹھہر گئے جہاں سے دونوں کی باتیں بخوبی سن سکیں، حضرت فاطمہؑ نے علی کی شدت و سنگدلی کی شکایت کی فرمایا بیماری بچی خوب غور سے سن لو اور سمجھ لو کسی ایسی عورت کی جو اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق نہ کرے کوئی سرداری نہیں، علی کہتے ہیں: پھر میں نے وہ تمام حرکتیں چھوڑ دیں جو کیا کرتا تھا اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اب کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے فاطمہؑ کے دل کو ٹھیس لگے۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ باخبار عبدالعزیز بن سیاہ از حبیب بن ابی ثابت: ایک دفعہ علی اور فاطمہ میں کچھ تو تومیں میں ہو گئی پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے، علی نے آپ کے لیے بستر بچھا دیا آپ اس پر لیٹ گئے پھر فاطمہ آئیں اور ایک طرف کولیت گئیں اور علی بھی آ کر ایک طرف کولیت گئے آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر ان کی ناف پر رکھا اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر علی کی ناف پر رکھا اور دونوں کو سمجھاتے رہے حتیٰ کہ دونوں میں صلح کرادی، پھر آپ تشریف لے آئے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایک حال پر نجدہ داخل ہوئے تھے اور جب آپ نکلے تو آپ کا چہرہ مختلف تھا، فرمایا: کیوں نہ ہو میں نے ان دو شخصوں میں جو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں صلح کرادی۔

باخبار محمد بن عمر متحد بیٹ ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ از یحییٰ بن شہل از ابو جعفر: عباس، علی کے پاس گئے، حضرت فاطمہؑ علی سے فرمانے لگیں: میں تم سے بڑی ہوں، عباس بولے: فاطمہ تم تو اس سال پیدا ہوئیں جس سال قریش کعبہ بنا رہے تھے اور نبی ﷺ ۳۵ سال کے تھے اور علی اس واقعہ سے کئی سال قبل پیدا ہوئے۔

محمد بن عمر: علی کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حسن، حسین، ام کلثوم اور زینب پانچ بچے پیدا ہوئے۔

باخبار فضل بن دین، متحد بیٹ زکریا بن ابی زائدہ از فراس از رضی از مسروق از صدیقہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اتنے میں فاطمہ آئیں گویا آپ کی چال رسول اللہ ﷺ کی سی چال تھی، آپ نے فرمایا آؤ آؤ مرحبا اور آپ نے ان کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھالیا اور ان سے کچھ آہستہ سے کہا جسے سن کر وہ رونے لگیں پھر کچھ آہستہ سے کہا اور وہ ہنسنے لگیں، فرماتی ہیں: میں نے کہا: میں نے ایسی ہنسی جو رونے سے بالکل قریب ہو کبھی نہیں دیکھی، رسول اللہ ﷺ نے خاص طور سے ایک بات تم سے کہی پھر تم رونے لگیں، میں نے ان سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ نے تم سے چپکے سے کیا بات کہی تھی؟ بولیں: میں ایسی نہیں کہ آپ کا راز کھول دوں، پھر جب رسول اللہ ﷺ انتقال فرما گئے تو میں نے پھر ان سے پوچھا، بولیں آپ نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبرئیل ایک بار میرے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے مگر اس سال دو بار پڑھا ہے میرے خیال میں میری موت قریب ہی آگئی ہے، میں تمہارے لیے بہترین راہ ہموار کرنے والا ہوں اور میری اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گئی، یہ سن کر میری آنکھیں ڈبڈبایاں پھر فرمایا: کیا تم اس سے خوش نہیں کہ تم اس امت کی یاد دنیا کی خواتین کی سردار بن کر رہو اس پر مجھے ہنسی آگئی۔

باخباہ محمد بن عمر از عبدالحکیم بن عبد اللہ بن ابی فروہ بسماع عبد الرحمن اعرج (مدینہ میں اپنی مجلس میں) رسول اللہ ﷺ نے فاطمہ اور علی کو خیبر میں جو اور کھجوروں کے تین سو و سق (سق ۶۰ صاع کے) دیئے جن میں جو ۸۵ و سق تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دو سو و سق دیئے۔

باخباہ عبد اللہ بن نمیر بن محمد بیٹا اسماعیل از عامر: جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے اور دروازہ پر آ کر اندر آنے کی اجازت مانگی، علی نے کہا: دروازہ پر ابو بکر ہیں، اگر تم چاہو تو انہیں بلاؤ، بولیں: کیا یہ بات تم کو پسند ہے؟ فرمایا: ہاں، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان کے آگے عذر پیش کیا اور ان سے باتیں کیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ سے راضی ہو گئیں۔

باخباہ ریزید بن ہارون باخباہ ابراہیم بن سعد از محمد بن اسحاق از علی بن فلاں بن ابی رافع اپنے باپ سے اور وہ سلمی سے: حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئیں، وفات والے دن علی باہر چلے گئے تو فاطمہ مجھ سے بولیں آئی جان! مجھے غسل کرادیجئے، چنانچہ میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل دل کرا چھی طرح غسل فرمایا پھر فرمایا میرے پاس میرے نئے کپڑے لے آئیے میں کپڑے لے آئی آپ نے کپڑے بدلے اور فرمایا میری چار پائی گھر کے درمیان بچھا دیجئے، میں نے حکم کی تعمیل کی پھر آپ چار پائی پر قبلہ رخ لیٹ کر بولیں: امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے لہذا کوئی میرا جسم نہ کھولے پھر آپ فوت ہو گئیں، پھر علی آئے، میں نے آپ کو آپ کی وفات کی خبر دی فرمایا اللہ کی قسم اب آپ کے جسم کا کوئی حصہ کوئی غسل کے لیے نہیں کھولے گا، پھر آپ نے ان کی نعش کو اٹھا کر دفن کر دیا نیتا غسل نہیں دیا۔

باخباہ عبد اللہ بن مسلمہ بن قعب بن محمد بن عبد العزیز بن ابی حازم از محمد بن موسیٰ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا تھا۔

باخباہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد زہری از ابراہیم بن سعد از صالح بن کیسان از ابن شہاب بن عروہ بن زبیر بن جراح صدیقہ: حضرت فاطمہ نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ رسول اللہ ﷺ جو مال نے چھوڑ گئے ہیں اس میں سے میرا حصہ دے دیا جائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ہم مورث نہیں بناتے، جاتے، ہم جو کچھ مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہو گئیں اور رحمت عالم ﷺ کی وفات کے بعد چھ ماہ بعد زندہ رہیں۔

باخباہ سفیان بن عیینہ از عمرو زہری: فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کی وفات کے بعد تین ماہ زندہ رہیں۔ باخباہ سفیان بن عیینہ از عمرو زہری: چھ ماہ زندہ رہیں۔ باخباہ محمد بن عمر بن محمد بن جریر از عمرو بن دینار از ابو جعفر: نبی ﷺ کے تین ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں۔

باخباہ محمد بن عمر بن محمد بن جریر از زہری از عروہ: فاطمہ نبی ﷺ کے ۶ ماہ بعد فوت ہوئیں۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک قابل اعتماد ہیں، آپ نے ۱۱ھ میں تقریباً ۲۹ سال کی عمر میں ۳ رمضان کو منگل کی شب کو داعی اجل کو لبیک کہا۔

باخباہ محمد بن عمر باخباہ عمر بن محمد بن عمر بن علی از محمد بن عمر بن علی از علی بن حسین از ابن عباس: فاطمہ سب سے پہلی خاتون ہیں

جن کے لیے نعش بنائی گئی۔ آپ کے لیے نعش اسماء بنت عمیس نے بنائی تھی انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ عورت کے لیے نعش بنائی جاتی ہے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث عبدالرحمن بن عبدالعزیز از عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از عمرہ بنت عبدالرحمن: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جنازے کی نماز عباس بن عبدالمطلب نے پڑھائی اور انہیں قبر میں عباس، علی اور فضل بن عباس نے اتارا۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث معمر از زہری از عروہ از عائشہ: فاطمہ کی قبر میں علی، عباس اور فضل اترے تھے۔ باخبار محمد بن عمر بحدیث معمر از زہری از عروہ: حضرت فاطمہ کی نماز علی نے پڑھائی تھی۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث قیس بن ربیع از جالد از شعبی: فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تھی۔

باخبار شبابہ بن سوار بحدیث عبدالاعلیٰ بن ابی المساور از حماد از ابراہیم: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جنازے کی نماز پڑھائی اور چار تکبیریں کہیں۔

باخبار مطرف بن عبداللہ یساری بحدیث عبدالعزیز بن ابی حازم از محمد بن عبداللہ از زہری: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رات میں دفن کیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دفن کیا۔ باخبار انس بن عیاض بحدیث یونس بن یزید ابی از ابن شہاب: حسب سابق باخبار محمد بن عبداللہ اسدی بحدیث سفیان از معمر از زہری از عروہ: علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رات میں دفن کیا۔ باخبار عبید اللہ بن موسیٰ و کعب بحدیث اسرائیل از جابر از محمد بن علی: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رات میں دفن کی گئیں۔

باخبار و کعب از موسیٰ بن علی اپنے کسی ساتھی سے: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رات میں دفن کی گئیں۔ باخبار ابو داؤد و عمر بن سعد حضری

از سفیان از معمر از زہری از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رات میں دفن کیا۔

باخبار محمد بن مصعب بحدیث اوزاعی از یحییٰ بن سعید: فاطمہ رضی اللہ عنہا رات میں دفن کی گئیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث عمر بن محمد بن علی از محمد بن عمرو بن علی از علی بن حسین: میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا: تم

نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کب دفن کیا؟ فرمایا رات میں جب کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا تھا میں نے پوچھا: جنازے کی نماز کس نے پڑھائی تھی؟ فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔

باخبار محمد بن عمر: میں نے عبدالرحمن بن موالی سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر بقیع میں اس مسجد

کے پاس ہے جس کی طرف لوگ جنازوں کی نماز پڑھتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم! وہ تو مسجد رقیہ ہی ہے یعنی اس خاتون کی جس نے اسے

آباد کیا تھا اور فاطمہ کو عقیل کے گھر ہی کے ایک گوشہ میں دفن کیا گیا تھا جو خثعمین کے گھر سے متصل ہے مدون ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم

اس گھر کو میرے لیے خرید لو خواہ کسی قیمت کو ملے تاکہ میں اس میں دفن کیا جاؤں عبداللہ نے کہا: اللہ کی قسم میں اسے ضرور خرید لوں گا

پھر انہوں نے آل عقیل سے خریدنے کی کوشش کی مگر وہ انکار ہی کرتے رہے عبدالرحمن بن جعفر کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ

وہ اس جگہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر میں شک کرتا ہو۔

حضرت زینب نبی ﷺ:

آپ بھی رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی ہیں، آپ کی والدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، آپ رحمت عالم ﷺ کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، آپ نبوت سے قبل اپنے خالہ زاد بھائی ابوالعاص بن ربیع بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں اور نبی ﷺ کی بیٹیوں میں سب سے پہلے آپ ہی کا نکاح ہوا تھا ابوالعاص کی والدہ ہالہ بنت خویلد ہیں اور زینب بنت رسول اللہ ﷺ کی خالہ جان ہیں، ابوالعاص سے زینب کے علی اور امام دو بچے پیدا ہوئے، علی تو کسی ہی میں فوت ہو گئے البتہ امام زندہ رہیں، حضرت فاطمہ نبی ﷺ کے بعد حضرت علی نبی ﷺ نے امام سے نکاح کر لیا تھا۔

باخبا عبد الوہاب بن عطاء علی از داؤد بن ابی الہند از عامر شحی: زینب بنت رسول اللہ ﷺ ابوالعاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں پھر آپ مسلمان ہو گئیں اور اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئیں اور اس وقت ابوالعاص مسلمان نہیں ہوئے۔

باخبا محمد بن عمر بحدیث منذر بن سعد مولیٰ بنی اسد بن عبد العزیٰ از عیسیٰ بن معمر از عباد بن عبد اللہ بن زبیر از صدیقہ: ابوالعاص جنگ بدر میں مشرکوں کے ساتھ تھے ان کو عبد اللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے گرفتار کیا پھر جب مکہ میں آپ کے فدیہ کے سلسلہ میں وفد بھیجا تو ابوالعاص کے فدیہ کے سلسلہ میں ان کا بھائی عمرو بن ربیع آیا اس وقت حضرت زینب نبی ﷺ مکہ ہی میں تھیں آپ نے عمرو کے ہاتھ اپنا خرہروں کا ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نبی ﷺ کا تھا اور انہوں نے زینب کو رخصتی کے وقت دے دیا تھا (جزع خرہروں کو کہتے ہیں اور ظفار یمن میں ایک پہاڑی کا نام ہے) وہی ہار زینب نے اپنے شوہر ابوالعاص کے فدیہ میں بھیج دیا تھا جب رحمت عالم ﷺ نے وہ ہار دیکھا تو اسے پہچان گئے، آپ کا دل پہنچ گیا اور حضرت خدیجہ نبی ﷺ یاد آ گئیں اور آپ نے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی کو بلا فدیہ کے چھوڑ دو اور ان کا ہار انہیں واپس کر دو، صحابہ نبی ﷺ بولے: اچھا یا رسول اللہ! چنانچہ صحابہ نبی ﷺ نے ابوالعاص کو چھوڑ دیا اور زینب نبی ﷺ کا ہار واپس کر دیا، نبی ﷺ نے ابوالعاص سے عہد لے لیا کہ زینب نبی ﷺ کو سلامتی کے ساتھ مدینہ بھیج دے، ابوالعاص نے وعدہ کر لیا اور وعدے کو پورا کیا۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: ہمارے نزدیک یہ قول اس روایت سے صحیح ہے جس میں ہے کہ حضرت زینب نبی ﷺ نے اپنے والد کے ساتھ ہجرت کی۔

باخبا ہشام بن محمد بن سائب کلبی از معروف بن خربوذکی: ابوالعاص بن ربیع اپنے کسی شام کے سفر پر روانہ ہوئے اور اپنی اہلیہ زینب کو یاد کر کے یہ شعر گنگنانے لگے:

ذکرتُ زینبَ لَمَّا ورکتِ اِراما
فقلْتُ سَقِيًّا لِشَخْصٍ لَيْكُنُ الحَرَمَا
بِنْتُ الامِينِ جزاها اللهُ صالحة
وكلُّ بعلٍ سِئْتِي بالذی علما

”مجھے زینب یاد آ گئیں جب ارم میں وہ داخل ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا ساکن حرم کو اللہ تعالیٰ سیراب فرمائے۔ وہ امین کی نیک بیٹی ہیں اللہ انہیں اچھا صلہ عطا فرمائے۔ اور ہر شوہر اپنے علم کے مطابق تعریف کیا کرتا ہے۔“

از محمد بن عمر: رحمت عالم ﷺ فرمایا کرتے تھے: ہم نے ابوالعاص کی دامادی میں برائی نہیں پائی۔

باخبار یعلیٰ بن عبیدطافسی، تجدیث محمد بن اسحق از یزید بن رومان: ایک دن رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی، جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو زینب بنت رسول اللہ ﷺ نے اعلان کیا کہ میں نے ابوالعاص بن ربیع کو

پناہ دے دی ہے پھر رحمت عالم ﷺ نے نماز سے فارغ ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا: کیا تم نے بھی وہ بات سنی جو میں نے سنی ہے؟

صحابہ رضی اللہ عنہم بولے: ہاں (سنی ہے) فرمایا: دیکھو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جو کچھ واقعہ پیش آیا اس کا مجھے علم نہ تھا حتیٰ

کہ میں نے اسے سنا جو تم نے سنا، دیکھو ایک ادنیٰ مسلمان بھی لوگوں کو پناہ دے سکتا ہے۔

باخبار عبداللہ بن نمیر، تجدیث اسماعیل از عامر: ابوالعاص بن ربیع شام سے آئے اور ان کی اہلیہ زینب اپنے والد کے ساتھ

مسلمان ہو گئیں اور ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی تھیں ابوالعاص بعد میں شرف بہ اسلام ہوئے اور رسول اللہ ﷺ نے دونوں میں

تفریق نہیں کرائی۔

باخبار عبدالوہاب بن عطاء از سعید بن ابی عروبہ از قتادہ: زینب بنت رسول اللہ ﷺ ابوالعاص کے نکاح میں تھیں پھر آپ

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کر گئیں، پھر آپ کے شوہر شرف بہ اسلام ہو کر ہجرت کر کے حاضر دربار رسالت ہوئے، آپ نے

زینب کو انہیں لوٹا دیا۔

قتادہ: پھر اس واقعہ کے بعد سورہ براءت اتری اب اگر عورت اپنے شوہر سے پہلے مسلمان ہو جاتی تو شوہر سے علیحدہ

ہو جاتی الا یہ کہ جدید نکاح ہو گیا عورت کا شوہر سے قبل اسلام لانا طلاق بائنہ کے قائم مقام ہے (اگر عدت کے اندر اندر شوہر مسلمان

ہو گیا تو سابق نکاح ہی کافی ہے ورنہ جدید نکاح کرنا ہوگا)۔

باخبار ابو محابہ ضریر و یزید بن ہارون از حجاج از عمرو بن شعیب از پدر نبی ﷺ نے اپنی بیٹی (زینب رضی اللہ عنہا) کو ابوالعاص

کے پاس جدید نکاح سے بھیجا، یزید فرماتے ہیں اور جدید مہر سے بھی۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار محمد بن اسحق از داؤد بن حصین از مکرمہ از ابن عباس رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیٹی کو دو سال کے

بعد سابق نکاح ہی سے ابوالعاص کے پاس بھیج دیا اور نیا مہر نہیں باندھا۔

باخبار محمد بن عمر، تجدیث موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث تمیمی از محمد بن ابراہیم بن حارث تمیمی از محمد بن ابراہیم: ابوالعاص

بن ربیع قرشی قافلہ کے ساتھ ملک شام گئے رسول اللہ ﷺ کو خبر ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ گیا ہے آپ نے زید بن حارثہ کو

۷۰ سواریوں کے ساتھ بھیجا ان سواریوں نے جمادی الاول ۶ھ میں عیص کے ایک میدان میں جالیا اور اس کے تمام سامان پر قبضہ

کر لیا اور قافلہ کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا ان اسیروں میں ابوالعاص بھی تھے جب یہ مدینہ پہنچے تو سحر کو اپنی اہلیہ زینب بنت رسول

اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے پناہ کی درخواست کی، زینب نے ان کو پناہ دے دی پھر جب رحمت عالم ﷺ نماز سے

فارغ ہو گئے تو زینب نے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا: میں نے ابوالعاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: لوگو! جو بات میں نے سنی ہے کیا تم نے بھی سنی ہے؟ لوگ بولے: ہاں فرمایا: اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے اس کی خبر نہ تھی حتیٰ کہ میں نے وہ بات سنی جو تم نے سنی، مومن دوسروں کے حق میں بمنزلہ ایک ہاتھ کے ہیں اور ان میں کا ادنیٰ مسلمان پناہ دے سکتا ہے ہم نے اسے پناہ دی جسے زینب نے پناہ دی، پھر جب آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو زینب ہی ﷺ نے آپ کی خدمت میں جا کر آپ سے درخواست کی کہ ابوالعاص کا جو کچھ مال لے لیا گیا ہے اسے لوٹا دیا جائے، نبی ﷺ نے ابوالعاص کا تمام مال لوٹا دیا اور زینب کو حکم فرمایا کہ ابوالعاص کے قریب نہ جانا کیونکہ جب تک وہ مشرک ہے زینب ہی ﷺ اس کے لیے حلال نہیں، آخر کار ابوالعاص واپس ہو گئے اور ہر حق دار کو اس کا حق ادا کیا پھر مسلمان ہو کر ہجرت کر کے محرم کے صحابہ میں نبی ﷺ کے پاس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، پھر رسول اللہ ﷺ نے پہلے ہی نکاح سے زینب کو ان کے پاس لوٹا دیا۔

باخباہ سعید بن منصور، متحدہ عبد اللہ بن مبارک از عمر از زہری از انس بن مالک: میں نے زینب بنت رسول اللہ ﷺ پر ایک ریشمین چادر دیکھی۔

باخباہ محمد بن عمر، متحدہ یحییٰ بن عبد اللہ بن ابی قتادہ از عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم: زینب نے ۸ھ کے آغاز میں وفات پائی۔

باخباہ محمد بن عمر، متحدہ معاویہ بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع از عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع: زینب کو غسل دینے والی خواتین میں ام ایمن، سودہ بنت زمعہ اور ام سلمہ زوجہ رسول اللہ ﷺ تھیں۔

باخباہ ابو معاویہ ضریر، متحدہ عاصم احوال از حفصہ از ام عطیہ: جب حضرت زینب فوت ہو گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انہیں طاق (تین یا پانچ) غسل دو اور پانچویں غسل کے پانی میں کافور یا کچھ کافور ملا لو اور غسل دے کر مجھے اطلاع دو، چنانچہ ہم نے غسل دے کر آپ کو اطلاع دی آپ نے ہمیں اپنا تہبند دے کر فرمایا اسے ان کے جسم سے متصل رکھنا۔

باخباہ یزید بن ہارون و اسحاق بن یوسف از رقی و روح بن عبادہ از ہشام بن حسان از حفصہ بنت سیرین، متحدہ ام عطیہ: نبی ﷺ کی ایک بچی فوت ہوئی آپ نے ہمیں حکم فرمایا انہیں طاق تین یا پانچ یا اس سے زیادہ دفعہ غسل دینا اگر تم پانچ بار سے زیادہ غسل دینا مناسب سمجھو اور انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا اور پچھلے غسل کے پانی میں کافور یا قدرے کافور ملا لینا اور فارغ ہو کر مجھے خبر دینا فرماتی ہیں ہم نے غسل سے فارغ ہو کر آپ کو خبر دی آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینک کر فرمایا اسے ان کے جسم سے متصل رکھنا، یزید اپنی حدیث میں فرماتے ہیں: ام عطیہ کہتی ہیں: پھر ہم نے ان کے بال تین چوٹیوں میں گوندھ دیئے ایک دائیں چوٹی ایک بائیں چوٹی اور ایک پیشانی والی چوٹی اور سامنے والی چوٹی پیچھے ڈال دی۔

باخباہ معن بن عیسیٰ، متحدہ مالک بن انس از ابوب از محمد بن سیرین بقول ام عطیہ انصاریہ: جب آپ کی بچی فوت ہوئی تو آپ نے ہم سے آ کر فرمایا: انہیں تین بار یا پانچ بار یا اس سے زیادہ اگر مناسب سمجھو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخر غسل میں کافور یا قدرے کافور ملا لو اور فارغ ہو کر مجھے اطلاع دو فرماتی ہیں: پھر ہم نے فارغ ہو کر آپ کو اطلاع دی تو آپ نے ہمیں اپنا

تہبند دے کر فرمایا اسے ان کے جسم سے متصل رکھنا۔

باخبار کعب بن جراح از یزید بن ابراہیم از ابن سیرین از ام عطیہ: جب ہم نے نبی ﷺ کی بیٹی (زینبؓ) کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو نبی ﷺ نے ہم سے فرمایا: انہیں تین بار یا پانچ بار یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ غسل دینا اور پیری کے پتوں سے غسل دینا اور اخیر میں قدرے کافور ملا دینا اور غسل سے فارغ ہو کر مجھے اطلاع دینا فرماتی ہیں: ہم نے فارغ ہو کر آپ کو اطلاع دی آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند ڈال کر فرمایا اسے ان کے جسم سے متصل رکھنا۔

باخبار عارم بن فضل، محمد یث حماد بن زید از ایوب از محمد از ام عطیہ: نبی ﷺ کی ایک بیٹی فوت ہوئیں، رسول اللہ ﷺ نے ہم سے آ کر کہا: انہیں تین بار یا پانچ بار یا اس سے زیادہ اگر مناسب سمجھو پانی اور پیری کے پتوں سے غسل دینا اور پچھلے غسل کے پانی میں کافور ڈال دینا یا فرمایا: قدرے کافور ڈال دینا اور فارغ ہو کر مجھے اطلاع دینا پھر ہم نے فارغ ہو کر آپ کو اطلاع دی آپ نے ہمیں اپنا تہبند دے کر فرمایا: اسے ان کے جسم سے متصل رکھنا۔

باخبار عارم بن فضل، محمد یث حماد بن زید از ایوب از حصہ از ام عطیہ: نبی ﷺ نے فرمایا انہیں تین بار یا پانچ بار یا سات بار اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بار غسل دینا، ام عطیہ فرماتی ہیں ہم نے ان کے سر کے بالوں کی تین چوٹیاں کر دیں۔

باخبار کعب بن جراح از سفیان از ہشام از حصہ بنت سیرین از ام عطیہ: ہم نے رسول اللہ ﷺ کی بیٹی (زینبؓ) کو غسل دے کر ان کے سر کے بالوں کی تین چوٹیاں باندھ دیں ایک پیشانی کی اور دو دونوں جانبوں کی اور چوٹیوں کو پیچھے ڈال دیا۔

باخبار کعب بن جراح از خالد حذاء از حصہ بنت سیرین از ام عطیہ: ہم نے زینبؓ کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم سے نبی ﷺ نے فرمایا: غسل کی ابتدا سیدھی طرف سے اور اعضائے وضوء سے کرو۔

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا:

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، رحمت عالم ﷺ نے نبوت سے قبل رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب بن عبدالمطلب سے کر دیا تھا پھر جب آپ ﷺ نبی بنا دیے گئے اور آیت ﴿تبت يدأ ابی لہب و تب﴾ (یعنی ابولہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں اور ابولہب برباد ہو) اتری تو عتبہ سے اس کے باپ ابولہب نے کہا: اگر تو اس (محمد ﷺ) کی بیٹی کو طلاق نہ دے تو مجھ سے کوئی تعلق و واسطہ نہ رکھ چنانچہ عتبہ نے قبل رخصتی کے رقیہ کو طلاق دے دی اور ان کو جدا کر دیا، آپ اسی دن مشرف بہ اسلام ہو گئیں تھیں جس دن آپ کی والدہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی تھی اور جب عورتوں نے آپ سے بیعت کی تو آپ نے اور آپ کی بہنوں نے بھی آپ سے بیعت کی پھر آپ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا اور آپ نے ان کے ساتھ حبشہ کی طرف دو ہجرتیں کیں، رحمت عالم ﷺ نے فرمایا یہ دونوں سب سے پہلے وہ اشخاص ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہجرت کی، پہلی ہجرت میں آپ کا حمل ساقط ہو گیا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تھا پھر اس کے بعد آپ کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبد اللہ رکھا گیا اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد اللہ ہی تھی یہ بچہ دو سال کا ہو گیا تھا کہ ایک مرغ نے اس کے چہرے پر ٹھونگ ماری جس سے چہرہ متورم ہو گیا اور بچہ فوت ہو گیا، پھر رقیہ رضی اللہ عنہا کے

یہاں کوئی اور بچہ نہیں ہوا پھر جب رحمت عالم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں پھر جب رسول اللہ ﷺ جنگ بدر کی تیاریوں میں مصروف تھے تو آپ بیمار ہو گئیں آپ ان کی خبر رکھنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس چھوڑ گئے آپ رمضان میں جب کہ رسول اللہ ﷺ بدر میں تھے فوت ہو گئیں آپ کی وفات ہجرت کے سترھویں ماہ کے آغاز میں ہوئی۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بدر سے فتح کی بشارت لے کر مدینہ منورہ آئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔

باخبار عقیان بن مسلم، متحد بیٹ حماد بن سلمہ، باخبار علی بن زید از یوسف بن مہران از ابن عباس: جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں تو نبی ﷺ نے فرمایا: ہمارے سلف عثمان بن مظعون کے ساتھ شامل ہو جاؤ پھر خواتین رقیہ پر رونے لگیں اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر اپنے کوزے سے عورتوں کو مارنے لگے لیکن نبی ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا: عمر! انہیں رونے دو۔ پھر آپ نے فرمایا: آنسوؤں سے رولو اور شیطان کی چیخ سے بچو کیونکہ جب تک رونا دل اور آنکھوں سے ہو تو اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت ہے اور جب ہاتھ اور زبان سے ہو تو شیطان کی طرف سے ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قبر کے کنارے نبی ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور رو رہی تھیں اور رسول اللہ ﷺ اپنے دامن سے ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہے تھے۔

محمد بن سعد: میں نے یہ روایت محمد بن عمر سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا: ہماری رائے میں تمام روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بدر میں تھے اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے دفن میں شریک نہ تھے شاید یہ روایت نبی ﷺ کی کسی اور صاحبزادی کے بارے میں ہے جس کے دفن میں آپ شریک تھے اور اگر رقیہ کے بارے میں ہے اور صحیح ہے تو شاید جب آپ بدر سے مدینہ میں تشریف لائے تو رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد عورتوں نے آپ کے سامنے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پر گریہ و زاری کی۔
حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا:

آپ بھی رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی لخت جگر ہیں آپ کا نکاح نبوت سے قبل عتبہ بن ابولہب بن عبدالمطلب سے ہو گیا تھا پھر جب رسول اللہ ﷺ محبوب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آیت ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ اتاری تو ابولہب نے عتبہ سے کہا: اگر تو اس (محمد ﷺ) کی بیٹی کو طلاق نہ دے گا تو میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں چنانچہ عتبہ نے ام کلثوم کو جدا کر دیا ہنوز رخصتی نہیں ہوئی تھی پھر آپ مکہ ہی میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوئیں اور اپنی بہنوں اور دیگر خواتین بیعت کی سعادت حاصل کی اور جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کی تو آپ نے بھی ہجرت کی اور رسول اللہ ﷺ کے بچوں کے ساتھ مدینہ پہنچیں اور مدینہ میں رات ہی رہیں پھر جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں تو نبی ﷺ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیع الاول ۳ھ میں کر دیا۔ اور جمادی الثانی ۳ھ میں رخصتی ہوئی آپ آخری دم تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے نکاح میں رہیں آپ کے اولاد نہیں ہوئی اور شعبان ۹ھ میں فوت ہو گئیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر دس بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے سب کو عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔

باخبار ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی اویس مدنی از سلیمان بن بلال از یحییٰ بن سعید از ابن شہاب از انس بن مالک: آپ نے ام

کلثوم پر ریشمین دھاری دارچادر دیکھی۔

باخبار و کعب بن جراح از صالح بن ابی الاخضر از زہری از انس بن مالک: میں نے ام کلثوم پر دھاری دارچادر کا ایک جوڑا

دیکھا۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عیینہ از عمر بن عبدالعزیز عنسی از مطلب بن عبداللہ بن حطب از قاطرہ خزاعیہ از اسماء بنت عمیس: میں نے اور صفیہ بنت عبدالمطلب نے ام کلثوم کو غسل دیا اور میں نے ان کی کھجور کی تازہ شاخوں سے نعش بنائی جس کا مجھے حکم دیا گیا تھا اور انہیں چھپا دیا۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن مالک بن ابی الرجال از ابوالرجال از عمرہ بنت عبدالرحمن: ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو چند انصار عورتوں نے غسل دیا تھا جن میں ام عطیہ بھی تھیں اور ان کی قبر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اترے تھے۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن فلیح بن سلیمان از ہلال بن اسامہ از انس بن مالک: میں نے ام کلثوم کی قبر پر نبی ﷺ کو بیٹھا ہوا دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ فرما رہے تھے تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کی شب اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو؟ ابو طلحہ بولے یا رسول اللہ میں ہوں، فرمایا اتر جاؤ (یعنی میری بجگی کی قبر میں اتر کر انہیں قبر میں اتارو)۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن اسامہ بن زید لیشی از محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارہ: ام کلثوم کے جنازے کی نماز رسول اللہ ﷺ نے پڑھائی اور آپ ان کی قبر کے کنارے بیٹھے اور ان کی قبر میں علی، فضل اور اسامہ رضی اللہ عنہم اترے۔

حضرت امامہ رضی اللہ عنہا:

آپ ابو العاص بن ربیع بن عبدالعزیز کی حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ سے صاحبزادی ہیں۔

باخبار ہشام ابوالولید طلیاسی بن محمد بن لیث بن سعد بن ابوسعد مقبری از عمرو بن سلیم زرقی، بسامع از ابوقادہ: اس حال میں کہ ہم رحمت عالم ﷺ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آپ امامہ کو لے کر باہر تشریف لائے، امامہ بھی تھیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی اور آپ کی نواسی تھیں آپ نے انہیں کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھی، جب رکوع فرماتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے تھے اور جب کھڑے ہوتے تھے تو کندھے پر اٹھالیتے تھے اسی طرح آپ نے پوری نماز پڑھی۔

محمد بن ابوالعاصم ضحاک بن مخلد شیبانی از ابن عجلان از مقبری از عمرو بن سلیم زرقی از ابوقادہ: نبی ﷺ امامہ کو کندھے پر لے کر نماز پڑھ رہے تھے جب آپ رکوع کرتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھالیتے تھے۔

باخبار یحییٰ بن عباد بن محمد بن فلیح بن سلیمان، محمد بن عامر بن عبداللہ بن زبیر از عمرو بن سلیم زرقی از ابوقادہ بن ربیع: میں نے دیکھا نبی ﷺ نماز میں اپنی نواسی امامہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں جب آپ رکوع کرتے ہیں تو انہیں بٹھا دیتے ہیں اور جب سر اٹھاتے ہیں تو اٹھالیتے ہیں۔

باخبار ابوالولید بن عطاء بن اغرکی، محمد بن ابراہیم بن سعد از سعد از ابوسلیمان از عبداللہ بن حارث بن نوفل: نبی ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اور امامہ بنت ابی العاص آپ کے دوش پر تھیں رکوع کرتے تو بٹھا دیتے اور کھڑے ہوتے تو اٹھالیتے تھے۔

باخبار عارم بن فضل، متحد بیٹ حماد بن زید از علی بن زید بن جدعان: رسول اللہ ﷺ اپنے گھر تشریف لائے آپ کے ہاتھ میں خرمہروں کا ایک ہار تھا، فرمایا: میں یہ ہار اسے دوں گا جو مجھے سب سے پیاری ہے، عورتیں بولیں: آپ یہ ہار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی (عائشہ رضی اللہ عنہا) کو دیں گے آخر کار آپ نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کی زینب رضی اللہ عنہا سے صاحبزادی (امامہ رضی اللہ عنہا) کو بلا کر اپنے ہاتھ سے ان کے ہار باندھا، ان کی آنکھ میں کچھ تھی آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔

باخبار عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ، متحد بیٹ عبد اللہ بن نمیر از محمد بن اسحاق از یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر اپنی والدہ سے اور وہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے: نجاشی نے نبی ﷺ کو ہدیہ میں زیورات بھیجے جن میں سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی آپ نے اس سے منہ پھیر کر وہ لے لی اور اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو بھیج دی اور فرمایا: پیاری بچی اسے پہن لو۔

باخبار عبد اللہ بن مسلمہ بن قعب، متحد بیٹ مالک بن انس از عامر بن عبد اللہ بن زبیر از عمرو بن سلیم زرقی از ابو قتادہ: رسول اللہ ﷺ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ ﷺ کو لیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے پھر جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو اٹھالیتے تھے اور جب سجدہ کرتے تھے تو بٹھا دیتے تھے۔

باخبار محمد بن اسماعیل بن ابی فدیك مدینی از ابن ابی ذئب: امامہ بنت ابو العاص نے مغیرہ بن نوفل بن حارث سے کہا کہ معاویہ نے میرے لیے پیام ڈالا ہے، مغیرہ بولے: کیا آپ جگر خور عورت کے بیٹے سے شادی کریں گی؟ کاش آپ مجھے اختیارات دے دیں، بولیں میں نے تمہیں کو اختیارات دے دیئے، مغیرہ بولے: میں نے تم سے نکاح کر لیا، ابن ابی ذئب: پھر مغیرہ کا نکاح برقرار رہا۔



رحمت عالم ﷺ کی پھوپھیاں

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا:

آپ عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ کا نام ہالہ تھا جو وہب بن عبدمناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں، صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اخیانی ہم شیرہ ہیں۔ جاہلیت میں صفیہ سے حارث بن حرب بن امیہ بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصی نے نکاح کیا تھا، حارث سے صفیہ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا پھر حارث کے بعد آپ سے عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی نے نکاح کر لیا جن سے زبیر سائب اور عبدالکعبہ پیدا ہوئے، صفیہ نے مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئیں، ایک دفعہ آپ کو نبی ﷺ نے خیبر کی کھجوروں میں سے چالیں و تن کھجوریں دیں۔

باخباہر اسامہ بن حماد بن اسامہ بن جندب بن ہشام بن عروہ از عروہ بن زبیر: جب نبی ﷺ مدینہ سے کسی عروہ پر تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کو اور اپنی دیگر عورتوں کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہا کے مکان میں چھوڑ جایا کرتے تھے کیونکہ مدینہ کے مکانوں میں حسان رضی اللہ عنہا کے مکانات خاصے مستحکم و مضبوط تھے، حسان جنگ احد میں شامل نہیں ہوئے تھے کہ ایک یہودی آکر قصر کی دیوار سے چٹ کر خبریں سننے لگتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حسان رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں: اتر کر اس یہودی کو قتل کر آؤ، گویا حسان اس سے خوفزدہ ہو گئے اور نیچے نہیں اترے آخر کار صفیہ ستون کی موٹی لکڑی لے کر اتریں اور دروازہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھولتا کہ وہ بے خبر رہے، پھر اس ستون سے آپ نے اس پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔

باخباہر عقیان بن مسلم بن جندب بن حماد بن زید بن سلمہ از ہشام بن عروہ: جنگ احد میں جب مسلمان شکست کھا کر بھاگے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نیزہ لے کر نکلیں اور بھاگنے والوں کو روک کر کہنے لگیں تم رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، پھر جب صفیہ کو رسول اللہ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا: زبیر! خاتون چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہا کا پیٹ چیر دیا گیا تھا اس لیے آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صفیہ انہیں اس حال میں دیکھیں، صفیہ حمزہ رضی اللہ عنہا کی ہم شیرہ تھیں، زبیر بولے: امی جان یہاں سے چلی جائے، بولیں: ہٹ جا، تیری ماں زندہ نہ رہے آخر کار صفیہ نے آکر اپنے بھائی کی لاش دیکھی۔ صفیہ بنت عبدالمطلب جنت البقیع میں مغیرہ بن شعبہ کے گھر کے صحن میں جہاں وضو کیا جاتا تھا مدفون ہوئیں آپ عہد فاروقی میں فوت ہوئیں اور نبی ﷺ سے راوی بھی ہیں۔

اروی رضی اللہ عنہا بنت عبدالمطلب:

آپ عبدالمطلب بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے جو عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم کی صاحبزادی ہیں آپ جاہلیت میں عمیر بن وہب بن عبدمناف بن قصی کے نکاح میں تھیں جن سے آپ کے ایک بچہ طلیب پیدا ہوا، پھر آپ سے ارطاة بن شرجیل بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی نے نکاح کیا جن سے آپ کے ایک بچی فاطمہ پیدا ہوئی، پھر آپ مکہ میں مشرف بہ اسلام ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں۔

باخبار محمد بن عمر، محدث موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث تمیمی اپنے والد سے، طلیب بن عمیر دار ارقم میں مسلمان ہوئے پھر دار ارقم سے نکل کر اپنی والدہ ارؤی کے پاس گئے اور بولے میں محمد ﷺ کا پیروکار ہو گیا اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسلام کو اپنالیا: ان کی والدہ نے فرمایا: تمہارے ماموں کے بیٹے تمہاری تائید و حمایت کے واقعی حقدار ہیں اللہ کی قسم اگر ہم عورتوں کو ان باتوں پر قدرت حاصل ہوتی جن پر مردوں کو حاصل ہے تو ہم آپ کے پیروکار بن کر آپ کی طرف سے دفاع کرتیں، طلیب بولے: امی جان! آپ کو اسلام لانے سے اور رحمت عالم ﷺ کی پیروی کرنے سے کیا چیز مانع ہے؟ آپ کے بھائی جان حمزہ رضی اللہ عنہ بھی یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں، ارؤی بولیں: میں دیکھتی ہوں میری بہنیں کیا کرتی ہیں پھر میں وہی مذہب اختیار کر لوں گی۔ طلیب نے کہا: امی جان! خدا کے واسطے آپ نبی ﷺ کے پاس جائیں، آپ کو سلام کریں، آپ کی تصدیق فرمائیں اور اقرار تو حید و رسالت کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھ لیں (بیٹے کی رغبت دلانے سے ارؤی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئیں) پھر آپ اپنی زبان سے برابر نبی ﷺ کی حمایت میں سرگرم عمل رہیں اور اپنے فرزند کو بھی آپ کی حمایت و نصرت پر اور اسلام کے پھیلانے پر ابھارتی رہیں۔

باخبار محمد بن عمر، محدث سلمہ بن بخت از عمیرہ بنت عبید اللہ بن کعب بن مالک از ام درہ از برہ بنت ابی حجرہ: ایک دن ابو جہل اور دیگر چند قرشی کافروں نے نبی ﷺ سے تعرض کیا اور آپ کو ایذا پہنچائی، طلیب بن عمیر سے رہانہ گیا اور انہوں نے ابولہب کے سر پر لکڑی ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا، مشرک طلیب پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو گرفتار کر لیا، پھر ابولہب نے طلیب کی حمایت میں کھڑے ہو کر ان کو چھڑوا دیا۔ حضرت ارؤی سے کہا گیا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے فرزند طلیب نے محمد کی حفاظت کے لیے اپنے کو ہدف بنا رکھا ہے؟ بولیں: جس دن میرا بیٹا طلیب محمد کی حمایت میں جو اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، مشرکوں سے جنگ کرے وہ دن اس کی زندگی کا انتہائی خیر و برکت والا دن ہے، لوگوں نے کہا: کیا آپ بھی محمد کی معتقد ہو گئی ہیں؟ بولیں: ہاں کسی نے آپ کے اسلام کی ابولہب کو بھی خبر کر دی، ابولہب بدحواسی کے عالم میں دوڑا دوڑا آپ کے پاس آیا اور بولا: بڑے افسوس و حیرت کی بات ہے کہ آپ نے بھی محمد کی پیروی اختیار کر لی اور عبدالمطلب کا دین ترک کر دیا۔ بولیں: بات تو یہی ہے کہ میں نے اپنے سینہ میں اسلام سمولیا ہے آپ بھی پوری سرگرمی سے اپنے بھتیجے کے محافظ بن جائے اور ان کے لیے قوت بازو اور آہنی حصار ہو جائے، پھر اگر ان کا دین غالب آ جائے تو آپ کو اختیار ہے خواہ اسلام قبول کر لیں یا اپنے آبائی دین پر قائم رہیں اور اگر (خدا نخواستہ) انہیں قتل کر دیا جائے تو آپ اپنے بھتیجے کے بارے میں معذور سمجھے جائیں گے، ابولہب بولا: کیا ہم تمام عربوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایک نیا دین لے کر آیا ہے یہ کہہ کر ابولہب ناکام واپس چلا جاتا ہے۔

محمد: میں نے محمد بن عمر کے علاوہ دوسرے لوگوں سے سنا کہ اس دن ارؤی رضی اللہ عنہا نے یہ شعر کہا۔

إن طليبا نصر ابن خاله آسأه في ذى ذمة وماله

”طلیب نے اپنے ماموں زاد بھائی کی مدد کی۔ اور ان کے ساتھ عزیز داری کا اور ذمہ داری کا سلوک کیا۔“

عائشہ رضی اللہ عنہا:

آپ عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ فاطمہ ہیں جو عمرو بن عاصم بن عمران

بن مخزوم کی صاحبزادی ہیں آپ کا نکاح جاہلیت میں ابوامیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے ہوا جس سے آپ کے عبداللہ زہیر اور قریبہ تین بچے پیدا ہوئے پھر آپ مکہ میں مشرف بہ اسلام ہو گئیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئیں آپ نے ایک خواب دیکھا تھا جس سے گھبرا گئی تھیں اور ہول گئی تھیں پھر آپ نے یہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب سے بیان کیا اور تاکید کر دی کہ خبردار یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس خواب سے آپ کی قوم مصائب و برائی کا شکار نہ ہو جائے، ہنوز قریش جنگ بدر لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے کہ عاتکہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شہسوار اونٹ پر سوار ہو کر آتا ہے اور وہ اٹلخ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بلند آواز سے اعلان کرتا ہے: اے اولاد عذرا پنی اپنی قتل گاہوں کی طرف جاؤ ان الفاظ کے ساتھ وہ تین بار چیختا ہے میں دیکھتی ہوں کہ لوگ آ کر اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ مسجد میں جاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں جب کعبہ کی پشت کے پاس اس کا اونٹ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ انہیں الفاظ کے ساتھ تین بار چیختا ہے پھر جب کوہ ابوتیس پر اس کا اونٹ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ انہیں الفاظ کے ساتھ زور زور سے اعلان کرتا ہے پھر ابوتیس سے ایک چٹان لڑھکا دیتا ہے جب یہ چٹان پہاڑ کے دامن میں پہنچتی ہے تو پھٹ جاتی ہے اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں رہتا جس میں اس کا کوئی ٹکڑا نہ گیا ہو لیکن بنو ہاشم اور بنو ہرہ کے گھر اس سے محفوظ رہتے ہیں عباس فرماتے ہیں: بلاشبہ یہ ایک سچا خواب ہے پھر عباس غزدہ نکتے ہیں اور ولید بن عقبہ بن ربیعہ سے ملتے ہیں ولید آپ کا دوست تھا عباس ولید سے یہ خواب بیان کرتے ہیں اور تاکید کر دیتے ہیں کہ کسی سے بیان نہ کرنا لیکن یہ خواب لوگوں میں پھیل جاتا ہے اور ہر مجلس میں اس کا چرچا ہونے لگتا ہے ابو جہل کہتا ہے: اے اولاد عبدالمطلب! کیا تم اپنے مردوں کے نبی بننے سے خوش نہ تھے کہ تمہاری عورتیں بھی نبی بننے لگیں عاتکہ کہتی ہیں میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے ہم تین دن تک اس کا انتظار کریں گے اگر یہ سچا ہوگا تو خیر ورنہ ہم لکھ دیں گے کہ تمہارا گھر اعراب میں انتہائی جھوٹا ہے عباس رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو دھمکاتے ہوئے کہا: جھوٹ اور بکل میں تیرا سب سے بڑا حصہ ہے الغرض اس خواب کے تیسرے دن ابوسفیان کا بھیجا ہوا ضمضم بن عمرو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیتا ہے آگے پیچھے سے اپنا کرتہ پہاڑ دیتا ہے اور مکہ کی طرف اپنے اونٹ کی پشت کر کے چیختا ہے اے قریش! اپنے کپڑے اور خوشبو کے قافلہ کو بچاؤ محمد اور ان کے رفقاء اسے لوٹنے کے لیے نکل آئے ہیں فوراً اس کی مدد کو بڑھو اللہ کی قسم میری رائے میں تم قافلہ کو پانہ سکو گے چنانچہ قریش نے اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے روانہ ہونے کا عزم بالجزم کر لیا اور ابولہب سے جا کر کہا کہ ہمارے ساتھ آپ بھی چلیں ابولہب نے کہا: لات وعزیٰ کی قسم میں نہیں جاؤں گا اور نہ کسی کو بھیجوں گا ابولہب کو عاتکہ کا خواب یاد تھا اور وہ یہ اعتراف بھی کیا کرتا تھا کہ مجھے عاتکہ کے خواب نے روک لیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا ابولہب نبی ﷺ کا چچا تھا مگر اسلام سے مرتے دم تک منحرف رہا۔

ام حکیم رضی اللہ عنہا:

آپ کا نام بیضاء ہے اور آپ عبدالمطلب کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ فاطمہ ہیں جو عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم کی بیٹی ہیں جاہلیت میں آپ کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصی کے نکاح میں تھیں جس سے چار بچے (عامر ارووی، طلحہ اور ام طلحہ) پیدا ہوئے ارووی نے عفان بن ابوالعاص سے نکاح کیا جس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے پھر عقبہ بن ابی

معیط سے نکاح کیا جس سے تین بچے ام کلثوم، ولید اور خالد پیدا ہوئے۔

برہ بنی امیہ:

آپ عبدالمطلب اور فاطمہ بنت عمرو بن عائد کی بیٹی ہیں۔ آپ جاہلیت میں عبدالاسد بن ہلال کے نکاح میں تھیں اور ہلال، عبد اللہ بن عمر بن مخزوم کے بیٹے تھے، عبدالاسد سے آپ کے ابوسلمہ پیدا ہوئے جو جنگ بدر میں شریک تھے اور نبی ﷺ سے قبل ام سلمہ بنت ابوامیہ بن مغیرہ کے شوہر تھے، عبدالاسد کے بعد آپ کا نکاح ابورہم بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی سے ہوا، جس سے ابوسبرہ بن ابی رہم پیدا ہوئے جو بدر میں شریک تھے۔

امیہ بنی امیہ:

آپ بھی عبدالمطلب اور فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ جاہلیت میں آپ سے جحش بن ریاب بن یحمر بن صبرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ نے جو حرب بن امیہ بن عبدشمس کے حلیف تھے۔ نکاح کیا جس سے عبد اللہ پیدا ہوئے جو جنگ بدر میں شریک تھے اور عبد اللہ اور عبد پیدا ہوئے، عبد احمد کے والد ہیں اور زینب بنت جحش زوجہ رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئیں اور حمزہ بنت جحش بھی۔

رسول اللہ ﷺ نے امیہ بنت عبدالمطلب کو خیبر کی کھجوروں میں سے چالیس وسق کھجوریں دیں۔

رحمت عالم ﷺ کی پچازاد بہنیں

ضباعہ بنی امیہ:

آپ زبیر بن عبدالمطلب اور عاتکہ بنت ابی وہب کی بیٹی ہیں ابودہب عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم کے بیٹے ہیں، رحمت عالم ﷺ نے آپ کا نکاح مقداد بن عمرو بن نعلبہ بن بہراء سے کرادیا تھا جو اسود بن عبدلیث زہری کے حلیف تھے اور اسود نے ان کو ہتھی بنالیا تھا اسی لیے ان کو مقداد بن اسود کہا جاتا تھا، مقداد سے آپ کے دو بچے (عبد اللہ اور کریم) پیدا ہوئے، عبد اللہ جنگ جمل میں شہید ہوئے، جب ان کی لاش کے پاس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں: تم بہت ہی برے بھانجے ثابت ہوئے، آپ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے، رحمت عالم ﷺ نے ضباعہ کو بھی خیبر کی چالیس وسق کھجوریں دیں۔

ام الحکم بنی امیہ:

آپ زبیر بن عبدالمطلب کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ عاتکہ بنت ابی وہب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ہیں، آپ سے ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب نے نکاح کیا جن سے محمد عبد اللہ، عباس، حارث، عبدشمس، عبدالمطلب اور امیہ سات بیٹے پیدا ہوئے اور روئی کبریٰ پیدا ہوئیں، نبی ﷺ نے ام الحکم کو خیبر کی کھجوروں میں سے تیس وسق کھجوریں دیں۔

صفیہ بنی امیہ:

آپ بھی زبیر بن عبدالمطلب اور عاتکہ کی بیٹی ہیں آپ کو بھی رسول اللہ ﷺ نے چالیس وسق خیبر کی کھجوریں دی تھیں۔

ام الزبیر رضی اللہ عنہا:

آپ بھی زبیر بن عبدالمطلب اور عاتکہ کی بیٹی ہیں آپ کو بھی خیبر کی کھجوروں میں سے چالیس وسق کھجوریں ملی تھیں۔

ام ہانی رضی اللہ عنہا:

آپ کا نام فاختہ ہے آپ ابوطالب بن عبدالمطلب کی اور فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبدمناف کی صاحبزادی ہیں آپ سے ہبیرہ بن ابوہب مخزومی نے نکاح کیا جس سے جمع پیدا ہوئے، نبی ﷺ نے آپ کو بھی خیبر میں چالیس وسق کھجوریں دی تھیں۔

ام طالب رضی اللہ عنہا:

آپ ابوطالب بن عبدالمطلب کی بیٹی ہیں، کتاب النسب میں اولاد ابوطالب میں ہشام بن کلثبی نے آپ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے لکھا ہے کہ ابوطالب کی بیٹیاں ام ہانی، جمانہ اور ریظہ ہیں شاید یہی ریظہ ام طالب ہیں جیسا کہ محمد بن عمر نے اپنی کتاب طعم النبی میں لکھا ہے کہ نبی ﷺ نے ام طالب بنت ابی طالب کو خیبر میں چالیس وسق کھجوریں دیں، ابوطالب کی تمام اولاد (بیٹوں اور بیٹیوں) کی والدہ بچرطلیق بن ابی طالب کے فاطمہ بنت اسد ہیں۔

جمانہ رضی اللہ عنہا:

آپ ابوطالب اور فاطمہ کی بیٹی ہیں آپ سے ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب نے نکاح کیا جن سے جعفر بن ابی سفیان پیدا ہوئے، نبی ﷺ نے آپ کو خیبر میں تیس وسق کھجوریں دیں۔

امامہ رضی اللہ عنہا:

آپ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی اور سلمیٰ بنت عمیس بن معد بن تیم بن مالک بن قافہ بن شعم کی بیٹی ہیں یہ امامہ وہی ہیں جن کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ پسران ابوطالب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ میں جھگڑا ہوا تھا۔

ام حبیب رضی اللہ عنہا:

آپ عباس بن عبدالمطلب کی اور ام الفضل لبابہ بنت حارث ہلالیہ کی صاحبزادی ہیں آپ سے اسود بن سفیان بن عبدالاسد بن ہلال بن عبد اللہ مخزومی نے نکاح کیا تھا جن سے دو بچے زرقاء اور لبابہ پیدا ہوئے یہ لوگ مکہ میں اقامت پذیر تھے۔

ہند رضی اللہ عنہا:

آپ مقوم بن عبدالمطلب کی اور قلابہ بنت عمرو بن جعونہ بن غزیہ بن حدیم بن سعد بن ہم بن عمرو بن حصیص کی صاحبزادی ہیں آپ سے ابو عمرہ بشیر بن عمرو بن محسن بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن الحارث بن مالک بن نجار انصاری نے نکاح کیا جن سے عبد اللہ اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔

اروی رضی اللہ عنہا:

آپ بھی مقوم اور قلابہ کی صاحبزادی ہیں آپ سے ابوسروح حارث بن یحمر بن حیان بن عمیرہ بن ملآن بن ناصرہ بن قصبہ بن سعد بن بکر بن ہوازن نے نکاح کیا، یہ حارث عباس بن عبدالمطلب کے حلیف تھے حارث سے ارووی کے عبد اللہ بن ابی

مسروح پیدا ہوئے۔

ام عمرو رضی اللہ عنہا:

آپ بھی مقوم و قلابہ کی صاحبزادی ہیں، آپ سے مسعود بن معتب ثقفی نے شادی کی جن سے عبد اللہ بن مسعود پیدا ہوئے پھر آپ سے ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب نے نکاح کر لیا جن سے عاتکہ بنت ابی سفیان پیدا ہوئیں۔

اروی رضی اللہ عنہا:

آپ حارث بن عبد المطلب کی اور غزیہ بنت قیس بن طریق بن عبد العزیٰ بن عامر بن عمیرہ بن ودیعہ بن حارث بن فہر کی صاحبزادی ہیں، آپ سے ابو داعد بن صبرہ بن سعید بن سعد بن کہم نے شادی کی جن سے آپ کے مطلب، ابوسفیان، ام جمیل، ام حکیم اور ریحہ کل پانچ بچے پیدا ہوئے۔

درہ رضی اللہ عنہا:

آپ ابولہب بن عبد المطلب اور ام جمیل بنت حرب بن امیہ بن عبد شمس کی صاحبزادی ہیں، آپ سے حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصی نے شادی کی جن سے ولید ابوالحسن اور مسلم پیدا ہوئے، پھر یہ جنگ بدر میں کفر کی حالت میں مارے گئے، ان کے بعد درہ نے وحیہ بن خلیفہ بن فروہ کلبی سے شادی کر لی۔

عزہ رضی اللہ عنہا:

آپ بھی ابولہب اور ام جمیل کی بیٹی ہیں، آپ سے اوفیٰ بن حکیم بن امیہ بن حارث بن اوقص سلمیٰ نے نکاح کیا جن سے عبیدہ سعید اور ابراہیم پیدا ہوئے۔

خالدہ رضی اللہ عنہا:

آپ بھی ابولہب اور ام جمیل کی بیٹی ہیں، آپ سے عثمان بن ابوالعاص بن بشر بن عبد بن دہان ثقفی نے شادی کی جن سے بچے پیدا ہوئے۔

فاطمہ رضی اللہ عنہا:

آپ اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی کی اور فاطمہ بنت حرم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی کی صاحبزادی ہیں، آپ سے ابوطالب بن عبد المطلب نے نکاح کیا جن سے علی، جعفر، عقیل اور طالب پیدا ہوئے طالب سب سے بڑے تھے اور ام ہانی، جمانہ اور ریطہ پیدا ہوئیں۔

رقیقہ رضی اللہ عنہا:

آپ صفیٰ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی کی اور ہالہ بنت کلدہ بن عبد الدار بن قصی کی بیٹی ہیں، آپ سے نوفل بن اسیب بن عبد مناف بن زہرہ نے نکاح کیا جن سے مخرمہ بن نوفل پیدا ہوئے۔

باخبار محمد بن عمر بن عبد اللہ بن جعفر از ام بکر بنت مسور بن مخرمہ از مسور از مخرمہ بن نوفل از رقیقہ بنت صفیٰ: گویا میں

اپنے چچا شیبہ (عبدالمطلب) کو دیکھ رہی ہوں جب انہیں مطلب بن عبدمناف ہمارے پاس لے کر آئے تو اس وقت میں بچی تھی سب سے پہلے میں ہی دوڑ کر انہیں چمٹی تھی اور گھروالوں کو ان کی تشریف آوری کی میں نے ہی خبر دی تھی۔

اس دن رقیقہ عبدالمطلب سے بڑی تھیں آپ نے رسول اللہ ﷺ کو پایا اور مسلمان ہو گئیں آپ اپنے فرزند مخرمہ کے حق میں بڑی سخت تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، متحدہ عبد اللہ بن جعفر، ازام بکسر بنت مسور، از مسعود رقیقہ بنت صیثی بن ہاشم بن عبدمناف یعنی مخرمہ بن نوفل کی والدہ نے رسول اللہ ﷺ کو متنبہ کیا کہ قریش جمع ہو کر آج رات آپ پر شیخون مارنے کا مشورہ کر رہے ہیں مسور کہتے ہیں یہ سن کر رسول اللہ ﷺ اپنے بستر سے ہٹ گئے اور آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سو گئے۔

رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات

خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا:

آپ خولید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصىٰ کی صاحبزادی ہیں آپ ہی نے سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے نکاح کیا ہم آپ کے واقعات آپ کا نسب آپ کے حالات قبل از نبوت رحمت عالم ﷺ سے آپ کا نکاح نبوت کے بعد آپ کا فوراً مشرف بہ اسلام ہونا آپ کی اولاد کا اور آپ کی وفات کا مفصل ذکر شروع کتاب میں کر آئے ہیں آپ کے بعد سرور عالم ﷺ نے جن ازواج مطہرات سے نکاح کیا ان کا بیان ذیل میں دیا جاتا ہے۔

سودہ رضی اللہ عنہا:

آپ زمعد بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ شمس بنت قیس بن عمرو بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار انصاریہ ہیں آپ سکران بن عمرو بن عبد شمس کے نکاح میں تھیں۔ اور آغاز اسلام ہی میں مکہ معظمہ میں مسلمان ہو گئی تھیں اور رحمت عالم ﷺ سے بیعت کر لی تھی اور آپ کے شوہر سکران بن عمرو بھی مسلمان ہو گئے تھے اور دونوں میاں بیوی دوسری ہجرت کے وقت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔

باخبار محمد بن عمرو و بخبر مخرمہ بن یکیر انذیکیر: سکران بن عمرو و معہ اپنی بیوی سودہ کے حبشہ سے مکہ آئے اور مکہ میں فوت ہو گئے پھر جب سودہ رضی اللہ عنہا عدت گزار چکیں اور حلال ہو گئیں تو نبی ﷺ نے کسی کو بھیج کر آپ پر پیام ڈالا بولیں: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے آپ کو اختیار دے دیا آپ جو چاہیں کریں فرمایا: تم اپنی قوم کے کسی آدمی سے کہو کہ وہ تمہارا نکاح کرادے چنانچہ سودہ رضی اللہ عنہا نے حاطب بن عمرو سے کہا اور حاطب نے نبی ﷺ سے آپ کا نکاح کرادیا آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد نبی ﷺ کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔

باخبار محمد بن عمرو و باخبار محمد بن عبد اللہ از زہری از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں بحديث ابن ابی الزناد از ہشام بن عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا سودہ رضی اللہ عنہا بوزہی ہو گئیں اور نبی ﷺ ان کے پاس کثرت سے آتے جاتے نہ تھے انہیں رسول اللہ ﷺ کی نگاہ

میں میرا مقام معلوم تھا اور یہ بھی کہ آپ میرے پاس کثرت سے آتے جاتے ہیں اس لیے انہیں ڈر ہوا کہیں رسول اللہ ﷺ انہیں علیحدہ نہ کر دیں اور آپ کے نکاح میں رہ کر جو انہیں مقام حاصل تھا اسے برقرار رکھنا چاہا، بولیں: یا رسول اللہ میں نے اپنی باری کا دن عانتہ کو دے دیا اور میں نے اجازت دے دی کہ آپ اس دن صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہیں آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی، اسی بارے میں **ابو انور** امرأة خافت من بعلها نشوزاً..... الخ کہ اتری یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے علیحدگی کا یا اعراض کا ڈر محسوس کرے تو اگر دونوں صلح کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔

باخبار محمد بن عمر بن اخبار محمد بن عبد اللہ بن مسلم بسماع عبد اللہ بن مسلم: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رمضان ۱۰ھ نبوی میں سرور عالم ﷺ نے حضرت عانتہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے قبل سوہ سے نکاح کیا اور کہہ میں ان کے ساتھ خلوت کی اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عمار از زہری از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: سوہ رضی اللہ عنہا نے اپنا دن اور اپنی رات صدیقہ کے لیے بہہ کر دی تاکہ اللہ کے رسول ان سے خوش ہو جائیں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عمار از اسماعیل از نعمان بن ثابت تمیمی: نبی ﷺ نے سوہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: عدت گزار لیجئے ایک دن آپ آپ کی راہ گزار پر بیٹھ گئیں جب آپ وہاں سے گزرے تو بولیں: یا رسول اللہ! اب مجھے مرد کی چنداں ضرورت نہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا حشر ازواج مطہرات میں ہو، آپ مجھ سے رجوع کر لیجئے، آخر کار آپ نے رجوع فرمایا۔

باخبار مسلم بن ابراہیم بن محمد بن ہشام دستوائی بن محمد بن قاسم بن ابی بزمہ: نبی ﷺ نے حضرت سوہ کو طلاق کہلا بھیجی، حضرت سوہ رضی اللہ عنہا اس راہ پر بیٹھ گئیں جس سے آپ صدیقہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے پھر جب آپ نے سرور عالم ﷺ کو دیکھا تو کہا: میں آپ کو اس کا واسطہ دیتی ہوں جس نے آپ پر کتاب اتاری اور اپنی مخلوق میں آپ کو برگزیدہ بنایا آپ نے مجھے کیوں طلاق دی؟ کیا آپ نے مجھ میں کوئی ایسا عیب پایا جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے؟ فرمایا نہیں، بولیں اللہ آپ رجوع فرمائیں، میں بوڑھی ہوں، مجھے مرد کی چنداں حاجت نہیں لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا حشر ازواج مطہرات میں ہو، آخر نبی ﷺ نے ان سے رجوع کر لیا، بولیں: میں نے اپنی باری کا دن رات صدیقہ، محبوبہ رسول کو دے دیا۔

باخبار محمد بن حمید عبدی باخبار محمد بن عمر بن محمد بن قاسم بن ابی بزمہ: سوہ رضی اللہ عنہا نے سوہ رضی اللہ عنہا کو علیحدہ کرنا چاہا، انہوں نے اس سلسلہ میں آپ سے گفتگو کی اور بولیں: یا رسول اللہ! مجھے شوہر کی حرص نہیں مگر یہ بات محبوب ہے کہ جب مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے تو آپ کی زوجیت میں اٹھائے۔

باخبار محمد بن حمید عبدی از محمد بن ہشام بن عروہ از عروہ: سوہ رضی اللہ عنہا نے اپنا دن عانتہ رضی اللہ عنہا کو بہہ کر دیا تھا۔ باخبار یزید بن ہارون باخبار محمد بن سلمہ از ثابت بنانی از سمیہ از عائشہ: مجھے سوہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی عورت محبوب نہیں مگر ان میں حسد تھا۔

باخبار ابو معاویہ بن ضریر باخبار اعمش از ابراہیم بن محمد بن قاسم بن ابی بزمہ: سوہ رضی اللہ عنہا نے نبی ﷺ سے فرمایا میں نے گزشتہ شب آپ کے پیچھے نماز پڑھی پھر آپ نے میرے ساتھ رکوع کیا حتیٰ کہ میں نے ناک سے خون نچکنے کے ڈر سے اپنی ناک پکڑ لی، نبی ﷺ ہنس پڑے، آپ

بسا اوقات اپنی باتوں سے نبی ﷺ کو ہنسا دیا کرتی تھیں۔

باخبار عصفان بن مسلم باخبار ابو عوانہ از فراس از عامر از مسروق از عائشہ: ایک دن ازواج مطہرات نے جمع ہو کر کہا: یا رسول اللہ! آپ کی کون سی زوجہ مطہرہ سب سے پہلے آپ سے جا ملے گی؟ فرمایا جس کے سب سے لمبے ہاتھ ہیں پھر ہم ایک ڈکالے کر اپنے اپنے ہاتھ ماپنے لگیں لیکن لمبے ہاتھوں والی سودہ ثابت ہوئیں رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات میں آپ ہی کی وفات ہوئی آپ کی وفات کے بعد ہم نے سمجھا کہ لمبے ہاتھوں سے صدقہ مراد ہے آپ کو صدقہ بڑا پیارا تھا۔

محمد بن عمر: یہ روایت سودہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں وہم ہے نبی ﷺ کی وفات کے بعد زینب کی وفات ہوئی زینب عہد فاروق میں فوت ہوئیں اور سودہ رضی اللہ عنہا عہد معاویہ میں فوت ہوئیں۔

محمد بن عمر: ہمارے نزدیک یہی بات صحیح ہے کہ پہلے زینب فوت ہوئیں اور بعد میں سودہ رضی اللہ عنہا۔

باخبار محمد بن عمر باخبار ابن ابی ذئب از صالح مولی التومہ بسماح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: حجۃ الوداع کے سال رحمت عالم ﷺ نے ازواج مطہرات کے ساتھ حج کیا پھر فرمایا: یہ حج ہے پھر یور یہ پڑا رہتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (نبی ﷺ کی وفات کے بعد) تمام ازواج مطہرات حج کیا کرتی تھیں مگر سودہ اور زینب رضی اللہ عنہما حج نہیں کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد ہمیں کوئی جانور حرکت نہ دے۔

تحدیث محمد بن عمر بتحدیث حماد بن زید از ہشام از ابن سیرین: سودہ نے فرمایا: میں حج اور عمرہ کر چکی اب میں اپنے گھر ہی میں رہوں گی (سفر پر حج کے لیے نہ جاؤں گی) جیسا کہ مجھے حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔

تحدیث یعقوب بن ابراہیم از ابراہیم از صالح بن کیسان از صالح بن نبهان مولی التومہ: بسماح ابو ہریرہ: جب رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع سے واپس آئے تو فرمایا: یہ حج ظہور حصر میں ہے یعنی اب ازواج مطہرات گھروں کو چھٹی رہیں گی صالح فرماتے ہیں: سودہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں: حجۃ الوداع کے بعد اب میں کبھی حج نہیں کروں گی۔

باخبار عبد اللہ بن مسلمہ بن قعب بن تحدیث ائح بن حمید از قاسم بن محمد از عائشہ: شب مزدلفہ میں سودہ رضی اللہ عنہا نے نبی ﷺ سے اجازت مانگی کہ وہ آپ سے اور لوگوں کی بھیڑ سے پہلے منی چلی جائیں آپ ایک بھاری بھر کم عورت تھیں (قاسم کہتے ہیں: حبط یعنی بھاری بھر کم) آپ نے انہیں اجازت دے دی چنانچہ وہ لوگوں کے روانہ ہونے سے پہلے منی کو چلی گئیں اور ہم صبح تک روک لی گئیں اور نبی ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئیں اگر سودہ رضی اللہ عنہا کی طرح میں بھی نبی ﷺ سے اجازت لے کر لوگوں سے پہلے چلی جاتی تو یہ بات مجھے ہر پیاری شے سے پیاری تھی۔

باخبار محمد بن عبیدطافسی بتحدیث عبید اللہ بن عمر از عبد الرحمن بن قاسم از قاسم از عائشہ: کاش سودہ رضی اللہ عنہا کی طرح میں بھی رسول اللہ ﷺ سے لوگوں کے روانہ ہونے سے قبل مزدلفہ سے روانہ ہونے کی اجازت مانگ لیتی اور لوگوں کے آنے سے قبل منی میں صبح کی نماز پڑھتی لوگوں نے صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: کیا سودہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اجازت مانگ لی تھی؟ فرمایا: ہاں وہ ایک بوجھل اور بھاری بھر کم عورت تھیں اور آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی۔

باخبار عبد اللہ بن وہب مصری از افریح بن حمید از قاسم بن محمد از عائشہ رضی اللہ عنہا: سودہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں سے قبل مزدلفہ سے منیٰ جانے کے لیے رسول اللہ ﷺ سے اجازت مانگ لی تھی کیونکہ وہ ایک بھاری بھر کم عورت تھیں پھر آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی۔

تجدیث محمد بن عمر از عبد الحکیم بن عبد اللہ بن ابی فروہ بسماع عبد الرحمن اعرج (آپ مدینہ میں اپنی بیٹھک میں ہم سے بیان فرما رہے تھے) نبی ﷺ نے خیبر میں سودہ رضی اللہ عنہا کو اسی وقت کھجوریں اور بیس وقت جو دیئے فرماتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیہوں دیئے۔

باخبار عارم بن فضل: تجدیث حماد بن زید از ہشام بن حسان از محمد بن عمر: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سودہ رضی اللہ عنہا کو بورے میں درہم بھیجے بولیں: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: درہم ہیں بولیں کیا بورے میں کھجوروں کی طرح؟ اے چاریہ (لوٹھی) میرے پاس کچھی لا۔ محمد بن عمر فرماتے ہیں: پھر آپ نے وہ درہم بانٹ دیئے۔

باخبار ہشام بن محمد بن سائب کلبی از محمد بن سائب کلبی از ابوصالح از ابن عباس: سودہ بنت زینب سکران بن عمرو اور اسمیل بن عمرو کے نکاح میں تھیں ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا جیسے نبی ﷺ تشریف لائے ہیں اور آپ نے سودہ رضی اللہ عنہا کی گردن پر پیر رکھ دیئے ہیں، سودہ رضی اللہ عنہا نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر سے کیا، اس نے کہا اگر واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو میں مرجاؤں گا اور تم سے رسول اللہ ﷺ نکاح کر لیں گے بولیں: حجر او ستر! (بقول ہشام وہ اپنے نفس سے نفی کرتی ہیں) پھر دوسری بار یہ خواب دیکھا کہ میں لیٹی ہوں اور مجھ پر آسمان سے ٹوٹ کر چاند گر گیا ہے، آپ نے اس کا ذکر بھی اپنے شوہر سے کیا بولا: اگر یہ واقعی تمہارا خواب ہے تو بہت جلد میں مرجاؤں گا اور تم نبی ﷺ سے نکاح کر لو گی آخر کار سکران اسی دن بیمار ہو گئے اور چند دن بیمار ہو کر فوت ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ نے سودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔

باخبار محمد بن عبید طائفی: تجدیث محمد بن عمرو از ابوسلمہ بن عبد الرحمن و یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب: خولہ بنت حکیم عثمان بن مظعون کی اہلیہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ! میرے خیال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کی وجہ سے آپ کو عورت کی ضرورت ہے، فرمایا: ہاں، وہ میری اولاد کی والدہ اور گھر کی مالکہ تھیں، بولیں: کیا میں آپ کے لیے پیام نہ ڈالوں؟ فرمایا: ضرور ڈالو، کیونکہ عورتیں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سودہ رضی اللہ عنہا پر اور عائشہ رضی اللہ عنہا پر پیام ڈالا اور آپ نے دونوں سے شادی کر لی، سودہ سے مکہ میں خلوت کی، اس وقت صدیقہ رضی اللہ عنہا ۶ سال کی تھیں اور صدیقہ سے مدینہ میں آنے کے بعد خلوت کی۔

باخبار محمد بن عمر باخبار محمد بن عبد اللہ بن مسلم از عبد اللہ بن مسلم: سودہ رضی اللہ عنہا مدینہ میں عہد معاویہ میں شوال ۵۴ھ میں فوت ہوئیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا:

آپ حضرت ابوبکر صدیق بن ابی قافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی کی صاحبزادی ہیں

آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عمیر بن عامر بن دہان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ ہے۔

باخبار ہشام بن محمد بن سائب کلبی از محمد بن سائب کلبی از ابو صالح از ابن عباس: رحمت عالم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس صدیقہ رضی اللہ عنہما کے لیے پیام ڈالا، ابو بکر رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! میں نے ان کا ذکر یا ان کے سلسلہ میں مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف سے ان کے بیٹے جبیر کے لیے وعدہ کر لیا ہے آپ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان سے ہٹالینے دیں آخر کار آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہم کو اتنی مہلت دے دی پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا آپ کو ناری تھیں۔

باخبار محمد بن عمر باخبار عبدالرحمن بن ابی الرجال از ابو الرجال اپنی والدہ عمرہ بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارہ بسماع عائشہ رضی اللہ عنہا! نبی ﷺ نے مجھ سے شوال ۱۰ نبوی میں ہجرت سے تین سال قبل نکاح کیا اس وقت میں چھ برس کی تھی پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پیر کے دن ۱۲ ربیع الاول کو تشریف لائے اور ہجرت سے آٹھویں ماہ میں آپ نے مجھ سے بیاہ کیا اور خلوت کے وقت میں ۹ سال کی تھی۔

باخبار محمد بن عمر بن عبد بن ابی جرحہ میمون مولیٰ عروہ بن زبیر از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: جب نبی ﷺ نے مجھ سے نکاح کیا تو میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی مجھے معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے حتیٰ کہ مجھے میری والدہ پکڑ کر گھر میں لے گئیں اور گھر میں مجھے روک لیا اب مجھے خیال آیا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے میں نے اس بارے میں اپنی امی جان سے پوچھا نہیں ہاں انہوں نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔

باخبار محمد بن عمر باخبار عبدالرحمن بن ابی الزناد از ہشام بن عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: نکاح کے وقت میں چھ سال کی تھی اور رخصتی کے وقت ۹ سال کی۔ رخصتی کے بعد بھی میں بچیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی جب آپ تشریف لاتے تو آپ سے میری سہیلیاں چھپ جایا کرتی تھیں پھر رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے ہٹ کر انہیں بھیج دیا کرتے تھے۔

باخبار وکعب بن جراح از سفیان از اسماعیل بن امیہ از عبد اللہ بن عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے شوال میں نکاح کیا اور شوال ہی میں بیاہ کیا رسول اللہ ﷺ کی کون سی بیوی آپ کی نگاہ میں مجھ سے زیادہ نصیبہ والی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا شوال ہی میں اپنی عورتوں کی رخصتی محبوب سمجھا کرتی تھیں۔

باخبار عبد اللہ بن نمیر از جلیح از عبد اللہ بن ابی ملیکہ: نبی ﷺ نے اپنے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیام ڈالا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے عائشہ کے بارے میں مطعم کو ان کے بیٹے جبیر کے لیے زبان دے دی ہے آپ مجھے عائشہ کو ان سے ہٹالینے دیں، آخر کار آپ نے ان سے درخواست کی کہ عائشہ کا خیال چھوڑ دیں مطعم نے یہ خیال ترک کر دیا پھر آپ سے نبی ﷺ نے نکاح کر لیا۔

باخبار یزید بن ہارون بن محمد بن فضیل بن مرزوق از عطیہ: نبی ﷺ نے عائشہ پر جو ہنوز بچی تھیں پیام ڈالا، ابو بکر یولے: یا رسول اللہ: کیا سچی سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا: تم میرے دینی بھائی ہو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ کا آپ سے تقریباً پچاس درہم کے خانگی سامان پر نکاح کر دیا۔ پھر عائشہ کے پاس جب کہ وہ بچوں میں کھیل رہی تھیں، ان کی دائیہ بچی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں

لے گئی اور انہیں دلہن بنا کر پردے کی چادر کے ساتھ رسول اللہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔

باخباہریزید بن ہارون، باخباہرحمد بن سلمہ، ازہشام بن عروہ، ازعروہ، ازعائشہ رضی اللہ عنہا: جب مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے نکاح کیا تو میں چھ سال کی تھی اور جب میں آپ کے پاس داخل کی گئی تو ۹ سال کی تھی اور جھولہ میں جھولا کرتی تھی اور میرے سر پر بالوں کا گچھا تھا میں جھولے میں جھول رہی تھی کہ میرے پاس آنے والی آتی ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتی ہے اور مجھے تیار کیا جاتا ہے اور آپ کے پاس داخل کر دیا جاتا ہے اور مجھے ایک ریشم کے ٹکڑے میں میری صورت دکھائی جاتی ہے۔

باخباہریزید بن ہارون، باخباہرحمد بن سلمہ، ازحمید طویل، ازعبداللہ بن عبید بن عمیر: رسول اللہ ﷺ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا بڑا صدمہ تھا اور خطرہ تھا مبادا آپ پر اس کا برا اثر پڑے حتیٰ کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔
باخباہرکعب بن جراح وفضل بن دکین و محمد بن ربیعہ کلابی ازفضیل بن مرزوق ازعطیہ عونی نبی ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک گھر پر نکاح کیا جس کی قیمت تقریباً پچاس درہم تھی۔

باخباہرکعب ازسفیان ازابو اسحق از ابو عبیدہ: جب نبی ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ سات سال کی تھیں اور آپ کی وفات کے وقت ۸ سال کی تھیں۔

باخباہرکعب ازہشام بن عروہ ازعروہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے وقت ۶ یا ۷ سال کی تھیں اور رخصتی کے وقت ۹ سال کی تھیں۔

باخباہر ابو معاویہ ضریر، متحد یرث اعمش از ابراہیم از اسود از عائشہ رضی اللہ عنہا: مجھ سے نبی ﷺ نے میری ۹ سال کی عمر میں بیاہ کیا اور میں آپ کی وفات کے وقت ۱۸ سال کی تھی۔

باخباہر فضل بن دکین متحد یرث اسرائیل از ابواسحق از ابو عبیدہ: نبی ﷺ سے نکاح کے وقت عائشہ ۶ سال کی تھیں اور رخصتی کے وقت ۹ سال کی تھیں اور آپ کی وفات کے وقت ۱۸ سال کی تھیں۔

باخباہر عبدالوہاب بن عطاء، باخباہر اسرائیل از ابواسحق از مصعب بن سعد: حسب سابق۔

باخباہر ابو عاصم نبیل، ضحاک بن مخلد وفضل بن دکین و محمد بن عبداللہ اسدی، متحد یرث سفیان از اسماعیل بن امیہ از عبداللہ بن عروہ از عائشہ: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے شوال میں نکاح کیا اور میں شوال ہی میں آپ کے پاس داخل کی گئی پھر آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ نصیبہ و رآپ کی کون سی عورت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی عورتوں کو شوال میں رخصت کرنا پسند کرتی تھیں۔

ابو عاصم: لوگ شوال میں رخصتی اس طاعون کی وجہ سے اچھی نہیں سمجھتے جو پہلے زمانہ میں شوال میں پھوٹ پڑا تھا۔ ابو عاصم: ہم سے سفیان نے یہ حدیث مکہ میں حسن بن وہب جمعی کے گھر میں ۲۶ھ میں بیان کی۔

باخباہر مسلم بن ابراہیم، باخباہر جعفر بن سلیمان، باخباہر ہشام بن عروہ ازعروہ از عائشہ: مجھ سے نبی ﷺ نے نکاح کیا جب کہ میں سات سال کی تھی اور میری ۹ سال عمر میں مجھ پر داخل ہوئے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی پھر جب آپ تشریف لاتے اور میری سہیلیاں ہمارے سامنے ہوتیں تو آپ ہم سے کہہ دیا کرتے تھے کہ اپنی اپنی جگہ پر رہو۔

باخبار عفان بن مسلم باخبار وہیب باخبار ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور اگر میری سہیلیاں میرے پاس ہوتیں تو نبی ﷺ سے چھپ جایا کرتی تھیں اور آپ انہیں میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے پھر وہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔

باخبار عفان بن مسلم باخبار وہیب باخبار ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: نبی ﷺ سے نکاح کے وقت میں ۶ سال کی اور رخصتی کے وقت ۹ سال کی تھی اور نو سال آپ کے نکاح میں رہی۔

باخبار عارم بن فضل باخبار حماد بن زید از ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ: میں نبی ﷺ سے نکاح کے وقت ۷ سال کی اور رخصتی کے وقت ۹ سال کی تھی۔

باخبار کثیر بن ہشام بن محمد بن جعفر بن برقان از زہری: رسول اللہ ﷺ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان کی ۶ سال کی عمر میں نکاح کیا اور ۹ سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور ۱۸ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔

باخبار محمد بن حمید عبدی بن محمد بن عمر از زہری و ہشام بن عروہ: نبی ﷺ نے اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جس وقت وہ نو یا سات سال کی تھیں۔

باخبار احمد بن اسحاق حضرمی باخبار وہیب از عبید اللہ بن عمر از یزید بن رومان از عروہ از عائشہ: میں عہد رسالت میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔

باخبار محمد بن عمر باخبار خارجہ بن عبد اللہ از یزید بن رومان از عروہ از عائشہ: ایک دن میرے پاس نبی ﷺ تشریف لائے میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی پوچھا عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا گھوڑا آپ ہنس پڑے۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن اسراہیل از اعمش از ابراہیم از اسود از عائشہ: جب مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے نکاح کیا تو میں ۶ سال کی تھی اور رخصتی کے وقت ۹ سال کی تھی اور وفات کے وقت ۱۸ سال کی تھی۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن از ریطہ از عمرہ بنت عبد الرحمن از عائشہ: مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہاری رخصتی کب ہوئی؟ میں نے کہا جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ہمیں اور اپنی بیٹیوں کو مکہ چھوڑ گئے تھے مدینہ میں آنے کے بعد آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام ابورافع کو ہمارے پاس بھیجا اور ان دونوں کو آپ نے دو اونٹ اور پانچ سو درہم عطا فرمائے جو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لیے تھے کہ وہ ان سے حسب ضرورت سواریاں خرید لیں ان دونوں بزرگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دو یا تین اونٹ دے کر عبد اللہ بن ابی ریطہ کو بھی کر دیا تھا اور اپنے بیٹے عبد اللہ کو لکھا کہ میری بیوی (صدیقہ کی والدہ) ام رومان کو مجھ کو اور میری ہمشیرہ اسماء اہلیہ زبیر کو سوار کرادیں چنانچہ یہ سب ایک ساتھ مکہ کو روانہ ہوئے اور جب قدید پہنچے تو زید نے ان پانچ سو درہم سے تین اونٹ خریدے پھر یہ سب اکٹھے مکہ سے روانہ ہوئے اور انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو آل ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار پایا لہذا ہم سب مل کر مکہ سے چلے اور زید بن حارثہ اور ابورافع، فاطمہ ام کلثوم اور سوودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہم کو لے کر نکلے اور زید رضی اللہ عنہ نے ام ایمن اور اسماء رضی اللہ عنہما کو بھی سوار کر

لیا اور عبد اللہ بن ابوبکر ام رومان کو اور اپنی دونوں بہنوں کو لے کر روانہ ہوئے اور طلحہ بن عبید اللہ بھی ساتھ ہو گئے غرضیکہ ہم سب مل جل کر مکہ سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب ہم بیض مثنیٰ میں پہنچے تو ہمارا اونٹ بھاگ پڑا میں اپنی والدہ ام رومان کے ساتھ ہودج میں تھی میری والدہ گھبرا کر کہنے لگیں ہائے میری بچی ہائے میری دلہن آخر کار ہمارا اونٹ پکڑ لیا گیا وہ لفت سے اترا تھا پھر اللہ نے اسے ہمارے حوالہ کر دیا پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اس دن رسول اللہ ﷺ مسجد اور مسجد کے ارد گرد گھر بنا رہے تھے پھر ان میں آپ نے اپنی اہل وعیال کو اتار دیا ہم چند ایام ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے: یا رسول اللہ! آپ اپنی اہلیہ کو رخصت کیوں نہیں کرا لیتے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ فرمایا: مہر (مانع ہے یعنی میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں) یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ساڑھے بارہ اوقیہ (۵۰۰) درہم دیئے۔ سرور عالم نے یہ پوری رقم ہمارے پاس بھیج دی اور میرے ساتھ اس حجرے میں جس میں اب ہوں خلوت فرمائی۔ اور اسی حجرے میں رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی آپ نے اسی حجرے میں مسجد میں جانے کے لیے باب عائشہ کے بالمقابل ایک دروازہ بنوایا اور آپ نے ان گھروں میں سے جو میرے پاس ہیں کسی گھر میں سو دھنیا کے ساتھ خلوت کی اور ان کے پاس رات گزاری۔

باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس باخبار زہیر بن معاویہ باخبار یثیم بن عروہ از عروہ از عائشہ: حضرت سو دھنیا نے اپنا دن عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا اور رسول اللہ ﷺ سے کہہ دیا تھا کہ میرا دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہے پھر رسول اللہ ﷺ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو دن گزارا کرتے تھے۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار حماد بن سلمہ از ہشام یعنی ابن عروہ از عباد بن حمزہ بن عبد اللہ بن زبیر از عائشہ رضی اللہ عنہا: میں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کی کہنیں ہیں آپ میرے لیے کوئی کنیت تجویز فرمادیں؟ فرمایا: ام عبد اللہ کنیت رکھ لو۔

باخبار حجاج بن نصر باخبار عیسیٰ بن میمون از قاسم بن محمد از عائشہ: مجھے ازواج مطہرات پر دس وجہ سے فضیلت حاصل ہے پوچھا گیا: ام المؤمنین وہ دس وجہ کیا ہیں؟ فرمایا: نبی ﷺ نے میرے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا اور میرے سوا کسی ایسی خاتون سے نکاح نہیں جس کے ماں باپ مہاجر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میری براءت اتاری اور آپ کے پاس حضرت جبرئیل آسمان سے ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لائے اور فرمایا: ان سے نکاح کر لیجئے یہ آپ کی اہلیہ ہیں اور میں اور آپ ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے میرے سوا اس طرح آپ اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ غسل نہیں کیا کرتے تھے اور آپ میرے پاس ہوتے تو وحی آجایا کرتی تھی اور اگر کسی اور بیوی کے پاس ہوتے تو وحی نہیں آیا کرتی تھی اور آپ کی وفات میرے گلے اور سینے کے درمیان ہوئی اور آپ میری باری کے دن فوت ہوئے اور میرے حجرے میں مدفون ہوئے۔

باخبار شبابہ بن سوار تخدیرت شعبہ از حکم از ابو اؤائل از عمار (صدیقہ کا ذکر کر کے) کان کھول کر سن لو ہمیں معلوم ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ ﷺ کی اہلیہ ہیں۔

باخبار معقل بن اسد تخدیرت وہیب بن خالد اور عبد العزیز بن محقار باخبار یثیم بن عروہ از عروہ از عائشہ: رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: میں دوبار تم کو خواب میں دیکھ چکا ہوں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ریشمی کپڑے میں تم کو میرے پاس لایا ہے اور کہہ رہا

ہے یہ تمہاری اہلیہ ہیں ان کا نقاب الٹ کر دیکھ لو میں نے نقاب اٹھا کر دیکھا تو تم تمہیں میں نے کہا: اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو اللہ اسے نافذ فرمادے گا۔

باخبار عفان بن مسلم: محمد بن وہیب بن خالد: محمد بن ہشام بن عروہ از عباد بن حمزہ بن عبد اللہ بن زبیر: بقول عائشہ: اے اللہ کے نبی ﷺ آپ میری کنیت کیوں نہیں رکھ دیتے؟ فرمایا ام عبد اللہ کنیت رکھ لو (عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما آپ کے بھانجے تھے)۔

باخبار عفان بن مسلم باخبار مہدی بن میمون: محمد بن شعیب بن حجاب بسماع شعمی از مسروق: مسروق جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے تو فرماتے مجھ سے صدیقہ بنت صدیق نے جو الزام سے بری اور با عصمت ہیں فلاں فلاں حدیث بیان کی اس حدیث میں غیر شعمی کہتے ہیں: مجھ سے اللہ کے پیارے کے پیارے نے فلاں فلاں حدیث بیان کی۔

محمد بن ابوالولید: ہشام طیلسی: محمد بن ابوعوانہ از فراس از عامر از مسروق: ایک خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو امی جان کہہ کر پکارا فرمایا: میں تمہاری امی نہیں ہوں بلکہ تمہارے مردوں کی امی ہوں۔

باخبار ہشام ابوالولید طیلسی: محمد بن ابوعوانہ از ہشام بن عروہ از عائشہ: میری بیٹیاں (گڑیاں) تھیں جب نبی ﷺ میرے پاس تشریف لاتے تو میں ان پر کپڑا ڈال دیا کرتی تھی ابوعوانہ کہتے ہیں تاکہ صدیقہ گڑیاں کھیلنے سے رکیں نہیں۔

باخبار ہشام ابوالولید: محمد بن ابوعوانہ از عبد الملک بن عمیر از عائشہ: مجھے چند چیزیں حاصل ہیں جو کسی عورت کو حاصل نہیں رسول اللہ ﷺ سے نکاح کے وقت میری عمر سات سال تھی آپ کے پاس فرشتہ اپنے ہاتھ میں میری تصویر لے کر آیا اور آپ نے میری تصویر دیکھی رخصتی کے وقت میں نو سال کی تھی میں نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا انہیں میرے سوا کسی عورت نے نہیں دیکھا میں آپ کی سب سے زیادہ چہیتی تھی میرے والد آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے نبی ﷺ نے میرے گھر میں مرض الموت کے ایام گزارے اور میں نے آپ کی تیمارداری کی پھر جب آپ نے وفات پائی تو آپ کے پاس صرف میں اور فرشتے تھے کوئی اور نہ تھا۔

باخبار ہشام ابوالولید طیلسی: محمد بن شریک از ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ: جب سودہ بوڑھی ہو گئیں تو آپ نے اپنا دن مجھے بہہ کر دیا پھر آپ میرے پاس میرے دن اور ان کے دن رہا کرتے تھے۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ از اسرائیل از اسحاق از حمید بن غریب: جنگ جمل کے موقعہ پر ایک شخص نے صدیقہ کی شان کے خلاف کچھ ناشائستہ الفاظ نکلے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے عمار نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ایک شخص صدیقہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے عمار نے کہا: اے نالائق اور اس قابل کہ تجھ پر کتے بھونکیں خاموش ہو جا۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو رسول اللہ ﷺ کی محبوبہ اور لاڈلی بیوی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ دیکھ صدیقہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔

باخبار ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی اویس: محمد بن سلیمان بن بلال از اسامہ بن زید لیشی از ابوسلمہ ماشون از ابو محمد (غفار یوں کے آزاد کردہ غلام) از عائشہ (نبی ﷺ سے مخاطب ہو کر) یا رسول اللہ! جنت میں آپ کی بیویاں کون ہیں؟ فرمایا: ان میں سے ایک تم بھی ہو۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار اسماعیل بن ابی خالد از مصعب بن اسحاق بن طلحہ: مجھے خبر دی گئی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مجھے جنت میں عانت دکھائی گئیں تاکہ مجھ پر موت آسان ہو جائے گویا میں ان کے دونوں ہاتھ دیکھ رہا ہوں۔

باخبار عبداللہ بن نمیر، باخبار ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی کھیلا کرتی تھیں، لیکن جب رسول اللہ ﷺ کو دیکھتیں تو آپ سے چھپ جایا کرتی تھیں، رسول اللہ ﷺ ان کو میرے پاس داخل کر دیا کرتے تھے اور وہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔

باخبار ابو معاویہ ضریر از اسماعیل بن سمیع از مسلم بطین: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عائشہ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی۔
باخبار ابو معاویہ ضریر از ہشام بن عروہ از عباد بن حمزہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہا: یا رسول اللہ! آپ نے اپنی بیویوں کی کنیت رکھی ہے میری بھی کنیت تجویز فرما دیجئے، فرمایا: اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لو۔

باخبار انس بن عیاض لیشی از ہشام بن عروہ از عباد بن حمزہ از عائشہ: اے اللہ کے نبی آپ میری کنیت تجویز کیوں نہیں فرما دیتے؟ فرمایا اپنے بیٹے (بھانجے) کے نام پر کنیت رکھ لو چنانچہ آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔

باخبار ابو معاویہ ضریر و محمد بن عبید اللہ طنافسی، محمد بن یحییٰ از مسلم از مسروق: مسروق سے پوچھا گیا: کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرانس میں ماہر تھیں؟ فرمایا ہاں ہاں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے مشائخ و اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ آپ سے فرانس کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔

باخبار ابو معاویہ ضریر و محمد بن عبید اللہ طنافسی، محمد بن یحییٰ از مسلم از مسروق: مسروق جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی حدیث بیان کرتے تو فرماتے: مجھ سے یہ حدیث صدیقہ بنت صدیق نے اور اللہ کے محبوب کی مصومہ محبوبہ نے بیان فرمائی۔

باخبار ابو معاویہ ضریر از عائشہ از سلمہ از عروہ از عائشہ: (عروہ کہتے ہیں) میں نے صدیقہ کو دیکھا آپ نے ستر ہزار ذرہم خیرات کئے اور اپنے کرتے کا دامن جھاڑ کر کھڑی ہو گئیں۔

باخبار ابو معاویہ ضریر، محمد بن ہشام بن عروہ از محمد بن منکدر از ام ذرہ حسب سابق حدیث ہے۔

باخبار ابو معاویہ ضریر، محمد بن ہشام بن عروہ از محمد بن منکدر از ام ذرہ: ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو تھیلے بھر کر ایک لاکھ کی رقم بھیجی، آپ نے ایک طباق منگوا یا، اس دن آپ کا روزہ تھا آپ وہ رقم لوگوں میں بانٹنے لگیں، فرماتے ہیں جب شام ہو گئی تو لوٹ کر کو افطاری لانے کا حکم دیا، ام ذرہ بولیں: ام المؤمنین! کیا آپ ان درہموں میں سے ایک درہم کا گوشت نہیں منگوا سکتی تھیں جس سے آپ روزہ کھول لیتیں؟ فرمایا: مجھے مت ڈانٹو اگر تم مجھے یاد دلا دیتیں تو میں گوشت منگوا لیتی۔

باخبار اسباط بن محمد از مطرف از ابوالفتح از مصعب بن سعد: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امہات المؤمنین کے لیے دس دس ہزار اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بارہ ہزار وظیفہ مقرر فرمایا اور فرمایا: آپ رسول اللہ ﷺ کی محبوبہ ہیں۔

باخبار کعب بن جراح اور محمد بن عبید، محمد بن اسماعیل بن ابی خالد از قیس بن ابی حازم عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! آپ کو سب سے زیادہ کون پیارے ہیں؟ فرمایا: عائشہ، بولے: میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، فرمایا: ان کے والد۔

باخبار فضل بن دکین، متحد یث سفیان از فراس از شععی از مسروق: ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو امی جان کہہ دیا، فرمایا: میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔

باخبار ابواسامہ، حماد بن اسامہ، باخبار ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے تم کو دوبار خواب میں دیکھا ہے تم ریشم کے ایک کپڑے میں میرے پاس لائی گئیں پھر جب میں نے اسے کھولا تو تم تھیں، کہا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں، میں بولا: اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو اللہ سے نافذ فرمادے گا۔

باخبار محمد بن زید واسطی باخبار جالد بن سعید از عامر شععی از مسروق: مجھ سے حضرت عائشہ نے فرمایا: میں نے اپنے اس حجرے کے دروازے پر حضرت جبرئیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کھڑا ہوا دیکھا اور رسول اللہ ﷺ آپ سے چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، پھر جب آپ اندر تشریف لائے تو میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ کون تھے جن سے آپ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا: کیا تم نے انہیں دیکھا تھا؟ میں بولی: ہاں، فرمایا تم نے انہیں کس کے مشابہ پایا؟ میں بولی: دجیہ کلبی کے، فرمایا: تم نے فراوانی کے ساتھ خیر دیکھی وہ جبرئیل تھے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا: عائشہ! یہ جبرئیل ہیں، تم کو سلام کہہ رہے ہیں، میں بولی: وعلیہ السلام اللہ تعالیٰ اس آنے والے کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔

باخبار یزید بن ہارون و کعب بن جراح و فضل بن دکین، متحد یث زکریا بن ابی زائدہ از شععی از ابوسلمہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: جبرئیل تم کو سلام کہہ رہے ہیں، میں بولی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ کعب کہتے ہیں اس میں عبد اللہ بن حبیب نے شععی سے یہ اضافہ کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: واہواہ اور مطیح بن عبد اللہ شععی سے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آنے والے اور ملاقات کرنے والے کے لیے خوش آمدید ہو۔ باخبار عثمان بن مسلم، متحد یث شعبہ بقول عبد اللہ بن قاسم، مخبر قاسم: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دائمی روزہ رکھا کرتی تھیں۔ باخبار حجاج بن محمد از شعبہ از سعد بن ابراہیم از عائشہ: حسب سابق روایت ہے۔

باخبار حجاج بن محمد از ابن جریج بقول عطاء: میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا جایا کرتے تھے جب کہ آپ کو شہر پر پھری ہوئی تھیں، ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطاء سے پوچھا: اس دن آپ کا پردہ کیا تھا؟ فرمایا: آپ اس وقت اپنے ترکی خیمہ میں تھیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان خیمہ کی قاتیں حائل تھیں لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کسم میں رنگا ہوا کرتا پہنے ہوئے ہیں اس وقت میں بچہ تھا۔

باخبار کثیر بن ہشام، متحد یث جعفر بن برقان: میں نے زہری سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کو اختیار دے دیتا ہے اور وہ اسی کو ترجیح دیتی ہے فرمایا مجھ سے عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا: میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لا کر فرمانے لگے: میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں اگر اس کے جواب میں تم جلدی نہ کرو تو کوئی ہرج نہیں اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا، میں بولی: وہ بات کیا ہے؟ آپ نے مجھے یا ایہا النبی! قل لا و اجک الخ پڑھ کر سنائی یعنی اے نبی! آپ اپنی بیویوں سے فرمادیں کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی خوبصورتی چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو متحد دے کر خوبصورتی سے چھوڑ دوں گا، غرضیکہ آپ نے اجراً عظیماً تک یہ آیت پڑھی، صدیقہ بولیں: آپ ان آیتوں سے کس حکم کے

بارے میں مجھے والدین سے مشورہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں؟ میں تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہوں یہ جواب سن کر نبی ﷺ خوش ہو گئے اور آپ کو یہ جواب بڑا پیارا معلوم ہوا اور فرمایا: جو بات میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے وہی تمہاری سونتوں کے سامنے رکھوں گا صدیقہ نے کہا: انہیں میرے جواب کی اطلاع نہ دینا لیکن آپ نے اس کا اقرار نہیں فرمایا جو کچھ صدیقہ سے کہا تھا وہی ہر ایک سے کہتے تھے اور فرماتے تھے: عائشہ نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کو پسند فرمایا ہے، صدیقہ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اختیار دیا اور یہ ہم نے طلاق پر محمول نہیں کیا۔

باخبار ابو بکر محمد بن مرہ کی، متحد بیٹ نافع بن عمر، متحد بیٹ ابن ابی ملیکہ: جب ابن زبیر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان فرماتے تو فرماتے: اللہ کی قسم عائشہ نبی ﷺ پر کبھی جھوٹ نہیں باندھ سکتیں۔

باخبار سعید بن منصور، متحد بیٹ ابن ابی الزناد از ہشام بن عروہ از عروہ: مجھ سے صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بھانجے! مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری ناراضی اور رضا مجھ سے چھپی نہیں رہتی میں بولی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس طرح پہچان جاتے ہیں؟ فرمایا: رضا کے وقت جب تم قسم کھاتی ہو لا اور ب محمد (محمد کے رب کی قسم) کہتی ہو اور ناراضی کے وقت لا اور ب ابراہیم (ابراہیم کے رب کی قسم) کہتی ہو میں بولی یا رسول اللہ آپ سچ فرماتے ہیں۔

باخبار محمد بن ربیعہ کلابی از اسماعیل بن رافع از اسحاق اعمی: میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا آپ نے مجھ سے پردہ کیا، میں بولا: آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالانکہ میں آپ کو دیکھتا نہیں؟ فرمایا اگر تم مجھے دیکھتے تو میں تو تمہیں دیکھتی ہوں۔

باخبار محمد بن عمر از عبد الحکیم بن عبد اللہ بن ابی فروہ بسماع عبد الرحمن اعرج: (مدینہ میں اپنی مجلس میں) رسول اللہ ﷺ نے خیبر کی کھجوروں میں سے صدیقہ کو ۸۰۰ سق کھجوریں دیں اور ۲۰۰ سق جو دیئے یا گے ہوں دیئے۔ باخبار انس بن عیاض و عبد اللہ بن نمیر، متحد بیٹ ہشام بن عروہ از عروہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک ریشمی چادر تھی آپ نے وہ چادر عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دے دی۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار ہشام بن حسان از شمیہ: وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں آپ کے جسم پر باریک کپڑے کرتے دوپٹہ اور نقاب تھا یہ کپڑے عصف میں رنگے ہوئے تھے۔

باخبار اسحاق بن یوسف از رقی، متحد بیٹ مالک اپنی کسی پھوپھی کی حدیث سے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عصف میں رنگے ہوئے کپڑے پہنتی تھیں۔

باخبار انس بن عیاض از یحییٰ بن سعید بسماع عبد الرحمن بن قاسم: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا احرام کی حالت میں عصف میں رنگے ہوئے کپڑے پہنتے ہوئے تھیں۔

باخبار ابو بکر بن عبد اللہ بن اویس از سلیمان بن بلال از عمرو بن ابی عمرو بسماع قاسم بن محمد: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے احرام میں دونوں کے سرخ کپڑے یعنی سنہرے اور عصف میں رنگے ہوئے کپڑے زیب بدن تھے۔

باخبار فضل بن دکین، متحد بیٹ سفیان از عبد الرحمن بن قاسم از قاسم از عائشہ: آپ عصف میں رنگے ہوئے کپڑے پہنتی تھیں۔

باخبار عبداللہ بن مسلمہ بن قعب، بخدیث عبدالعزیز بن محمد از عمرو بن ابی عمرو: میں نے قاسم بن محمد سے پوچھا: لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو قسم کے سرخ (عصفر اور سونے کے) رنگوں سے متع فرمایا، فرمایا: غلط خیال ہے اللہ کی قسم میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا آپ عصفر میں رنگے ہوئے کپڑے اور سونے کی انگوٹھیاں پہنا کرتی تھیں۔

باخبار عارم بن فضل، بخدیث عبدالرحمن بن قاسم از قاسم: صدیقہ رضی اللہ عنہا عصفر میں رنگے ہوئے کرتے میں احرام باندھ لیا کرتی تھیں۔ بخدیث عارم بن فضل، بخدیث حماد بن زید از ایوب، بخدیث ابن ابی ملیکہ: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر سرخ کرتے دیکھا۔
باخبار معالی بن اسد، بخدیث معالی بن زیاد قطعی، بخدیث بکرہ بنت عقبہ: میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی آپ عصفر میں رنگے ہوئے ایک کپڑے پر تشریف فرما تھیں میں نے آپ سے حنا کے بارے میں پوچھا، فرمایا وہ پاکیزہ درخت ہے اور پاک پانی نہ ہے اور میں نے آپ سے (بال اکھاڑنے) کے بارے میں پوچھا، فرمایا: اگر تمہارا شوہر ہو اور تم آنکھ کے کوہ کے بال اکھاڑ کر اسے بہتر اور خوبصورت بنا سکو تو بنا لو۔

باخبار حجاج بن نصیر، بخدیث علی بن مبارک، بخدیث ام شیبہ: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر عصفر میں رنگا ہوا لباس دیکھا۔ باخبار معن بن عیسیٰ، بخدیث مالک از عاتقہ بن ابی عاتقہ اپنی والدہ سے: شخصہ بنت عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں سر پر مہین دوپٹہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے پھاڑ کر دبیز دوپٹہ اوڑھا دیا۔

باخبار معن بن عیسیٰ، بخدیث حزمہ بن بکیر از بکیر از عمرہ از عائشہ: عورت پر نماز کی حالت میں تین کپڑوں کا ہونا ضروری ہے کرتے چادر اور دوپٹہ، صدیقہ اپنا تہبند کھول کر اسے چادر کی جگہ استعمال کر لیا کرتی تھیں۔ باخبار مسلم بن ابراہیم، بخدیث ام نصر، بخدیث معاذہ: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر عصفر میں رنگا ہوا الحاف دیکھا۔

بخدیث محمد بن عبداللہ اسدی، بخدیث سفیان از ابن جریج از حسن بن مسلم از صفیہ: میں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقاب ڈالے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں۔

باخبار حجاج بن نصیر، بخدیث ابو عامر خزاز از عبداللہ بن ابی ملیکہ: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر سرخ لباس دیکھا۔ باخبار فضل بن دکین، بخدیث حبیبہ بنت عبدالمبارقہ اپنی والدہ سے: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر سرخ کرتا اور سیاہ دوپٹہ دیکھا۔

باخبار سلیمان بن حرب و مسلم بن ابراہیم، بخدیث اسود بن شیبان، بخدیث ام مغیرہ انصار کی آزاد کردہ لونڈی: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ریشم کے بارے میں پوچھا، فرمایا: ہم عہد رسالت میں سیراء کے کپڑے پہنا کرتے تھے، سیراء میں کچھ ریشم ہوتا ہے۔

باخبار محمد بن محمد بن ولید از رقیہ بنتی، بخدیث داؤد بن عبدالرحمن از یحییٰ بن سعید بسماح، قاسم بن محمد: ایک ٹھنڈے دن میں ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھیں نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا آپ نے اسے ہٹایا نہیں۔ باخبار معن بن عیسیٰ، بخدیث مالک بن انس از ہشام بن عروہ از عروہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اپنی ریشمی چادر دے دی جسے وہ اوڑھا کرتی تھیں۔

باخبار معن بن عیسیٰ و مطرف بن عبداللہ متحد ریث مالک بن انس از نافع مولیٰ ابن عبداللہ بن عمر از قاسم بن محمد بن محمد بن اشعث نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: کیا ہم آپ کو ہدیہ کے طور پر ایک پوشین نہ دیں؟ آپ سے پہنیں وہ زیادہ گرم ہوتا ہے، فرمایا: مجھے مردہ جانور کی کھال ناپسند ہے، بولے: میں خود انتظام کروں گا اور زنج کردہ جانور کی کھال دوں گا چنانچہ آپ نے ایک پوشین تیار کیا اور اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا آپ اسے پہنا کرتی تھیں۔

باخبار خالد بن خالد، متحد ریث سلیمان بن بلال از علقمہ بن ابی علقمہ اپنی والدہ سے: میں نے حفصہ بنت عبدالرحمن بن ابی بکر کو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جہین دو پٹہ اوڑھ کر جاتی ہیں جو اپنے گریبان کی راہ سے جھلملا رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے پھاڑ کر فرمایا: کیا تمہیں سورہ نور کی (پردہ کی) آیت معلوم نہیں پھر دوسرا (دبیز) دو پٹہ منگوا کر انہیں دیا۔

باخبار عبدالوہاب بن عطاء از ابن جریج بن جریج از عکرمہ: حالت احرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر امہات المؤمنین نبی ﷺ کی وفات کے بعد ہندی لگا لیا کرتی تھیں اور عصر میں رنگے ہوئے لباس میں حج کر لیا کرتی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، متحد ریث منصور بن سلمہ از سلمہ از عائشہ بنت طلحہ از ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ہم نبی ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب ہم مقام قاحہ میں پہنچے تو میرے سر سے زردی بہہ کر چہرے پر آئی کیونکہ میں نے روانہ ہونے سے قبل سر پر خوشبو لگائی تھی نبی ﷺ نے فرمایا: اب تمہارا رنگ بڑا پیارا ہے۔

باخبار محمد بن عمر، متحد ریث ثوری از معاویہ بن اسحاق از عائشہ بنت طلحہ از عائشہ ام المؤمنین: میں نے نبی ﷺ سے جہاد کے بارے میں پوچھا، فرمایا: تم عورتوں کا جہاد حج ہے۔

باخبار محمد بن عمر، باخبار ابن ابی الزناد از ہشام بن عروہ از عروہ: کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساٹھ اور سواشعار کا قصیدہ روایت کر دیا کرتی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، متحد ریث ابن ابی سبرہ از عبدالمجید بن سمیل از عکرمہ: صدیقہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے پردہ کیا کرتی تھیں (فرماتے ہیں) پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا ان کے پاس جانا حلال ہے یعنی صدیقہ کا ان سے پردہ صحیح نہیں۔

باخبار محمد بن عمر، باخبار سفیان بن عیینہ از عمرو بن دینار از ابو جعفر: حسن و حسین رضی اللہ عنہما ازواج مطہرات کے پاس نہیں آتے جاتے تھے (ازواج مطہرات ان سے پردہ کیا کرتی تھیں) پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا کہ ان سے پردہ نہیں، محمد بن عمر کہتے ہیں: ان سے اس لیے پردہ نہیں کہ وہ اولاد اور رسول اللہ ﷺ ہیں اور ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور مالک رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ بیوی شوہر کی اولاد اور اولاد اولاد کے لیے کبھی حلال نہیں اور نہ ان کی بیٹیاں حلال ہیں اس پر علماء کا اجماع ہے۔

باخبار اسماعیل بن ابراہیم اسدی از شعیب بن حجاب از ابوسعید: ایک آنے والا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، آپ اپنا نقاب ہی رہی تھیں، اس نے کہا: ام المؤمنین! کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرمادی؟ فرمایا: چھوڑو، ان باتوں کو وہ نئے کپڑوں کا حقہ نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔

باخبار یزید بن ہارون، باخبار ابن عون از قاسم: ام المؤمنین پرانے کپڑوں کے عادی ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پسند نہیں

کرتی تھیں۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ، باخبار اسامہ بن زید از عبد الرحمن بن قاسم اپنی والدہ سے: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر حالت احرام میں گھر سے سرخ کپڑے دیکھے گویا وہ انگارے ہیں۔

باخبار فضل بن دکین، بتحدیث حمید بن عبد اللہ اصم اپنی والدہ سے: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کسم میں رنگی ہوئی چادر دیکھی اور جوش مارتا ہوا سیاہ دوپٹہ دیکھا۔ باخبار عبد اللہ بن نمیر از ہشام بن عمرو از عروہ از عائشہ: کاش مرنے کے بعد میں بھولی بسری ہو جاتی۔

باخبار یعلیٰ بن عبید و کعب بن جراح و فضل بن دکین، بتحدیث ہارون بربری از عبد اللہ بن عبید بن عمیر: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری نعش پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ باخبار اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اپنے کسی ساتھی سے اور وہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے: جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمائے لگیں: کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی۔

باخبار فضل بن دکین، بتحدیث ہشام بن مغیرہ، بحدیث یحییٰ بن عمرو از عمرو بن سلمہ از عائشہ: کاش میں درخت ہوتی، کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا۔

باخبار فضل بن دکین، بتحدیث عیسیٰ بن دینار: میں نے ابو جعفر سے صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پوچھا، فرمایا: ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت مانگو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا تمنا کیا کرتی تھیں: کاش میں درخت ہوتی، کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی؟ میں نے پوچھا ان تمناؤں سے آپ کی کیا مراد تھی؟ فرمایا: تو بہ مقصود تھی۔

باخبار فضل بن دکین، بتحدیث حسن بن صالح از اسماعیل از قیس: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی وفات کے وقت فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی باقی اختیار کر لی تھیں (یہ آپ نے کس نفسی کے طور پر فرمایا تھا) لہذا مجھے نبی ﷺ کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا۔

باخبار محمد بن عبد اللہ اسدی، بحدیث عمر بن سعید بن ابی حسین از ابن ابی ملیکہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی وفات سے قبل تشریف لے گئے اور ان کی اس طرح تعریف کی: شردہ ہو کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی اہلیہ ہیں اور آپ نے بجز تمہارے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا اور تمہاری براءت آسمان سے اتری، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بعد ابن زبیر رضی اللہ عنہما تشریف لے آئے، بولیں: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے میری تعریف کی، آج میں کسی سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتی میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھول بسر جاتی۔ باخبار محمد بن عبد اللہ اسدی، بتحدیث مسعر از حماد از ابراہیم: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کاش میں اس درخت کا پتہ ہوتی۔ باخبار قبصہ بن عقبہ، بتحدیث سفیان از اعش از خیمہ جب صدیقہ سے پوچھا جاتا: کیسا مزاج ہے؟ فرماتا میں: الحمد للہ! اچھی ہوں۔

باخبار مالک بن اسماعیل، محمد بن زہیر، محمد بن عبد اللہ بن عثمان، بحدیث عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی ملیکہ، بحدیث ذکوان، در بان عائشہ: میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، آپ کے سر اپنے آپ کے پیچھے عبد اللہ بن عبد الرحمن تھے، میں نے کہا: آپ کے پاس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آنا چاہتے ہیں اس وقت آپ دنیا سے سدھارنے والی تھیں، بولیں: ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نہ آنے دو اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں، ذکوان نے کہا: ام المؤمنین! ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے ایک نیک و صالح فرزند ہیں آپ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں بولیں اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو آخر کار میں نے انہیں بلا لیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آتے ہی آپ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے: بشارت ہو بولیں: کس چیز کی؟ فرمایا اس کی جو تمہارے اور محمد رسول اللہ ﷺ کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان ہے، بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی، آپ رسول اللہ ﷺ کی انتہائی لاڈلی بیوی ہیں رسول اللہ ﷺ پاکیزہ چیز ہی سے محبت کیا کرتے تھے اور دیکھئے ابواء کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ ﷺ منزل میں صبح تک ٹھہرنے رہے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، مسلمانوں کو یہ بھولت آپ کی بدولت نصیب ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی براءت ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری جسے روح الامین لے کر آئے اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ کی براءت کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں، بولیں: ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی تعریفیں چھوڑو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بسری ہوئی ہو جاتی۔

باخبار قبیصہ بن عقبہ سفیان کہتے ہیں: انہوں نے ہمیں عبد الرحمن بن قاسم سے اور انہوں نے قاسم سے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا لگا تا روزے رکھا کرتی تھیں۔

باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس، محمد بن زہیر، باخبار لیث بن ابی سلیم، بحدیث عبد الرحمن بن سابط از ابن عباس رضی اللہ عنہما: (بیماری میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر) ام المؤمنین! ام المؤمنین کا لفظ ہی آپ کی سعادت کی دلیل ہے آپ کی ولادت سے قبل ہی یہ نام آپ کے لیے تجویز کر دیا گیا تھا۔

باخبار عبد الوہاب بن عطاء، باخبار ابن عون از نافع: صدیقہ نے وصیت کی کہ میں اس بیماری میں ایک نئی بات دیکھ رہی ہوں۔ باخبار عبد الوہاب بن عطاء، محمد بن نہاش بن فہم از عبد اللہ بن عبید بن عمیر: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مرض الموت میں فرمایا: مجھے آگ سے گرم نہ کرنا اور نہ میرے نیچے سرخ مٹلی چادر بچھانا۔

باخبار احمد بن محمد بن ولید از رقی کی، محمد بن مسلم بن خالد بحدیث زیاد بن سعد از محمد بن منکدر از عائشہ: کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔

باخبار سعید بن محمد ثقفی از صالح بن حیان از عروہ بن زبیر از عائشہ: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تم دنیا پر مسافر کے توشہ کی مانند قناعت کرو اور امراء کی مجلسوں میں نہ اٹھو بیٹھو اور کپڑوں کو جب تک ان میں بیوند کام دیتے ہیں پرانا نہ سمجھو۔

باخبار انس بن عیاض از جعفر بن محمد از محمد از عائشہ: جب میں کفنائی جا چکوں اور میرے کفن میں خوشبو لگائی جا چکے اور ذکوان مجھے قبر میں اتار دے اور مجھ پر مٹی برابر کر دے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابن ابی الزناد از ابو الزناد: ابن ابی عتیق صدیقہ کے پاس گئے، آپ بیمار تھیں، بولے: ام المؤمنین! کیسی طبیعت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں بولیں: اللہ کی قسم موت ہے، کہنے لگے: تو پھر میرے ماں باپ آپ پر قربان نہ ہوں بولیں: تم دل لگی کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے۔

باخبار یعلیٰ بن عبید، محمد بن یث ہارون بربری از عبد اللہ بن عبید بن عمیر: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا اور میرے نیچے مٹی چادر نہ بچھانا۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابن ابی سبرہ از موسیٰ بن میسرہ از سالم سلان: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رمضان کی شب کو تہجد کے بعد دنیا سے سدھاریں میں نے حکم کیا کہ آپ رات ہی میں دفن کی جائیں، آخر کار لوگ رات ہی میں جمع ہو گئے اور کسی رات میں اتنے آدمی نہیں دیکھے گئے جتنے آج کی شب دیکھے گئے، دیہاتی بھی آگئے تھے آخر آپ بقیع میں دفن کی گئیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابن ابی سبرہ از عثمان بن ابی عتیق: اس رات جس رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا سانحہ پیش آیا، میں نے دیکھا ان کے جنازے کے ساتھ رات میں لکڑیوں میں کپڑے باندھ کر اور ان میں آگ روشن کر کے لے جائے جا رہے تھے اور میں نے بقیع میں عورتوں کو بھی دیکھا گویا عید کا دن ہے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابن جریج از نافع: میں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جنازے کی نماز بقیع میں پڑھائی اور لوگوں میں ابن عمرو بھی تھے مگر آپ نے انہیں ٹوکا نہیں اس سال مروان عمرہ کرنے گئے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر گئے تھے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث عبد الرحمن بن عبد العزیز اور عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم: رمضان ۱۵ھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ تہجد کے بعد دفن کی گئیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث عبد اللہ بن عمرو بن زبیر از عثمان بن ابی الوالد از عروہ: میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر میں پانچواں تھا، باقی عبد اللہ بن زبیر، قاسم بن محمد، عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبد اللہ بن عبد الرحمن تھے، آپ پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رمضان میں وتر کے بعد نماز پڑھی۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابن ابی سبرہ از عثمان بن ابی عتیق از قاسم بن محمد: میں اور عبد اللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر اور عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر میں اترے تھے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابن ابی سبرہ از عثمان بن ابی عتیق: جس رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں اس رات میں نے دیکھا کہ لوگوں نے روغن زیتون میں کپڑے تر کر کے انہیں لکڑیوں میں باندھ کر روشن کر رکھے تھے اور آپ کے جنازے کے ساتھ لے جا رہے تھے۔

باخبار محمد بن عمر، متحد بیٹ محمد از زہری از عروہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رات میں دفن کی گئیں۔ باخبار عوفان بن مسلم، متحد بیٹ حماد بن سلمہ، باخبار ہشام بن عروہ از عروہ: ابن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رات میں دفن کیا تھا۔

محمد بن عمر: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ۵۸ھ میں بدھ کی شب کو ۶۶ سال کی عمر میں فوت ہوئیں اور اسی شب کو وتر کے بعد مدفون ہوئیں۔

باخبار حفص بن غیاث، متحد بیٹ اسماعیل از ابوالخلیق بقول مسروق: اگر فلاں بات نہ ہوتی تو میں ام المومنین پر نوحہ قائم کرتا۔ باخبار یعلیٰ و محمد پسران عبید، متحد بیٹ ہارون بربری از عبداللہ بن عبید بن عمیر: ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا: لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا غم کیا؟ بولے: لوگ غمزہ بھی تھے، سب نہیں آپ کی وفات پر وہی غمزہ تھا جس کی آپ ماں تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، متحد بیٹ عبدالواحد بن میمون مولیٰ عروہ از حبیب مولیٰ عروہ: جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں تو نبی ﷺ کو سخت صدمہ ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، آپ گوارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لا کر بولے: یا رسول اللہ یہ آپ کا صدمہ زائل کر دیں گی اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بدل ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عائشہ کو لوٹا دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر آیا جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: ام رومان: عائشہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور ان کے سلسلہ میں میری حفاظت کرو اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گھر میں قدر و منزلت تھی اور گھر والے ان کے بارے میں اللہ کے حکم سے بالکل بے خبر تھے، پھر ایک دن نبی ﷺ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر حسب معمول تشریف لائے (حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے دن سے لے کر ہجرت تک آپ برابر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر روزانہ بلاناغہ آیا کرتے تھے) دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منہ چھپائے ہوئے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی زار زار رو رہی ہیں آپ کا دل سچ گیا، رونے کی وجہ پوچھی، بولیں: امی جان مجھ پر بھڑک اٹھتی ہیں یہ سن کر آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور ام رومان کے پاس جا کر آپ نے فرمایا: ام رومان! کیا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تم کو نہیں کہا تھا کہ تم ان میں میری حفاظت کرو؟ بولیں: یا رسول اللہ انہوں نے صدیق کو میری باتیں بتا کر انہیں مجھ سے ناراض کر دیا، فرمایا: اگرچہ انہوں نے ایسا کیا، ام رومان بولیں: یہ بری عادت ان میں ہمیشہ کے لیے راسخ نہ ہو جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ۴۲ھ نبوی کے شروع میں پیدا ہوئیں اور آپ سے رسول اللہ ﷺ نے ۶ سال کی عمر میں سووہ رضی اللہ عنہا سے ایک ماہ بعد نکاح فرمایا۔

باخبار محمد بن عمر، متحد بیٹ ابن ابی الزناد از ہشام اپنے باپ سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! تمہاری رضا اور ناراضگی مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتی، میں نے کہا: یا رسول اللہ آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا: رضا کے وقت تم لا اور ب محمد (محمد کے رب کی قسم) کھاتی ہو اور غصہ کی حالت میں ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ میں بولی: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم آپ نے سچ فرمایا: میں محض آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔

باخبار محمد بن عمر، متحد بیٹ ابن ابی ذعب از حارث بن عبدالرحمن از محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان از عائشہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کو فضیلت حاصل ہے۔

باخبار محمد بن عمر بن عبدیث ابن ابی طوالہ از ابوطوالہ از انس از نبی ﷺ: حسب سابق روایت ہے۔

باخبار محمد بن عمر بن عبدیث معمر از زہری از ابوسلمہ بن عبدالرحمن از عائشہ از نبی ﷺ: عائشہ رضی اللہ عنہا یہ خبر سئل ہیں اور تم کو سلام کہتے ہیں۔ بولیں: وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتی ہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا اور نبی ﷺ وہ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔

باخبار محمد بن عمر بن عبدیث ابوبکر بن عبید اللہ از ربیعہ بن عثمان: ایک شب رسول اللہ ﷺ رات بھر چلتے رہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: دیکھو تم مجھے مکھن و کھجور سے بھی زیادہ پیاری ہو۔

باخبار محمد بن عمر بن عبدیث فاطمہ بنت مسلم از فاطمہ خزاعیہ بسامع از عائشہ: ایک دن میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے میں نے کہا: آج دن بھر آپ کہاں رہے؟ فرمایا: تمیراء میں ام سلمہ کے پاس تھا میں بولی: ام سلمہ سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا آپ مسکرانے لگے میں نے کہا: یا رسول اللہ! اگر آپ کسی میدان میں پہنچیں اور اس کے کسی حصہ کو چرایا ہوا دیکھیں اور کسی حصہ کو بالکل محفوظ دیکھیں تو آپ کس حصہ میں چرائیں گے؟ فرمایا: محفوظ حصہ میں میں بولی: میں دیگر ازواج کی طرح نہیں ہوں بجز میرے آپ کی ہر بیوی غیر مرد کے پاس رہ چکی ہے: فرماتی ہیں: یہ سن کر آپ مسکرانے لگے۔

باخبار محمد بن عمر بن عبدیث ابن ابی سبرہ از موسیٰ بن میسرہ از ابوعبد اللہ قراظ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا یعنی جس رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی ہے۔

باخبار محمد بن عمر از عبید اللہ بن عروہ از عثمان بن عروہ از عروہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ۱۹ رمضان کو بدھ کی شب کو ۵۵ھ میں فوت ہوئیں اور جنازے کی نماز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔

باخبار محمد بن عمر از عبید اللہ بن عروہ از عیسیٰ بن معمر از عباد بن عبد اللہ بن زبیر: ہم نے حضرت کی قبر پر کپڑا پھیلا کر پردہ کر لیا تھا اور لکڑیوں پر روغن میں ترکیبے باندھ کر ان کو روشن کر لیا تھا اور آپ کو رات میں وتر کے بعد ماہ رمضان میں دفن کیا تھا۔

باخبار محمد بن عمر از عمر بن عبد اللہ بن محمد بن عبدالرحمن بن ابوبکر از عبد اللہ بن محمد: میں عائشہ کے دفن کے وقت موجود تھا ہم نے آپ کو رات میں دفن کیا۔

باخبار محمد بن عمر باخبار محمد بن عبد اللہ بن جعفر از ابن ابی عون: عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: مجھ میں اور صفیہ میں تو تو میں میں ہو گئی میں نے ان کے والد کو اور انہوں نے میرے والد کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے جھگڑا سن کر فرمایا: صفیہ! تم ابوبکر کو برا کہہ رہی ہو؟ صفیہ! تم ابوبکر کو برا کہہ رہی ہو؟

باخبار محمد بن عمر باخبار محمد بن عبد اللہ از زہری از ابن مسیب: رسول اللہ ﷺ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ابوبکر! میری صحایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خبر نہیں لیتے؟ آخر کار ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر زور سے صدیقہ کے سینہ پر مارا رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے ابوبکر تم کو اللہ معاف فرمائے میرا یہ مقصد نہ تھا۔

باخبار محمد بن عمر بن عبدیث سفیان ثوری از اعش از عمارہ بن عمیر: سننے والے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سن کر بیان کیا کہ

جب آپ آیت وقرن فی بیوتکن (اپنے اپنے گھروں میں چمٹی رہو) پڑھیں تو اس قدر رو تیں کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے شرابور ہو جاتا۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا:

آپ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد اللہ بن قریظ بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مطلق بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن محج ہے نہ نب عثمان بن مظعون کی ہمشیرہ ہے۔
باخبار محمد بن عمر محدیث اسامہ بن زید بن اسلم از زید بن اسلم از اسلم از عمر حفصہ رضی اللہ عنہا بعثت سے پانچ سال قبل پیدا ہوئیں جب قریش بیت اللہ کو بنا رہے تھے۔

باخبار محمد بن عمر از عبد اللہ بن جعفر از ابن ابی عون و باخبار محمد بن عمر باخبار موسیٰ بن یعقوب از ابوالحوریرت: جنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور حفصہ انہیں کے نکاح میں رہیں اور انہیں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے چلی گئیں پھر آپ کے شوہر مدینہ میں بدر سے نبی ﷺ کے آنے کے بعد فوت ہو گئے۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار سفیان بن حسین از زہری از سالم از ابن عمر: جب حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں تو میں عثمان رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے لیے کہا سنا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کہ ان دنوں مجھے عورتوں کی خواہش نہیں انکار کر دیا پھر میں اسی سلسلہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملا ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، ان کی خاموشی پر مجھے غصہ آیا اتنے میں رسول اللہ ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی اور آپ نے ان سے نکاح کر لیا، پھر میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مل کر کہا: میں نے اپنی بیٹی عثمان رضی اللہ عنہ پر پیش کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور آپ پر پیش کی تو آپ چپ لگا گئے مجھے عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار پر اتنا غصہ نہیں آیا جتنا آپ کی خاموشی پر آیا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: بات یہ ہے کہ نبی ﷺ نے حفصہ کے سلسلہ میں ذکر فرمایا تھا اور وہ آپ کا ایک راز تھا آپ کے راز کو افشا کرنا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا۔

باخبار یعقوب بن ابراہیم بن سعد از یعقوب از صالح بن کیسان از ابن شہاب، بخبر سالم بن عبد اللہ بن عمر بسماع عبد اللہ بن عمر: حفصہ رضی اللہ عنہا کے بیوہ ہونے کے بعد جو جنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں اور جنیس صحابی تھے اور مدینہ میں فوت ہو گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے نکاح کے سلسلہ میں عثمان رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا: میں اس بارے میں غور کروں گا چند دن کے بعد پھر عثمان نے انکار کر دیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو میں حفصہ کا آپ سے نکاح کر دوں لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا، عمر رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پر زیادہ غصہ آیا پھر عمر رضی اللہ عنہ کچھ دنوں خاموش رہے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیام دیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ کا آپ سے نکاح کر دیا پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا جب آپ نے حفصہ کے نکاح کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی تھی اور میں خاموش ہو گیا تھا تو شاید آپ کو مجھ پر غصہ آیا تھا، عمر بولے: غصہ کی بات ہی تھی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: میری خاموشی اس لیے تھی کہ مجھے علم تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے حفصہ کا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے کہ میں آپ کے راز کو افشا کرنے والا نہ تھا، اگر رسول اللہ ﷺ یہ خیال چھوڑ دیتے تو میں

حصہ کو قبول کر لیتا۔

باخبار اسماعیل بن ابراہیم از یونس از حسن: نبی ﷺ کی ایک بیٹی عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں وہ فوت ہو گئیں ایک دن عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے تو انہیں دیکر پایا اور ان کے چہرے پر صدمہ کے آثار دیکھے عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے حصہ رضی اللہ عنہما کے نکاح کے بارے میں بات چیت کی پھر نبی ﷺ کے پاس آ کر بولے: میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو رنجیدہ دیکھا اور ان سے حصہ کے نکاح کے بارے میں گفتگو کر کے آ رہا ہوں آپ نے فرمایا: کیا میں تم کو عثمان سے بہتر داماد اور عثمان کو تم سے بہتر خسر نہ بتاؤں؟ بولے: یا رسول اللہ ضرور بتائیے آخر کار نبی ﷺ نے حصہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کر لیا اور اپنی دوسری بیٹی کا عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیا۔

باخبار محمد بن عمر بن عبد اللہ بن جعفر از ابن ابی عون و بحدیث موسیٰ بن یعقوب از ابو الجورث از محمد بن جبیر بن مطعم از عمر بن حمیس کی وفات کے بعد میں نے حصہ عثمان رضی اللہ عنہ پر پیش کی انہوں نے مجھ سے اعراض کیا پھر میں نے یہ واقعہ نبی ﷺ سے بیان کیا کہ عثمان پر حیرت ہے میں نے ان سے کہا: حصہ سے نکاح کر لو مگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فرمایا: اللہ تعالیٰ نے عثمان کا نکاح تمہاری بیٹی سے بہتر عورت کے ساتھ کر دیا اور تمہاری بیٹی کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص کے ساتھ کر دیا۔ رقیہ کے فوت ہونے کے بعد نبی ﷺ نے ام کلثوم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیا تھا اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے حصہ کے لیے انکار کر دیا تھا پھر نبی ﷺ نے حصہ سے نکاح کر لیا اور ام کلثوم کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔

باخبار سلیمان بن حرب: متحدیث حماد بن سلمہ از علی بن زید از سعید بن مسیب: حصہ کے شوہر مر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رقیہ فوت ہو گئیں تو عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور انہیں غمگین دیکھا اور بولے: اگر حصہ سے نکاح کی خواہش ہو تو فلاں سے حصہ کی عدت ختم ہو چکی ہے لیکن عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا، فرمایا: اس سے بہتر صورت ہے تم مجھ سے حصہ کا نکاح کر دو اور میں عثمان کا ام کلثوم سے نکاح کر دوں گا جو رقیہ کی ہمشیرہ ہیں چنانچہ آپ نے حصہ سے نکاح کر لیا اور عثمان کا نکاح ام کلثوم سے کر دیا۔

باخبار سلیمان بن حرب: متحدیث حماد بن زید از سعید بن مسیب: حسب سابق حدیث فرماتے ہیں سعید نے کہا: اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے بہتر رشتہ چنا۔ رسول اللہ ﷺ حصہ رضی اللہ عنہما کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر تھے اور رسول اللہ ﷺ کی بیٹی عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے بہتر تھیں۔

باخبار یزید بن ہارون و عقیان بن مسلم و عبد الصمد بن عبد الوارث و سلیمان بن حرب از حماد بن سلمہ۔ باخبار ابو عمران جوئی از قیس بن زید: رسول اللہ ﷺ نے حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی پھر آپ کے پاس آپ کے ماموں عثمان و قدامہ رضی اللہ عنہما پر ان مظعون آئے تو ان کے سامنے رونے لگیں اور بولیں: اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ نے مجھے اتنا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے حصہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پردہ کر لیا، آپ نے فرمایا: حضرت جبرئیل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر مجھ سے فرمایا: حصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع فرما لیجئے کیونکہ وہ کثرت سے روزے رکھنے والی اور شب بیدار خاتون ہیں اور آپ کی جنتی بیوی ہیں۔ باخبار سعید بن عامر از سعید بن ابی عروبہ از قتادہ: رسول اللہ ﷺ نے حصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی پھر جبرئیل علیہ السلام

نے آ کر فرمایا: محمد! (یا تو فرمایا) حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع فرما لیجئے (یا فرمایا) حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق نہ دیجئے، کیونکہ وہ دن میں کثرت سے روزے دار اور رات میں شب بیدار رہنے والی خاتون ہیں اور آپ کی جنینی بیویوں میں سے ہیں۔

باخبار اسماعیل بن ابان وراق باخبار یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ از صالح بن صالح از سلمہ بن کہیل از سعید بن جبیر از ابن عباس از عمر رضی اللہ عنہ: نبی ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی پھر آپ نے ان سے رجوع کر لیا۔ باخبار عثمان بن محمد بن ابی شیبہ باخبار شمیم باخبار حمید از انس بن مالک: جب نبی ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تو آپ کو رجوع کرنے کا حکم دیا گیا آخر کار آپ نے رجوع کر لیا۔

باخبار خالد بن مخلد بن یحییٰ بن محمد بن عبد اللہ بن عمر از نافع از ابن عمر: عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف وصیت کی۔ باخبار فضل بن دکین بن محمد بن سفیان از منکر از ابو بکر بن سلیمان بن ابی حمزہ: رسول اللہ ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے ان کے پاس ایک خاتون تھیں جن کا نام شفاء تھا اور وہ نملہ کو جھاڑا کرتی تھیں فرمایا جھاڑنے کی دعا حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی سکھا دو۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن حرمہ بن بکیر از بکیر: رسول اللہ ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا اور اس سلسلہ میں کچھ تذکرہ کیا تھا پھر آپ پر جبریل نے اتر کر فرمایا: حفصہ رضی اللہ عنہا کثرت سے روزہ دار اور شب بیدار خاتون ہیں حفصہ رضی اللہ عنہا ایک نیک عورت تھیں۔

باخبار محمد بن عمر از ابن ابی سبرہ از ہشام بن حسان از ابن سیرین: نبی ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی پھر جبریل اترے اور فرمایا: حفصہ کثرت سے روزے دار اور شب بیدار خاتون ہیں آخر نبی ﷺ نے ان سے رجوع فرمایا۔

باخبار ابواسامہ حماد بن اسامہ باخبار ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ: رسول اللہ ﷺ کو حلوے اور شہد سے محبت تھی آپ عصر کی نماز پڑھ کر ایک زوجہ مطہرہ کے پاس جا کر ان کے قریب بیٹھا کرتے تھے ایک دفعہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور خلاف عادت ان کے پاس دیر تک ٹھہرے رہے جب میں نے اس سلسلہ میں کرید کی تو مجھ سے کہا گیا: حفصہ رضی اللہ عنہا کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے بطور ہدیہ کے شہد کا ایک برتن بھیجا ہے اور انہوں نے شہد کا شربت بنا کر نبی ﷺ کو پلایا ہے میں نے دل میں سوچا کہ میں کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر کروں گی کہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر شربت نہ پیئیں آخر کار میں نے یہ قصہ سوہدہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور انہیں سمجھا دیا کہ جب سرور عالم ﷺ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے قریب بیٹھ جائیں تو سرکار رسالت سے کہنا: یا رسول اللہ! آپ نے مغایر (مکروہ بودا والا ایک قسم کا گوند) کھایا ہے آپ فرمائیں گے نہیں، میں نے گوند نہیں کھایا پھر آپ سے کہنا: تو یہ بوکیسی ہے؟ رسول اللہ ﷺ کو یہ بات سخت بھاری معلوم ہوتی تھی کہ آپ کے دہن مبارک سے بو آئے آپ فرمائیں گے: مجھے تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے شہد کا شربت پلایا ہے تم کہنا: شہد کی مکھیوں نے عرفط کے پھول چوسے ہوں گے جو یہ مغایر کی بو آ رہی ہے میں بھی آپ سے یہ کہوں گی اور صفیہ تم بھی یہی کہنا۔ پھر جب آپ سوہدہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے (عروہ فرماتے ہیں) سوہدہ فرماتی ہیں: اس کی قسم جس کے سوا کوئی ہتھار عبادت نہیں میں تم سے خوفزدہ تھی اور قریب تھا کہ دروازے پر ہی آپ سے وہ بات کہہ دیتی جس کی تم نے مجھے ہدایت کی تھی خیر جب آپ میرے قریب آ گئے تو میں بولی: یا رسول اللہ کیا آپ مغایر کھا کر آئے ہیں فرمایا نہیں میں

بولی: پھر یہ بویسی آرہی ہے؟ فرمایا مجھے تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے شہد کا شربت پلایا ہے، میں بولی: معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے عرفط کے پھول جو سے ہیں (صدیقہ فرماتی ہیں) پھر جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے بھی آپ سے یہی کہا، پھر جب آپ حفصہ کے پاس گئے تو وہ بولیں: یا رسول اللہ کیا میں آپ کو شربت نہ پلاؤں؟ فرمایا مجھے شربت کی ضرورت نہیں (فرماتی ہیں) سو وہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: اللہ کی قسم ہم نے آپ پر شربت حرام کر دیا، میں بولی: خاموش رہو۔

باخبار مسلم بن ابراہیم، تقدیث جویریہ بن اسماء از نافع: حفصہ رضی اللہ عنہا مرتے دم تک روزے رکھتی رہیں۔ باخبار محمد بن عمر: رسول اللہ ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو ۸۰ سن جو یا گیے ہوں دیئے۔

باخبار محمد بن عمر، تقدیث معمر از زہری از سالم از ابن عمر: حفصہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں تو ان کے جنازے کی نماز مروان بن حکم نے پڑھائی۔ اس زمانہ میں مدینہ کے وہی حاکم تھے۔

باخبار محمد بن عمر، تقدیث موسیٰ بن ابراہیم از ابراہیم آل عمری آزاد کردہ ایک لونڈی سے: میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا کی چار پائی پر ان کی لاش دیکھی، آپ کے جنازے کی نماز مروان نے موضع جنازہ میں پڑھائی اور مروان جنازے کے ساتھ بقیع تک گئے اور دفن کیے جانے تک بیٹھے رہے۔

باخبار محمد بن عمر، تقدیث علی بن مسلم از مقبری اپنے والد سے: میں نے مروان کو حفصہ رضی اللہ عنہا کے جنازے کے آگے آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کے درمیان دیکھا، میں نے دیکھا مروان نے جنازے کی چار پائی کے دو پائے بنی حزم کے گھر سے لے کر مغیرہ کے گھر سے قبر تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اٹھائے۔

باخبار محمد بن عمر، تقدیث عبداللہ بن نافع از نافع: حفصہ رضی اللہ عنہا کی قبر میں عبداللہ اور عاصم پسران عمر اور سالم اور عبداللہ اور حمزہ پسران ابن عمر اترے تھے۔ محمد بن عمر: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا انتقال شعبان ۴۵ھ میں عہد معاویہ میں ساٹھ سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا:

آپ کا اسم گرامی ہند ہے، آپ ابو امیہ، سہیل زاد الرکب بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی صاحبزادی ہیں، آپ کی والدہ عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک بن جذیمہ بن علقمہ جدل الطعان بن فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ ہیں، آپ سے ابو سلمہ نے نکاح کیا، ابو سلمہ کا نام عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے، ابو سلمہ آپ کو حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں اپنے ساتھ لے گئے، حبشہ ہی میں آپ کے زہب پیدا ہوئیں، پھر آپ کے سلمہ عمر اور درہ پسران ابو سلمہ پیدا ہوئے۔

باخبار محمد بن عمر، تقدیث عمر بن عثمان از عبدالملک بن عبید از سعید بن عبدالرحمن بن ربیع از عمر بن ابی سلمہ: میرے والد جنگ احد میں شامل ہوئے، اثنائے جنگ میں آپ کے بازو میں ایک تیرا کر بندھ گیا۔ جس کو ابو سلمہ شمشی نے مارا تھا، آپ ایک ماہ تک زخم کا علاج کرتے رہے، آخر کار وہ زخم اچھا ہو گیا۔ پھر نبی ﷺ نے میرے والد کو ۳۵ دین ماہ کے شروع میں محرم میں قطن بھیج دیا، آپ ۲۹ دن گھر سے غائب رہے، پھر آپ ۸ صفر ۴ھ کو مدینہ میں داخل ہوئے اور زخم پھر ہرا ہو گیا۔ اسی میں آپ ۸ جمادی الثانی ۴ھ میں اپنے اللہ سے جا ملے، پھر میری امی جان نے عدت پوری کی اور ۲۰ شوال ۴ھ کو عدت پوری ہو گئی، پھر ان سے

رسول اللہ ﷺ نے شوال کی پچھلی تاریخوں میں نکاح کر لیا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ذی قعدہ ۵۹ھ میں فوت ہوئیں۔

باخباہ محمد بن عمر، محمد بن یحییٰ بن یعقوب از ابو بکر بن محمد بن عمر از ابو سلمہ اپنے والد سے اور وہ ام سلمہ سے: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم یہ دعا پڑھ لو اللّٰهُمَّ اعطِنِي اجرَ مصيبتِي وَاخْلِفْنِي خَيْرَ امْنِهَا، یعنی اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے بہترین بدل عطا فرما اللہ تعالیٰ جلدی ہی بہترین اجر عطا فرما دے گا، جس دن ابو سلمہ فوت ہوئے اس دن میں نے یہی دعا پڑھی تھی اور اپنے دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، ابو سلمہ جیسا شوہر کہاں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی مجھے ابو سلمہ سے بہتر بدل عطا فرمایا۔

باخباہ یزید بن ہارون از عبد الملک بن قدامہ ثقی بن حدیث قدامہ از ام سلمہ زوجہ رسول اللہ ﷺ: مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: جب بھی کوئی بندہ کسی مصیبت کا شکار ہو اور گھبرا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ وانا الیہ راجعون اللّٰهُمَّ اجرنی فی مصيبتی ہذہ و عوضنی منها خیر امنہا (یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس کا عوض بہترین دے) پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت پر یقیناً اجر عطا فرمائے گا اور وہ اس لائق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین عوض عطا فرمائے پھر جب ابو سلمہ ہلاک ہو گئے تو مجھے وہ حدیث یاد آگئی جو ابو سلمہ نے مجھ سے بیان کی تھی اور میں نے وہی دعا پڑھی پھر میں نے دل میں کہا: بھلا ابو سلمہ سے بہتر آدمی کہاں؟ فرماتی ہیں: لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرمایا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت کا بھی اجر عطا فرمایا ہوگا۔

باخباہ احمد بن اسحاق حضرمی، محمد بن یحییٰ بن عبد الواحد بن زیاد، محمد بن یحییٰ بن اسحاق بن ابی مریم: ام سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا: مجھے خبر ملی ہے کہ جس خاتون کا شوہر مر جائے اور شوہر جنتی ہو اور بیوی بھی جنتی ہو اور بیوی نے اس کے بعد نکاح نہ کیا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں جمع فرما دے گا اسی طرح اگر بیوی مر جائے اور شوہر رہ جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے لہذا آؤ ہم دونوں عہد کر لیں کہ تم میرے بعد نکاح نہ کرو اور نہ میں تمہارے بعد نکاح کروں بولے: کیا تم میری بات مانتی ہو؟ میں بولی: میں نے آپ سے اسی نیت سے مشورہ کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کروں بولے: اگر میں مر جاؤں تو تم نکاح کر لینا پھر آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر نصیب فرما جو انہیں رنج اور ایذا نہ پہنچائے پھر جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا: وہ نوجوان کون ہے جو میرے حق میں ابو سلمہ سے بہتر ہے خیر زمانہ گزرتا گیا پھر ایک دن رسول اللہ ﷺ میرے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے اور میرے بچے سے یا میرے بیٹے سے مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی میں نے کہا یا تو میں آپ کی درخواست شکر اداوں یا اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے پاس جاؤں پھر آپ نے دوسرے دن آ کر وہی خواہش ظاہر فرمائی اور میں نے کل کی طرح جواب دیا: پھر میں نے اپنے ولی سے کہا: اگر رسول اللہ ﷺ اب کی بار آئیں تو آپ کا نکاح کر دیجئے تیسرے دن پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا۔

باخباہ ابو معاویہ ضریر و عبید اللہ بن موسیٰ، محمد بن یحییٰ بن اسحاق، عمش از شقیق از ام سلمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سکرات کے وقت

زبان سے اچھے کلمے نکالو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں ابوسلمہ کے فوت ہونے کے بعد میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر بولی: یا رسول اللہ ابوسلمہ فوت ہو گئے میں کیا کہوں؟ فرمایا: یہ کہو اللھم اغفر لی ولہ و اعقبی منہ عقبی حسنة (یا صالحہ کہا) فرماتی ہیں میں نے یہی دعا پڑھی آخر کار اللہ نے مجھے ابوسلمہ سے بہتر شوہر (رسول اللہ ﷺ) عطا فرمایا۔

باخبار معن بن عیسیٰ متحدیث مالک بن انس از ربیعہ بن ابی عبد الرحمن از ام سلمہ رضی اللہ عنہا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: جس نے کسی مصیبت میں پھنس کر اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون اللھم اجرنی فی مصیبتی و اعقبی خیرا منھا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی کرے گا) فرماتی ہیں: ابوسلمہ کے انتقال کے بعد میں نے کہا: ابوسلمہ سے کون بہتر ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے مذکورہ بالا دعا پڑھی آخر کار اللہ نے ان کے بدلہ مجھے رسول اللہ ﷺ کو عطا فرمایا آپ نے مجھ سے کاح کر لیا۔

یاخیا محمد بن مصعب قرقسانی، متحدیث ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی مریم از ضمیرہ بن حبیب: رسول اللہ ﷺ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ابوسلمہ رضی اللہ عنہا کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور دعا مانگی کہ اے اللہ ام سلمہ کا غم دور کر کے انہیں تسلی عطا فرما ان کی مصیبت کی تلافی فرما اور انہیں جانے والے سے بہتر دے آخر کار ایسا ہی ہوا ان سے رسول اللہ ﷺ نے شادی کر لی۔

باخبار عفان بن مسلم، متحدیث حماد بن سلمہ باخبار ثابت بن ابی جعدیث ابن عمر بن ابی سلمہ (منی میں) از ابوسلمہ از ام سلمہ ابوسلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون اللھم عندک احتسب مصیبتی فأجرنی فیہا وابدلنی بہا ما ہو خیرا منھا پڑھ لینا چاہیے پھر جب ابوسلمہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ! میری بیوی کو بہترین بدل عطا فرما پھر جب آپ فوت ہو گئے تو میں نے رسول اللہ ﷺ کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور میں نے وابدلنی بہا ما ہو خیرا منھا پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن دل میں سوچا: بھلا ابوسلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آخر میں نے یہ کلمہ بھی پڑھ لیا۔ پھر جب ام سلمہ کی عدت ختم ہو گئی تو آپ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیام آیا آپ نے نامنظور فرمایا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیام آیا آپ نے اسے بھی ٹھکرادیا۔ پھر سرور عالم ﷺ کا پیام آیا تو بولیں: رسول اللہ ﷺ کے لیے اور آپ کے پیغامبر کے لیے مرجا ہو (قاصد سے مخاطب ہو کر) رسول اللہ ﷺ سے کہو کہ میں ایک غیرت مند عورت ہوں (سوتلوں کو برداشت نہ کر سکوں گی) اور بچوں والی ہوں اور اس وقت میرے پاس میرا کوئی ولی موجود نہیں رسول اللہ ﷺ نے یہ جواب کہلا کر بھیجا کہ تم نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں بچوں والی ہوں تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کے لیے کافی ہے رہی تمہاری یہ بات کہ میں غیور ہوں تو میں اللہ سے دعا کروں گا وہ تمہاری غیرت دور فرما دے گا۔ رہا اولیاء کا معاملہ تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ میرے سلسلہ میں راضی نہ ہو خواہ وہ موجود ہو یا غیر موجود۔ بولیں: عمر (بن ام سلمہ) کھڑے ہو جاؤ اور رسول اللہ ﷺ کا کاح کراؤ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دیکھو میں تمہیں اس چیز سے کم نہیں دوں گا جو چیز تمہاری فلاں فلاں ہمشیرہ کو دیا گیا ہے یعنی دو چکیاں د گھڑے اور ایک چڑے کا گدا جس کے اندر کھجور کے ریشے بھرے ہوئے ہوں گے پھر رسول اللہ ﷺ آپ کے پاس آتے ہر پ اپنی بچی زیب کو گود میں لیے دودھ پلاتی ہوتی ہیں۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ بڑے شرمیلے اور چشم پوش تھے اس لیے آپ شرماکر

واپس ہو جاتے ہیں، کئی بار یہی واقعہ پیش آتا ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سمجھ جاتے ہیں، عمار رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اخیانی بھائی تھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمار بھی آتے ہیں اور زینب کو ام سلمہ کی گود سے لے کر کہتے ہیں: اس قبیح و بری شے کو جس سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے چھوڑو پھر آپ گھر میں داخل ہو گئے اور گھر میں چاروں طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے: زینب (زینب) کہاں ہے؟ زینب کہاں گئی؟ ام سلمہ بولیں: اسے عمار آ کر لے گئے، پھر آپ نے ام سلمہ سے خلوت فرمائی اور فارغ ہو کر فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس سات دن رہوں پھر مجھے ہر ایک بیوی کے پاس سات سات دن رہنا پڑے گا۔

باخبر عبد اللہ بن نمیر، محدث ابو حیان تمیمی از حبیب بن ابی ثابت از ام سلمہ رضی اللہ عنہا: جب ابو سلمہ سے میری عدت پوری ہو گئی تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پردے کے پیچھے سے مجھ سے باتیں کیں اور مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی، میں نے کہا: یا رسول اللہ آپ کو میری کیا ضرورت ہے؟ آپ سے نکاح کرنے میں میری عین سعادت ہے اور مجھے آپ کی چاہت ہے لیکن میں ایک معمر عورت ہوں، یتیم بچوں کی ماں ہوں اور انتہائی غیور ہوں اور آپ کے پاس کئی عورتیں جمع ہیں، فرمایا: یہ کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت ختم فرمادے گا، پھر اگر تم عمر رسیدہ ہو تو تم سے بڑا میں ہوں اور تمہارے یتیم بچے اللہ کی اور اس کے رسول کی کفالت میں رہیں گے آخر کار ام سلمہ نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا اور آپ نے ان سے نکاح کر لیا پھر جب وہ شب آئی جس میں ہم نے خلوت کا وعدہ کیا تھا تو میں نے صبح سویرے اٹھ کر بچے ہوئے جو پیسے اور بچی ہوئی چربی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلیر تیار کیا پھر جب آپ تشریف لائے تو آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ نے اس میں سے کھایا اور وہ رات میرے پاس گزاری، صبح کو آپ نے فرمایا تم میری نگاہ میں معزز اور قدر و منزلت والی ہو اگر تم چاہو تو میں ایک دن رات ہی تمہارے پاس رہوں اور اگر چاہو تو میں تمہارے پاس سات دن گزار دوں، پھر مجھے ہر ایک بیوی کے پاس سات سات دن گزارنے پڑیں گے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بولیں: یا رسول اللہ! آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں کریں۔

باخبر فضل بن دکین و محمد بن عبد اللہ اسدی، محدث یث عبد الواحد بن ایمن، محدث ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا پر پیام ڈالا اور ان سے یہ بھی فرمایا: ام سلمہ! کیا رکاوٹ ہے؟ بولیں: تین رکاوٹیں ہیں، میں سن رسیدہ ہوں، بچوں والی ہوں اور غیرت والی ہوں، فرمایا ہم اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تمہاری غیرت ختم فرمادے گا اور اگر تم سن رسیدہ ہو تو تم سے بڑا میں ہوں اور تمہارے بچے اللہ کی اور اس کے رسول کی زیر تربیت رہیں گے، آخر کار ام سلمہ نے آپ سے نکاح کر لیا آپ ام سلمہ کے پاس آتے جاتے رہے لیکن خلوت کا موقعہ نہیں ملتا تھا کیونکہ جب آپ آتے ام سلمہ بچہ کو دودھ پلاتی ہوتی تھیں ایک دن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے آ کر کہا اس بچی کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو مشغول کر رکھا ہے مجھے دے دو، عمار اس بچی کو لے گئے اور اس کے لیے قبائیں ایک دائی مقرر فرمادی پھر آپ تشریف لائے اور بچی کو نہ دیکھ کر پوچھا: زینب کہاں ہے؟ ایک عورت نے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہا اسے عمار لے گئے اور قبائیں اس کے لیے ایک دائی مقرر کر دی گئی، فرمایا کل سے میں باریاں بانٹ دوں گا، دوسرے دن آپ ام سلمہ ہی کے پاس تھے پھر جب آپ نے جانا چاہا تو فرمایا: ام سلمہ تمہارے شوہر

کے دل میں تمہاری عزت ہے لیکن اگر میں تمہارے پاس سات دن رہوں جب کہ تم سے پہلے میں اپنی کسی بیوی کے پاس سات دن نہیں رہا تو مجھے اپنی ہر بیوی کے پاس سات دن رہنا ہوگا۔

باخبار فضل بن دیکین، محمد بن عبد الرحمن بن غنمیل، محمد بن سکیبہ بنت حنظلہ از ابو جعفر محمد بن علی: ابو سلمہ کی وفات کے بعد رسول اللہ ﷺ ام سلمہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے وہ نعمتیں بیان کیں جو اللہ نے آپ کو دی تھیں اور آپ کے نصیب میں تھیں اور اپنے فضائل کا ذکر فرمایا، بوریہ پر ہاتھ ٹیک کر آپ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ چٹائی کے نشانات آپ کے ہاتھ میں ابھر آئے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ بن جعفر از عثمان بن محمد احنسی از عبد الرحمن بن سعید بن ربیع از ام سلمہ رضی اللہ عنہا: جب رسول اللہ ﷺ نے مجھ پر پیام ڈالا تو میں نے کہا: مجھ میں چند ایسی عادتیں ہیں کہ ان کی موجودگی میں آپ سے نکاح کرنا مجھے مناسب نہیں میں عمر رسیدہ ہوں، بچوں والی ہوں اور سخت غیرت والی ہوں فرماتی ہیں: پھر آپ نے آدمی بھیج کر کہلا بھیجا کہ اگر تم عمر رسیدہ ہو تو میں تم سے زیادہ منعم ہوں اور کسی عورت کے لیے یہ عیب کی بات نہیں کہ اپنے سے منعم مرد کے ساتھ نکاح کرے اور تمہارے یتیم بچے سب اللہ پر اور اس کے رسول پر ہیں اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ حق تعالیٰ تمہاری غیرت کو زائل فرمادے فرماتی ہیں: پھر آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا، اور آپ مجھے منتقل کر کے زینب بنت خزیمہ ام المساکین کے گھر میں ان کی وفات کے بعد لے گئے، میں نے اس گھر میں ایک گھڑا دیکھا اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ جو تھے اور گھر میں ایک چکی دیکھی اور ہانڈی بھی تھی میں نے ہانڈی دیکھی تو اس میں چربی جمی ہوئی تھی میں نے گھڑے میں سے جو لے کر پیس لیے اور دیکھی میں دلیا پکایا اور چربی سے اسے مرغن کیا، فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ کے لیے اور ان کی دلہن کے لیے شادی والی شب کو یہی کھانا تھا۔

باخبار محمد بن عمر، معن بن عیینہ، محمد بن مالک بن انس، از عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم از عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام از ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام: جس شب رسول اللہ ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبا کی اس کی صبح کو ان سے فرمایا: تم اپنے شوہر کی نگاہ میں ذلیل نہیں ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس ایک ہفتہ ٹھہر جاؤں لیکن پھر مجھے ہر ایک بیوی کے پاس ایک ایک ہفتہ ٹھہرنا ہوگا، اور اگر چاہو تو تمہارے پاس تین دن ٹھہروں پھر ہر ایک کے پاس باری باری جاؤں، بولیں: تین دن ہی ٹھیک ہیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن کثیر بن زید از مطلب بن عبد اللہ بن حطب: عرب کی بیوہ سید الانبیاء کے پاس دلہن بن کر شہرہ عشاء کے وقت داخل ہوئیں اور پچھلی رات میں اٹھ کر آتا پیسے لگیں یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن حجاج بن یعقوب از ابو بکر بن محمد بن عمر بن ابی سلمہ از محمد بن عمر بن ابی سلمہ: نبی ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا پر پیام ڈالا اور ان کے بیٹے عمر بن ابی سلمہ سے اس سلسلہ میں گفتگو فرمائی پھر عمر نے اپنی والدہ کا نکاح رسول اللہ ﷺ سے کر دیا، عمر اس وقت کم سن تھے۔

باخبار روکیع بن جراح از شعبہ از حکم: جب رسول اللہ ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ان کے پاس تین دن ٹھہر کر

فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس ایک ہفتہ ٹھہروں اس صورت میں مجھے ہر ایک بیوی کے پاس ایک ایک ہفتہ ٹھہرنا ہوگا، شعبہ کہتے ہیں میں نے حکم سے پوچھا: آپ نے کس سے یہ حدیث سنی؟ فرمایا: یہ حدیث اہل حجاز میں مشہور ہے۔

باخباہر و کعب بن جراح از سفیان از عبد اللہ بن ابی بکر از عبد الملک بن ابی بکر: جب رسول اللہ ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ ان کے پاس تین دن ٹھہرے اور فرمایا: تم اپنے شوہر کی نگاہ میں حقیر نہیں ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس ایک ہفتہ ٹھہر جاؤں اس صورت میں مجھے ہر ایک عورت کے پاس ایک ہفتہ ٹھہرنا ہوگا ورنہ پھر تین دن ٹھہرنے کے بعد میں باری مقرر کر لوں گا۔

باخباہر انس بن عیاض لیشی، بحدیث عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف از عبد الملک بن ابی بکر بن حارث بن ہشام: جب رسول اللہ ﷺ نے ام سلمہ بنت ابی امیہ سے نکاح کیا تو آپ ان کے پاس تین دن ٹھہرے پھر آپ نے باری مقرر کرنا چاہی، ام سلمہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا، آپ نے فرمایا: کیا چاہتی ہو؟ اگر زیادہ دن چاہتی ہو تو میں زیادہ دن بھی ٹھہر جاؤں گا اور آج کے بعد پھر برابر برابر سب کو دن دوں گا پھر آپ نے فرمایا: شبیہ (غیر کنواری) کے لیے تین دن ہیں اور کنواری کے لیے سات دن۔

بحدیث محمد بن عمر بحدیث عبد اللہ بن جعفر از عبد الواحد بن ابی عون از صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف: جب ام سلمہ رسول اللہ ﷺ کے پاس دہن بن کر گئیں تو آپ ابو سلمہ کی بیٹی کو دودھ پلایا کرتی تھیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے کہا: یہ سرخ و بھوری بچی رسول اللہ ﷺ کو آپ کی بیوی سے مانع ہے پھر عمار رضی اللہ عنہ نے اسے لے کر اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی مقرر کر دی۔

باخباہر روح بن عبادہ متحدیث ابن جریج باخباہر حبیب بن ابی ثابت باخباہر عبد الحمید بن عبد اللہ بن ابی عمرو و قاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بسامع ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن شہر ام سلمہ رضی اللہ عنہا: میں جب مدینہ پہنچی تو میں نے مدینہ والوں کو بتایا کہ میں ابوامیہ بن مغیرہ کی بیٹی ہوں لیکن لوگوں نے میری یہ بات نہیں مانی اور کہنے لگے: یہ کس قدر جھوٹی اور غریب بات ہے! آخر کار کچھ لوگوں نے حج کا ارادہ کیا اور مجھ سے کہا اگر تم اپنے گھر والوں کو کچھ لکھنا چاہتی ہو تو لکھ دو، میں نے انہیں ایک پرچہ دے دیا، جب یہ حاجی حج کر کے مدینہ واپس آئے تو انہوں نے میری بات کی تصدیق کر دی اور مدینہ والوں کی نگاہ میں میری عزت بڑھ گئی، پھر جب میرے زینب پیدا ہوئیں تو میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور مجھ پر اپنا پیام ڈالا میں بولی مجھ جیسی عورت نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھ سے اولاد کی توقع ہے نہیں پھر میں بے حد غیرت والی اور بچوں والی ہوں، فرمایا: میں تم سے بڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت زائل فرمادے گا اور بچے اللہ عزوجل کی اور اس کے رسول کی طرف ہیں، آخر کار آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا، آپ ان کے پاس آنے لگے اور پوچھنے لگے: زنا کہاں ہے؟ حتیٰ کہ عمار آئے اور زینب کو لے کر بولے: یہ رسول اللہ ﷺ کی خلوت کے مانع ہے ام سلمہ زینب کو دودھ پلایا کرتی تھیں، اس کے بعد نبی ﷺ نے آکر پوچھا: زنا کہاں ہے؟ قریبہ بنت امیہ نے جو ام سلمہ کے پاس تھیں کہا: اسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما لے گئے، پھر نبی ﷺ نے فرمایا: میں آج رات آؤں گا (فرماتی ہیں) میں نے چکی کا نیچے کا پاٹ رکھ کر وہ جو نکالے جو میرے گھڑے میں تھے اور آٹا پیسا اور چربی لے کر آپ کے لیے دلہ تیار کیا پھر آپ نے میرے پاس رات گزاری اور صبح کو فرمایا: تم اپنے شوہر کی نگاہ میں معزز ہو اگر چاہو تو میں تمہارے پاس

ایک ہفتہ گزاروں مگر پھر ہر ایک عورت کے ساتھ ایک ایک ہفتہ رہنا ہوگا۔

باخبار محمد بن عمر، حدیث معمر از زہری از ہند بنت حارث فراسیہ: عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے میرے دل میں ایک گوشہ ہے جس میں کوئی نہیں اترا پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! وہ گوشہ کیا ہوا؟ آپ خاموش ہو گئے، معلوم ہوا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس گوشہ میں اتر گئی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، حدیث عبدالرحمن بن ابی الزناد از ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ: جب رسول اللہ ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا تو مجھے سخت صدمہ ہوا کیونکہ لوگوں نے مجھ سے ان کا حسن بیان کیا تھا آخر کار میں نے حسن تدبیر سے انہیں دیکھنے کی کوشش کی اور میں اس میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں نے ان میں بیان سے بھی زیادہ حسن و جمال پایا میں نے حصہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا (دونوں ہم خیال تھیں) بولیں: نہیں نہیں یہ تو محض غیرت ہے، وہ لوگوں کے مطابق نہیں ہیں پھر حصہ نے حسن تدبیر سے انہیں دیکھ کر کہا: ام سلمہ تمہاری تعریف کے مطابق تو اس سے قریب بھی نہیں ہاں خوبصورت ضرور ہیں، فرماتی ہیں پھر میں نے بعد میں انہیں دیکھا تو واقعی وہ حصہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق ثابت ہوئیں، لیکن میں غیور تھی۔

باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس، حدیث زہیر، حدیث محمد بن اسحاق، حدیث عبد اللہ بن ابی بکر از ابو بکر از عبد الملک بن ابی بکر بن حارث بن ہشام مخزومی: رسول اللہ ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شوال میں نکاح کیا اور شوال ہی میں شادی کی۔

باخبار محمد بن عمر، حدیث عمر بن عثمان از عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اپنے والد سے: نبی ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شوال میں شادی کی۔

باخبار احمد بن محمد بن ولید از رقی کئی، حدیث مسلم بن خالد از موسیٰ بن عقبہ اپنی والدہ ام کلثوم سے: جب نبی ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ان سے فرمایا: میں نے نجاشی کو چند اوقیہ مشک اور چند جوڑے ہدیہ میں بھیجے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور یہ ہدیہ واپس ہی آجائے گا، اگر واپس آجائے تو وہ سب تمہارا ہے، نبی ﷺ کا گمان صحیح نکلا، نجاشی فوت ہو گئے اور ہدیہ واپس آ گیا پھر آپ نے ہر ایک عورت کو ایک ایک اوقیہ مشک دی اور باقی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دے دی اور انہیں تمام جوڑے بھی دے دیئے۔

باخبار عبد اللہ بن مسلمہ بن قعب، حارثی، حدیث عبد اللہ بن جعفر زہری از ہشام بن عروہ از عروہ: نبی ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ وہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو مکہ میں صبح کی نماز پڑھیں وہ انہی کی باری کا دن تھا، آپ نے ان کی موافقت پسند فرمائی۔

باخبار محمد بن عمر، حدیث عبدالرحمن بن ابی الزناد از عبد الرحمن بن حارث: رسول اللہ ﷺ اپنے کسی سفر میں تھے اور اس سفر میں آپ کے ساتھ صفیہ بنت حبیبی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، پھر نبی ﷺ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ہودج سمجھ کر صفیہ کے ہودج کی طرف بڑھے اور وہ دن ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تھا، پھر آپ صفیہ رضی اللہ عنہا سے باتیں کرنے لگے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو غیرت آئی، بعد میں رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ وہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، آخر کار ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، ام سلمہ بولیں: آپ یہودی کی بیٹی سے میرے دن میں باتیں

فرما رہے تھے حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرماتی ہیں پھر میں یہ کہہ کر چپھتائی اور آپ اس بات سے اپنے لیے دعائے مغفرت مانگا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں: یا رسول اللہ! آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت مانگیں، مجھے اس بات پر غیرت نے ابھارا تھا۔
محمد بن عمر: رسول اللہ ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو خیبر میں اسی وقت کھجوریں اور بیس وسق جو یا گیبوں دیئے۔ باخباہر محمد بن عمر: بخدیث عبد اللہ بن نافع: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ۵۹ھ میں انتقال فرمایا اور آپ کے جنازے کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بقیع میں پڑھائی۔

باخباہر محمد بن عمر از ابن جریج از نافع: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بقیع میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی نماز پڑھائی۔
باخباہر محمد بن عمر از زبیر بن موسیٰ از مصعب بن عبد اللہ از عمر بن ابی سلمہ: ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی قبر میں میں اور میرے بھائی سلمہ اور عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی امیہ اور عبد اللہ بن وہب بن زمعہ اسدی اترے تھے موت کے وقت آپ ۸۲ سال کی تھیں۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا:

آپ کا نام رملہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس ہے اور آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس ہیں، صفیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں، شروع میں آپ کی شادی عبید اللہ بن جحش بن ربیع بن معمر بن صبرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ سے جو حرب بن امیہ کے حلیف تھے ہوئی تھی جن سے آپ کے حبیبہ پیدا ہوئیں اسی بچی کے نام سے آپ کی کنیت ام حبیبہ تھی، حبیبہ کی شادی داؤد بن عروہ ثقفی سے ہوئی، عبید اللہ بن جحش ام حبیبہ کو لے کر حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کے وقت ہجرت کر کے چلے گئے اور مرد ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور حبشہ میں فوت ہو گئے لیکن ام حبیبہ اسلام پر اور ہجرت پر قائم رہیں آپ اپنی بچی حبیبہ کو بھی اپنے ساتھ حبشہ لے گئی تھیں پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر مکہ لوٹ آئیں۔
باخباہر محمد بن عمر: بخدیث عبد اللہ بن جعفر از عثمان بن محمد اخصی: ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حبیبہ مکہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے پیدا ہو گئی تھیں لیکن عبد اللہ بن جعفر کہتے ہیں: میں نے اسماعیل بن محمد بن سعد سے سنا آپ فرماتے تھے: حبیبہ حبشہ میں پیدا ہوئیں۔

محمد بن عمر: بخبر ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد از اسماعیل بن محمد بن سعد: آپ حمل کی حالت میں مکہ سے حبشہ گئی تھیں اور حبیبہ حبشہ ہی میں پیدا ہوئیں۔

باخباہر محمد بن عمر: بخدیث عبد اللہ بن عمرو بن زبیر از اسماعیل بن عمرو بن سعید بن العاص از ام حبیبہ: میں نے خواب میں اپنے شوہر عبید اللہ کو انتہائی بری اور مکروہ صورت میں دیکھا جس سے میں گھبرا گئی اور میں نے یہ تعبیر لی کہ اس کے حال میں تغیر پیدا ہو گیا، صبح ہوتے ہی عبید اللہ بولا: ام حبیبہ! میں نے دینوں میں غور کیا اور عیسائیت سے بہتر کوئی دین نہیں پایا، میں عیسائیت کے قریب آ گیا تھا پھر میں نے محمد ﷺ کا دین اختیار کر لیا، اب پھر میں عیسائی بن گیا ہوں، میں بولی: اللہ کی قسم اس دین میں تمہارے لیے بھلائی نہیں، اور میں نے اس سے اپنا رات کا خواب بیان کیا مگر اس نے خواب کی پروا نہ نہیں کی اور شراب پر ٹوٹ پڑا یہاں تک کہ موت آ گئی، پھر میں خواب دیکھتی ہوں کہ ایک آنے والا مجھے ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا ہے، گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ مجھ

سے رسول اللہ ﷺ نکاح کر لیں گے ابھی میری عدت پوری ہی ہوئی تھی کہ میرے دروازے پر نجاشی شاہ جوش کا قاصد کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا اور اس کی ایک لونڈی جس کا نام ابرہہ تھا اور اس کے کپڑوں کی اور تیل کی منظرہ تھی میرے پاس آ کر کہتی ہے: بادشاہ نے آپ کو یہ کہلا کر بھیجا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے لکھا ہے کہ میں تمہارا نکاح آپ سے کر دوں لونڈی بولی: اللہ نے آپ کو خیر کی بشارت دی ہے کہنے لگی: بادشاہ (سلامت) فرماتے ہیں: نکاح کے لیے اپنا کوئی وکیل مقرر کر دیجئے، آخر کار ام حبیبہؓ نے خالد بن سعید بن العاص کو بلا بھیجا اور انہیں وکیل بنا دیا اور آپ نے اس خوشی میں ابرہہ کو چاندی کے دو کنگن دو جھانجن جو آپ کے پیروں میں تھے اور پیروں کی انگلیوں میں تختی چاندی کی انگوٹھیاں تھیں سب دے دیں کیونکہ ابرہہ مژدہ لے کر آئی تھی، شام کو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو اور وہاں جو مسلمان تھے سب کو بلا بھیجا جب سب جمع ہو گئے تو نجاشی نے خطبہ دیا اور کہا: تمام بڑائیاں اس اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں جو بادشاہ ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جو سلام ہے امن دینے والا ہے غلبہ والا ہے بڑی عزت والا ہے اور ٹوٹے ہوؤں کو جوڑنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور آپ وہی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی، اما بعد! رسول اللہ ﷺ نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کا نکاح ام حبیبہؓ سے کر دوں میں آپ کے حکم کو بجالانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں میں نے مہر میں ام حبیبہ کو چار سو دینار دیئے کا تہیہ کر لیا ہے پھر نجاشی نے وہ دینار لوگوں کے سامنے رکھ دیئے ان کے بعد خالد بن سعید نے اس طرح خطبہ دیا: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں میں اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں اور اسی سے اپنے ہر کام میں نصرت و اعانت مانگتا ہوں اور میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینیوں پر غالب فرمادے اگرچہ مشرکوں کو برا معلوم ہو، اما بعد میں رسول اللہ ﷺ کی خواہش پر لبیک کہتا ہوں اور میں نے آپ کے نکاح میں ام حبیبہ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو اس نکاح میں برکت عطا فرمائے، نجاشی نے چار سو دینار خالد بن سعید کو دے دیئے اور خالد نے تمام دینار لے لیے پھر جب لوگوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو نجاشی بولا: ابھی آپ لوگ تشریف رکھیں کیونکہ انبیاء کی یہ ایک قدیمی سنت ہے کہ نکاح کے موقع پر لوگوں کی دعوت کی جائے، چنانچہ اس نے کھانا منگووا کر لوگوں کے سامنے چنوا دیا پھر لوگوں نے کھانا کھایا اور فارغ ہو کر چلے گئے ام حبیبہ فرماتی ہیں: جب مجھے یہ رقم مل گئی تو میں نے ابرہہ کو جس نے مجھے بشارت دی تھی بلوایا اور میں نے اس سے کہا: جب تو نے مجھے بشارت دی تھی تو اس وقت جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب کا سب میں نے تجھے دے دیا تھا اس وقت میرے پاس نقد رقم نہ تھی یہ بچاس دینار لے اور اپنی ضرورت پوری کر لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا پھر میں نے اپنا ڈبہ نکالا جس میں نجاشی کی دی ہوئی تمام رقم تھی اور وہ ساری رقم اسے دے دی مگر وہ بھی اس نے یہ کہہ کر لوٹا دی کہ بادشاہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہاری اس رقم میں ذرا سی بھی کمی نہ آنے دوں، بادشاہ سلامت کے کپڑوں کا اور تیل وغیرہ کا انتظام میرے ہی ہاتھ میں ہے میں بھی آپ کے دین کی پیروی کرتی ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ہو گئی ہوں، بادشاہ سلامت نے اپنی عورتوں کو حکم دے دیا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس عطر ہے وہ سب آپ کو بھیج دیں، دوسرے دن ابرہہ میرے پاس عود و رس، عنبر اور بہت سی مشک لے کر آئی، میں یہ تمام چیزیں لے کر نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئی، آپ یہ چیزیں مجھ پر اور میرے پاس دیکھتے تھے اور کچھ بھی نہیں

فرماتے تھے پھر ابرہہ بولی: میرا تم بس اتنا کام کر دینا کہ رسول اللہ ﷺ کو میرا اسلام پہنچا دینا اور آپ کو بتا دینا کہ ابرہہ نے اسلام کو سینہ سے لگالیا ہے پھر ابرہہ میرے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آتی رہی اور اس نے مجھے تیار کیا اور جب کبھی میرے پاس آتی تو یہی کہتی تھی کہ میرا کام نہ بھولنا پھر جب میں سرور عالم ﷺ کے پاس پہنچی تو میں نے آپ کو خطبوں کی خیزدی اور ابرہہ کے کارناموں کی بھی آپ مسکرا دیئے میں نے آپ کو ابرہہ کا سلام بھی پہنچایا آپ نے فرمایا: وعلیہا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

باخبار محمد بن عمر بخدیث اسحاق بن محمد از جعفر بن محمد اپنے والد محمد سے: رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن امیہ ضمری کو پیام دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا عمرو ہی نے نجاشی کو ام حبیبہ کے سلسلہ میں آپ کا پیام پہنچایا تھا آخر کار نجاشی نے آپ کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کرادیا اور اس نے اپنے پاس سے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے چار سو دینار مہر انہیں دے دیا۔ ابو جعفر: ہماری رائے میں عبد الملک بن مروان نے عورتوں کے مہر کی چار سو دینار کی رقم جو مقرر کی تھی وہ ہمیں سے کی تھی۔

باخبار محمد بن عمر بخدیث محمد بن صالح از عاصم بن عمر بن قتادہ و بخدیث عبد الرحمن بن عبد العزیز از عبد اللہ بن ابوبکر بن حزم: جس کو نجاشی نے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے پیام دیا اور جس نے آپ کا ام حبیبہ سے نکاح پڑھایا وہ خالد بن سعید بن العاص تھے یہ واقعہ ۷ھ کا ہے جب ام حبیبہ نکاح کے بعد مدینہ میں آئی ہیں تو آپ کی عمر تیس سے کچھ اوپر تھی۔

باخبار محمد بن عمر بخدیث عبد اللہ بن جعفر از عبد الواحد بن ابی عون: جب ابوسفیان کو خبر ملی کہ ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ ﷺ سے ہو گیا ہے تو بولے: یہ نوجوان اسی کے لائق ہیں۔

باخبار محمد بن عمر بخدیث محمد بن عبد اللہ از زہری: جب ابوسفیان مدینہ آئے تو رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ مکہ پر چڑھائی کی تیاری فرما رہے تھے ابوسفیان نے آپ سے درخواست کی کہ صلح حدیبیہ کی مقررہ مدت میں توسیع کر دی جائے لیکن رسول اللہ ﷺ نے یہ بات نہیں مانی آخر کار ناامید ہو کر اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور رسول اللہ ﷺ کے بستر پر بیٹھنا چاہا لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے چھٹ کر بستر طے کر دیا بولے: بیٹا! کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ بولیں: یہ رسول اللہ ﷺ کا بستر ہے اور تم مشرک و ناپاک ہو بولے: میرے بعد تمہارے مزاج میں شرارت پیدا ہو گئی ہے۔

باخبار محمد بن عمر بخدیث عبد الرحمن بن عبد العزیز از زہری: ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو تیار کر کے شریحیل بن حسنہ کے ساتھ نجاشی نے رسول اللہ ﷺ کی طرف بھیجا۔

باخبار محمد بن عمر بخدیث ابوسہیل از محمد بن سائب از ابی صالح از ابن عباس: (عسی اللہ ان يجعل بینکم و بین الذین عادیتہم منہم مودۃ۔ یعنی توقع ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرمائے گی کی تفسیر میں) یعنی جس وقت نبی ﷺ نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح کر لیا۔

باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس بخدیث ابوشہاب از ابن ابی لیلی از صفیہ: جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ کے والد ابوسفیان کا انتقال ہوا تو آپ نے خوشبو منگا کر اپنے دونوں ہاتھوں اور رخساروں پر ملی اور فرمایا: مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں اگر میں رسول اللہ ﷺ سے یہ بات نہ سنتی تو خوشبو نہ لگاتی میں نے سنا آپ فرماتے تھے: اس عورت کے لیے جس کا اللہ پر اور آخرت پر

ایمان ہے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی مرنے والے پر اظہارِ غم کرے، بجز شوہر کے کیونکہ اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔
باخبار ضحاک بن مخلد شیبانی ابو عاصم نبیل از ابن جریج، عطاء بن خیر، ابن شوال، خیرام حبیبہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ ﷺ نے انہیں مزدلفہ سے منیٰ کو رات میں جانے کا حکم دے دیا تھا۔

محمد بن عمر: نبی ﷺ خیبر کی کھجوروں میں سے ام حبیبہ کو بھی سالانہ ۸۰ وسق کھجوریں اور بیس وسق جو دیا کرتے تھے۔ باخبار محمد بن عمر، محمد بن ابوبکر بن عبد اللہ بن ابی بصرہ از عبد الحمید بن سہیل از عوف بن حارث، بسام غانثہ رضی اللہ عنہا: مجھے اپنے مرض الموت میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ نے بلایا اور فرمایا: کبھی کبھی ہمارے اور سونتوں کے درمیان کچھ ناگوار باتیں ہو جاتی تھیں اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، میں بولی: اللہ تعالیٰ آپ کی تمام لغزشیں معاف فرمائے اور تجاؤز کرے اور آپ کو حلال فرمادے۔ بولیں: تم نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے پھر ام سلمہ کو بلا کر ان سے بھی یہی بات کہی۔
آپ عہد معاویہ میں ۲۲ھ میں فوت ہوئیں۔

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا:

آپ جحش بن ریاب بن بصر بن صبرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دووان بن اسد بن خزیمہ کی لخت جگر ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ہے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عثمان جحشی از عثمان: نبی ﷺ مدینہ تشریف لائے اور زینب بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، زینب حسین تھیں رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ کے لیے آپ پر پیام ڈالا بولیں: یا رسول اللہ! میں انہیں اپنے لیے پسند نہیں کرتی اور میں قریش کی بیوہ ہوں، فرمایا: میں انہیں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، پھر آپ نے زید سے ان کا نکاح کرا دیا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ بن عامر اسلمی از محمد بن یحییٰ بن حبان: نبی ﷺ زید کے گھر والے ان کو تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے، زید کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے، جب کبھی رسول اللہ ﷺ زید کو نہیں دیکھتے تو فوراً فرماتے زید کہاں ہیں؟ اس دفعہ آپ زید کو تلاش کرنے کے لیے ان کے گھر آتے ہیں لیکن انہیں گھر میں نہیں پاتے، زینب رضی اللہ عنہا اپنے کام کے کپڑوں میں آپ کی طرف بڑھتی ہیں آپ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، کہتی ہیں: یا رسول اللہ! وہ گھر میں نہیں ہیں، آپ تشریف رکھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن رسول اللہ ﷺ اندر آنے سے انکار کر دیتے ہیں، جب زینب سے کہا گیا کہ رسول اللہ ﷺ دروازے پر ہیں تو انہوں نے جلدی سے کپڑے بدلنے کا ارادہ کیا اور فوراً تیزی سے آئیں اور رسول اللہ ﷺ کو اچھی معلوم ہوئیں اس لیے آپ نے منہ پھیر لیا اور آپ نے آہستہ سے کوئی کلمہ پڑھا جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہاں زور سے پڑھتے تھے تو سمجھ میں آتا تھا آپ پڑھ رہے تھے سبحان اللہ العظیم، سبحان القلوب۔ پھر زید گھر آتے ہیں اور زینب انہیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تھے، زید کہتے ہیں: تم نے آپ کو اندر کیوں نہیں بلایا؟ فرماتی ہیں: میں نے تو بلایا تھا مگر آپ نے انکار کر دیا، بولے: کیا تم نے آپ کی زبان سے کچھ سنا؟ بولیں: پیٹھ موڑتے ہوئے آپ نے کوئی کلمہ تو فرمایا تھا لیکن میں اسے سمجھ نہ سکی، غور کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ سبحان اللہ العظیم، سبحان القلوب فرما رہے ہیں، آخر کار زید سرکار رسالت کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتے

ہیں یا رسول اللہ! مجھے معلوم ہوا کہ آپ میرے گھر تشریف لے گئے تھے آپ اندر کیوں تشریف نہیں لائے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، شاید زینب آپ کو اچھی معلوم ہوئیں اگر ایسا ہے تو میں ان کو علیحدہ کیے دیتا ہوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی بیوی کو علیحدہ نہ کرو اور انہیں روکے رکھو لیکن اس واقعہ کے بعد زینب نے زینب کی طرف کوئی راہ نہیں پائی، آپ رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے اور آپ کو اطلاع دیتے مگر آپ یہی فرماتے: اپنی بیوی کو روکے رکھو آخر کار زینب سے علیحدہ ہو گئے اور انہیں چھوڑ دیا پھر وہ حلال ہو گئیں، یعنی ان کی عدت پوری ہو گئی (فرماتے ہیں) اس حال میں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آپ پر وحی آئی پھر جب وحی کھل گئی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے: ہے کوئی جو زینب کے پاس جا کر انہیں بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر مجھ سے ان کا نکاح کر دیا؟ اور رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی ﴿وَإِذْ يَقُولُ لِلَّذِي نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ الخ یعنی جب آپ اس سے، جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور آپ کا بھی ان پر انعام ہے، فرما رہے تھے اپنے پاس اپنی بیوی کو روکے رکھو (آخر آیت تک) صدیقہ فرماتی ہیں: پھر تو میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے کیونکہ ہمارے پاس ان کے حسن و جمال کی خبریں آتی رہتی تھیں علاوہ ازیں سب سے عظیم و افضل بات یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے آسمان پر ان کا نکاح کر لیا تھا میں سوچتی تھی کہ وہ اس نکاح سے ہم پر فخر کیا کریں گی، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کی خادمہ سلمیٰ دوڑ کر زینب کے پاس گئیں اور آپ کو جا کر بشارت دی، آپ نے اس مسرت میں سلمیٰ کو اپنی بدھیاں اتار کر دے دیں۔

باخبا محمد بن عمر بحدیث ابو معاویہ از محمد بن سائب از ابوصالح از ابن عباس: جب زینب کو خبر ملی کہ ان سے رسول اللہ ﷺ نے نکاح کر لیا ہے تو سجدے میں گر گئیں۔

باخبا محمد بن عمر بحدیث عبد اللہ بن عمرو بن زہیر بسماع ابراہیم بن محمد بن عبد اللہ بن جحش از زینب بنت جحش: جب مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے نکاح کی بشارت لے کر میرے پاس قاصد آیا تو میں نے دو ماہ کے روزوں کی نذر مان لی، لیکن جب میرے پاس رسول اللہ ﷺ ہوتے تو میں سفر و حضر میں روزے رکھنے پر قادر نہ ہوتی (اس سفر میں جس میں میرے نام قرعہ نکل آتا) اور اگر میرے ٹھہرنے کا قرعہ نکل آتا تو میں روزے رکھ لیا کرتی تھی۔

باخبا محمد بن عمر بحدیث عبد اللہ بن جعفر از ابن ابی عمیر: ایک دن زینب کہنے لگیں: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم میں آپ کی کسی عورت کی طرح نہیں، بجز میرے آپ کی ہر بیوی کا نکاح اس کے باپ یا بھائی یا کسی عزیز نے کر لیا ہے لیکن آپ سے میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کر لیا ہے۔

باخبا محمد بن عمر بحدیث عبد اللہ بن عثمان بن عبد اللہ بن جحش اپنے باپ عثمان سے اور وہ زینب بنت ام سلمہ سے اور وہ ام سلمہ سے: ایک دن ام سلمہ نے زینب کا ذکر چھیڑ دیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا مانگی اور زینب دعا عائشہ کے درمیان ناخوشگوار باتیں ہو جایا کرتی تھیں ان میں سے کسی بات کا بیان کیا: فرماتی ہیں پھر زینب بولیں: اللہ کی قسم! میں رسول اللہ ﷺ کی دوسری بیویوں کی طرح نہیں ہوں ان کامہروں سے اور ویوں کے ذریعہ نکاح کر لیا گیا اور میرا نکاح اللہ نے اور اس کے رسول نے کر لیا اور میرے نکاح کے بارے میں قرآن پاک میں آیت اتری جسے مسلمان پڑھتے ہیں اور جس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا یعنی ﴿وَإِذْ يَقُولُ لِلَّذِي نَعَمَ اللَّهُ

علیہ السلام ام سلمہ فرماتی ہیں: زینب ایک خوبصورت خاتون ہیں اور نبی ﷺ کثرت سے آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے آپ ایک صبح روزے دار شب بیدار اور کارگر عورت ہیں اور سارا مال محتاجوں پر خرچ کر دیا کرتی ہیں۔

باخبار عصفان بن مسلم و عارم بن فضل: محمد یرث حماد بن زید از ثابت از انس: زید رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہا کی شکایت کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے ہیں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو پھر ﴿وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ﴾ اتر آتی ہے یعنی تم اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے۔

عارم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں: پھر زینب سے نبی ﷺ نے نکاح کر لیا اور آپ نے اپنی کسی بیوی پر اس قدر ولیمہ نہیں کیا جس قدر زینب پر کیا آپ نے اس موقع پر ایک بکری ذبح کرانے کا ولیمہ کیا۔

باخبار عارم بن فضل باخبار حماد بن زید از ثابت از انس: زینب کے بارے میں ﴿فلما قضی زید منها وطرا﴾ اتری یعنی جب زید رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہا سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مسلمانوں پر تنگی نہ رہے۔ فرماتے ہیں: زینب ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں تمہارا تمہارے گھر والوں نے نکاح کر لیا اور میرا نکاح ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے کر لیا۔ باخبار عارم بن فضل: محمد یرث حماد بن زید از عاصم احوال: ایک اسدی نے ایک شخص پر ان الفاظ میں فخر کیا: کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جس کا نکاح ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے کر لیا ہو؟ ایسی زینب ہیں۔

باخبار عصفان بن مسلم و عمرو بن عاصم کلابی: محمد یرث سلیمان بن مغیرہ از ثابت از انس بن مالک: جب زینب کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے زید سے فرمایا: مجھے تم سے زیادہ کسی اور پر اعتماد نہیں تم زینب کے پاس جاؤ اور انہیں میرا پیام پہنچاؤ آخر کار زید زینب کے پاس آتے ہیں آپ آٹا گوندھتی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں: جب میں نے زینب کو دیکھا تو اپنے دل میں ان کا عظیم احترام پایا اور میں نے انہیں غور سے نہیں دیکھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان سے رسول اللہ ﷺ نکاح کرنے والے ہیں چنانچہ میں نے ان کی طرف سے پشت پھیر لی اور اپنی ایڑیوں پر مڑ گیا اور میں نے کہا: زینب! تمہیں بشارت ہو رسول اللہ ﷺ تمہارا ذکر فرماتے ہیں بولیں: میں کچھ نہیں کروں گی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں پھر اپنی مسجد میں کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں اور ﴿فلما قضی زید﴾ اتر آئی پھر رسول اللہ ﷺ بلا اجازت کے گھر میں تشریف لے آئے۔

باخبار سعید بن منصور: محمد یرث محمد بن عیسیٰ عبدی از ثابت بنانی: میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تم نے نبی ﷺ کی کتنے سال خدمت کی؟ بولے: دس سال میں نے جو کام کر دیا اچھا کیا ہو یا برا آپ نے اس میں رد و بدل نہیں فرمایا میں نے کہا: تم نے اس دس سالہ خدمت میں آپ کی جو حیرت انگیز چیز دیکھی ہو اسے بیان کرو فرمایا جب آپ نے زینب بنت جحش سے نکاح کر لیا پہلے زینب آپ کے آزاد کردہ غلام زید کے نکاح میں تھیں تو ام سلیم نے کہا: انس! رسول اللہ ﷺ آج دوہا ہیں اور میرے خیال میں آپ کے پاس صبح کا کھانا بھی نہیں ذرا یہ برتن تو اٹھا لاؤ میں اسے اٹھا کر لے آیا ام سلیم نے آپ کے لیے حبس تیار کیا جو عدہ قسم کی کھجوروں سے تیار کیا گیا تھا اور اتنا ایک لگن میں بھر دیا جتنا آپ کو اور آپ کی دلہن کو کافی ہو اور بولیں: یہ آپ کے پاس لے جاؤ چنانچہ میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ابھی پردہ کی آیت نہیں اتری تھی فرمایا: رکھ دو: میں نے اسے آپ کے آورد یواز

کے درمیان رکھ دیا، فرمایا: ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو بلا لاؤ اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی نام لیا، مجھے حیرت ہوئی کہ آپ نے آدمی اتنے سارے بلوائے اور کھانا تھوڑا سا ہی ہے خیر میں نے حکم سے سرتابی نہیں کی اور سب کو بلا لایا، فرمایا دیکھو اگر کوئی مسجد میں ہو تو اسے بھی بلا لاؤ چنانچہ میں مسجد میں گیا اور نماز پڑھنے والوں کو اور سونے والوں کو سب کو بلا لیا کہ آج ولیمہ ہے اور رسول اللہ ﷺ نے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے حتیٰ کہ لوگوں سے گھر بھر گیا، پوچھا: مسجد میں کوئی باقی تو نہیں رہا؟ میں نے کہا: نہیں، فرمایا: جو راستہ میں ہوا سے بھی بلا لاؤ، میں راہ والوں کو بھی بلا لایا اور حجرہ کچھ بھر گیا۔ پوچھا: کوئی باقی تو نہیں رہا؟ میں بولا: نہیں، یا رسول اللہ! فرمایا: لگن اٹھلاؤ، میں نے لگن اٹھا کر آپ کے سامنے لا رکھا آپ نے اس میں تین انگلیاں رکھیں اور اسے دبایا اور لوگوں سے کہا: بسم اللہ کر کے کھاؤ، میں نے کجوروں کو یا گھی کو دیکھا تو وہ اہل رہا تھا جیسے چشموں کا پانی اہلتا ہے، گھر اور حجرے میں بھرے ہوئے تمام آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور لگن میں اتنا ہی باقی تھا جتنا میں لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے آپ کی زوجہ مطہرہ کے سامنے لا رکھا، پھر میں یہ حیرت انگیز واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا اپنی امی جان کو سنانے کے لیے اپنے گھر چلا گیا، بولیں: تعجب نہ کرو اگر آپ تمام مدینہ والوں کو کھانا چاہتے تو انہیں بھی کافی ہو جاتا۔ میں نے اس سے پوچھا: تمہارے اندازے کے مطابق کتنے آدمی ہوں گے؟ فرمایا: مجھے اے آدمیوں کا تو یقین ہے اور ۲۷ میں شبہ ہے۔

باخبار عمرو بن عاصم باخبار سلیمان بن مغیرہ از ثابت از انس: جب رسول اللہ ﷺ نے زینب سے شادی کی تو ہم نے لوگوں کو گوشت روٹی کھلائی حتیٰ کہ دن چڑھ گیا اور لوگ نکل گئے، لیکن چند حضرات گھر میں باقی رہ گئے اور رسول اللہ ﷺ بھی باہر تشریف لے آئے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا آپ ازواج مطہرات کے ایک ایک کے حجرے کے پاس جا کر سلام کرنے لگے ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ (فرماتے ہیں) مجھے معلوم نہیں کہ میں نے آپ کو بتایا یا آپ کو بتایا گیا کہ لوگ چلے گئے ہیں یہ سن کر آپ اپنے حجرے کی طرف بڑھے اور گھر میں داخل ہو گئے میں نے بھی اندر جانے کا ارادہ کیا لیکن آپ نے میرے اور اپنے درمیان دروازہ بند کر دیا اور پردہ کی آیت اتر آئی۔

باخبار سلیمان بن حرب باخبار حماد بن زید از ایوب از ابوقلابہ از انس بن مالک: میں لوگوں میں سب سے زیادہ پردہ کی آیت سے آگاہ ہوں، جب زینب کو دلہن بنا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کی دعوت کی لوگ آ کر گھر میں بیٹھ گئے اور زینب رسول اللہ ﷺ کے پاس گھر میں تھیں لوگ باقی رہ گئے رسول اللہ ﷺ گھر سے باہر آئے اور پھر گھر میں جا کر دیکھتے تو لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے پھر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بيوت النبي﴾ اتر آئی۔ یعنی اے ایمان والو! بلا اجازت کے نبی کے گھروں میں نہ جاؤ اور یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دے دی جائے تم کھانا کھنے کا انتظار نہ کرو لیکن جب تم کو بلا یا جائے تو اندر جاؤ اور جب تم کھانا کھا چکے تو واپس ہو جاؤ اور باتیں کر کے دل نہ بہلاؤ یہ (باتیں) نبی کو ایذا پہنچاتی ہیں اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے پیچھے سے مانگ لو، آخر کار لوگ کھڑے ہوئے اور پردہ ڈال لیا گیا۔

باخبار فضل بن دکین، مجدیت عیسیٰ بن طہمان، بسامع انس بن مالک: زینب بنت جحش ازواج مطہرات پر ان الفاظ میں نحر

کیا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر میرا نکاح کر لیا۔ زینب رضی اللہ عنہا ہی کے واقعہ میں پردہ کی آیت اتری، لوگ نبی ﷺ کے گھر میں تھے پھر گھر سے باہر چلے گئے، تھوڑی سی دیر میں آئے تو لوگ حسب سابق موجود تھے۔ اس سے آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے پھر پردہ کی آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾ نازل ہوئی۔

باخباہر فضل بن دکین، متحد یث عیسیٰ بن طہمان، بسماع انس بن مالک رضی اللہ عنہم: رسول اللہ ﷺ نے زینب کے ولیمہ میں گوشت روٹی کھلائی۔

باخباہر محمد بن عبداللہ انصاری باخباہر حمید از انس: رسول اللہ ﷺ نے جب زینب سے خلوت کی تو ولیمہ کیا اور لوگوں کو گوشت روٹی کھلائی، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر آپ سلام و دعا کے لیے امہات المؤمنین کے حجروں کی طرف چلے گئے، امہات المؤمنین نے بھی آپ کو سلام کا جواب دیا اور آپ کے لیے دعائے خیر کی، آپ نے ایسا بنا کی صبح کو کیا پھر آپ گھر کو واپس لوٹے، آپ کے ساتھ تھا پھر جب آپ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے تو گھر کے ایک کونے میں دو شخصوں کو مصروف گفتگو پایا جب آپ نے ان دونوں کو دیکھا تو پھر آپ اپنے گھر سے واپس ہو گئے جب ان شخصوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ گھر سے لوٹ گئے ہیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے یاد نہیں کہ ان کے چلے جانے کی میں نے آپ کو خبر دی یا آپ کو خبر دی گئی آخر کار آپ واپس آئے اور گھر میں داخل ہو کر اپنے اور میرے درمیان پردہ ڈال لیا اور اللہ تعالیٰ نے پردہ کی آیت اتاری۔

باخباہر یعقوب بن ابراہیم زہری از ابراہیم زہری از صالح بن کیسان از ابن شہاب از انس بن مالک: میں لوگوں میں سب سے زیادہ پردہ کے بارے میں جانتا ہوں، ابی بن کعب مجھ سے پوچھا کرتے تھے، انس کہا کرتے تھے: رسول اللہ ﷺ نے زینب سے خلوت کی آپ نے ان سے مدینہ میں نکاح کیا تھا پھر آپ نے دن چڑھے لوگوں کو کھانے کے لیے بلوایا کھانا کھا کر لوگ چلے گئے اور رسول اللہ ﷺ اور چند لوگ باقی رہ گئے، پھر رسول اللہ ﷺ چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے پہنچے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا پھر آپ یہ خیال کر کے کہ لوگ چلے گئے ہوں گے واپس لوٹے تو وہ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک گئے، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا پھر آپ واپس آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا تو وہ لوگ چلے گئے تھے پھر آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا اور پردہ کی آیت اتر آئی۔

باخباہر یزید بن ہارون باخباہر حمید طویل از انس بن مالک: نبی ﷺ نے زینب پر ولیمہ کیا۔ اور مسلمانوں کو پیٹ بھر کر گوشت روٹی کھلائی پھر آپ باہر آ گئے اور وہی کیا جو نکاح کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی آپ امہات المؤمنین کے گھروں میں آ کر انہیں سلام کیا کرتے تھے اور وہ آپ کے سلام کا جواب دیتی تھیں اور آپ کے لیے دعائے خیر مانگا کرتی تھیں۔

باخباہر سلیمان بن حرب، متحد یث حماد بن زید از ثابت از انس: نبی ﷺ نے جس قدر زینب پر ولیمہ کیا اتنا کسی اور بیوی پر ولیمہ نہیں کیا، آپ نے زینب رضی اللہ عنہا پر ایک بکری کا ولیمہ کیا۔

باخباہر رجاء بن محمد از ابن جریج برعم عطاء بسماع عبید بن عمیر بسماع عائشہ: نبی ﷺ نے زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہر کر شہد پیا کرتے تھے میں نے اور حصہ رضی اللہ عنہا نے دونوں نے اس بات پر ایسا کر لیا کہ جس کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائیں وہی کہے۔

مجھے آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے چنانچہ آپ ان میں سے کسی کے پاس آئے تو اس نے یہی کہا آپ نے فرمایا: نہیں نہیں بلکہ میں تو زینب رضی اللہ عنہا کے پاس شہد پی کر آ رہا ہوں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا پھر ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ اتری یعنی اے نبی: جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمادی ہے اسے آپ حرام کیوں کرتے ہیں کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں دونوں سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں اور جب نبی نے اپنی بیوی سے چھپا کر ایک بات کہی۔ اس بات سے مراد آپ کا یہ قول ہے: نہیں نہیں بلکہ میں نے تو شہد پیا ہے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث عبدالحکیم بن عبد اللہ بن ابی فروہ بسام عبد الرحمن اعرج (مدینہ میں اپنی مجلس میں): نبی ﷺ زینب بنت جحش کو خیبر کی کھجوروں میں سے سالانہ ۸۰۰ مسق کھجوریں اور ۲۰۰ مسق گیہوں (یا کہا) جو دیا کرتے تھے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث عبد اللہ بن عمر از یحییٰ بن سعید از قاسم بن محمد از زینب بنت جحش: (وفات کے وقت) میرے پاس کفن تیار ہے شاید عمر رضی اللہ عنہ میرے لیے کفن بھیجیں اگر وہ کفن بھیج دیں تو ایک کفن کسی کو دے دینا جب تم مجھے قبر میں اتار دو تو اگر میرا پرکا خیرات کر سکو تو کر دو۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ از یزید بن عبد اللہ بن ہاد از محمد بن ابراہیم بن حارث تمیمی: زینب بنت جحش نے وصیت کی کہ میری لاش رسول اللہ ﷺ کی سر پر (چار پائی یا تخت) پر رکھ کر لے جائی جائے اس سے قبل اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے جایا گیا تھا پھر تو جو عورت فوت ہوئی اسی کا جنازہ اس پر لے جایا جاتا تھا لیکن مروان بن حکم نے اپنے عہد خلافت میں حکم دے دیا کہ بجز شریف مرد کے اس پر کوئی جنازہ نہ اٹھایا جائے اور مدینہ میں جنازے اٹھانے کی چار پائیوں میں فرق کر دیا گیا۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ از موسیٰ از ابن کعب: زینب رضی اللہ عنہا نے وصیت کی کہ ان کے جنازے کے پیچھے آگ نہ لے جائی جائے اور ان کی لحد بقیع میں عقیل کے گھر کے پاس عقیل کے گھر اور ابن حنیفہ کے گھر کے درمیان کھودی جائے سمنین سے کچی اسٹینیں لاکر قبر کے چاروں طرف رکھی گئیں آپ کی وفات کے دن سخت گرمی تھی۔

باخبار یزید بن ہارون و عبد الوہاب بن عطاء از محمد بن عمرو بحدیث یزید بن خنیفہ از عبد اللہ بن رافع از برزہ بنت رافع: عطیہ دینے کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا عطیہ بھیجا جب آپ کے پاس یہ عطیہ آیا تو بولیں: اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کو بخش دے میری دوسری بہنیں اس کی مجھ سے زیادہ محتار ہیں لوگوں نے کہا: یہ سب آپ ہی کا ہے بولیں: سبحان اللہ پھر اسے ایک کپڑے سے چھپا کر بولیں: اس پر کپڑا ڈال کر اسے خرچ کر دو پھر مجھ سے کہا: اس کے اندر ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کر فلاں فلاں کو دے آؤ ان میں کچھ آپ کے عزیز تھے اور کچھ یتیم تھے پھر بھی کپڑے کے نیچے کچھ رقم باقی رہ گئی۔ برزہ بنت رافع بولیں: ام المومنین! اللہ آپ کو معاف فرمائے اللہ کی قسم اس میں ہمارا بھی حق ہے فرمایا: جو کپڑے کے نیچے باقی ہے سب تمہارا ہے پھر ہمیں کپڑے کے نیچے سے ۸۵ درہم ملے پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا: اے اللہ اس سال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا عطیہ مجھے

نہ پائے چنانچہ آپ اسی سال فوت ہو گئیں عبدالوہاب اپنی حدیث میں فرماتے ہیں: آپ امہات المؤمنین میں سب سے پہلے وفات پانے والی ام المؤمنین ہیں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن صالح بن خوات از محمد بن کعب: زینب بنت جحش کا عطیہ بارہ ہزار درہم تھا آپ نے اسے صرف ایک سال لیا جب آپ کے پاس بارہ ہزار درہم آئے تو فرمانے لگیں: اے اللہ مجھے اس مال کا اگلا سال نہ پائے کیونکہ یہ فتنہ ہے پھر آپ نے اسے اپنے عزیزوں میں اور حاجت مندوں میں بانٹ دیا اور سب ختم کر دیا جب عمر رضی اللہ عنہ کو خبر لگی تو فرمایا: یہ ایک ایسی خاتون ہیں جن کے ساتھ مزید سلوک کیا جانا چاہیے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنا سلام کہلوایا اور یہ بھی کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے تمام مال بانٹ دیا ہے۔ پھر آپ نے زینب رضی اللہ عنہا کے ذاتی خرچہ کے لیے مزید ایک ہزار درہم بھیجے لیکن آپ نے ان کے ساتھ بھی حسب سابق معاملہ فرمایا اور سب بانٹ دیئے۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن از محمد بن عبد الرحمن از عمرہ بنت عبد الرحمن: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت ان کے پاس بیت المال میں سے پانچ تھکان بھیجے کہ ان میں سے جو سنا کپڑا چاہیں پسند فرمائیں۔ چنانچہ اسی میں آپ کفنائی لگیں اور آپ کی ہمشیرہ حمنہ نے اس کفن کو جو آپ نے اپنے لیے تیار کر کے رکھا تھا خیرات کر دیا عمرہ فرماتی ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا فرمایا کرتی تھیں: ایک قابل تعریف و بے مثال خاتون چلی گئیں جو تیسوں اور بیواؤں کی پناہ گاہ تھیں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن ثوری و منصور بن ابوالاسد از اسماعیل بن ابی خالد از شعبی از عبد الرحمن بن ابی زبئی: زینب امہات المؤمنین میں سب سے پہلے فوت ہوئیں اور آپ کا عہد فاروقی میں انتقال ہوا لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ کی قبر میں کون اترے؟ فرمایا: جو ان کی زندگی میں آیا جایا کرتا تھا آپ کے جنازے کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چار تکبیروں کے ساتھ پڑھائی۔

باخبار وکیع بن جراح و فضل بن دکین و یزید بن ہارون بن محمد بن سعدی از قاسم بن عبد الرحمن: لوگ کہتے ہیں: زینب تمام امہات المؤمنین میں سب سے پہلے نبی ﷺ سے جا ملیں فوت ہونے کے بعد جب آپ کا جنازہ قبر کے پاس لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد فرمایا: جب یہ عورت (زینب رضی اللہ عنہا) بیمار ہوئیں تو میں نے امہات المؤمنین سے پچھوایا کہ ان کی تیمارداری کون کرے گا؟ بولیں ہم کریں گی میرے خیال میں انہوں نے تیمارداری کا حق ادا کر دیا پھر ان کے انتقال کے بعد میں نے ان سے پچھوایا کہ ان کے غسل کا اور جھینڑ و تکفین کا کام کون انجام دے گا؟ فرمایا: ہم میری رائے میں اس میں بھی انہوں نے کوتاہی نہیں کی پھر میں نے ان سے پچھوایا کہ انہیں قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا: وہ جسے ان کے پاس ان کی زندگی میں آنا جانا حلال تھا میرے خیال میں اس بات میں بھی وہ حق بجانب ہیں لہذا تم سب علیحدہ ہٹ جاؤ اور آپ نے لوگوں کو زینب رضی اللہ عنہا کی قبر کے پاس سے ہٹا دیا۔ پھر زینب رضی اللہ عنہا کے گھر کے دو آدمیوں نے آپ کو قبر میں اتارا۔

باخبار عصفان بن مسلم بن محمد بن ابوعوانہ از فراس از عامر از عبد الرحمن بن ابی زبئی: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چار تکبیروں کے ساتھ

بخاری فضل بن دیکین، بخاری ابو معشر از محمد بن منکدر: عمر رضی اللہ عنہ قبرستان میں کھڑے ہوئے (لوگ زینب رضی اللہ عنہا کی ایک گرم دن میں قبر کھود رہے تھے) اور فرمایا: کاش میں ان پر خیمہ گڑوادیتا آخر کار آپ نے خیمہ نصب کرادیا۔

بخاری محمد بن عمر از ابو معشر از محمد بن منکدر: عمر رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہا کی قبر کھودنے والوں کے پاس سے گزرے گرم دن تھا، فرمایا: کاش میں ان پر خیمہ نصب کرادیتا پھر آپ نے خیمہ نصب کرادیا، قبر پر نصب کیے جانے والا یہ پہلا خیمہ تھا۔

بخاری محمد بن عمر، بخاری یث موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث از محمد بن ابراہیم: اس دن سخت گرمی کی وجہ سے زینب رضی اللہ عنہا کی قبر پر عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے خیمہ نصب کیا گیا۔ بقیع میں یہ پہلا خیمہ تھا جو کسی قبر پر گاڑا گیا تھا۔

بخاری محمد بن عمر، بخاری یث صالح بن جعفر از محمد بن عقبہ از ثلبہ بن ابی مالک: جس دن حکم بن ابی العاص فوت ہوئے تو میں نے عہد عثمانی میں ان کی قبر پر گرم دن میں خیمہ گڑا ہوا دیکھا پھر لوگوں میں اس کا چرچا ہوا اور لوگ کثرت سے قبروں پر خیمہ گاڑنے لگے، آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں نے جتنی جلدی برائی اپنائی اور ایک دوسرے کی ریس کرنے لگا۔ میں حاضرین سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہا کی قبر پر خیمہ گاڑا تھا؟ لوگ بولے: ہاں پوچھا، کیا تم نے اس پر کسی کی نکتہ چینی سنی تھی؟ لوگ بولے: نہیں۔

بخاری محمد بن عمرو، بخاری یث ابو بکر بن عبداللہ بن ابوسبرہ از ابو موسیٰ از محمد بن کعب از عبداللہ بن ابی سلیط: میں نے ابو احمد بن جحش کو دیکھا کہ زینب کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں اور زور ہے ہیں، آپ نایمان تھے پھر میں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں: ابو احمد! جنازے سے ہٹ جاؤ، کہیں تمہیں لوگوں سے دکھ نہ پہنچ جائے جنازے کے پاس لوگوں کی بھیڑ ہے، ابو احمد نے جواب دیا: یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہر بھلائی نصیب ہوئی اور یہ امر دکھ کی گرمی کو سردی سے بدل دے گا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: چھپے رہو۔

بخاری محمد بن عمر، بخاری یث موسیٰ بن عمران بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق از عاصم بن عبید اللہ از عبداللہ بن عامر بن ربیعہ: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے سن میں ایک گرم دن میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے جنازے کی نماز پڑھائی میں نے دیکھا زینب رضی اللہ عنہا کی قبر پر ایک کپڑے سے پردہ کر لیا گیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ قبر کے کنارے بیٹھے تھے اور آپ کے پاس ابو احمد نایمان بھی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے تھے اور عمر محمد بن عبداللہ بن جحش اور اسامہ اور عبداللہ بن ابی احمد بن جحش اور محمد بن طلحہ بن عبید اللہ جو زینب رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ حمنہ بنت جحش کے فرزند تھے، زینب رضی اللہ عنہا کی قبر میں اترے تھے۔

بخاری محمد بن عمر، بخاری یث عمر بن عثمان بن عبداللہ جحشی اپنے والد سے: نبی ﷺ نے زینب بنت جحش سے کیم ذی قعدہ ۵ھ میں نکاح کیا اس وقت زینب رضی اللہ عنہا ۳۵ برس کی تھیں۔

بخاری محمد بن عمر، بخاری یث موسیٰ بن محمد بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن حارث بن نعمان اپنے والد ابوالجال سے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ عمرہ بنت عبدالرحمن سے سنا فرماتی تھیں: میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ نے زینب بنت جحش سے کب نکاح کیا؟ بولیں: ہم غزوہ مریسج سے لوٹے تھے یا غزوہ مریسج کے کچھ دنوں بعد۔ محمد بن عمر: صدیقہ کا یہ قول عمر بن عثمان

بن عبد اللہ حبشی کے اس قول کے موافق ہے کہ آپ نے یکم ذی قعدہ ۵ھ میں نکاح کیا۔

باخبار محمد بن عمر، محدث عمر بن عثمان بن عبد اللہ حبشی اپنے والد سے: زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے پیچھے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا، ان کے پاس جو کچھ آتا تھا سب خرچ کر دیا کرتی تھیں آپ مسکینوں کا بلجا و ماویٰ تھیں البتہ آپ نے اپنا ایک مکان چھوڑا تھا جس کو ورنہ نے ولید بن عبد الملک کے ہاتھ بچاس ہزار درہم میں فروخت کر دیا تھا جب اس نے مسجد ڈھائی تھی۔

باخبار محمد بن عمر از محمد بن عبد اللہ از زہری از عروہ از ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا: زینب بنت جحش کی وفات پر رونے لگیں اور زینب رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر کرنے لگیں اور ان کے لیے دعائے ترحم مانگنے لگیں، صدیقہ سے پوچھا گیا کہ زینب کا کوئی وصف بیان کیجئے فرمایا: زینب رضی اللہ عنہا ایک نیک عورت تھیں، میں بولا: خالہ جان! رسول اللہ ﷺ کو کون سی بیوی سے زیادہ لگاؤ تھا؟ فرمایا: میں اس کا خیال کرنے والی نہ تھی، آپ کی نگاہ میں زینب رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ایک مقام تھا اور میرے گمان میں میرے بعد آپ کو یہی دونوں بہت محبوب تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، محدث عمر بن عثمان حبشی از ابراہیم بن عبد اللہ بن محمد اپنے والد سے: ام عکاشہ بنت محسن سے پوچھا گیا: وفات کے وقت زینب رضی اللہ عنہا کی کیا عمر تھی؟ فرمایا: جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو زینب رضی اللہ عنہا تیس سے کچھ اوپر تھیں اور ۲۰ھ میں فوت ہوئیں۔ عمر بن عثمان فرماتے ہیں: میرے والد فرمایا کرتے تھے: زینب رضی اللہ عنہا وفات کے وقت ۵۳ سال کی تھیں۔
حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا:

آپ خزیمہ بن حارث بن عبد اللہ بن عمرو بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصعہ کی صاحبزادی ہیں، آپ کا جاہلیت میں ام المساکین لقب تھا۔

باخبار محمد بن عمر، محدث محمد بن عبد اللہ از زہری: زینب بنت خزیمہ ہلالیہ کو ام المساکین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، آپ طفیل بن حارث بن مطلب بن عبد مناف کے نکاح میں تھیں پھر اس نے آپ کو طلاق دے دی تھی۔ باخبار محمد بن عمر، محدث محمد بن عبد اللہ بن جعفر از عبد الواحد بن ابی عون: طلاق کے بعد آپ سے عبیدہ بن حارث نے نکاح کر لیا، پھر جنگ بدر میں عبیدہ شہید ہو گئے۔

باخبار محمد بن عمر، محدث یث کثیر بن زید از مطلب بن عبد اللہ بن حنطب و محدث محمد بن قدامہ اپنے والد سے: نبی ﷺ نے اپنے لیے ام المساکین، زینب بنت خزیمہ ہلالیہ پر پیام ڈالا، انہوں نے اپنے نکاح کا اختیار آپ کو دے دیا آخر کار ان سے آپ نے ہجرت کے ۳۱ ویں ماہ رمضان میں نکاح کر لیا اور گواہ بنائے اور پانچ سو درہم ہنجر مقرر فرمایا، زینب نکاح کے بعد ۸ ماہ زندہ رہیں اور ربیع الثانی کے آخری ایام میں ہجرت سے ۲۹ ویں ماہ فوت ہو گئیں آپ کے جنازے کی نماز نبی ﷺ نے پڑھائی اور آپ کو بیعت میں دفن کیا۔

باخبار محمد بن عمر: میں نے عبد اللہ بن جعفر سے پوچھا: زینب کی قبر میں کون اترتا تھا؟ فرمایا ان کے تینوں بھائی، میں نے پوچھا: ان کی وفات کے وقت کیا عمر تھی؟ فرمایا تقریباً تیس سال۔

باخبار اسماعیل بن عبد اللہ بن ابی اویس، محدث عبد العزیز بن محمد از شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر از عطاء بن یسار از ہلالیہ

(جو رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں تھیں) میرے پاس ایک حبشی لونڈی تھی میں بولی: یا رسول اللہ! میں اسے آزاد کرنا چاہتی ہوں فرمایا: تم اسے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کو بکریاں چرانے کے لیے کیوں نہیں دے دیتیں؟۔

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا:

آپ حارث بن ابی ضرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن جذیمہ بن مصطلق خزاعی کی بیٹی ہیں، آپ سے مسافع بن صفوان ذوالشقر بن سرح بن مالک بن جذیمہ نے نکاح کیا، مسافع جنگ مریسج میں شہید ہوئے۔

باخبار محمد بن عمر، یث عبد اللہ بن زید بن قسیط از زید بن قسیط از محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان از عائشہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ ﷺ کو نبی المصطلق کی عورتیں ملیں آپ نے غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی مال مجاہدوں میں بانٹ دیا، اور گھوڑے کو دو حصہ اور مرد کو ایک حصہ دیا، جویریہ بنت حارث، ثابت بن قیس انصاری کے حصہ میں آئیں، آپ اپنے چچا زاد بھائی صفوان بن مالک کے نکاح میں تھیں، صفوان شہید ہو گئے، پھر ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ سے ۳۶۰ (۹ اوقیہ) درہم پر کتابت کر لی۔ جویریہ ایک میٹھی خاتون تھیں جو کوئی انہیں دیکھ لیتا تھا ان سے محبت کے بغیر نہیں رہتا تھا ایک دن نبی ﷺ میرے پاس تھے کہ اچانک جویریہ آئیں اور اپنی کتابت کے سلسلہ میں آپ سے تعاون چاہا مجھے ان کو دیکھتے ہی ان کا نبی ﷺ کے پاس آنا گوارا ہوا، اور میں سمجھ گئی کہ جو کچھ میں نے ان سے دیکھا وہی نبی ﷺ دیکھیں گے، آخر کار انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میں جویریہ بنت حارث ہوں، حارث اپنی قوم کے سردار ہیں آج میں اس بلا میں گرفتار ہوں جس کا آپ کو علم ہے میں ثابت کے حصہ میں لگا دی گئی ہوں اور انہوں نے ۹ اوقیہ (۳۶۰ درہم) پر مجھ سے کتابت کر لی ہے لہذا آپ مجھے چھڑانے میں میری اعانت فرمائیے، فرمایا: کیا میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ بولیں: وہ کیا ہے؟ فرمایا: میں تمہاری کتابت کی رقم ادا کیے دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لوں گا، بولیں: یا رسول اللہ! مجھے منظور ہے، فرمایا: میں نے ایسا کیا۔ یہ خبر لوگوں میں بھی پھیل گئی، لوگ بولے: کیا رسول اللہ ﷺ کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، لہذا لوگوں نے نبی المصطلق کے تمام قیدی آزاد کر دیئے، اس نکاح کی یہ برکت ہوئی کہ سو خاندان آزاد ہو گئے، میرے علم میں اپنی قوم کے لیے جویریہ سے زیادہ برکت والی کوئی خاتون ثابت نہیں ہوئی یہ واقعہ غزوہ مریسج سے واپسی کے بعد کا ہے۔

باخبار محمد بن عمر، یث منصور بن ابوالاسود و سفیان بن عیینہ از زکریا از شعبی: جویریہ لونڈی تھیں، نبی ﷺ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ باخبار محمد بن عمر، باخبار ابو حاتم عدی بن فضل از اسماعیل بن مسلم از حسن: نبی ﷺ نے جویریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔

باخبار محمد بن عمر، یث سفیان بن عیینہ از ابن ابی شیح از مجاہد: جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ آپ کی عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں اور کہتی ہیں، فرمایا: کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے چالیس غلام آزاد نہیں کیے؟ باخبار محمد بن عمر، یث عبد اللہ بن ابی الایض (جویریہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام) اپنے والد سے: نبی المصطلق کے قیدی رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ آئے، ان قیدیوں میں جویریہ بھی تھیں پھر ان کے والد نے فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیا اور ان کا رسول اللہ ﷺ سے نکاح کر دیا۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن زید آل ارقم کے آزاد کردہ غلام اپنی دادی سے جو بنی المصطلق کی آزاد کردہ لونڈی تھیں اور وہ جویریہ بنت عبد مناف سے آگے حسب سابق حدیث ہے۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عثمان از عبد الملک بن عمیر از خریق بنت حصین از عمران بن حصین: جنگ مرسیح میں بنی المصطلق کی عورتیں رہا کر دی گئیں یہ لوگ جاہلیت میں فدیہ دینے میں ہمارے مد مقابل تھے۔

باخبار عبد اللہ بن جعفر رقی بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو از ایوب از ابو قلابہ: نبی ﷺ نے جویریہ کو قید کر لیا۔ پھر ان کے والد نبی ﷺ کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ میری بیٹی جیسی عورت قید کیے جانے کے لائق نہیں کیونکہ لوگوں میں میری عزت ہے لہذا اسے چھوڑ دیجئے، فرمایا: اگر ہم انہیں اختیار دے دیں تو؟ کیا ہم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا؟ بولا کیوں نہیں؟ آپ نے اپنے فرائض کا پورا حق ادا کیا۔ پھر جویریہ کے والد ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہتے ہیں: اس شخص نے تمہیں اختیار دے دیا ہے خبردار ہمیں رسوا نہ کرنا، بولیں: میں نے تو رسول اللہ ﷺ کو چن لیا، بولا: اللہ کی قسم تم نے ہمیں رسوا کر دیا۔

باخبار کعب بن جراح و عبد اللہ بن نمرہ فضل بن ذکین از زکریا از عاصم: نبی ﷺ نے جویریہ کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا اور بنو المصطلق کے ہر غلام کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا، آپ نبی ﷺ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن مالک و محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب از زہری: از و اج مطہرات میں سے تھیں اور آپ پر پردہ فرض تھا اور دیگر از و اج مطہرات کی طرح آپ کی باری بھی مقرر تھی۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ از زہری از مالک بن اوس از عمر: نبی ﷺ نے جویریہ سے پردہ کرایا اور آپ نے دیگر از و اج مطہرات کی طرح ان کی بھی باری مقرر کی۔

باخبار سفیان بن عیینہ از محمد بن عبد الرحمن از کریب از ابن عباس: جویریہ بنت عبد مناف کا نام برہ تھا، نبی ﷺ نے یہ نام مہدول کر آپ کا نام جویریہ رکھا، آپ نے یہ بات مکروہ سمجھی کہ یہ کہا جائے کہ برہ کے پاس سے نکلا۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحمن از زید بن ابی العتاب از محمد بن عمرو بن عطاء از زینب بنت ابی سلمہ از جویریہ بنت حارث: میرا نام برہ تھا، رسول اللہ ﷺ نے اس نام کو بدل دیا اور جویریہ رکھ دیا، آپ یہ مکروہ سمجھتے تھے کہ لوگ کہیں: برہ کے پاس سے نکلا۔

باخبار قبیصہ بن عقبہ بن محمد بن سفیان ثوری از محمد بن عبد الرحمن آل طلحہ کے آزاد کردہ غلام ابن عباس: جویریہ بنت عبد مناف کا نام برہ تھا، نبی ﷺ نے جویریہ رکھ دیا، ابن عباس بھی فرماتے ہیں: آپ نے فجر کی نماز پڑھی پھر آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر جویریہ کے پاس سے ہٹ گئے اور چاشت کے وقت تک باہر رہے پھر تشریف لائے تو جویریہ کو جاننا ہی پر پایا، بولیں: یا رسول اللہ! میں آپ کے بعد جاننا ہی کو چھٹی ہوئی ہوں، فرمایا: میں نے تمہارے بعد چند ایسے کلمات کہے ہیں کہ اگر ان کا وزن کیا جائے تو تمہاری عبادت جھک جائے، میں نے یہ کلمے کہے ہیں سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ رضا نفسه، سبحان اللہ زنة عرشه، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ یعنی اللہ کی مخلوق کی تعداد میں اللہ کے لیے پاکی ہے۔ اس کے نفس کی رضا کے بالمقابل اس کی پاکی ہے، اس کے

عرش کے وزن کے برابر اس کی پاکی ہے اور اس کے کلموں کی سیاہی کے برابر اس کی پاکی ہے۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری از سعید بن ابی عروبہ از قتادہ از سعید بن مسیب از عبد اللہ بن عمرو: رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن جویریہ کے پاس تشریف لائے ان کا روزہ تھا پوچھا: کیا تم نے گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ بولیں: نہیں فرمایا کیا آنے والی کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ بولیں: نہیں فرمایا تب تو روزہ کھول لو۔

باخبار عفان بن مسلم: محمد بن ہمام: محمد بن یثمد: قتادہ: محمد بن ابی ایوب: عسکری از جویریہ بنت حارث: آگے حسب سابق

حدیث ہے۔

باخبار محمد بن عمر: محمد بن عبد الحکیم بن عبد اللہ بن ابی فروہ بسامع عبد الرحمن اعرج: (مدینہ میں اپنی مجلس میں) رسول اللہ ﷺ جویریہ رضی اللہ عنہا کو سالانہ خیر کی کھجوروں میں سے ۸۰ سق کھجوریں اور ۲۰ سق جو یا گیہوں دیا کرتے تھے۔

باخبار محمد بن عمر: محمد بن عبد اللہ بن ابی الایبض اپنے والد سے: جویریہ رضی اللہ عنہا کا ربیع الاول ۵۶ھ میں عہد معاویہ بن ابی سفیان میں ہوا اور جنازے کی نماز مروان بن حکم نے پڑھائی اس وقت مروان ہی مدینہ کے حاکم تھے۔

باخبار محمد بن عمر: محمد بن یزید اپنی دادی سے جو جویریہ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں اور وہ جویریہ سے: جب مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے نکاح کیا ہے تو میں بیس سال کی تھی فرماتی ہیں: جویریہ ۶۵ سال کی عمر میں ۵۰ھ میں فوت ہوئیں اور ان کے جنازے کی نماز مروان نے پڑھائی۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا:

آپ حمی بن اخطب بن سعید بن عامر بن عبید بن کعب بن خزرج بن ابی حبیب بن نصیر بن نحام بن شحوم کی (جو اسرائیلی ہیں جو اور ہارون بن عمران کی اولاد میں سے ہیں) صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ برہ بنت سموکل رفاعہ بن سموکل کی ہمشیرہ (جو قرظی ہیں اور نصیر کے بھائی ہیں)۔ صفیہ سے سلام بن مشکم قرظی نے نکاح کیا پھر انہیں طلاق دے دی پھر آپ سے کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق نصری نے نکاح کر لیا جو جنگ خیبر میں مارا گیا۔

باخبار محمد بن عمر: محمد بن یثمد: اسامہ بن زید بن سلم از ہلال بن اسامہ از عطاء بن یسار از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن عمر بن عثمان بن سلیمان بن ابی حمزہ عدوی از ابو عطفان بن طریف مری اور محمد بن یثمد: محمد بن موسیٰ از اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ از انس بن مالک اور محمد بن عبد اللہ بن ابی یحییٰ از تیبہ بنت حنظلہ اپنی والدہ ام سنان سلمیہ سے: جب رسول اللہ ﷺ نے جنگ خیبر لڑی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مال غنیمت عطا فرمائے تو قیدی عورتوں میں صفیہ اور ان کی بیچازاد بہن بھی تھیں جو قیصر میں سے تھیں آپ نے ہلال کو حکم دیا کہ ان دونوں کو اپنے خیمہ میں لے جائیں رسول اللہ ﷺ کو ہر غنیمت میں سے عمدہ مال چن لینے کا حق حاصل تھا صفیہ خیبر کے مال غنیمت میں سے چن لی گئی تھیں نبی ﷺ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا بولیں: میں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا اور میں نے اسلام کو سینہ سے لگا لیا آپ نے حسب وعدہ انہیں آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا اور ان کا مہران کی آزادی کو قرار دیا۔ نبی ﷺ نے صفیہ کے چہرے پر آنکھ کے قریب ایک ہنر

نشان دیکھا پوچھا: یہ کیا ہے؟ بولیں: ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بیثرب سے ایک چاند طلوع ہوا اور میری گود میں آگرا میں نے اس خواب کا اپنے شوہر کنانہ سے ذکر کیا بولا: کیا تجھے یہ بات محبوب ہے کہ تو اس بادشاہ کے جو مدینہ سے آتا ہے عقد میں آجائے پھر اس نے میرے طمانچہ مارا اسی کا یہ نشان ہے، صفیہ نے ایک حیض سے عدت کی اور ابھی رسول اللہ ﷺ خیبر سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ حیض سے پاک ہو کر نہالیں پھر رسول اللہ ﷺ نے خیبر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا اور آپ نے ان سے خلوت نہیں کی، پھر جب آپ کے پاس اونٹ لایا گیا تاکہ آپ اس پر سوار ہوں تو آپ نے اونٹ پر صفیہ کے چڑھنے کے لیے اپنی ران کو زینہ بنایا تاکہ وہ آپ کی ران پر پیر رکھ کر اونٹ پر چڑھ جائیں مگر اس طرح انہوں نے چڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ خلاف ادب ہے، البتہ اپنے گھٹنے آپ کی ران پر رکھ کر چڑھ گئیں آپ نے ان کے لیے پردہ کا اہتمام کیا اور انہیں اپنی چادر اوڑھا کر اس کے کونے اپنے پیر کے نیچے باندھ لیے اور دیگر ازواج مطہرات کی طرح انہیں سواری پر پردے کے ساتھ بٹھا کر لے گئے جب آپ تبار نامی منزل میں پہنچے جو خیبر سے ۶ میل دور ہے تو آپ نے ان سے خلوت چاہی مگر انہوں نے انکار کر دیا جس سے نبی ﷺ کے دل میں قدرے ملال پیدا ہوا پھر جب آپ صہباء میں پہنچے جو خیبر سے کئی برید دور ہے تو آپ نے ام سلمہ کو حکم دیا کہ صفیہ ہی تھا کو دلہن بنائیں چنانچہ ام سلمہ نے انہیں کنگھی چوٹی سے آراستہ کر دیا یہاں آپ نے ان سے خلوت چاہی، ام سلمہ کہتی ہیں یہاں ہمارے پاس نہ خیمہ تھا نہ خیمہ کی قاتیں، میں نے دو کھیل یا دو چادریں لے کر دونوں کو ایک درخت سے جا باندھا اور خیمہ جیسا بنا دیا پھر میں نے صفیہ کے کنگھی کی چوٹی باندھی اور ان کو عطر میں بسا دیا ام سنان اسلمیہ کہتی ہیں: میں بھی اس شادی میں موجود تھی ہمیں نے انہیں بنا سنوارا اور خوشبو میں بسایا تھا یہ کم سن تھیں اور بھڑکدار زینت پسند کرتی تھیں، اس رات جیسی بھینی بھینی اور نست کن خوشبو کسی رات میں بھی محسوس نہیں کی گئی، ہمیں اس وقت معلوم ہوا جب اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنی بیوی کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، ہم نے انہیں بنا سنوار کر دلہن بنایا تھا ہم اس وقت ایک جھڑ پیری کے سایہ میں تھے۔ رسول اللہ ﷺ ان کی طرف پیدل چل کر آئے اور وہ آپ کے استقبال کے لیے آپ کی طرف کھڑے ہو کر بڑھیں، ہم نے انہیں یہی بات سمجھا دی تھی پھر ہم دونوں کے پاس سے نکل آئے اور آپ نے ان سے خلوت کی اور ان کے پاس اسی جگہ رات گزار دی جب صبح صبح ہی دلہن کے پاس گئے تو وہ غسل کرنے کا ارادہ فرما رہی تھیں پھر ہم انہیں لے گئے حتیٰ کہ ہم لشکر سے چھپ گئے اور دلہن نہالیں، میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ ﷺ سے کیا دیکھا؟ بولیں: مجھ سے آپ خوش تھے اور اس رات آپ بالکل نہیں سوئے اور مجھ سے برابر باتیں کرتے رہے اور آپ نے مجھ سے پوچھا: تم نے پہلی منزل میں کیوں انکار کر دیا تھا جب میں نے تم سے خلوت چاہی تھی، بولیں: مجھے آپ پر یہودیوں کے قریب ہونے کی وجہ سے ڈر تھا اس بات نے آپ کے دل میں میری اور قدر بڑھا دی صبح کو رسول اللہ ﷺ نے اسی جگہ ولیمہ کیا ولیمہ میں صرف جیس تھا اور ان کے پاس پیالے نہ تھے محض دسترخوان ہی تھا اس دن لوگوں نے ناشتہ کر لیا پھر زوال کے بعد آپ روانہ ہو گئے اور قضیہ میں ٹھہرے جو خیبر سے ۶ میل دور ہے۔

باخبار عمرو بن عاصم کلابی، متحد بیث سلیمان بن مغیرہ از حمید بن بلال از صفیہ: میں نے خواب میں دیکھا گویا میں اور یہ جو خود کو اللہ کا رسول کہتے ہیں ایک ساتھ ہیں اور ایک فرشتہ اپنے پر سے ہمیں چھپائے ہوئے ہے لوگوں نے یہ خواب سن کر تکذیب کی اور اس

سلسلہ میں مجھے سخت سخت کہا۔

باخبا ریزید بن ہارون و ہشام ابوالولید طیلسی، بخدیث حماد بن سلمہ از ثابت بنانی از انس بن مالک: صفیہ رضی اللہ عنہا دحیہ کلبی نبی اللہ کے حصہ میں آئی تھیں رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا کہ دحیہ کے حصہ میں ایک حسین و جمیل لونڈی آئی ہے پھر نبی ﷺ نے صفیہ کو سات غلاموں کے بدلہ خرید لیا اور ان کو ام سلیم کے حوالہ کر دیا کہ ان کے پاس ایک حیض عدت گزاریں پھر وہ انہیں بنا سنوار کر اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیں ابوالولید اپنی حدیث میں کہتے ہیں: صفیہ پر رسول اللہ ﷺ کا ولیمہ گئی، پھیر اور کھجور کے ساتھ ہوا۔ (انہیں تینوں سے صییس بنایا جاتا ہے) زمین میں گڑھے کھود کر دسترخوان بچھا دیئے گئے اور ان پر مذکورہ بالا چیزیں چن دی گئیں اور یزید بن ہارون اپنی حدیث میں کہتے ہیں: لوگوں نے کہا: معلوم نہیں رسول اللہ ﷺ، صفیہ سے نکاح کریں گے یا انہیں لونڈی بنا کر رکھیں گے پھر جب آپ نے انہیں سوار کر کے اپنے پیچھے بٹھالیا اور پردہ کر لیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا ہے پھر جب لوگ مدینہ کے قریب آئے تو سواریاں دوڑا دیں نبی ﷺ نے بھی اپنی سواری دوڑا دی اسی طرح لوگ کیا کرتے تھے پھر رسول اللہ کی سواری کا پیر چسل گیا اور آپ معہ صفیہ کے گر گئے ازواج مطہرات دیکھ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں اللہ نے یہودیہ کو دور کر دیا اور اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا پھر آپ نے کھڑے ہو کر ان پر پردہ کیا اور اپنے پیچھے انہیں بٹھالیا۔

باخبا ر محمد بن عمر، بخدیث ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے: جب صفیہ نبی ﷺ کے پاس داخل ہوئیں تو آپ نے ان سے فرمایا: تمام یہودیوں میں تمہارا باپ میرا سب سے بڑا دشمن تھا حتیٰ کہ اللہ نے اسے قتل کر دیا بولیں یا رسول اللہ حق تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے ﴿ولا تزواوا ذراریہ﴾ یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر آپ نے ان سے فرمایا: دو باتوں میں سے کوئی سی بات پسند کر لو اگر اسلام پسند کر لوگی تو میں تم کو اپنے لیے روک لوں گا اور اگر یہودیت پر برقرار رہوگی تو بھی میں تم کو آزاد کروں گا اور تم اپنی قوم سے جا ملوگی بولیں: یا رسول اللہ آپ کی دعوت سے قبل ہی مجھے اسلام سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے آپ کو سچا سمجھ لیا تھا جہاں میں آپ کے خیمہ میں گئی تھی اب مجھے یہودیت کی کیا ضرورت ہے نہ وہاں میرا بھائی ہے اور نہ باپ جب آپ نے مجھے کفر و اسلام میں اختیار دیا ہے تو آزادی سے اور اپنی قوم سے اور اپنی قوم میں واپس جانے سے مجھے اللہ اور اس کا رسول بہت پیارا ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے انہیں اپنے لیے روک لیا۔ صفیہ کی والدہ بنو قیقاع کی ایک عورت ہیں اور قیقاع بنی عمرو کا ایک شخص ہے پھر نبی ﷺ نے کبھی صفیہ کے والد کا ایسے الفاظ سے ذکر نہیں کیا جو صفیہ رضی اللہ عنہا کو ناگوار معلوم ہوں شروع میں یہ سلام کے نکاح میں تھیں پھر طلاق ہو جانے کے بعد کنانہ کے نکاح میں آئیں (تیسرا نکاح نبی ﷺ سے ہوا)۔

باخبا ر عمرو بن عاصم کلابی، بخدیث سلیمان بن مغیرہ، بخدیث ثابت از انس بن مالک: صفیہ دحیہ کے حصہ میں آئیں لوگ رسول اللہ کے پاس ان کی تقریضیں کرنے لگے اور کہنے لگے: ہم نے قیدی عورتوں میں ایک بے مثال عورت دیکھی ہے آخر کار رسول اللہ ﷺ نے صفیہ کو بلا بھیجا اور ان کے بدلہ دحیہ کو من مانگے غلام دے دیئے پھر انہیں میری والدہ کے حوالہ کر کے فرمایا انہیں آراستہ کر دو نبی ﷺ خیبر سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ آپ نے انہیں اپنے پیچھے بٹھالیا پھر آپ ایک منزل میں ٹھہرے اور آپ نے ان سے خلوت کی صبح کو فرمایا جس کے پاس کھانے پینے کی بچی ہوئی چیزیں ہوں وہ ہمارے پاس لے آئے چنانچہ کوئی ستولایا، کوئی کھجوریں

لایا اور کوئی گھی لے آیا اس طرح اچھا خاصہ کھانے پینے کا سامان جمع ہو گیا پھر لوگوں نے جیس بنایا اور اسے آپ کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ یہ تھا رسول اللہ ﷺ کا ولیمہ: جب ہم مدینہ کے مکانوں کی دور سے دیواریں دیکھتے تھے تو ہمیں خوشی ہوتی تھی اور ہم اپنی سواریاں دوڑا دیا کرتے تھے آج بھی ہم نے دیواریں دیکھ کر سواریاں دوڑا دیں اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی سواری دوڑا دی صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے تھیں (اتفاق سے) سواری کا پاؤں پھسل گیا اور آپ بھی گرے اور صفیہ بھی پھر کسی نے نہ آپ کو دیکھا اور نہ صفیہ کو جب رسول اللہ ﷺ نے صفیہ پر پردہ کر لیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کا حال پوچھا: فرمایا: مجھے ضرر نہیں پہنچا پھر ہم مدینہ میں داخل ہوئے پھر آپ کی جوان و کم سن عورتوں نے دونوں کو گرتا ہوا دیکھا اور وہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے گرنے سے خوش ہوئیں۔

باخبار معلى بن اسد، محمد بن عبد العزیز بن مختار از یحییٰ بن ابی اسحق بقول انس بن مالک رضی اللہ عنہ: میں اور ابو طلحہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آئے صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے تھیں پھر چلتے چلتے رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا اور آپ معہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے گر گئے ابو طلحہ فوراً اپنی سواری سے اتر کر نبی ﷺ کے پاس آ کر بولے: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے چوٹ تو نہیں آئی؟ فرمایا: نہیں، عورت کی خیر خبر لو پھر ابو طلحہ نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈالی اور عورت کی طرف بڑھ کر ان پر چادر ڈال دی صفیہ کھڑی ہو گئیں پھر آپ نے انہیں اپنی سواری پر بٹھالیا اور آپ بھی سوار ہو گئے اور ہم سب سوار ہو کر چل پڑے حتیٰ کہ جب ہم مدینہ کی پشت پر پہنچے یا مدینہ ہمیں نظر آنے لگا تو آپ نے فرمایا: آئینون ثابتون عابدون لربنا حامدون یعنی ہم لوٹنے والے ہیں اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے ہیں ہم مدینہ میں پہنچنے تک برابر یہی دعا پڑھتے رہے۔

باخبار صحاک بن مخلد ابو حاصم نبیل اور روح بن عبادہ از ابن جریج از زیاد بن اسماعیل از سلیمان بن عقیق از جابر بن عبد اللہ: جب صفیہ نبی ﷺ کے پاس آپ کے خیمہ میں لے جانی گئیں تو ہم حاضر تھے پھر آپ نے فرمایا: ام المؤمنین سے ہٹ جاؤ پھر ہم شام کے وقت اس خیال سے آئے کہ شاید کچھ بٹ رہا ہوا تنے میں نبی ﷺ اپنے دامن میں ڈیڑھ مدعہ کھجوریں لے کر باہر تشریف لائے اور فرمایا کھاؤ یہ ام المؤمنین کے ولیمہ کا کھانا ہے۔ باخبار اسماعیل بن ابراہیم اسدی محمد بن عبد العزیز بن صہیب از انس بن مالک: نبی ﷺ نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا ثابت بنانی نے پوچھا: کتنا مہر باندھا؟ فرمایا آزادی ہی ان کا مہر تھا۔

باخبار عارم بن فضل، محمد بن حماد بن زید از ثابت و عبد العزیز بن صہیب و شعیب بن حجاب از انس بن مالک رضی اللہ عنہ: نبی ﷺ نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان کا مہر ان کی آزادی کو مقرر فرمایا، میں نے عبد العزیز سے سنا کہ میں نے ثابت سے پوچھا: ابو محمد! کیا تم نے انس سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تھا کہ صفیہ کا مہر کیا تھا؟ فرمایا: ان کا نفس، یعنی انہیں آزاد کر دیا یہی مہر تھا۔ باخبار مسلم بن ابراہیم، محمد بن یزید، محمد بن شعیب بن حجاب از انس بن مالک: نبی ﷺ نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا۔ باخبار کعب بن جراح از مہدی بن میمون از شعیب بن حجاب از انس بن مالک: حسب سابق حدیث ہے۔

باخبار یزید بن ہارون و سعید بن عامر و محمد بن عبد اللہ انصاری از سعید بن ابی عروبہ از قتادہ از انس بن مالک: رسول

اللہ ﷺ نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔

باخبار ولید بن اغر کی تحدیث عبد الحمید بن سلیمان از ابو حازم از ہل بن سعد: نبی ﷺ نے صفیہ سے شب عروسی کے بعد ولیمہ کیا فرماتے ہیں: میں نے پوچھا: آپ کے ولیمہ میں کیا تھا؟ فرمایا کھجور اور ستو فرماتے ہیں: اس دن میں نے دیکھا کہ صفیہ لوگوں کو نیند پلا رہی ہیں، میں نے پوچھا: وہ نیند کیا شے تھی جسے وہ لوگوں کو پلا رہی تھیں؟ فرمایا کھجوریں پتھر کے لگن میں یا ہانڈی میں ڈال کر شام کو یارات کو پانی میں بھگو دی گئیں تھیں، اور صبح کو صفیہ رضی اللہ عنہا ان کا شربت لوگوں کو پلا رہی تھیں۔ باخبار عارم بن فضل تحدیث حماد بن زید از ایوب از عمر مہ: نبی ﷺ نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا۔

باخبار احمد بن محمد بن ولید از رقی، تحدیث عبد الرحمن بن ابی الرجال از عبد اللہ بن عمر: جب نبی ﷺ نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو میں نے لوگوں میں چادر اوڑھے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، میں انہیں پہچان گیا اور میں نے انہیں جا پکڑا اور ان کا دامن تھام کر بولا: شقیراء! (اے سرخ) تم نے کیا کیفیت دیکھی؟ فرمایا: میں نے یہودی عورتوں میں سے ایک یہودی عورت کو دیکھا۔

باخبار محمد بن عمر، تحدیث کثیر بن زید از ولید بن رباح از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: جب نبی ﷺ نے صفیہ رضی اللہ عنہا پر داخل ہوئے تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے دروازے پر تنگی تو اڑے کر رات گزاری، صبح کو جب رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور بولے: یا رسول اللہ! صفیہ کی تازہ تازہ شادی ہوئی تھی اور آپ نے ان کے بھائی، باپ اور شوہر کو قتل کر دیا لہذا صفیہ کی طرف سے میں آپ پر بے خوف نہ تھا، نبی ﷺ ہنسنے لگے، اور ابو ایوب کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔

باخبار محمد بن عمر، تحدیث اسامہ بن زید بن سلم از زید بن سلم از عطاء بن یسار: جب نبی ﷺ صفیہ کو لے کر خیبر سے واپس آئے تو آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو حارثہ بن نعمان کے ایک گھر میں ٹھہرایا، جب انصاری خواتین نے صفیہ رضی اللہ عنہا کی آمد کی اور ان کے حسن و جمال کی خبر سنی تو انہیں دیکھنے کے لیے آئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نقاب ڈال کر آئیں اور صفیہ کے پاس گئیں اور انہیں خوب دیکھا بھالا پھر جب صدیقہ واپس ہوئیں تو آپ کے پیچھے پیچھے رسول اللہ ﷺ روانہ ہوئے اور آپ نے پوچھا عائشہ! تم نے صفیہ کو کیسا پایا، بولیں: میں نے یہودیہ کو دیکھا، فرمایا: ایسا نہ کہو کیونکہ صفیہ رضی اللہ عنہا مشرف بہ اسلام ہو گئیں ہیں اور ان کا اسلام پر خلوص اچھا ہے۔

باخبار محمد بن عمر، تحدیث عبد اللہ بن ابی یحییٰ از شمیہ بن حنظلہ اپنی والدہ ام سنان سلمیہ سے: جب ہم مدینہ آئے تو اپنے گھر نہیں گئے اور صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے گھر آگئے، جب مہاجرین و انصاری خواتین نے ان کے آنے کی خبر سنی تو وہ بھیس بدل کر ان کے دیکھنے کے لیے آئیں، میں نے چار ازواج مطہرات کو نقاب ڈالے ہوئے دیکھا، زینب بنت جحش کو حصہ کو عائشہ کو اور جویریہ کو میں نے سنا: زینب رضی اللہ عنہا، جویریہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہی ہیں: اے حارث کی بیٹی! میرے گمان میں یہ لڑکی عہد رسالت میں ہم پر غالب آ جائے گی، جویریہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں: ہرگز نہیں، یہ ان عورتوں میں سے ہے جو شوہروں کے پاس نصیبہ و نہ نہیں ہوا کرتیں۔

باخبار عفان بن مسلم، تحدیث حماد بن سلمہ، تحدیث ثابت بنانی از شمیہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ ﷺ سفر میں تھے (اتفاق سے) صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور زینب رضی اللہ عنہا کے اونٹوں میں ایک اونٹ فالتو تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے کیا اچھا ہو اگر تم اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ صفیہ کو دے دو بولیں: کیا میں اونٹ اس یہودیہ کو دوں؟ اس پر رسول اللہ ﷺ نے زینب رضی اللہ عنہا کو ذی الحج اور محرم دو یا تین ماہ چھوڑے رکھا اور ان کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: حتیٰ کہ میں آپ سے ناامید ہو گئی اور میں نے اپنی چار پائی الگ کر لی ایک دن دو پہر کو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ تشریف لارہے تھے۔

باخبار محمد بن عمر، بحدیث عبد اللہ بن جعفر از ابن ابی عون: ایک دفعہ عائشہ اور صفیہ رضی اللہ عنہا میں تو تو میں میں ہو گئی رسول اللہ ﷺ نے صفیہ سے کہا: تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میرے والد ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا پر فخر کیا تھا۔

باخبار معن بن عیسیٰ، بحدیث محمد بن خرمہ بن کبیر از کبیر از سعید بن مسیب: صفیہ اس حال میں آئیں کہ ان کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں آپ نے ان میں سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور ان کے ساتھ والی عورتوں کو کچھ بالیاں ہیہ کر دیں۔ باخبار محمد بن عمر، بحدیث ابن جریج از عطاء، رسول اللہ ﷺ صفیہ کے لیے دن نہیں بانٹا کرتے تھے۔ باخبار محمد بن عمر، بحدیث ابن ابی ذہب از زہری: صفیہ ازواج مطہرات میں سے تھیں اور دیگر ازواج کی طرح آپ کی باری بھی مقرر تھی۔

باخبار محمد بن عمر، بحدیث اسحاق بن یحییٰ از زہری از مالک بن اوس بن حدثان از عمر رضی اللہ عنہ: رسول اللہ ﷺ نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے پردہ کرایا اور آپ نے دیگر امہات المؤمنین کی طرح آپ کی بھی باری مقرر فرمائی۔

باخبار محمد بن عمر، بحدیث اسامہ بن زید از بلال بن اسامہ از عطاء بن یسار از ابو ہریرہ: حسب سابق حدیث ہے۔ محمد بن عمر: آپ صفیہ رضی اللہ عنہا کو بھی خیبر کی کھجوروں میں سے سالانہ ۸۰۰ سنق کھجوریں اور بیس سنق جو (بقول دیگر گم ہوں) دیا کرتے تھے۔

باخبار معن بن عیسیٰ، بحدیث ہشام بن سعید از زید بن اسلم: مرض الموت میں نبی ﷺ کے پاس امہات المؤمنین جمع ہوئیں صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ کی قسم! اے اللہ کے نبی کاش جو کچھ آپ کو ہے وہ مجھے ہوتا، امہات المؤمنین نے ان کی طرف آنکھ ماری رسول اللہ ﷺ نے ان کا آنکھیں مارنا دیکھ لیا، فرمایا: کلیاں کرو پوچھا: یا رسول اللہ کس چیز سے؟ فرمایا: سوتن کی طرف آنکھیں مارنے کی وجہ سے اللہ کی قسم یہ قطعی سچی ہیں۔

باخبار مالک بن اسماعیل و حسن بن موسیٰ، بحدیث زہیر، بحدیث کنانہ: میں صفیہ رضی اللہ عنہا کا خچر لے جا رہا تھا تاکہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے صفائی بیان کریں راہ میں اشتراک گئے اور انہوں نے ان کے خچر کے منہ پر اس قدر زور سے مارا کہ صفیہ جھک گئیں اور فرمانے لگیں مجھے واپس لے چلو یہ مجھے رسوا نہ کریں، حسن اپنی حدیث میں کہتے ہیں: پھر آپ نے اپنے گھر کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر دیوار پر تختہ رکھ لیا جس سے آپ انہیں طعام و شراب پہنچا دیا کرتی تھیں۔

باخبار عارم بن فضل، بحدیث حماد بن زید از یحییٰ بن سعید: صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے یہودی عزیزوں کے لیے وصیت کی۔ باخبار سعید بن عامر و ہشام بن ابوالولید طیالسی از شعبہ از حصین بن عبد الرحمن: میں نے ایک شیخ کو دیکھا لوگوں نے کہا: یہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے وارث ہیں پھر وہ ان کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے لہذا ان کے وارث نہیں ہوئے۔ محمد بن عمر:

صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ۵۰ھ میں فوت ہوئیں۔

باخبار محمد بن عمر، حدیث ہارون بن محمد بن سالم، مولیٰ حویطب بن عبدالعزیٰ اپنے والد ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ ایک لاکھ کی تھی آپ نے اپنے یہودی بھانجے کے لیے ۳ راکی وصیت کی، بقول (ابوسلمہ لوگوں نے اسے دینے سے انکار کیا اور اس سلسلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، فرمایا: اللہ سے ڈر جاؤ اور وصیت کے ۳ ارادے دو، چنانچہ آپ کے یہودی بھانجے کو ۳۳ ہزار سے کچھ اوپر رقم مل گئی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ایک گھر بھی تھا جسے وہ اپنی زندگی ہی میں خیرات کر گئی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، حدیث محمد بن موسیٰ ازعمارہ بن مہاجر از آمنہ بنت ابی القیس غفاریہ: جن خواتین نے صفیہ کو دلوہن بنایا تھا ان میں بھی تھی، فرماتی تھیں: اس وقت صفیہ رضی اللہ عنہا ۷۷ سال کی بھی نہ تھیں۔

فرماتے ہیں: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ۵۲ھ میں فوت ہوئیں اور قبچ میں مدفون ہوئیں۔

حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا:

آپ زید بن عمرو و خنوف بن سمعون بن زید کی (جو بنی نضیر سے ہیں) صاحبزادی ہیں، آپ کی شادی حکم قرظی سے ہو گئی تھی، اس لیے بعض راویوں نے آپ کو قرظیہ لکھا ہے۔

باخبار محمد بن عمر، حدیث عبداللہ بن جعفر از یزید بن ہاد از ثعلبہ بن ابی مالک: ریحانہ بنت زید بن عمرو بن حنوف بن نضیر سے تھیں آپ کی انہیں میں سے ایک شخص حکم سے شادی ہوئی تھی، پھر جب بنو قریظہ کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو ریحانہ رسول اللہ ﷺ کے حصہ میں آئیں آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور وہ آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں۔

باخبار محمد بن عمر، حدیث عاصم بن عبداللہ بن حکم از عمر بن حکم: رسول اللہ ﷺ نے ریحانہ کو آزاد کر دیا، آپ ایک ایسے شوہر کے نکاح میں تھیں جو آپ کا عاشق تھا اور آپ کی عزت کیا کرتا تھا اس لیے آپ نے عہد کر لیا تھا کہ اس کے بعد میں کسی سے شادی نہ کروں گی، آپ ایک حسین خاتون تھیں پھر جب بنو قریظہ قید کر لیے گئے تو قیدی نبی ﷺ کے سامنے پیش کیے گئے (ریحانہ فرماتی ہیں) تو ان میں میں بھی تھی، آپ کے حکم سے مجھے علیحدہ کر دیا گیا، آپ کو ہر مال غنیمت میں سے کوئی نفیس شے لینے کا حق حاصل تھا۔ پھر جب میں قیدیوں سے علیحدہ کر دی گئی تو اللہ کو میری بھلائی اور خیر و فلاح منظور تھی، لہذا آپ نے مجھے ام منذر بنت قیس کے گھر میں چند ایام کے لیے بھیج دیا۔ حتیٰ کہ قیدی قتل کر دیئے گئے اور لونڈی غلام بانٹ دیئے گئے، پھر میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، میں آپ سے شرمانے لگی، آپ نے مجھے بلا کر اپنے آگے بٹھالیا اور فرمایا: اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لو تو تم کو رسول اللہ ﷺ اپنے لیے چن لیں، میں نے کہا: میں اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، پھر جب میں مسلمان ہو گئی تو آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ سے پانچ سو دراہم مہر پر نکاح کر لیا، جس طرح دیگر امہات المؤمنین کے مہر تھے اور ام منذر کے گھر میں شب عردی گزاری اور دیگر ازواج کی طرح میری باری بھی مقرر فرمادی اور مجھ سے پردہ کرایا۔ رسول اللہ ﷺ کو آپ سے محبت تھی اور آپ رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ مانگتی تھیں وہی دے دیا کرتے تھے آپ سے کہا گیا: کاش تم رسول اللہ ﷺ سے بنو قریظہ کو مانگ

لیتیں تو آپ انہیں آزاد فرما دیتے۔ اس کا آپ پہ جواب دیا کرتی تھیں کہ خلوت سے پہلے ہی قیدی بانٹ دیئے گئے تھے نبی ﷺ کثرت سے آپ کے پاس آتے جاتے تھے ریحانہ آپ ہی کے پاس رہیں حتیٰ کہ جب آپ حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو انتقال فرما گئیں اور شہج میں مدفون ہوئیں آپ نے محرم ۶ھ میں ریحانہ سے نکاح کیا تھا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن صالح بن جعفر از محمد بن کعب: ریحانہ رضی اللہ عنہا مال نے میں سے تھیں اور حسین و جمیل تھیں پھر جب ان کا شوہر قتل کر دیا گیا تو یہ لونڈی بنالی گئیں اور جنگ بنی قریظہ میں ان کو رسول اللہ ﷺ نے بطور صفی کے لے لیا اور اختیار دیا خواہ اسلام قبول کر لیں یا اپنے دین پر رہیں لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور پردہ کر دیا پھر سوتوں سے انہیں سخت غیرت آئی آخر کار رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک طلاق دے دی۔ مگر یہ اپنی جگہ پر جمی رہیں اور طلاق کا بے حد غم کیا اور ہر وقت روتی رہیں ایک دن اسی حال میں آپ کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور آپ کا حال زار دیکھ کر رحمت عالم ﷺ نے رجوع فرمایا پھر آپ آپ ہی کے پاس رہیں اور آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ نصری از حسین بن عبد الرحمن از ابو سعید بن وہب از وہب: ریحانہ بنو نضیر کی ماں تھیں اور بنو قریظہ میں حکم نامی شخص سے بیاہی گئی تھیں پھر رسول اللہ ﷺ نے آپ کو آزاد کر دیا اور آپ سے نکاح کر لیا آپ آپ کی بیویوں میں سے تھیں اور دیگر بیویوں کی طرح آپ کی بھی باری مقرر تھی اور رحمت عالم ﷺ نے آپ سے پردہ کر دیا تھا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن ابی ذئب از زہری: ریحانہ قرظیہ تھیں اور رسول اللہ ﷺ کی لونڈی تھیں پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا پھر طلاق دے دی تھی آپ اپنے گھر والوں میں رہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں: مجھے رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی دیکھنے نہ پائے۔

محمد بن عمر: اس حدیث میں دو قسم کے سہو ہیں آپ نضیر یہ تھیں قرظیہ نہ تھیں اور رسول اللہ ﷺ ہی کے پاس فوت ہوئیں صحیح قول یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو آزاد کر کے آپ سے نکاح کر لیا تھا علماء اسی قول کو مانتے ہیں اور میں نے ایک راوی سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی لونڈی تھیں اور آپ ان سے ہم بستر ہوا کرتے تھے اور آپ نے ان کو آزاد نہیں کیا تھا اور اسی حال میں آپ کے پاس فوت ہو گئیں۔

باخبار عبد الملک بن سلیمان از ایوب بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ از ایوب بن بشیر معادی: جب بنی قریظہ کو غلام بنایا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے ریحانہ کو کوام منذر سلمیٰ بنت قیس کے گھر بھیج دیا آپ وہیں رہیں حتیٰ کہ ایک حیض آنے کے بعد آپ نہا دھو کر پاک ہو گئیں ام منذر نے آپ کے پاک ہونے کی رسول اللہ ﷺ کو اطلاع دی پھر آپ ام منذر کے گھر تشریف لائے اور ریحانہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اگر چاہو تو تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں اور چاہو تو لونڈی ہی رہو بولیں: یا رسول اللہ! میرا لونڈی بن کر رہنا میرے لیے اور آپ کے لیے موجب سہولت ہے چنانچہ وہ مرتے دم تک لونڈی ہی رہیں اور آپ ان سے صحبت کیا کرتے تھے۔

باخبار محمد بن عمر، بخدیث عمر بن سلمہ از ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی جہم: جب رسول اللہ ﷺ نے ریحانہ کو لونڈی بنا لیا تو ان پر اسلام پیش کیا لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اپنی قوم کے دین پر قائم رہوں گی، آپ نے فرمایا اگر اسلام قبول کر لو تو رسول اللہ ﷺ تم کو اپنے لیے چن لیں گے لیکن اس پر بھی وہ نہیں مانیں اور ان کا انکار رسول اللہ ﷺ پر گراں گزرا، پھر اس حال میں کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ نے قدموں کی آہٹ سنی اور فرمایا: یہ ابن سعید ہیں اور ریحانہ کے اسلام کی بشارت لے کر آئے ہیں، چنانچہ انہوں نے آپ کو آ کر بتایا کہ ریحانہ مسلمان ہو گئی ہیں تو رسول اللہ ﷺ وفات تک ان سے لونڈی کی حیثیت سے صحبت کرتے رہے۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا:

آپ حارث بن حزن بن بحیر بن ہزم بن رویہ بن عبد اللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ ہند بنت عوف بن زہیر بن حارث بن حماطہ بن جرش یا جریش ہیں، آپ سے جاہلیت کے زمانہ میں مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی نے نکاح کر لیا، ابو رہم مالک بن حسل بن عامر بن لوی کی اولاد میں ہیں، جب یہ فوت ہو گئے تو آپ سے رسول اللہ ﷺ نے نکاح کر لیا، رسول اللہ ﷺ کا آپ سے نکاح عباس بن عبد المطلب نے کرایا تھا، عباس ہی آپ کے ولی تھے کیونکہ آپ عباس کی ام ولد ام الفضل بنت حارث ہلالیہ کی حقیقی ہمشیرہ ہیں، رسول اللہ ﷺ نے آپ سے نکاح مقام سرف میں عمرۃ القضاء کے موقعہ پر بے عہد میں کیا تھا جو مکہ سے دس میل دور ہے، آپ رسول اللہ ﷺ کی سب سے پچھلی بیوی ہیں۔

باخبار محمد بن عمر، بخدیث موسیٰ بن محمد بن ابراہیم اپنے والد سے: رسول اللہ ﷺ نے میمونہ بنت حارث سے شوال ۷ھ میں نکاح کیا۔

باخبار محمد بن عمر، بخدیث ابراہیم بن محمد بن موسیٰ از فضیل بن عبد اللہ از علی بن عبد اللہ بن عباس: جب عمرۃ القضاء کے سال رسول اللہ ﷺ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اوس بن خولی اور ابورافع کو عباس کے پاس بھیجا اور عباس نے میمونہ کا آپ سے نکاح کر لیا، ان دونوں کے اونٹ کھو گئے اور یہ دونوں بطن رابغ میں چند دن ٹھہرے رہے حتیٰ کہ قدید میں آپ نے ان دونوں کو پالیا اور دونوں اونٹوں پر سوار ہو کر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چل پڑے اور مکہ پہنچ گئے اور آپ نے عباس کو بلا بھیجا اور میمونہ سے نکاح کرنے کا ذکر کیا، میمونہ نے رسول اللہ ﷺ کو اختیار دے دیا تھا، رسول اللہ ﷺ عباس کے گھر آئے اور عباس سے میمونہ کے لیے پیام ڈالا پھر عباس نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا۔

باخبار محمد بن عمر، بخدیث ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حنیبہ از داؤد بن حصین از مکرمہ از ابن عباس: جب رسول اللہ ﷺ نے میمونہ پر پیام ڈالا تو میمونہ نے عباس کو اختیار دے دیا، آخر کار عباس نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا۔

باخبار محمد بن عمرو معن بن عیسیٰ، بخدیث مالک بن انس از ربیعہ بن ابی عبد الرحمن از سلیمان بن یسار: نبی ﷺ نے ابورافع کو اور ایک انصاری کو بھیجا اور ان دونوں نے آپ کا نکاح، قبل اس کے کہ آپ مدینہ سے باہر جائیں، میمونہ سے کر دیا۔

باخبار محمد بن عمر، بخدیث موسیٰ بن محمد بن ابراہیم اپنے والد سے: رسول اللہ ﷺ نے میمونہ سے عمرۃ القضاء کے سال حلت

کی حالت میں شوال میں نکاح کیا اور سرف میں خلوت کی اور میمونہ رضی اللہ عنہا نے سرف ہی میں انتقال کیا۔

باخبار عبد اللہ بن جعفر رقی، متحد ریث عبد اللہ بن عمرو از عبد الکریم از میمون بن مهران: ایک بڑی بی صفیہ بنت شیبہ کے پاس آئیں اور ان سے پوچھا: کیا رسول اللہ ﷺ نے میمونہ سے حالت احرام میں نکاح کیا؟ فرمایا: اللہ کی قسم! نہیں، نکاح کرتے وقت دونوں حلال تھے۔

باخبار یزید بن ہارون از عمرو بن میمون بن مهران: عمر بن عبدالعزیز نے میرے والد کو لکھا کہ یزید بن اہم سے پوچھیں کہ میمونہ سے نکاح کے وقت رسول اللہ ﷺ حالت احرام میں تھے یا حلال تھے میرے والد نے یزید کو بلا کر خط دکھایا، فرمایا: پیام دیتے وقت بھی آپ حلال تھے اور شب عروسی کے موقعہ پر بھی حلال تھے یزید سے یہ بات میں بھی سن رہا تھا۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار جریر بن حازم، متحد ریث ابو ذر از یزید بن اہم از میمونہ رضی اللہ عنہا: نبی ﷺ نے حالت حلت میں ان سے نکاح کیا اور حالت حلت ہی میں شب عروسی گزاری۔

باخبار عبد اللہ بن جعفر رقی، متحد ریث ابوالسلیح از میمون بن مهران: مجھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یزید بن اہم سے پوچھوں کیا آپ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا؟ میں نے ان سے پوچھا تو فرمایا: نکاح کے وقت بھی دونوں حلال تھے اور رخصتی کے وقت بھی۔

باخبار فضل بن دکین، متحد ریث جعفر بن برقان از میمون بن مهران: میں عطاء کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آ کر آپ سے پوچھتا ہے: کیا محرم نکاح کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں: اللہ نے جب سے نکاح حلال فرمایا ہے کبھی اسے حرام نہیں فرمایا، میمون کہتے ہیں: میں نے کہا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا (اس زمانہ میں میمون جزیرہ کے حاکم تھے) کہ میں یزید بن اہم سے پوچھوں: کیا رسول اللہ ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت حلت میں نکاح کیا یا احرام کی حالت میں؟ فرمایا: حالت حلت میں نکاح کیا، میمونہ رضی اللہ عنہا یزید بن اہم کی خالہ ہیں۔ عطاء: ہم اس مسئلہ کو میمونہ ہی سے صحیح سمجھتے ہیں حالانکہ ہم یہ بھی سنتے چلے آئے ہیں کہ آپ نے میمونہ سے حالت احرام میں نکاح کیا۔

باخبار عقیان بن مسلم و سلیمان بن حرب، متحد ریث حماد بن زید از مطرف از ربیعہ از سلیمان بن یسار از ابورافع: رسول اللہ ﷺ نے حالت حلت میں میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور میں بچو لیا تھا۔

باخبار انس بن عیاض ابو صمرہ، متحد ریث ربیعہ بن ابی عبدالرحمن از سلیمان بن یسار: رسول اللہ ﷺ نے ابورافع اور ایک انصاری کو بھیجا اور ان دونوں نے آپ کا میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر دیا آپ مدینہ ہی میں تشریف فرما تھے۔

باخبار عارم بن فضل، متحد ریث حماد بن زید از ابوب از میمون بن مهران: مجھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں یزید بن اہم سے رسول اللہ ﷺ کے میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بارے میں پوچھوں: پھر میں نے ان سے پوچھا تو فرمایا: حالت حلت ہی میں نکاح ہوا اور حالت حلت ہی میں رخصتی ہوئی اور سرف میں حالت حلت ہی میں خلوت ہوئی اور چوتھے کے نیچے یہ ان کی قبر ہے۔

باخبار محمد بن عمر، متحد ریث معمر از زہری از یزید بن اہم از ابن عباس رضی اللہ عنہما: رسول اللہ ﷺ نے حالت حلت میں

میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ باخبار محمد بن عمرو فضل بن دکین، محمد یث ہشام بن سعد از عطاء خراسانی: میں نے ابن مسیب سے کہا: عکرمہ کا زعم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا؟ فرمایا خبیث جھوٹا ہے اسے جا کر ڈانٹو، میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں: رسول اللہ ﷺ احرام باندھ کر تشریف لائے اور احرام کھولنے کے بعد آپ نے نکاح کیا۔

باخبار محمد بن فضل از لیث از عطاء از ابن عباس: نبی ﷺ نے میمونہ سے حالت احرام میں نکاح کیا۔ باخبار عبد اللہ بن نمیر، محمد یث یزید بن ابی زیاد از حکم از مقسم از ابن عباس: حسب سابق اور یہ زیادہ ہے) آپ نے قاحہ میں حالت احرام میں سینگیوں لگوائیں۔

باخبار یزید بن ہارون، باخبار ہشام بن حسان از عکرمہ از ابن عباس: نبی ﷺ نے حالت احرام میں سرف میں میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا اور اہل سرف ہی میں خلوت کی اور بقول یزید بن ہارون آپ سرف ہی میں فوت ہوئیں اور سرف ہی میں آپ کی قبر ہے۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ از ابن جریج از عطاء از ابن عباس: نبی ﷺ نے حالت احرام میں میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ باخبار عبید اللہ بن موسیٰ از اسرائیل از جابر از عکرمہ از ابن عباس: حسب سابق۔

باخبار محمد بن عبد اللہ اسدی، محمد یث رباح بن ابی معروف از عطاء از ابن عباس: رسول اللہ ﷺ نے میری خالہ جان میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما حالت احرام میں نکاح میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری، محمد یث حبیب بن شہید، بسام میمون بن مهران از ابن عباس: رسول اللہ ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا۔

باخبار مسلم بن ابراہیم، محمد یث قرہ بن خالد، محمد یث ابو یزید مدینی: حسب سابق حدیث ہے۔ باخبار محمد بن عمر، محمد یث ابن جریج از ابو الزیر از عکرمہ: میمونہ بنت حارث نے اپنا نفس نبی ﷺ کو ہبہ کیا تھا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد یث موسیٰ بن محمد بن عبد الرحمن از محمد بن عبد الرحمن از عمرہ: عمرہ سے پوچھا گیا: کیا میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنا نفس رسول اللہ ﷺ کو ہبہ کر دیا تھا۔ فرمایا: ان سے آپ نے پانچ سو مہر پر نکاح کیا تھا اور نکاح کے دلی عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ باخبار فضل بن دکین و محمد بن عبد اللہ اسدی سفیان از منصور از مجاہد: میمونہ رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا رسول اللہ ﷺ نے آپ کا نام میمونہ رضی اللہ عنہا رکھا۔

باخبار سفیان بن عیینہ از عمرو از ابو الشعثاء از ابن عباس بخر میمونہ: میں اور نبی ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ باخبار عبد الملک بن عمرو ابو عامر، محمد یث ابراہیم بن نافع از ابن ابی حیح از مجاہد از ابی ہانی: رسول اللہ ﷺ نے اور میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی برتن سے غسل کیا یعنی اس بادیہ کے پانی سے جس میں آنے کا نشان تھا۔ محمد یث احمد بن عبد اللہ بن یونس، محمد یث ابو شہاب از شیبانی از عبد اللہ بن شداد از میمونہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ ﷺ اپنی (گھر کی) مسجد میں جانماز پر نماز پڑھا کرتے تھے اور میں آپ کے پاس حالت حیض میں لیٹی ہوتی تھی اور مجھے آپ کا کپڑا لگ جایا کرتا تھا۔

باخبار مالک بن اسماعیل باخبار شریک از سماک از عمر مہ از ابن عباس از میمونہ رضی اللہ عنہما: میں اور رسول اللہ ﷺ جنبی ہو گئے پھر میں نے ایک لگن سے غسل کیا جس میں پانی بیچ گیا پھر نبی ﷺ نے آ کر اس سے غسل فرمایا میں بولی: میں نے اس سے غسل کیا ہے فرمایا: پانی پر جنابت نہیں ہے۔

باخبار سعید بن منصور: متحد ریث عبدالعزیز بن محمد از ابراہیم بن عقبہ از کریم ابن عباس: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تینوں) بہنیں مومنہ ہیں یعنی میمونہ رضی اللہ عنہا ام الفضل رضی اللہ عنہا اور اسماء رضی اللہ عنہا۔

باخبار محمد بن عمر: متحد ریث ابراہیم بن محمد خزاعہ کے آزاد کردہ غلام از صالح بن محمد از ام ذرہ از میمونہ: ایک رات میرے پاس سے رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے آپ کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر لیا پھر آپ تشریف لے آئے اور دروازہ کھولنے کو فرمایا لیکن میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا آپ نے فرمایا: تم کو اللہ کی قسم دروازہ کھول دو میں نے کہا: میری باری والی رات میں آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں فرمایا: نہیں البتہ مجھے زور کا پیشاب آ رہا تھا (میں پیشاب کرنے گیا تھا)۔

باخبار ہشام ابوالولید طرابلسی: متحد ریث لیث بن سعد از بکیر از عبید اللہ خولانی: میں نے دیکھا میمونہ رضی اللہ عنہا ایک پورے کرتے میں نماز پڑھ رہی ہیں اور تہہ باندھے ہوئے نہیں ہیں۔

باخبار عارم بن فضل: متحد ریث حماد بن زید از ابو فزارہ از یزید بن اصم: میمونہ رضی اللہ عنہا نے احرام میں اپنا سر منڈوا لیا تھا پھر آپ فوت ہو گئیں اور آپ کا سر منڈا تھا۔ باخبار خالد بن مخلد: متحد ریث سلیمان بن بلال: متحد ریث جعفر بن محمد از محمد: رسول اللہ ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے ان کی لونڈی کے بارے میں پوچھا بولیں: میں نے اسے آزاد کر دیا فرمایا: لونڈی قوی تھی اگر تم اسے اپنے کسی عزیز کو دے دیتے تو بہت خوب تھا۔

باخبار کثیر بن ہشام: متحد ریث جعفر بن برقان: متحد ریث یزید بن اصم: میں نے اور ابن طلحہ بن عبید اللہ (آپ کے بھانجے نے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب کہ آپ مکہ سے تشریف لارہی تھیں استقبال کیا اور ہم مدینہ کے ایک باغ میں گھس گئے اور اس میں سے کچھ لے کر نکلے صدیقہ کو بھی خبر لگ گئی آپ اپنے بھانجے کو طعن و تشنیع اور لعنت و ملامت کرنے لگیں پھر میری طرف متوجہ ہو کر آپ نے مجھے پراثر نصیحت فرمائی پھر فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہانک کر لایا حتیٰ کہ تم کو اپنے نبی کے گھر میں مقرر فرمایا اللہ کی قسم میمونہ تمہاری رسی تمہارے کندھے پر ڈال کر قوی ہو گئیں واقعی وہ ہم سب سے زیادہ متقیہ تھیں اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔

باخبار کثیر بن ہشام: متحد ریث جعفر بن برقان: متحد ریث یزید بن اصم: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی مسواک پانی میں پڑی رہتی اگر آپ کام میں یا نماز میں مشغول ہوتی تھیں تو خیر ورنہ مسواک لے کر مسواک ہی کرتی رہتی تھیں۔ باخبار کثیر بن ہشام: متحد ریث جعفر بن برقان: متحد ریث یزید بن اصم: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا کوئی عزیز آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے شراب کی بوتلیوں کی فرمایا: اگر تم مسلمانوں سے ملو گے تو مسلمان تمہارے کوڑے لگائیں گے یا یہ فرمایا کہ تمہیں پاک کریں گے خیر دار (اس حالت میں) میرے گھر میں کبھی نہ آنا۔

باخبار قبصہ بن عقبہ، محمد یث سفیان از موسیٰ بن ابی عانثہ کسی شخص سے اور وہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے: آپ نے زمین پر انار کا ایک دانہ پڑا ہوا دیکھا اور اسے اٹھا کر فرمایا: اللہ تعالیٰ بگاڑ کو پسند نہیں فرماتا۔

باخبار احمد بن اسحاق حضرمی، محمد یث و حبیب، محمد یث ابراہیم بن عقبہ از کریم مولیٰ ابن عباس: مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کا سار بان بنا کر بھیجا، میں برابر آپ کی زبان سے جمرہ عقبہ پر رمی تک لیک سنتا رہا۔ باخبار فضل بن دکین، محمد یث عقبہ بن وہب عامری بکائی، خضر یزید بن اصم: میں نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سرمٹڈواتی تھیں، عقبہ نے یزید سے پوچھا: کیوں؟ فرمایا: میرے گمان میں آپ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتی تھیں۔ باخبار معن بن عیسیٰ، محمد یث مخرمہ بن کبیر از بکیر از بسر بن سعید از عبید اللہ خولانی (آپ میمونہ کی زیر تربیت رہتے تھے) میں دیکھتا تھا کہ میمونہ کرتے اور دوپٹہ میں بلا تہ بند کے نماز پڑھا کرتی تھیں۔

باخبار فضل بن دکین، محمد یث جعفر بن برقان، خضر میمون: میں نے صفیہ بنت شیبہ سے پوچھا: فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرف میں میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور وہیں ان کے خیمہ میں نبا کی اور آپ سرف ہی میں فوت ہوئیں پھر اسی خیمہ کی جگہ دفن کی گئیں جہاں آپ سے سرور عالم نے نبا کی تھی۔

باخبار یزید بن ہارون و وہب بن جریر بن حازم، محمد یث حازم از ابو ذر از یزید بن اصم: ہم نے میمونہ رضی اللہ عنہا کو اسی خیمہ کی جگہ دفن کیا جہاں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت فرمائی تھی اور وفات کے دن آپ کا سرمٹڈا ہوا تھا آپ نے حج میں سرمٹڈا لیا تھا میں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی قبر میں اترے پھر جب ہم نے آپ کو قبر میں رکھا تو آپ کا سرمٹڈا ہا ہو گیا میں نے اپنی چادر آپ کے سر کے نیچے رکھ دی، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے چادر نکال کر سر کے نیچے پتھر رکھ دیا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد یث ابن جریج از عطاء: میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال سرف میں ہوا۔ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب تم ان کی نعش اٹھاؤ تو اسے زور سے نہ ہلانا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نوجور تھیں جن میں سے آٹھ کے لیے باری باری بنتے تھے لیکن ایک کی باری نہ تھی (اسی حدیث میں ابن جریج کے علاوہ دوسرے کہتے ہیں) آپ مکہ میں فوت ہوئیں اور آپ کا جنازہ عبد اللہ بن عباس نے اٹھایا اور آپ دیگر اٹھانے والوں سے فرما رہے تھے انہیں آہستہ لے چلو کیونکہ یہ تمہاری والدہ ہیں پھر آپ نے انہیں سرف میں دفن کیا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد یث عبد اللہ بن محرر از یزید بن اصم: میں میمونہ کی قبر کے پاس ان کے دفن کے وقت موجود تھا، قبر میں میں ابن عباس، عبد الرحمن بن خالد اور عبد اللہ خولانی اترے اور ابن عباس نے نماز پڑھائی۔ محمد بن عمر: آپ یزید بن معاویہ کے زمانہ میں ۱۷ھ میں فوت ہوئیں امہات المومنین میں سب سے اخیر میں آپ ہی فوت ہوئیں وفات کے وقت آپ کے ۸۰ یا ۸۱ سال کی عمر تھی اور آپ قوی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد یث عبد الحکیم بن عبد اللہ بن ابی فروہ، بسام عبد الرحمن اعرج (مدینہ میں اپنی مجلس میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ بنت حارث کو خیبر کی کھجوروں میں سے سالانہ ۸۰ سق کھجوریں اور ۲۰ سق جو (یا گھجوں کے) دیتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے جمع نہیں کیا اور خلوت سے قبل آپ ان سے علیحدہ ہو گئے

علیحدگی کے اسباب

الکلابیہ:

ان کے نام میں اختلاف ہے کوئی ان کا نام فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان کلابی بتاتا ہے، کوئی عمرہ بنت یزید بن عبید بن رواح بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بتاتا ہے کوئی علیہ بنت ظلمیان بن عمرو بن عوف بن کعب بن عبد بن ابی بکر بن کلاب بتاتا ہے اور کوئی سبا بنت سفیان بن عوف بن کعب بن عبد بن ابی بکر بن کلاب بتاتا ہے ہمارے پاس ہر ایک کی روایت محفوظ ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں: کلابیہ ایک ہی تھی پھر ان کا اس کے نام میں اختلاف ہے اور بعض کے نزدیک کلابیہ کئی عورتیں ہیں اور ہر ایک کا ایک مستقل واقعہ ہے ہم نے ہر ایک کا قصہ لکھا ہے اور اس سلسلہ میں جو کچھ سنا ہے سب لکھ دیا ہے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ از زہری: کلابیہ، فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان ہیں انہوں نے آپ سے پناہ مانگی آخر کار آپ نے ان کو طلاق دے دی پھر یہ بیگنیاں اٹھاتی پھر کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں: میں بد نصیب ہوں آپ نے کلابیہ سے ذی قعدہ ۸ھ میں نکاح کیا تھا ان کی وفات ۶۰ھ میں ہوئی۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ از زہری از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ ﷺ نے کلابیہ سے نکاح کیا پھر جب آپ اس کے پاس گئے اور اس سے قریب ہوئے تو اس نے کہا: میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ نے فرمایا: تو نے عظیم کی پناہ مانگی ہے اپنے میکہ جا (یعنی آپ نے اسے طلاق دے دی)۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ بن جعفر از عبد الواحد بن ابی عون از ابن مناح: کلابیہ نے رسول اللہ ﷺ سے اللہ کی پناہ مانگی اس کی عقل جاتی رہی تھی اور چکر اگتی تھی۔ پھر جب یہ امہات المؤمنین کے پاس جاتی تھی تو کہا کرتی تھی: میں بد نصیب ہوں مجھے دھوکا دیا گیا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ بن سلیمان از عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے: رسول اللہ ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے خلوت کی لیکن جب آپ نے امہات المؤمنین کو اختیار دیا تو کلابیہ نے اپنی قوم کو پسند کیا لہذا آپ اس سے علیحدہ ہو گئے پھر یہ بیگنیاں اٹھاتی پھر کرتی تھی اور کہا کرتی تھی: میں بد بخت ہوں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ بن جعفر از موسیٰ بن سعید و ابن ابی عون: آپ نے سفید داغ کی وجہ سے اسے طلاق دی تھی۔
باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ بن جعفر و ابن سبرہ و عبد العزیز بن محمد از یزید بن الہاد از ثعلبہ بن ابی مالک از حسین بن علی: رسول اللہ ﷺ نے بنی عامر کی ایک عورت سے نکاح کیا پھر جب آپ باہر ہوتے تو وہ مسجد میں نمازیوں کو جھانکا کرتی تھی، امہات

المؤمنین نے اس کی نبی ﷺ کو بھی خبر کر دی، فرمایا: تم اس پر زیادتی کر رہی ہو، بولیں: ہم اسے آپ کو جھانکتی ہوئی دکھا دیں گی آخر کار رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کو علیحدہ کر دیا۔ محمد بن عمر: مجھے عبد اللہ بن سعید بن ہند نے اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے اسی حدیث میں بتایا: اس نے آپ سے پناہ مانگی تھی، آپ نے اسے پناہ دے دی اور آپ نے بجز اس عورت کے بنو عامر کی کسی عورت سے شادی نہیں کی اور کندہ میں جو نیہ کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کیا۔

باخبار محمد بن عمر باخبار ابراہیم بن وہیمہ از ابو وجذہ: رسول اللہ ﷺ نے اس سے جراحہ سے واپس آ کر ۸ھ میں نکاح کیا تھا۔ باخبار محمد بن عمر، حدیث ابو مصعب اسماعیل بن مصعب اس عورت کے قبیلہ کے ایک شیخ سے: وہ عورت ۶۰ھ میں فوت ہوئی۔

باخبار ہشام بن محمد بن سائب کلبی، حدیث عزری از نافع از ابن عمر: رسول اللہ ﷺ کی عورتوں میں سہانت سفیان بن عوف بن کعب بن ابی بکر بن کلاب بھی تھی، فرماتے ہیں: ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نبی ﷺ نے ابواسید ساعدی کو نبی عامر کی ایک عورت پر آپ کا پیام ڈالنے کے لیے بھیجا اس عورت کو عمرہ بنت یزید بن عبید بن رواحہ بن کلاب کہا جاتا تھا، آپ نے اس سے نکاح کر لیا پھر آپ کو اطلاع ملی کہ اس کے جسم پر کہیں سفید داغ ہے لہذا آپ نے اسے طلاق دے دی۔

باخبار ہشام بن محمد بن سائب، حدیث شخصے از آل ابو بکر بن کلاب: رسول اللہ ﷺ نے عالیہ بنت ظبیان بن عمرو بن عوف بن کعب بن عبد بن ابی بکر بن کلاب سے نکاح کیا آپ کے پاس عالیہ ایک زمانہ تک رہی پھر آپ نے اسے طلاق دے دی۔

اسماء:

یہ نعمان بن ابی الجون بن الاسود بن الحارث بن شراحیل بن جون بن آکل المرار کنندی کی بیٹی ہیں۔ باخبار محمد بن عمر بنجد، حدیث محمد بن یعقوب بن عقبہ بن عبد الواحد بن ابی عون دوسی: نعمان بن ابی الجون کنندی نبی ﷺ کے پاس مسلمان ہو کر آیا (یہ اپنے باپ کی اولاد کے ساتھ نجد میں شربہ کے متصل ٹھہرا ہوا تھا) اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کا عرب کی ایک انتہائی حسین بیوہ سے نکاح نہ کر دوں؟ جو اپنے پچازاد بھائی کے نکاح میں تھی اتفاق سے وہ مر گیا اور بیوہ ہو گئی اب وہ آپ کی طرف مائل ہے اور اسے آپ کی خواہش ہے آخر کار رسول اللہ ﷺ نے اس سے پانچ سو درہم مہر پر نکاح کر لیا، وہ شخص بولا: یا رسول اللہ! ان کے مہر میں کمی نہ کیجئے، فرمایا: میں نے اپنی کسی بیوی کا پانچ سو سے زیادہ مہر نہیں باندھا اور نہ اپنی کسی بیٹی کا اس سے زیادہ باندھا، نعمان بولا: آپ میں نمونہ ہے اور کہنے لگا: یا رسول اللہ میرے ساتھ کسی شخص کو بھیج دیجئے کہ وہ آپ کی بیوی کو آپ کے پاس لے آئے میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا اور اس کے ساتھ آپ کی اہلیہ کو بھیج دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے ساتھ ابواسید ساعدی کو بھیج دیا، پھر جب یہ دونوں آ دی اس عورت کے پاس پہنچے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی، پھر اس نے ابواسید کو اندر آنے کی اجازت دی ابواسید نے کہا: رسول اللہ ﷺ کی عورتوں کو کوئی مرد نہیں دیکھتا، (ابواسید کہتے ہیں: یہ واقعہ پردہ کے حکم کے بعد کا ہے) پھر اس نے میرے پاس آ دی بھیجا اس نے میرا کام آسان بنا دیا، بولے: آپ کے اور ان کے درمیان پردہ ہے جن سے آپ بات کرتی ہیں الایہ کہ وہ حرم ہوں آخر کار اس نے پردہ کر لیا، ابواسید کہتے ہیں: میں تین دن اس کے گھر ٹھہرا، پھر میں نے ہودج میں پردے کے ساتھ انہیں

ایک اونٹ پر بٹھایا اور اپنے ساتھ مدینہ لے کر آیا اور بنی ساعدہ میں ٹھہرا دیا قبیلہ کی عورتوں نے آ کر انہیں اہلاً وسہلاً کہہ کے ان کا خیر مقدم کیا پھر ان عورتوں نے گھر گھر میں ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا اور تمام مدینہ میں ان کے آنے کی خبر پھیل گئی ابو اسید کہتے ہیں: میں نے نبی ﷺ کی طرف رخ کیا آپ بنو عمر و بن عوف میں تھے اور آپ کو ان کے آنے کی خبر کی وہ بے حد حسین تھیں عورتوں کو جب ان کے حسن کی خبر لگی تو ٹوٹ پڑیں ایک عورت بولی: تم تو ملکہ ہو اگر تم رسول اللہ ﷺ کی نگاہ میں اقبال مند بنا چاہتی ہو تو جب آپ تمہارے پاس آئیں تو کہنا: تم سے اللہ کی پناہ اس سے تم آپ کی نگاہ میں بہت قدر و منزلت والی بن جاؤ گی اور آپ تمہاری طرف خوب راغب ہوں گے۔

باخبار محمد بن عمر، بحدیث موسیٰ بن عبیدہ از عمر بن حکم از ابو اسید ساعدی: رسول اللہ ﷺ نے مجھے جو نیہ کے پاس بھیجا پھر میں انہیں سوار کر کے مدینہ لایا۔ یہ لوگ نجد کے ایک گوشہ میں رہتے تھے اور میں نے انہیں بنی ساعدہ کے ایک گھر میں ٹھہرا دیا اور رسول اللہ ﷺ کو ان کے آنے کی خبر دی رسول اللہ ﷺ پیدل چل کر آئے اور ان کے پاس تشریف لے گئے اور گھنٹوں اور ایڑیوں پر بیٹھ کر بوسہ لینے کے لیے ان کی طرف جھکے (جب آپ اپنی دلہن کا منہ دیکھتے تھے تو اسی طرح کیا کرتے تھے) بولیں: آپ سے اللہ کی پناہ یہ سن کر آپ نے رخ پھیر کر فرمایا: تم نے ایک عظیم پناہ گاہ سے پناہ مانگی ہے اور آپ فوراً ان سے ہٹ گئے اور آپ کے حکم سے میں نے انہیں ان کی قوم میں پہنچا دیا۔

باخبار محمد بن عمر، بحدیث عبداللہ بن جعفر از عمرو بن صالح از سعید بن عبدالرحمن بن ابزی: جو نیہ نے رسول اللہ ﷺ سے اللہ کی پناہ مانگی ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ لفظ تمہارے لیے باعث سعادت ثابت ہوگا جو نیہ کے علاوہ آپ سے کسی اور عورت نے پناہ نہیں مانگی دراصل انہیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے دھوکا دیا گیا جب آپ کے سامنے ان کا ذکر آیا جنہوں نے جو نیہ کو اس لفظ کے کہنے پر آمادہ کیا تو آپ نے فرمایا: وہ حضرت یوسف والیاں ہیں اور ان کا کمر عظیم ہے جو نیہ کا نام اسماء بنت نعمان بن ابی الجون ہے۔ باخبار محمد بن عمر، بحدیث عبداللہ بن جعفر: جو نیہ امیہ بنت نعمان بن ابی الجون ہیں۔ باخبار محمد بن عمر، بحدیث عبداللہ بن جعفر از ابن ابی عون: رسول اللہ ﷺ نے کندیہ سے رنج الاول ۹ھ میں نکاح کیا۔

باخبار محمد بن عمر، بحدیث عبدالرحمن بن ابی الزناد از ہشام بن عروہ: ولید بن عبد الملک نے لکھ کر ان سے پوچھا: کیا رسول اللہ ﷺ نے اشعث بن قیس کی بہن قہیلہ سے نکاح کیا تھا؟ فرمایا: ان سے آپ نے کبھی نکاح نہیں کیا اور نہ کندیہ سے نکاح کیا البتہ بنی الجون کی بہن سے آپ نے نکاح کر لیا تھا پھر جب وہ مدینہ آئیں اور آپ کو ان کے پاس لایا گیا تو آپ نے انہیں دیکھ کر بلا خلوت کے طلاق دے دی تھی۔

باخبار محمد بن عمر، بحدیث معمر از زہری: نبی ﷺ نے کسی کندیہ سے بجز بنی جون کے ہمشیرہ کے نکاح نہیں کیا۔ اور جو نیہ کو بھی خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔

باخبار ہشام بن محمد بن سائب از محمد بن سائب از ابو صالح از ابن عباس: رسول اللہ ﷺ نے اسماء بنت نعمان سے نکاح کیا وہ اپنے زمانہ میں انتہائی حسین تھیں پھر جوانی کی پھبن سبحان اللہ جب رسول اللہ ﷺ باہر کی عورتوں سے نکاح کرنے لگے تو

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ اب آپ اپنا ہاتھ باہر والی عورتوں پر رکھنے لگے، کہیں آپ ہم سے رخ نہ پھیر لیں آپ نے اسماء کے والد سے اسماء پر اس وقت پیام ڈالا تھا جب کندہ کا وفد آپ کے پاس آیا تھا پھر جب اسماء کو ازواج مطہرات نے دیکھا تو ان سے حسد کیا اور ان سے کہہ دیا: اگر تم رسول اللہ کی نگاہ میں چڑھتا چاہتی ہو تو آپ جب تمہارے پاس آئیں تو آپ سے اللہ کی پناہ مانگ لینا پھر جب آپ پردہ لٹکا کر ان کے پاس خلوت میں تشریف لے گئے تو ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اعوذ باللہ منک یعنی آپ سے اللہ کی پناہ کہہ دیا، فرمایا: اللہ سے پناہ مانگنے والا بے خوف ہے اپنے میکہ چل جاؤ۔

باخبار ہشام بن محمد، بحديث ابن غنمیل از حمزہ بن ابی اسید ساعدی از ابواسید ساعدی بدری: رسول اللہ ﷺ نے اسماء بنت نعمان جونید سے نکاح کیا اور انہیں لانے کے لیے مجھے بھیجا، میں انہیں لے آیا پھر حفصہ نے عائشہ سے یا عائشہ نے حفصہ سے کہا: تم تو مہندی لگا دو اور میں کنگھی کر دوں گی پھر ایک نے مہندی لگائی اور ایک نے کنگھی کی، پھر ان سے ان دونوں میں سے کسی نے کہا: دلہن کے منہ سے شب عروسی میں نبی ﷺ کو اعوذ باللہ منک اچھا معلوم ہوتا ہے پھر جب جونید آپ کے پاس گئیں اور دروازہ بند کر کے پردہ چھوڑ دیا گیا تو آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اعوذ باللہ منک کہہ دیا، آپ نے آستین سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور تین بار فرمایا: تم نے پناہ گاہ سے پناہ لی، ابواسید کہتے ہیں: پھر آپ نے میرے پاس آ کر فرمایا: ابواسید! انہیں ان کے میکہ پہنچا دو اور ایک رازتی جوڑا بھی دے دو یعنی سوتی، جونید کہا کرتی تھیں: مجھے چھوڑ دو میں ایک بدنصیب عورت ہوں۔

باخبار ضحاک بن خالد شیبانی، باخبار موسیٰ بن عبیدہ، بحديث عمر بن حاکم، بحديث ابواسید: نبی ﷺ نے بنی جون کی ایک عورت سے نکاح کیا اور انہیں لانے کا مجھے حکم دیا میں ان کو لے آیا اور انہیں ذباب کے پیچھے شوط میں ایک گھر میں اتار دیا پھر میں نے آپ کے پاس آ کر کہا: یا رسول اللہ! میں آپ کے پاس آپ کی بیوی کو لے آیا ہوں، آپ پیدل چل پڑے میں آپ کے ساتھ تھا پھر جب ان کے پاس گئے اور گھنٹوں اور ایزبوں پر بٹھ کر ان کا بوسہ لینے کے لیے ان کی طرف بھٹکے (آپ پہلی شب میں اپنی بیویوں سے ایسا ہی کیا کرتے تھے جب ان کا منہ دیکھا کرتے تھے) تو انہوں نے اعوذ باللہ منک کہہ دیا، فرمایا: تم نے ایک جائے پناہ سے پناہ مانگی ہے پھر آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں انہیں ان کے میکہ پہنچا دوں، آخر میں نے ایسا ہی کیا۔

باخبار محمد بن عمر، بحديث سلیمان بن حارث از عباس بن اہل بسماح ابواسید ساعدی: جب میں انہیں ان کی جماعت میں لے کر پہنچا تو لوگ چیخ پڑے اور بولے: تو برکت والی نہیں، تجھ پر کیا پیتا پڑی تھی، بولیں: مجھے دھوکا دیا گیا اور مجھ سے یہ کہہ دیا گیا اور یہ بھی کہ اس سے آپ خوش ہوتے ہیں، قبیلہ والے: تو نے ہمیں عرب میں ذلیل کر دیا، انہوں نے فوراً ابواسید سے پوچھا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، اب میں کیا کروں؟ بولے: اپنے گھر میں بیٹھو اور علاوہ محرم کے سب سے پردہ کرو، اور رسول اللہ ﷺ کے بعد اب تمہارے بارے میں کوئی لالچ کرنے والا لالچ نہ کرے کیونکہ تم امہات المؤمنین میں شامل ہو چنانچہ انہوں نے اسی پر عمل کیا حتیٰ کہ عبد عثمان میں نجد میں اپنے میکہ ہی میں وفات پائی۔

باخبار ہشام بن محمد بن سائب، بحديث زہیر بن معاویہ جعی: آپ اسی صدمہ سے فوت ہوئیں۔ باخبار ہشام بن محمد بن سائب از محمد بن سائب از ابوصالح از ابن عباس: اسماء بنت نعمان مہاجر بن امیہ بن مغیرہ نے نکاح کر لیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

دونوں کو مزادینے کا ارادہ کیا، اسماء نے کہا: اللہ کی قسم! مجھ سے پردہ نہیں کرایا گیا اور نہ مجھے ام المؤمنین کہا گیا، آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے رک گئے۔

محمد بن عمر میں نے کسی سے یہ بھی سنا ہے کہ ان سے عکرمہ بن ابوجہل نے نکاح کر لیا تھا اور ان پر رسول اللہ ﷺ کا جاب واقع نہیں ہوا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں۔

قتیلہ:

آپ قیس کی صاحبزادی ہیں اور اشعث بن قیس بن معدی کرب بن معاویہ بن جلدہ بن عدی بن ربیعہ بن معاویہ الاکرمین بن حارث بن معاویہ بن حارث بن معاویہ بن حارث بن معاویہ بن ثور بن مرثع بن کندہ کی ہمیشہ ہیں۔

باخبار ہشام بن محمد بن سائب از محمد بن سائب از ابوصالح از ابن عباس: جب اسماء بنت نعمان نے نبی ﷺ سے اللہ کی پناہ مانگی تو آپ باہر آ گئے اور غصہ کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں تھے، پھر آپ سے اشعث بن قیس عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور غم میں نہ ڈالے، کیا میں آپ کا نکاح اس سے نہ کرادوں جو حسن و جمال اور حسب و نسب میں اسماء سے کم نہیں؟ پوچھا: کون؟ بولے: میری بہن قتیلہ فرمایا: میں نے اس سے نکاح کر لیا، پھر اشعث حضرت موت گئے اور انہیں لائے جب میں سے آگے بڑھے تو انہیں آپ کی وفات کی خبر مل گئی اور انہیں واپس لے کر لوٹ گئے اور مردہ ہونے والوں کے ساتھ یہ دونوں بھائی بہن بھی مردہ ہو گئے، اسی لیے قتیلہ نے نکاح کر لیا کیونکہ مردہ ہونے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا تھا پھر قتیلہ سے مکشوح مرادی نے نکاح کر لیا تھا۔

باخبار معالیٰ بن اسد از وہیب از داؤد بن ابی ہند: نبی ﷺ جب فوت ہوئے تو کندہ کی ایک عورت قتیلہ کے مالک بن گئے تھے لیکن وہ اپنی قوم کے ساتھ مردہ ہو گئی تھی بعد میں اس سے عکرمہ بن ابوجہل نے نکاح کر لیا تھا جس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کو سخت قلق و ملال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے رحمت عالم ﷺ کے خلیفہ وہ آپ کی بیویوں میں سے نہ تھی نہ آپ نے اسے اختیار دیا اور نہ اس سے پردہ کرایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اس کے مردہ ہونے کی وجہ سے بری فرما دیا کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مردہ ہو گئی تھی۔

باخبار محمد بن عمر از یحییٰ بن نعمان غفاری از یزید بن قسیط: قتیلہ بنت قیس اشعث کی ہمیشہ نے نبی ﷺ کو اپنا نفس ہبہ کر دیا تھا۔ باخبار محمد بن عمر بخدیث ابی الزناد و ابوالنضیب از ہشام بن عروہ از عروہ: عروہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے قتیلہ سے نکاح نہیں کیا تھا اور نہ بجز جوئیہ کے کندہ سے نکاح کیا تھا اور جوئیہ کو بھی دیکھتے ہی بلا خلوت کے طلاق دے دی تھی۔

ملیکہ:

آپ کعب لیش کی بیٹی ہیں۔ باخبار محمد بن عمر بخدیث ابومحشر: نبی ﷺ نے ملیکہ بنت کعب سے نکاح کیا۔ ان کے بے مثال حسن و جمال کی شہرت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے جا کر کہا: کیا تمہیں اپنے والد کے قاتل سے نکاح کرنے میں شرم نہیں

آتی؟ آخر کار انہوں نے آپ سے اللہ کی پناہ مانگ لی اور آپ نے انہیں طلاق دے دی لیکن ان کی قوم نے نبی ﷺ کے پاس آ کر کہا: یا رسول اللہ وہ کم سن ہیں اور ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں اور انہیں دھوکہ دیا گیا ہے لہذا آپ ان سے رجوع فرمائیں لیکن آپ نے رجوع سے انکار کیا پھر انہوں نے ان کے اپنے ایک عزیز سے جو بنی عذرہ میں سے اجازت حاصل کر لی اور عذری نے ان سے نکاح کر لیا، ان کے والد کو فتح مکہ کے دن خدمت میں حضرت خالد بن ولید نے قتل کر دیا تھا۔

محمد بن عمر: اس حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے اور یہ بھی کہ انہوں نے مذکورہ بالا جملہ فرمایا، حالانکہ اس سفر میں صدیقہ نبی ﷺ کے ساتھ نہ تھیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث عبدالعزیز جندی اپنے والد سے اور وہ عطاء بن یزید جندی سے: رسول اللہ ﷺ نے ملیکہ سے رمضان ۸ھ میں نکاح کیا اور ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہ آپ کے نکاح ہی میں آپ کے پاس فوت ہوئیں۔

محمد بن عمر: لیکن ہمارے اصحاب اس نکاح کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے کنانیہ سے کبھی نکاح نہیں کیا۔ باخبار محمد بن عمر بحدیث محمد بن عبداللہ از زہری: ہم مثل حدیث۔

بنت جندب:

آپ ابن زمرہ جندی کی لڑکی ہیں۔ باخبار محمد بن عمر بحدیث عبداللہ بن جعفر از یزید بن بکر: رسول اللہ ﷺ نے بنت جندب بن زمرہ جندی سے نکاح فرمایا۔ محمد بن عمر: لیکن ہمارے اصحاب اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کنانیہ سے نکاح نہیں کیا۔

سبا:

یا سنا بنت حلت بن حبیب بن حارثہ بن ہلال بن حرام بن ساک بن عوف سلمی۔ باخبار ہشام بن محمد سائب کلبی بحدیث شخصے از جماعت عبداللہ بن حازم سلمی: رسول اللہ ﷺ نے سنا بنت حلت سے نکاح کیا لیکن وہ قبل اس کے کہ ان تک رسول اللہ ﷺ پہنچیں فوت ہو گئیں۔

باخبار ہشام بن محمد بحدیث عبید اللہ بن ولید وصافی از عبداللہ بن عبید بن عمیر لیشی: ایک سلمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میری ایک بچی ہے اور وہ اس قدر حسین و ہوشیار ہے کہ میں آپ ہی کو اس کے لائق سمجھتا ہوں پھر نبی ﷺ نے اس سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا وہ شخص کہنے لگا: یا رسول اللہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرے پاس کبھی بیمار نہیں ہوئی، فرمایا: مجھے تمہاری بچی کی ضرورت نہیں کہ اپنے گناہ لاؤ کہ ہمارے پاس آئے اس مال میں خیر و برکت نہیں جو (اللہ کی راہ میں خرچ کر کے) کم نہ کیا جائے اور نہ اس جسم میں خیر و سعادت ہے جو بیمار نہ ہوا ہو۔



نبی ﷺ کی منگیتر عورتیں جن سے آپ نے

نکاح نہیں کیا

لیلی بنت خطیم:

آپ قیس بن خطیم بن عدی بن عمرو بن سواد بن ظفر بن حارث بن خزرج بن عمرو کی ہمیشہ رہیں اور وہ بنت مالک بن اوس ہیں۔
 باخباہ شام بن محمد بن سائب از محمد بن سائب از ابوصالح از ابن عباس: سرور عالم ﷺ سورج کی طرف پشت کیے بیٹھے تھے کہ آپ کے پیچھے سے لیلی بنت خطیم نے آ کر آپ کے کندھے پر ہاتھ مارا، فرمایا: کون ہے اسے شیر کھائے؟ آپ یہ جملہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے بولیں: میں ہوں لیلی بنت مطعم الطیر و مہاری الریح یعنی اس کی بیٹی ہوں جو پرندوں کو دانہ دیتے تھے اور جو اسے مقابلہ کیا کرتے تھے یعنی بڑے سختی تھے اور بے حد تیز رفتار سوار تھے میں لیلی بنت خطیم ہوں اور اپنا نفس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آئی ہوں آپ مجھ سے نکاح کر لیں، فرمایا: اچھا میں نے نکاح کر لیا پھر لیلی اپنی قوم میں واپس جا کر کہتی ہیں: مجھ سے نبی ﷺ نے نکاح کر لیا ہے قوم نے کہا: تم نے بہت برا کیا تم ایک غیرت مند خاتون ہو اور نبی ﷺ کی عورتیں آپ پر غیرت کرتی ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تمہارے لیے بددعا کر دیں لہذا اپنے نفس کے ہبہ کو فوج کر دو چنانچہ یہ پھر آپ کی خدمت میں جا کر عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ! میرا یہ معاملہ فسخ کر دیجئے، آپ فرماتے ہیں: اچھا میں نے فسخ کر دیا، پھر لیلی سے مسعود بن اوس بن سواد بن ظفر نے نکاح کر لیا اور مسعود سے ان کے اولاد ہوئی، ایک دن یہ مدینہ کے باغ میں غسل کر رہی تھیں کہ نبی ﷺ کی بددعا کی وجہ سے ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کیا اور وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ کھا گیا پھر انہیں بھیڑیے سے چھڑا لیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکیں اور فوت ہو گئیں۔ باخباہ محمد بن عمر، بخاری، عبد اللہ بن جعفر از ابن ابی عون: لیلی نے خود کو نبی ﷺ کے لیے ہبہ کر دیا تھا اور دیگر عورتیں بھی اپنے آپ کو نبی ﷺ کے لیے ہبہ کر دیا کرتی تھیں لیکن یہ نہیں سنا گیا کہ آپ نے ان میں سے کسی کو قبول کیا ہو۔

باخباہ محمد بن عمر، بخاری، محمد بن صالح بن دینار از عاصم بن عمر بن قتادہ: لیلی نے اپنے کو نبی ﷺ کے لیے ہبہ کر دیا تھا اور آپ نے انہیں قبول فرمایا تھا یہ اپنے خچر پر بڑی طرح سے سوار ہوا کرتی تھیں اور بدخلق تھیں، کہنے لگیں: اللہ کی قسم! میں محمد (ﷺ) کو آمادہ کروں گی کہ آپ انصار کے اس قبیلہ میں شادی نہ کریں اللہ کی قسم! میں آپ کے پاس جاؤں گی اور اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دوں گی پھر یہ نبی ﷺ کے پاس آتی ہیں آپ اپنے ایک صحابی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ پر رکھ دیتی ہیں آپ چونک پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں: یہ کون ہے؟ اسے شیر کھائے کبھی ہیں میں ہوں لیلی، قبیلہ کے سردار کی بیٹی، میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ فرماتے ہیں: میں نے تمہیں قبول کیا اب تو تم واپس جاؤ جب تک میرا حکم تمہارے پاس نہ آ جائے پھر یہ اپنی قوم میں

آگئیں، لوگ بولے: تم ایک ایسی عورت ہو جو سوتوں کو برداشت نہیں کر سکتی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے لیے جس قدر آپ چاہیں عورتیں حلال فرمادی ہیں آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں یہ پھر آپ کی خدمت میں جا کر عرض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عورتیں حلال فرمادی ہیں، میں ایک دراز زبان عورت ہوں اور سوتوں کو برداشت نہیں کر سکتی پھر درخواست کی کہ آپ یہ معاملہ فتح کر دیں، آپ نے فرمایا: اچھا میں نے فتح کر دیا۔

ام ہانی رضی اللہ عنہا:

آپ ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم کی صاحبزادی ہیں اور آپ کا نام فاختہ ہے لیکن ہشام بن کلبی آپ کا نام ہند بتاتے ہیں ہمارے نزدیک فاختہ ہی مشہور ہے اور صحیح ہے آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ہیں۔

باخبار ہشام بن محمد بن سائب کلبی از محمد بن سائب کلبی از ابوصالح از ابن عباس: نبی ﷺ نے جاہلیت میں ابوطالب سے ان کی بیٹی ام ہانی پر پیام ڈالا اور ہبیرہ بن ابی وہب نے بھی پیام ڈالا پھر ان سے ہبیرہ نے نکاح کر لیا، آپ نے فرمایا: چچا جان آپ نے ام ہانی کا ہبیرہ سے نکاح کر دیا اور مجھے محروم فرمادیا، ابوطالب نے جواب دیا: بھتیجے ہم نے ان سے رشتہ کر دیا، محسن کے ساتھ برابر کا احسان کرتا ہے پھر ام ہانی مشرف بہ اسلام ہو گئیں اور نکاح ٹوٹ گیا پھر آپ نے ان پر اپنے لیے پیام ڈالا بولیں: اللہ کی قسم! مجھے آپ سے جاہلیت کے زمانہ میں بھی محبت تھی اسلام کے زمانہ کے تو کہنے ہی کیا ہیں لیکن میں بچوں والی عورت ہوں اور ان سے آپ کو تکلیف ہوگی اور یہ مجھے گوزائیں، آپ نے فرمایا: اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورتیں قرشی خواتین ہیں جن کو اپنے کم سن بچوں کی انتہائی مانتا ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی خوب حفاظت کرتی ہیں۔

باخبار عبد اللہ بن نمیر، متحد ریث اسماعیل بن خالد از عامر: رسول اللہ ﷺ نے ام ہانی پر پیام ڈالا بولیں: یا رسول اللہ! آپ مجھے میری آنکھوں اور کانوں سے زیادہ پیارے ہیں، شوہر کا حق عظیم ہوتا ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نکاح کر لوں تو شوہر کی خدمت میں مصروف ہو کر اپنے بعض کاموں سے اور اپنی اولاد سے غافل نہ ہو جاؤں اور اگر بچوں کی خدمت میں مشغول ہو جاؤں تو کہیں شوہر کا حق ضائع نہ کر بیٹھوں، فرمایا: اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورتیں قرشی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں پر ان کے چھٹ پنے میں انتہائی شفیق ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی بہترین محافظ ہیں۔

باخبار حجاج بن نصیر، متحد ریث اسود بن شیبان از ابونوفل بن ابی عقرب: رسول اللہ ﷺ نے ام ہانی کے پاس آ کر ان پر اپنا پیام ڈالا بولیں: ان بچوں کا کیا ہوگا جن میں کوئی لیٹا ہے اور کوئی شیر خوار ہے (ان دو بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ان کے آگے تھے) آپ نے پانی مانگا لیکن آپ کے لیے دودھ لایا گیا، آپ نے کچھ دودھ پی کر ام ہانی کو دے دیا، وہ آپ کے سامنے کا بچا ہوا دودھ پی کر کہنے لگیں: میرا روزہ تھا لیکن پھر بھی میں نے یہ دودھ پی لیا، پوچھا: کیوں پی لیا، بولیں: اس لیے کہ آپ کا جھوٹا تھا، میرا تو یہ حال ہے کہ اس چیز کو بھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا جس پر میں قادر نہیں لیکن جب میں اس پر قادر ہوگی تو میں نے وہ پی لیا، فرمایا قرشی عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین ہیں کہ اپنے بچوں پر ان کے چھٹ پنے میں انتہائی مہربان ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی اچھی طرح سے نگرانی کرتی ہیں، اگر مریم بنت عمران اونٹ پر سوار ہوئی ہوتی تو ان پر میں کسی کو

فضیلت نہیں دیتا۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ، محمد یث اسرائیل از سدی از ابوصالح از ام ہانی: رسول اللہ ﷺ نے مجھ پر پیام ڈالا میں نے عذر پیش کیا اور آپ نے میرا عذر قبول فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ﴿انا احللنا لك ازواجك﴾ یعنی اے نبی ہم نے آپ کو وہ عورتیں حلال کر دیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیئے اور لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال نے میں دیں اور آپ کی چچا زاد بہنیں بھی اور ماموں زاد بہنیں بھی اور خالہ زاد بہنیں بھی جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آگئیں، فرماتی ہیں میں آپ کے لیے حلال نہ تھی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، میں تو طلقاء میں شامل تھی۔

باخبار فضل بن دکین، محمد یث عبدالسلام بن حرب ملائی، محمد یث اسماعیل بن عبدالرحمن باخبار یا بسماع ابوصالح مولیٰ ام ہانی رسول اللہ ﷺ نے بنت ابی طالب پر پیام ڈالا۔ بولیں یا رسول اللہ! میں بچوں کی ماں ہوں اور وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، فرماتے ہیں: جب ام ہانی کے بیٹے بالغ ہو گئے تو انہوں نے اپنا نفس رسول اللہ ﷺ پر پیش کیا، فرمایا: اب نہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ پر آیت: ﴿یا ایہا النبی انا احللنا لك﴾ اتاری تھی اور ام ہانی مہاجرہ نہ تھیں، دیگر حضرات کہتے ہیں: ام ہانی کے ہمبرہ سے جمعہ عمر یوسف اور ہانی چار بیٹے تھے۔

ضباعہ:

آپ عامر بن قرط بن سلمہ بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ کی بیٹی ہیں۔ باخبار ہشام بن محمد از محمد ابوصالح از ابن عباس: ضباعہ ہوذہ بن علی حنفی کے نکاح میں تھیں، ہوذہ فوت ہو گئے اور ان سے ضباعہ کے ہاتھ بہت مال آیا پھر ان سے عبد اللہ بن جدعان تھی نے نکاح کیا مگر عبد اللہ سے ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی اس لیے انہوں نے اس سے طلاق لے لی پھر ان سے ہشام بن مغیرہ نے نکاح کر لیا ان سے ان کے سلمہ پیدا ہوئے جو بہترین مسلمان ثابت ہوئے، پھر ہشام بھی مر گئے۔ ضباعہ عرب کی انتہائی حسین خاتون تھیں اور کافی موٹی تھیں جب بیٹھتی تھیں تو کافی جگہ گھیر لیا کرتی تھیں اور اپنے بالوں سے اپنا جسم ڈھانپ لیا کرتی تھیں، نبی ﷺ کے سامنے بھی ان کے جمال کا ذکر آیا آپ نے ان کے بیٹے سلمہ کے پاس اپنا پیام ڈالا: سلمہ نے کہا: میں ان سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ نبی ﷺ سے یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ وہ سن رسیدہ ہیں، بیٹے نے ماں سے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے رسول اللہ ﷺ کا پیام آیا ہے، بولیں۔ تم نے کیا جواب دیا۔ بولے میں نے کہا ہے کہ میں ان سے مشورہ کر لوں، بولیں: کیا نبی ﷺ کے سلسلہ میں بھی مشورے کی ضرورت ہے؟ جاؤ اور آپ کا نکاح کراؤ، آخر کار سلمہ نبی ﷺ کے پاس گئے لیکن آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔

صفیہ:

آپ ہشامہ بن نعلمہ کی بیٹی اور عور بن ہشامہ عمیری کی بہن ہیں۔ باخبار ہشام بن محمد از محمد ابوصالح از ابن عباس: نبی ﷺ نے صفیہ بنت ہشامہ پر پیام ڈالا آپ نے بطور لونڈی کے انہیں حاصل کیا تھا اور اعتیاد دے دیا تھا کہ اگر چاہو تو میں ہوں ورنہ تمہارا شوہر ہے، انہوں نے شوہر کو ترجیح دی آپ نے انہیں بھیج دیا پھر بتویم نے انہیں خوب کہا سنا۔

ام شریک رضی اللہ عنہا:

آپ کا نام غزنیہ بنت جابر بن حکیم ہے۔ محمد بن عمر: آپ بنی معیص بن عامر بن لوی میں سے ہیں لیکن بعض مورخ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے ہیں اور ازد سے ہیں۔

باخبار محمد بن عمر متحد بیٹ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم تمیمی: ام شریک بنو عامر بن لوی سے ہیں اور معیصہ ہیں آپ نے رسول اللہ ﷺ کے لیے اپنا نفس ہبہ کر دیا تھا پھر مرتے دم تک نکاح نہیں کیا۔

باخبار وکیع بن جراح از زکریا بن ابی زائدہ از عامر (قوجی من تشاء منهن) کی تفسیر میں، جن تمام عورتوں نے نبی ﷺ کے لیے اپنے نفوس ہبہ کر دیئے تھے اور ان میں سے بعض آپ کے پاس داخل ہوئی تھیں اور بعض کے دخول میں تاخیر کر دی گئی تھی، انہوں نے آپ کے بعد کسی سے نکاح نہیں کیا ان میں ایک خاتون ام شریک بھی ہیں۔ باخبار عبید اللہ بن موسیٰ، باخبار شیبان از فراس از شعیب: وہ عورت جس سے نبی ﷺ علیحدہ رہے ام شریک انصاریہ ہیں۔

باخبار وکیع بن جراح از شریک از جابر از حکم از علی بن حسین: نبی ﷺ نے ام شریک دوسرے سے نکاح کیا۔ باخبار زید بن حباب، باخبار شعبہ از حکم از علی بن حسین: وہ عورت جس نے اپنا نفس نبی ﷺ کے لیے ہبہ کیا ام شریک ہیں جو ازدیہ ہیں۔

باخبار زید بن حباب، باخبار شعبہ از حکم از مجاہد: ام شریک نے اپنا نفس نبی ﷺ کو ہبہ نہیں کیا تھا۔ باخبار محمد بن عمر از ابن جریج از ابوالزبیر از عمرہ: وأمرۃ مؤمنة ان وهبت نفسها الخ کی تفسیر میں) یہ ام شریک دوسرے ہیں۔

باخبار محمد بن عمر، محدیث ولید بن مسلم از منیر بن عبد اللہ دوسی: ام شریک کے شوہر مسلمان ہو گئے تھے آپ کا نام غزنیہ ہے جابر کی بیٹی ہیں اور قبیلہ دوس کی ہیں اور آپ کے شوہر ابو العکر ہیں جب قبیلہ دوس نے ہجرت کی تو انہوں نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت کی۔ ام شریک فرماتی ہیں: ابو العکر کے گھر والوں نے مجھ سے آ کر کہا: شاید تم ان کے دین پر ہو؟ میں نے کہا: ہاں ہاں اللہ کی قسم! میں ان کے دین پر ہوں بولے: پھر تو لا محالہ ہم تمہیں سخت اذیتیں پہنچائیں گے چنانچہ وہ ہمیں ہمارے گھر سے لے گئے ہم ذوالخصلہ میں تھے وہی ہماری رہائش گاہ تھی چنانچہ لوگ چلتے رہے اور منزل کی تلاش میں رہے اور مجھے ایک بدترین مست اور شریر اونٹ پر سوار کر دیا، مجھے شہد کے ساتھ روٹی دیتے رہے اور پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ جب آدھا دن ہو گیا اور سورج کافی گرم ہو گیا اور ہم گرمی محسوس کرنے لگے تو لوگ ٹھہر گئے اور سب نے اپنے اپنے خیمے گاڑ لیے اور مجھے دھوپ میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ میرے ہوش و ہواں جاتے رہے انہوں نے میرے ساتھ تین دن تک یہی معاملہ کیا اور تیسرے دن مجھ سے کہنے لگے: جس دین پر تو قائم ہے اسے چھوڑ دے۔ فرماتی ہیں: ان کی بات میں نہ سمجھ سکی ہاں چند کلمے سن لیے پھر مجھے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ تو حید چھوڑ دے فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو حید پر قائم ہوں مجھے پیاس کی انتہائی تکلیف تھی اچانک میں نے اپنے سینہ پر ڈول کی ٹھنڈک محسوس کی میں ڈول کو پکڑ کر ایک سانس میں غٹ غٹ پانی چڑھا گئی پھر ڈول مجھ سے ہٹ گیا میں نے دیکھا تو ڈول فضا میں معلق تھا اور میری رسائی سے باہر تھا پھر ڈول دوسری بار مجھ پر لٹکایا گیا اور میں نے پھر ایک بار اس سے پانی پیا پھر وہ اٹھالیا گیا میں نے دیکھا تو فضا میں معلق تھا پھر تیسری بار لٹکایا گیا اب کے میں نے خوب

سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے سر منہ اور کپڑوں پر بھی ڈالا فرماتی ہیں: لوگوں نے اپنے اپنے خیموں سے باہر آ کر یہ تماشہ دیکھا، پوچھا اے اللہ کی دشمن تیرے پاس یہ پانی کہاں سے آیا؟ میں نے کہا: اللہ کے دشمن وہ ہیں جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں یہ پانی مجھے حق تعالیٰ جل مجدہ نے عطا فرمایا ہے پھر تو لوگ دوڑ کر اپنے اپنے مشکیزوں کی طرف گئے دیکھا تو سب کے مشکیزوں کے بندھن بندھے ہوئے ہیں اور ایک مشکیزہ بھی کھلا ہوا نہیں پھر تو سب نے بیک زبان کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرا رب ہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا رب ہے جس نے تجھے اس جگہ پانی عطا فرمایا اور سیراب کیا، ہم نے جو کچھ تیرے ساتھ کیا اس پر نادم ہیں، اسی رب نے اسلام شروع فرمایا ہے آخر کار سب مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پاس ہجرت کر کے چلے گئے اور میری اس کرامت کو دیکھ کر مجھے سب سے افضل سمجھنے لگے۔ یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے اپنا نفس نبی ﷺ کو بہہ کر دیا تھا، یہ قبیلہ ازد کی تھیں اور انہوں نے خود کو نبی ﷺ پر پیش کر دیا تھا آپ حسین تھیں اور عمر رسیدہ تھیں، فرماتی ہیں: میں آپ پر اپنا نفس بہہ کرتی ہوں اور اسے صدقہ کرتی ہوں، نبی ﷺ نے آپ کو قبول فرمایا، صدیقہ نے کہا: اس عورت میں اچھائی نہیں جو کسی مرد کو اپنا نفس بہہ کرتی ہے ام شریک فرماتی ہیں: میں ایسی ہی عورت ہوں، حق تعالیٰ نے ام شریک کو مومنہ فرمایا، چنانچہ قرآن پاک میں یہ آیت اتاری: ﴿وَامْرَاةٌ مُّؤْمِنَةٌ اِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ یعنی ہم نے وہ مومن خاتون اپنے نبی کے لیے حلال فرمادی جو انہیں اپنا نفس بہہ کر دے، پھر جب یہ آیت اتر آئی تو صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش میں آپ کے لیے جلدی فرماتے ہیں۔

محمد بن عمر: میں نے ان علما کو دیکھا جو یہ کہتے ہیں: کہ یہ آیت ام شریک کے بارے میں اتری لیکن ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ وہ قبیلہ دوس کی جواز دوس ہے ایک عورت ہے البتہ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم کی جو اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، روایت کی رو سے ام شریک ہی ہیں، وہ فرماتے ہیں: ام شریک رسول اللہ ﷺ سے کئی حدیثیں روایت کرتی ہیں۔

باخبار محمد بن عمر ابن جریج از عبد الحمید بن جبیر از ابن مسیب از ام شریک بسامع: رسول اللہ ﷺ نے چھپکلی اور گرگٹ کے قتل کرنے کا حکم دیا۔

باخبار محمد بن عمر از ابن جریج از ابو الزبیر از جابر بن عبدیث ام شریک میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، دجال کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرما رہے تھے: لوگ اس سے بھاگ کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے فرماتی ہیں: میں نے کہا یا کہا گیا: یا رسول اللہ ﷺ اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا عرب تھوڑے سے ہوں گے۔

باخبار عارم بن فضل بن محمد بن حماد بن زید از یحییٰ بن سعید: ام شریک دوسیہ نے ہجرت کی، آپ راہ میں ایک یہودی کے ساتھ ہو گئیں اور روزے کی حالت میں شام کی یہودی نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ اسے پانی نہ دینا ورنہ میں بری طرح سے تیرے ساتھ پیش آؤں گا چنانچہ ام شریک نے پیاس ہی کی حالت میں رات گزاری، آپ نے چھپکلی رات میں دیکھا کہ میرے سینہ پر ڈول رکھا ہوا ہے اور چمڑے کا ایک تھیلا بھی میں نے اس میں سے کھایا پیا اور مسافروں کو اندھیرے ہی میں روانہ ہونے کے لیے جگا دیا، یہودی کہنے لگا: میں ایک ایسی عورت کی آواز سن رہا ہوں جس نے کھاپی لیا ہے ام شریک نے کہا: نہیں اللہ کی قسم! اس نے مجھے پانی نہیں پلایا، ام شریک کے پاس گھی کا ایک کپا تھا اور آپ اسے ہر ماٹھنے والے کو دے دیا کرتی تھیں ایک دن ایک شخص نے ان سے اس

کا سودا کیا فرمایا: اس میں کچھ نہیں، خالی ہے پھر آپ نے اس میں پھونک ماری اور اسے دھوپ میں لٹکا دیا دیکھا تو وہ گھی سے بھرا ہوا ہے پھر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ام شریک کا کپا بھی ہے۔

باخبار بکر بن عبدالرحمن، متحد یث عیسیٰ بن مختار از محمد بن ابی لیلیٰ از ابوالزبیر از جابر از ام شریک: ان کے پاس گھی کا ایک کپا تھا اور رسول اللہ ﷺ کو بطور ہدیہ کے گھی بھیجا کرتی تھیں، ایک دن ان کے بچوں نے گھی مانگا گھی تھا نہیں یہ گھی دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئیں تو کپا گھی سے بھرا ہوا تھا چنانچہ بچے مدت تک اس میں سے گھی کھاتے رہے ایک دن انہوں نے کپا میں سے سارا گھی نکال لیا اور اسے خالی کر دیا پھر آپ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں آپ نے فرمایا: اگر تم کپا کو خالی نہ کرتیں تو ایک زمانہ تک اس میں تمہارے لیے گھی باقی رہتا۔

خولہ رضی اللہ عنہا:

آپ حکیم بن امیہ بن حارثہ بن اوقص بن مرہ بن ہلال بن فالح بن ثعلبہ بن ذکوان بن امری القیس ابن بہتہ بن سلیم کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ ضعیفہ بنت عاص بن امیہ بن امیہ بن عبد شمس ہیں، مرہ بن ہلال نے مکہ میں آکر عبد مناف بن قصی سے معاہدہ کر لیا تھا اور عبد مناف نے ان کی بیٹی عاتکہ بنت مرہ سے شادی کر لی تھی جن سے ہاشم، عبد شمس اور مطلب پیدا ہوئے تھے۔

باخبار ہشیم بن محمد از محمد: خولہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے خود کو نبی ﷺ کو بہہ کر دیا تھا اور آپ نے ان کے بارے میں توقف اختیار کیا تھا اور کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا، آپ نبی ﷺ کی خدمت کیا کرتی تھیں، آپ عثمان بن مظعون کے نکاح میں تھیں پھر عثمان فوت ہو گئے تھے اور بیوہ ہو گئی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، متحد یث ابن ابی الزناد و ابوالخصیب از ہشام بن عروہ از عروہ و متحد یث اسامہ بن زید از زہری از عروہ: خولہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو نبی ﷺ کے لیے بہہ کر دیا تھا۔

باخبار کعب بن جراح از سفیان از علی بن زید بن جدعان از سعید بن مسیب از خولہ: انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: اگر عورت خواب میں وہی دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ آگے پوری حدیث ہے۔

امامہ رضی اللہ عنہا:

آپ حمزہ بن عبدالمطلب کی صاحبزادی ہیں، آپ کی والدہ سلمیٰ بنت عمیس بن معد بن تیم بن مالک بن قافہ شعمیہ ہیں اور اسماء بنت عمیس کی ہم شیرہ ہیں، اسی طرح ہشام بن محمد بن سائب کلبی نے لکھا ہے اور دوسروں کے نزدیک آپ عمارہ بنت حمزہ ہیں لیکن ہشام کہتے ہیں عمارہ مرد ہیں اور حمزہ کے بیٹے ہیں اور انہیں کے نام پر حمزہ کی کنیت تھی اور ان کی والدہ خولہ بنت قیس بن فہد ہیں جو آل مالک بن نجار سے ہیں۔

باخبار عبداللہ بن نمیر و محمد بن عبید، متحد یث اعمش از سعد بن عبیدہ از عبدالرحمن از علی: میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا بات ہے آپ قریش کی طرف مائل رہتے ہیں اور ہم میں نکاح نہیں کرتے؟ پوچھا: تمہارے پاس کوئی لڑکی ہے؟ بولے: ہاں حمزہ کی بچی ہیں، فرمایا: یہ تو میری رضاعی بھتیجی ہیں۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری، محمد بن سعید بن ابی عروبہ از قنادہ از جابر بن زید از ابن عباس: چاہا گیا کہ حمزہ کی بچی سے رسول اللہ ﷺ کا نکاح کر دیا جائے، فرمایا وہ تو میری رضاعی بھتیجی ہے اور جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں۔

باخبار سفیان بن عیینہ و اسماعیل بن ابراہیم اسدی از علی بن زید بن جدعان از سعید بن مسیب: علی نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا: آپ اپنے چچا جان حمزہ کی بچی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ وہ (بقول سفیان) حسین و جمیل ہے (اور بقول اسماعیل) قریش کی جوان بچیوں میں انتہائی حسین ہے، فرمایا: علی! کیا تم کو خبر نہیں کہ حمزہ میرے رضاعی بھائی ہیں اور اللہ نے جو رشتے نسب سے حرام فرمادیئے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام فرمادیئے ہیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن ابی حنیبلہ از داؤد بن حصین از عمرہ از ابن عباس: عمارہ بنت حمزہ اور ان کی والدہ سلمیٰ بنت عمیس مکہ میں تھیں پھر جب رسول اللہ ﷺ مکہ میں تشریف لائے تو علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا: ہم اپنی چچا زاد بہن کو جو تمہیں مکہ میں مشرکوں میں کیوں چھوڑیں؟ پھر نبی ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو روکا نہیں اور علی رضی اللہ عنہ مکہ سے انہیں نکال کر لے گئے پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جن کو حمزہ رضی اللہ عنہ وصیت کر گئے تھے اور نبی ﷺ نے ان کو اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھائی بنا دیا تھا اس بچی کے بارے میں گفتگو کی اور کہا: میں اپنی بھتیجی کا زیادہ حق دار ہوں جب جعفر رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے کہا: خالہ بمنزلہ والدہ کے ہوتی ہے میں اس کا زیادہ حق دار ہوں کیونکہ اس کی خالہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں ہیں، علی نے کہا: میری چچا زاد بہن کے بارے میں تم کیوں جھگڑ رہے ہو حالانکہ میں اسے مشرکوں میں سے نکال کر لایا ہوں اور میرے سوا تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں میں تم سے زیادہ اس کا حق دار ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تم میں فیصلہ کیے دیتا ہوں! زید! تم اللہ کے اور اس کے رسول کے آزاد کردہ ہو اور اے علی! تم میرے بھائی اور میرے صحابی ہو اور اے جعفر! تم صورت میں میرے مشابہ ہو اور ہاں اے جعفر! تم ہی اس کے زیادہ حقدار ہو کیونکہ اس کی خالہ تمہاری بیوی ہیں اور خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہوتیں لہذا آپ نے جعفر کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ محمد بن عمر کہتے ہیں: جعفر (اس فیصلہ سے خوش ہو کر نبی ﷺ کے ارد گرد اٹھلا کر چکور کی طرح چلنے لگے، پوچھا: یہ کیا؟ بولے: جب نجاشی کسی کو مناتا تھا تو اسی طرح چلا کرتا تھا پھر ان سے نکاح کے لیے نبی ﷺ سے کہا گیا، فرمایا: وہ تو میری رضاعی بھتیجی ہے پھر آپ نے ان کا نکاح سلمہ بن ابی سلمہ سے کر دیا، بعد میں نبی ﷺ فرمایا کرتے تھے: سلمہ! کیا تم کو صلہ مل گیا؟۔

خولہ:

آپ ہزیرل بن ہبیرہ بن قبیصہ بن حارث بن حبیب بن حزنہ بن ثعلبہ بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ خلیفہ بن فروہ بن فضالہ بن زید بن عمرو القیس بن خزرج کلبی کی بیٹی اور حنیہ بن خلیفہ کی ہمیشہ ہیں۔ باخبار ہشام بن محمد بن محمد بن شریقی بن قطامی: نبی ﷺ نے خولہ بنت ہذیل سے نکاح کیا اور قبل اس کے کہ آپ ان تک پہنچیں وہ راستہ ہی میں فوت ہو گئیں۔ انہیں ان کی خالہ جان، خزنہ بنت خلیفہ نے جو حنیہ بن خلیفہ کی ہمیشہ ہیں پرورش کیا تھا۔

شرف:

آپ خلیفہ بن فروہ کی بیٹی اور وحیہ بن خلیفہ کی ہم شیرہ ہیں۔

باخبار ہشام بن محمد بن سائب، بخدیث شرقی بن قطامی: جب خولہ بنت ہذیل فوت ہو گئیں تو نبی ﷺ نے شرف بنت خلیفہ سے نکاح کر لیا لیکن ان سے خلوت نہیں ہوئی۔

باخبار محمد بن عمر بخدیث ثوری از جابر از عبدالرحمن بن سابط: رسول اللہ ﷺ نے ایک کلبی عورت پر پیام ڈالا اور اسے دیکھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا، صدیقہ گئیں پھر واپس آئیں، رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: کیا دیکھا؟ بولیں: میں نے مفید کوئی چیز نہیں دیکھی، فرمایا: تم نے مفید چیز دیکھی، تم نے اس کے رخسارے پر ایک تل دیکھا جس سے تمہارا رواں رواں کھڑا ہو گیا، بولیں: یا رسول اللہ! یہ ایک راز تھا جو آپ سے چھپایا گیا تھا۔

باخبار محمد بن عمر بخدیث ثوری از جابر از مجاہد: اگر رسول اللہ ﷺ کسی پر پیام ڈالتے اور اسے لوٹا دیا جاتا تو پھر اس کا اعادہ نہیں کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے ایک عورت پر پیام ڈالا، اس نے کہا: میں مشورہ کر لوں چنانچہ اس نے اپنے والد سے مشورہ کیا اور والد نے اجازت دے دی پھر اس نے اس سلسلہ میں آپ سے ملاقات کی آپ نے فرمایا اب تو ہم نے تمہارے علاوہ دوسری چادر اوڑھ لی۔

ازواج مطہرات کے مہر:

باخبار محمد بن عمر بخدیث موسیٰ بن محمد بن ابراہیم از محمد بن ابراہیم از ابوسلمہ بن عبدالرحمن از عائشہ: رسول اللہ ﷺ کے دیا ہوا مہر ساڑھے بارہ اوقیہ (۵۰۰ درہم) ہوا کرتا تھا، صدیقہ فرماتی ہیں: ایک اوقیہ ۴۰ درہم کا اور آدھا اوقیہ ۲۰ درہم کا ہوتا ہے۔

باخبار محمد بن عمر بخدیث عبداللہ بن جعفر و سلیمان بن ہلال از یزید بن ہاد از محمد بن ابراہیم از ابوسلمہ از عائشہ: آگے ہم مثل حدیث ہے۔ باخبار محمد بن عمر بخدیث معمر از زہری: رسول اللہ ﷺ کا مہر دس اوقیہ سونا تھا۔

باخبار فضل بن دکین بخدیث ہشام بن سعد از عطاء خزاسانی: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عورتوں کے مہروں میں غلو نہ کرو کیونکہ اگر مہر کی زیادتی تقویٰ میں اور دنیوی عزت میں شمار ہوتی تو اس کے نبی ﷺ تم سے زیادہ حق دار تھے آپ نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا ۱۲ اوقیہ (۲۸۰) سے زیادہ مہر نہیں باندھا۔

باخبار فضل بن دکین از ابن عمیرہ از ایوب از ابن سیرین از ابوالجفاء سلمی از عمر: میرے علم میں نبی ﷺ نے اپنی کسی بیوی کا یا کسی بیٹی کا مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ نہیں باندھا۔

باخبار محمد بن عمر بخدیث معمر از ایوب از ابن سیرین از ابوالجفاء از عمر: ہم مثل۔ باخبار عبدالوہاب بن عطاء از عوف از ابن سیرین از ابوالجفاء سلمی از عمر: حسب سابق مگر یہ زیادہ ہے اور بارہ اوقیہ چار سو اسی درہم ہوتے ہیں (نش جو کمر ہے اسے چھوڑ گئے ہیں ورنہ پانچ سو درہم ہوتے ہیں)۔ باخبار خالد بن مخلد بخدیث سلیمان بن ہلال بخدیث جعفر بن محمد از محمد: رسول اللہ ﷺ کا مہر پانچ سو درہم تھا۔

رسول اللہ ﷺ کی منگیتروں کے لیے سعد بن عبادہ کا بادیہ:

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ بن جعفر از ابن ابی عون از ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم: جب رسول اللہ ﷺ کسی عورت پر اپنا پیام ڈالتے تھے تو فرمایا کرتے تھے: ان کے سامنے سعد بن عبادہ کے بادیہ کا ذکر کرو۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن صالح از عاصم بن عمر بن قتادہ از سرور عالم رضی اللہ عنہم: ہم شل۔ باخبار محمد بن عمر بن محمد بن سعید بن محمد بن ابی زید: میں عمارہ بن غزیہ اور عمرو بن یحییٰ سے سعد کے بادیہ کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا: سعد آپ کو بادیہ میں کبھی گوشت، کبھی گھی اور کبھی دودھ بھر کر بھیجا کرتے تھے جب کبھی آتے تو ان کے ساتھ یہ بادیہ بھی ہوتا۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد العزیز لیشی: زہری نے انکار کیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنی منگیتروں کے سامنے سعد کے بادیہ کا ذکر کرایا کرتے تھے لیکن سعد کے بادیہ کا انکار نہیں کرتے تھے کہ بادیہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ باخبار محمد بن عمر بن محمد بن قتادہ بن موسیٰ: میں نے عبد الرحمن بن زرارہ سے سنا آپ اس بادیہ کا ذکر کر رہے تھے۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن موسیٰ بن یعقوب اپنی پھوپھی جان ام سلمہ سے: جو انصار سرکار رسالت کی خدمت میں کثرت سے ہدایا بھیجتے رہتے تھے وہ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عمارہ بن حزم اور ابویوب رضی اللہ عنہم تھے کیونکہ ان کے گھر رسول اللہ ﷺ سے قریب تھے، کوئی دن بلا کسی کے ہدیہ کے نہیں گزرتا تھا لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا بادیہ روزانہ آتا تھا۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ بن ابی یحییٰ از عون بن حارث بن محمد بن رمیثہ: میں نے ام سلمہ سے سنا فرماتی تھیں: مجھ سے میری سوتوں نے رسول اللہ ﷺ سے بات کرنے کو کہا (ام سلمہ ام حبیبہ زینب بنت خزیمہ جو یہ مہمونہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن ایک ساتھ تھیں اور عائشہ صفیہ اور سودہ رضی اللہ عنہن ایک طرف تھیں) مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ سے جا کر کہو کہ لوگ صدیقہ کے گھر میں آپ کے پاس ہدیہ بھیجتے ہیں جو بات صدیقہ کو محبوب ہے وہ ہمیں بھی محبوب ہے جس گھر میں آپ ہوں لوگ اسی گھر میں ہدیہ بھیج دیا کریں فرمائی ہیں: پھر جب رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! میری ساتھ والیوں نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں ہدایا کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں کہ آپ لوگوں کو حکم کر دیں کہ آپ جہاں بھی ہوں لوگ آپ کے پاس ہدیے بھیجیں کیونکہ جو بات عائشہ رضی اللہ عنہا کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، مجھ سے میری ساتھ والیوں نے پوچھا تو میں نے کہا: مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا بولیں: پھر یاد دہانی کرایے آخر کار میں نے آپ سے وہی بات دہرائی فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے ایذا نہ پہنچاؤ کیونکہ کسی کے لحاف میں بجز عائشہ رضی اللہ عنہا کے لحاف کے وحی نہیں اترتی۔

محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ بن ابی الرجال اپنے والد کی خبر سے: عام طور پر لوگ قصد کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن ہی ہدایا بھیجا کرتے تھے اور جس دن آپ صدیقہ کے گھر میں ہوتے تھے اس دن ان ہدیوں کی وجہ سے آپ کے مہمانوں کو بھی مسرت ہوتی تھی۔

از و اج مطہرات کی رہائش گاہیں:

باخبار محمد بن عمر: میں نے مالک بن ابی الرجال سے پوچھا: از و اج مطہرات کے گھر کہاں تھے؟ انہوں نے اپنے والد سے

اور والد نے ان کی والدہ سے بتایا: تمام گھر امام و منبر کی جہت کے بائیں جانب تھے، لیکن محمد بن عمر نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور یہ بات بھی رد کر دی کہ ام سلمہ والی پارٹی میں زینب بنت خزیمہ تھیں، کیونکہ زینب ام سلمہ سے قبل فوت ہو گئیں تھیں اور ام سلمہ زینب ہی کے گھر میں بیاہ کر آئی تھیں اسی سال آپ نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا اسی طرح سودہ بنت زینب نکاح میں عائشہ بنت ابی سفیان سے پہلی ہیں اور مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کے آنے کے بعد سودہ اور عائشہ بنت ابی سفیان کو لایا گیا اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے بعد مدینہ آئیں اسی سال ضیفہ عقد میں آئیں اور حصہ ام سلمہ اور زینب بنت خزیمہ سے پہلے عقد میں آئیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن ابی سبرہ از محمد بن عبد اللہ عیسیٰ از محمد بن عمرو بن عطاء عامری: نبی ﷺ کے گھر وہی تھے جن میں امہات المؤمنین رہتی تھیں اور سودہ بنت ابی سفیان اپنے گھر کی عائشہ بنت ابی سفیان کے لیے وصیت کر گئی تھیں اور ضیفہ بنت ابی سفیان کے ورثہ نے ان کا گھر معاویہ بن ابی سفیان کو ایک سو اسی ہزار میں فروخت کر دیا تھا۔

ابن ابی سبرہ: مجھے کسی شامی نے بتایا کہ حضرت معاویہ بنت ابی سفیان نے حضرت عائشہ بنت ابی سفیان کو کہلا بھیجا کہ اس گھر کا تم کو حق شفعہ پہنچتا ہے میں نے یہ گھر خرید لیا ہے اور یہ بیع نامہ ہے اور آپ نے صدیقہ بنت ابی سفیان سے ان کا گھر خرید لیا، لوگ کہتے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار درہم میں یا دو لاکھ میں اور انہیں حین حیات حق رہائش دے دیا اور تمام رقم صدیقہ کے پاس بھیج دی آپ نے اسی مجلس میں وہ تمام مال بانٹ دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گھر صدیقہ بنت ابی سفیان سے ابن زبیر بنت ابی سفیان نے خرید لیا تھا، کہتے ہیں ابن زبیر بنت ابی سفیان نے صدیقہ بنت ابی سفیان کے پاس پانچ سو تختی اونٹ لاکر مال بھیجا تھا پھر آپ نے صدیقہ کے لیے حین حیات ان کی رہائش کی شرط مقرر کر دی تھی صدیقہ اس جگہ سے ہٹی نہیں جب تک وہ تمام بانٹ نہیں دیا، آپ سے کہا گیا: کاش اس میں سے ایک درہم اپنے لیے بھی بچا لیتیں فرمایا: اگر مجھے یاد دلا دیا جاتا تو میں ایک درہم بچا لیتی۔

محمد بن عمر از ابن ابی سبرہ از ابو بکر بن عمرو بن محمد سالم: حصہ بنت ابی سفیان کے گھر کے وارث ابن عمر بنت ابی سفیان بنے، آپ نے اس کی قیمت نہیں لی اور اسے مسجد نبوی میں شامل کرادیا۔

باخبار محمد بن عمر از ابن ابی سبرہ از ثور بن زید از عمرہ: ام سلمہ بنت ابی سفیان کے ورثاء نے ان کا گھر مال کے عوض فروخت کر دیا تھا، محمد بن عمر کہتے ہیں: فروخت نہیں کیا گیا تھا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ از زہری و محمد بن صالح از عاصم بن عمر بن قتادہ: جب سرور عالم ﷺ مدینہ میں تشریف لائے اور ابو ایوب کے گھر ٹھہر گئے تو آپ نے البورانغ اور زید بن حارثہ کو دو اونٹ اور پانچ سو درہم جو آپ نے حضرت ابو بکر بنت ابی سفیان سے لیے تھے دے کر مکہ بھیجا کہ حسب ضرورت سواریاں خرید لیں اور ان پر سوار کر کے آپ کے اہل و عیال کو لے آئیں، حضرت ابو بکر بنت ابی سفیان نے ان دونوں کے ساتھ عبد اللہ بن ارقطہ دلی کو بھی دو یا تین اونٹ دے کر ساتھ کر دیا اور اپنے بیٹے عبد اللہ کو لکھا کہ ان پر میرے بیوی بچوں کو سوار کر کے مدینہ لے آئیں، زید رسول اللہ ﷺ کے اہل کو قاطمہ اور ام کلثوم دختران سرور عالم ﷺ کو اور سودہ بنت زمعہ کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے آپ نے زینب دختر رسول اکرم ﷺ کو بھی لانا چاہا لیکن ان کے شوہر ابو العاص بن بیع نے انہیں نہیں آنے دیا حضرت رقیہ بنت ابی سفیان کو ان کے شوہر حضرت عثمان بنت ابی سفیان پہلے ہی مدینہ لے گئے تھے، زید نے اپنی بیوی

ام ایمن کو اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بھی لے لیا جو رسول اللہ ﷺ کے اہل و عیال کے ساتھ تھے اور عبد اللہ ام رومان کو اور اپنی دونوں بہنوں عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہما کو لے کر روانہ ہوئے حتیٰ کہ یہ سب (خیریت سے مدینہ پہنچ گئے) رسول اللہ ﷺ مسجد اور مسجد کے ارد گرد گھر بنا رہے تھے آپ نے سب کو حارثہ بن نعمان کے گھر ٹھہرا دیا اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ان کا گھر بنایا جس میں آپ مدفون ہیں اور صدیقہ کے گھر کے دروازے کے بالمقابل مسجد میں دروازہ رکھا جس سے آپ نماز کے لیے آتے جاتے تھے اور جب اعکاف میں بیٹھے تو اپنا سر صدیقہ کے دروازے کی چوٹ تک نکال لیا کرتے تھے اور صدیقہ حالت حیض میں آپ کا سر دھو دیا کرتی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن ابراہیم بن شعیب از یحییٰ بن شبل از ابو جعفر: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ آگئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا اور رخصتی کا ارادہ کیا تو ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھر کا انتظام کر لو! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے گھروں کے قدرے پیچھے گھر تلاش کر کے لے لیا اور اسی گھر میں شب عروسی منائی پھر نبی ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آ کر فرمایا: میں تمہیں اپنے پاس منتقل کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: آپ حارثہ بن نعمان سے فرمادیں کہ وہ میرے لیے اپنا گھر چھوڑ دیں، فرمایا: اس سے پہلے حارثہ ہمارے لیے اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے جب حارثہ کے کان میں یہ بات پڑی تو آپ نے فوراً اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر کا انتظام کر لیا اور رحمت عالم ﷺ کی خدمت گرامی میں آ کر کہا: یا رسول اللہ ﷺ مجھے خبر لگی ہے کہ آپ فاطمہ کو اپنے پاس منتقل کرنا چاہتے ہیں، دیکھئے یہ میرے گھر ہیں اور بنی نجار کے گھروں کی بہ نسبت آپ سے زیادہ قریب ہیں دیکھئے میری جان اور میرا مال اللہ کے رسول کے لیے ہی ہے یا رسول اللہ! اللہ کی قسم مجھے وہ مال جو آپ قبول فرمائیں میرے متروکہ مال سے بہت زیادہ پیارا ہے، فرمایا: تم سچے ہو، حق تعالیٰ تم کو برکت عطا فرمائے، پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل کر لیا۔

محمد بن عمر: حارثہ کے گھر مسجد نبوی کے قریب اور آس پاس تھے جب کبھی نبی ﷺ کوئی جدید نکاح فرماتے تو آپ کے لیے حارثہ اپنا گھر خالی کر دیا کرتے تھے حتیٰ کہ حارثہ کے تمام گھر رسول اللہ ﷺ کے اور امہات المؤمنین کے ہو گئے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ بن یزید ہذلی: جب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے جب کہ وہ ولید بن عبد الملک کے عہد خلافت میں مدینہ کے حاکم تھے اور انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے امہات المؤمنین کے گھر منہدم کرائے تو وہ گھر میں نے دیکھے تھے، گھر کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور ان میں کھجور کی ٹہنیوں سے حجرے بنائے گئے تھے جن کی مٹی سے مرمت کی گئی تھی میں نے گئے تو اپنے حجروں کے ساتھ لو گھر تھے جو صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے لے کر اس دروازے تک جو باب النبی کے متصل ہے، اسما و بنت حسن بن عبد اللہ بن عبد اللہ کے گھر تک ہیں، میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا گھر اور ان کا حجرہ کچی اینٹوں کا دیکھا۔ اور ان کے پوتے سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ نے دومۃ الجندل سے جنگ کی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا حجرہ کچی اینٹوں سے بنوایا پھر جب نبی ﷺ جنگ سے واپس لوٹے اور کچی اینٹوں کا حجرہ دیکھا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو آپ کی پہلی اہلیہ ہیں تشریف لے گئے اور پوچھا: یہ عمارت کیا ہے؟ بولیں: یا رسول اللہ! میں نے لوگوں کی نگاہوں کو روکنے کے لیے یہ عمارت بنوائی ہے، فرمایا: ام سلمہ! اب

سے بدر چیز جس میں مسلمان کا مال برباد ہو عمارت ہے۔ باخبا محمد بن عمر از اسرا سئل از جابر از عامر: نبی ﷺ نے ازواج مطہرات کے گھروں ہی کی اور اس زمین ہی کی وصیت فرمائی جو آپ نے بطور صدقہ کے چھوڑی تھی۔

باخبا محمد بن عمر، محدث معاذ بن محمد انصاری، سماع عطاء خراسانی: (اس مجلس میں جس میں عمران بن انس موجود تھے) (قبر و نمبر کے درمیان) میں نے امہات المؤمنین کے حجرے کھجوروں کی شاخوں کے دیکھے جن کے دروازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے لٹکے ہوئے تھے میں اس وقت موجود تھا جب ولید بن عبد الملک کا عطف لوگوں کو سنایا جا رہا تھا جس میں وہ حکم کر رہے تھے کہ امہات المؤمنین کے حجرے مسجد نبوی میں داخل کر دیئے جائیں، میں نے اس دن سے زیادہ رونے والے کہیں نہیں دیکھے عطاء کہتے ہیں: میں نے دیکھا اس دن سعید بن مسیب فرما رہے ہیں: اللہ کی قسم! کاش لوگ ان حجرؤں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تاکہ مدینہ کی بعد میں آنے والی نسلیں اور دنیا کے اسلام سے مدینہ میں آنے والے مسلمان دیکھتے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں کتنی دنیا پر قناعت کی اور یہ لوگوں کے لیے دنیا سے بے رغبتی کا اور دنیا پر فخر و مباہات سے اعراض کا قوی ذریعہ بن جاتے۔

معاذ فرماتے ہیں: جب عطاء خراسانی اپنی حدیث سے فارغ ہو گئے تو عمران بن ابوانس نے کہا: ان میں چار گھر کچی اینٹوں کے تھے جن میں کھجور کی شاخوں کے حجرے بنے ہوئے تھے اور پانچ گھر کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے تھے جن پر مٹی لپی ہوئی تھی ان میں حجرے نہ تھے اور ان کے دروازوں پر بالوں والی ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے میں نے پردہ کو ماپ کر دیکھا تو تین ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا اور قدرے موٹا پایا، رہا اس دن مدینہ میں روناسو میں ایک مجلس میں موجود تھا جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صاحبزادوں کی ایک جماعت تھی جن میں ابوسلمہ بن عبد الرحمن، ابوامامہ بن اہل بن حنیف اور خارجہ بن زید بھی تھے سب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے شرابور تھیں۔ اس روز ابوامامہ نے فرمایا: کاش یہ گھریوں نبی چھوڑ دیئے جاتے اور منہدم نہ کیے جاتے تاکہ لوگ عمارتوں پر کم از کم خرچ کرتے اور اس دنیا کو دیکھتے جسے اللہ اپنے نبی کو دے کر راضی تھا حالانکہ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔

باخبا محمد بن عمر از عبد اللہ بن عامر اسلمی: مجھ سے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے کہا جب کہ آپ اپنی نماز کی جگہ پر اسر ستون کے جو قبر کے کنارے سے متصل ہے اور اس ستون کے جو دوسرے کے باب رسول اللہ ﷺ کے راستہ تک متصل ہے ان دونوں ستونوں کے درمیان تشریف فرما تھے: یہ زینب بنت جحش کا گھر ہے اس میں رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا کرتے تھے اور آج ب پوری قطار اساء بنت حسن بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس کے گھر کے دروازے تک مسجد کے صحن تک جاتی ہے، لہذا یہ ہیں آپ کے گھر میں نے دیکھا وہ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ہیں اور ان پر مٹی مٹی ہوئی ہے اور ان کے دروازوں پر (بجائے کواڑوں کے بالوں کی ٹاٹ کے پردے آویزاں ہیں۔



امہات المؤمنین میں مساویانہ تقسیم

باخباہر اسماعیل بن ابراہیم از ایوب از ابو قلابہ: رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں میں مساویانہ تقسیم فرمایا کرتے تھے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ! یہ تقسیم ان چیزوں میں ہے جن پر میں قادر ہوں لہذا مجھے ان میں نہ پکڑنا جن پر تو قادر ہے اور میں قادر نہیں یعنی میں دلی محبت پر قادر نہیں۔

باخباہر محمد بن عمر بن محمد بن ابراہیم بن سعد از سعد: رحمت عالم ﷺ کے مرض الموت میں حضرت فاطمہ امہات المؤمنین میں سے ایک ایک کے پاس گئیں اور کہا: رسول اللہ ﷺ کو تمہارے پاس آنے میں دشواری ہے لہذا سب نے آپ کو نہ آنے کی اجازت دے دی پھر آپ صدیقہ کے گھر ٹھہر گئے۔

باخباہر محمد بن عمر بن محمد بن سلیمان بن بلال از جعفر بن محمد از محمد: رسول اللہ ایک کنبل میں ہر ایک بیوی کے گھر جایا کرتے تھے۔ باخباہر محمد بن عمر بن محمد بن حاتم بن اسماعیل از جعفر بن محمد از محمد: جب رسول اللہ ﷺ مرض الموت میں بھاری ہو گئے (چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے) تو آپ نے پوچھا: کل مجھے کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں عورت کے پاس پوچھا: اور پرسوں کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا: فلاں بیوی کے پاس: امہات المؤمنین سمجھ گئیں کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں لہذا سب سے کہہ دیا: یا رسول اللہ! ہم نے اپنے دن اپنی بہن عائشہ کو بہہ کر دیئے۔

باخباہر محمد بن عمر بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اپنے والد سے اور وہ ان کی والدہ سے: ازواج مطہرات نے نبی ﷺ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ جسے جس پر چاہیں ترجیح دیں چنانچہ آپ نے صدیقہ رضی اللہ عنہا اور زینب کو ترجیح دی۔

باخباہر محمد بن عمر بن محمد بن شیبان بن عبدالرحمن و قیس از منصور از ابوزین: رسول اللہ ﷺ نے اپنی بعض بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا جب ازواج مطہرات نے یہ چیز دیکھی تو سب نے اجازت دے دی کہ آپ جس پر جس کو چاہیں ترجیح دیں۔ باخباہر محمد بن عمر بن محمد بن معمر از زہری از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: جب رسول اللہ ﷺ کسی سفر پر روانہ ہوتے تو امہات المؤمنین کے درمیان قرعہ ڈالتے اور قرعہ میں جس کا نام نکل آتا اسی کو اپنے ساتھ لے جاتے آپ نے ہر بیوی کو ایک دن رات دے رکھا تھا البتہ سوہہ رضی اللہ عنہا نے اپنا دن معہرات کے صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہہ کر دیا تھا تا کہ سرور عالم ﷺ ان سے راضی رہیں۔

باخباہر محمد بن عمر بن محمد بن عبدالرحمن بن ابی الزناد از ہشام بن عروہ از عروہ از صدیقہ رضی اللہ عنہا: سوہہ رضی اللہ عنہا یونٹھی ہو گئی تھیں اور رحمت عالم ﷺ کو ان سے کچھ زیادہ رغبت نہیں رہی تھی اور انہیں رسول اللہ ﷺ کی نگاہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام معلوم تھا انہیں ڈر تھا کہیں رسول اللہ ﷺ مجھے علیحدہ نہ کر دیں اور یہ پر زور خواہش تھی کہ میں آپ کی بیوی ہی رہوں کہنے لگیں: یا رسول اللہ! میں اپنا

دن جو آپ سے مجھے ملتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہہ کرتی ہوں آپ کو میری طرف سے اجازت ہے نبی ﷺ نے ان کی بات قبول فرمائی اسی سلسلہ میں ﴿وان امرأة خانت من بعلها نشوز الخ﴾ اتری، یعنی اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نافرمانی اور اعراض کا ڈر ہو۔ (آخر تک)۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن ابراہیم بن محمد بن ابی موسیٰ از داؤد بن حصین از قاسم بن محمد از عائشہ: رسول اللہ ﷺ اپنی عورتوں میں قرعہ ڈالتے اگر میرے سوا کسی اور کا نام نکل آتا تو آپ کے چہرے پر کراہت کے آثار نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جب کبھی کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے میرے پاس تشریف لاتے اور مجھ ہی سے تقسیم کی ابتداء فرماتے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد الرحمن بن ابی الزناد از ہشام از عروہ از عائشہ: رسول اللہ ﷺ روزانہ اپنی ہریوی سے ملنے جایا کرتے تھے اور ان کے قریب جا کر ان پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور انہیں چومتے تھے حتیٰ کہ اخیر ہریوی کے پاس تشریف لاتے پھر اگر ان کا دن ہوتا تو انہیں کے پاس ٹھہر جاتے ورنہ اٹھ کھڑے ہوتے لیکن آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کافی دیر تک ٹھہرا کرتے تھے ایک دن میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے (ان دونوں میں ایک تھا) کہا: ہمارے گمان میں ام سلمہ کے پاس اتنی دیر جو رسول اللہ ﷺ ٹھہرتے ہیں ضرور ان سے خلوت کرتے ہوں گے یہ تصور کر کے ہمیں صدمہ ہوا حتیٰ کہ ہم نے جاسوس بھیجا کہ وہ تحقیق کر کے آئے کہ آپ ان کے پاس اتنی دیر تک کیوں ٹھہرتے ہیں؟ معلوم ہوا جب آپ سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں تو آپ شہد کا کپا نکال لاتی ہیں اور اس کا منہ کھول دیتی ہیں اور آپ شہد چائے رہتے ہیں آپ کو شہد بہت پسند تھا۔ دونوں نے سوچا کہ ایسی کیا چیز ہے جس کا حوالہ دے کر ہم آپ کو نفرت دلائیں تاکہ آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کافی دیر تک نہ ٹھہریں؟ پھر دونوں بولیں: بدبو سے زیادہ نفرت دلانے کے لیے کوئی چیز نہیں آپ سے کہا جائے کہ آپ سے کسی چیز کی بدبو آ رہی ہے لہذا آپ جس کے پاس جائیں وہی کہے کہ آپ سے کسی چیز کی بدبو آ رہی ہے آپ فرمائیں گے یہ خوشبو شہد کی ہے جو میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر چائا ہے پھر وہ یہ جواب دے: شاید شہد کی کھبوں نے عرق کے پھول چوس کر شہد جمع کیا ہو۔ پھر جب آپ صدیقہ کے پاس آئے اور ان کے قریب ہوئے تو بولیں: میں آپ سے ایک چیز پاتی ہوں آپ نے کیا کھایا ہے؟ فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر شہد استعمال کیا ہے بولیں: یا رسول اللہ شاید شہد کی کھبوں نے عرق کے پھول چوس کر شہد جمع کیا ہوگا، پھر آپ صدیقہ کے پاس سے اٹھ کر حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے قریب ہوئے تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی بات کہی جو صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہی تھی پھر جب دونوں نے فرداً فرداً کہا کہ میں آپ سے ایک چیز پارہی ہوں تو آپ کو اس شہد سے نفرت ہوگئی پھر اس کے بعد جب آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور انہوں نے شہد حاضر کیا تو آپ نے فرمایا اسے اٹھا لو مجھے اس کی ضرورت نہیں فرماتی ہیں: اللہ کی قسم ہم کو خیال تھا کہ ہم نے ایک عظیم امر انجام دیا ہے اور ہم نے آپ کو آپ کو مرغوب شے سے روک دیا ہے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن ابراہیم بن محمد بن ابی موسیٰ از داؤد بن حصین از عبد اللہ بن رافع: میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ار آیت کے بارے میں پوچھا: ﴿یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک﴾ یعنی اے نبی آپ سے کیوں حرام کرتے ہیں جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمادی ہے فرماتی ہیں: میرے پاس سفید شہد کا ایک کپا تھا یہ شہد شہد کی کھبوں نے جھاڑیوں کے پھول چوس

کرم جمع کیا تھا، نبی ﷺ کو شہد پسند تھا اور آپ اسے چانا کرتے تھے پھر صدیقہ نے آپ سے کہا: اس کی کھبیوں نے عرفط کے پھولوں سے شہد جمع کیا ہے، آخر کار آپ نے اسے اپنے اوپر حرام فرمایا، پھر یہ آیت اتری۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد الرحمن از محمد بن عبد الرحمن از عمرہ: میں نے صدیقہ کے مرض الموت میں ام سلمہ سے صدیقہ کے گھر میں سنا، فرما رہی تھیں: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کا ہر گناہ معاف فرمائے اور جنت میں میری آپ سے ملاقات کرائے، میں نے کہا: امی جان! شہد کا واقعہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ واقعہ صدیقہ نے مجھے بتایا تھا۔ ام سلمہ نے فرمایا: وہی واقعہ ہے جو صدیقہ نے تمہیں بتایا تھا۔ پھر حدیث ابوالزناد کے ہم مثل حدیث (از ہشام وہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے) بیان فرمائی۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن سفیان از عبد الکریم بن ابی امیہ: میں نے عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کر لی تھی؟ بولے: شہد کا کپا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن زہری از محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام از عائشہ: ازواج مطہرات نے سرور عالم ﷺ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا، آپ نے اجازت مانگی رسول اللہ ﷺ صدیقہ کے پاس ان کی چادر میں تھے آپ نے انہیں اندر بلا لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ! آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی میں برابری چاہتی ہیں، فرمایا: پیاری بیٹی! کیا میری محبوب شے تم کو محبوب نہیں؟ بولیں: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! فرمایا: تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے محبوب رکھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں وہاں سے اٹھ کر ازواج مطہرات کے پاس آئی اور میں نے انہیں نبی ﷺ کا جواب بتایا، بولیں: تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، پھر آپ کے پاس جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ کی قسم اس بارے میں میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گی، پھر انہوں نے زینب بنت جحش کو بھیجا، انہوں نے آ کر اجازت مانگی آپ نے انہیں اجازت دے دی، زینب نے اندر آ کر کہا: یا رسول اللہ! مجھے آپ کی بیویوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے مساوات کی خواست گار ہیں: پھر زینب نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا اور خوب کہا سنا۔ میں آپ کو دیکھتی رہی کہ کب آپ مجھے جواب کی اجازت دیتے ہیں، میں برابر دیکھتی رہی حتیٰ کہ میں پہچان گئی کہ رسول اللہ ﷺ انتقامی جواب سے ناراض نہ ہوں گے پھر تو میں نے بھی زینب رضی اللہ عنہا کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں خاموش ہی کر کے دم لیا، رسول اللہ ﷺ نے مسکرا کر فرمایا: یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن زہری از علی بن حسین: ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر کہو کہ آپ کی بیویاں ابو قحافہ کی بیٹی میں آپ سے برابری کی طلب گار ہیں لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک زمانہ تک رکی رہیں اور انہوں نے یہ کام انجام نہیں دیا حتیٰ کہ ان کے پاس زینب بنت جحش آئیں (زینب ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقابلہ کی تھیں) اور ان سے اس سلسلہ میں باتیں کیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں یہ کام کرتی ہوں، آخر کار آپ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر کہا کہ مجھے آپ کی بیویوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ ابو قحافہ کی بیٹی میں مساوات

کی طلبگار ہیں، نبی ﷺ نے فرمایا: زینبؓ نے تم کو بھیجا ہے؟ حضرت فاطمہؓ نے جواب دیا کہ زینبؓ نے ہی ﷺ نے اور دیگر بیویوں نے بھیجا ہے، فرمایا سچ بتاؤ کیا زینبؓ ہی اس کی کرتی دھرتی ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ رسول اللہ ﷺ مسکرانے لگے، حضرت فاطمہؓ نے ہی ﷺ نے واپس آ کر ازواج مطہرات کو مطلع کر دیا۔ زینبؓ بولیں: اے بنت رسول اللہ ﷺ! آپ نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ازواج مطہرات نے زینبؓ ہی ﷺ سے کہا تم جاؤ۔ چنانچہ زینبؓ گئیں اور رسول اللہ ﷺ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا: زینبؓ ہیں، اندر بلاؤ، زینبؓ نے اندر آ کر کہا: ابوقافہ کی بیٹی جب آپ کو اپنے چمکیلے بازو دکھا دیتی ہیں تو وہی آپ کو کافی ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان برابری کیجئے اور زینبؓ نے عائشہؓ کو آڑے ہاتھوں لیا جس سے انہیں صدمہ ہوا۔ زہری کہتے ہیں: میں نے علی بن حسینؓ سے پوچھا: کیا آپ کی نگاہ میں قدر عائشہؓ اور زینبؓ ہی کی تھی؟ فرمایا: آپ کو ام سلمہ سے بھی محبت تھی اور آپ کی نگاہ میں ان کی بھی قدر تھی۔

باخبار محمد بن عمرؓ بخیر از زیاد بن ابی زیاد از ابن کعب قرظی: رسول اللہ ﷺ کو بیویوں کی تقسیم کے بارے میں گنجائش تھی کہ ان میں جس طرح چاہیں تقسیم کریں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ذَلِكَ ادْنٰیٰٓ اَنْ تَقْرٰٓءِ عٰیٰتِہِۥنَّۙ اَللّٰہِۙ عٰیٰتِہِۥنَّۙ لٰعٰنٰیۥہٗۤ اَسۥۤ اَسۥۤۙ بٰتِۥۤۙ كِے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ باخبار محمد بن عمرؓ بخیر از معمر از قتادہ: ہم مثل۔

باخبار محمد بن عمرؓ بخیر از قتادہ از انس بن مالک: آپ جب اپنی تمام عورتوں سے غسل کرتے تھے تو پانی میں ڈالا کرتا تھا۔ باخبار محمد بن عمرؓ بخیر از سالم مولیٰ ثابت از سالم مولیٰ ابو جعفر از ابو جعفر: ہم مثل۔

باخبار محمد بن عمرؓ بخیر از معاویہ بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع از عبد اللہ اپنی دادی سلمیٰ رسول اللہ ﷺ کی آزاد کردہ لونڈی سے: ایک شب رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں کے پاس گئے، ان بیویوں کے پاس جن کو چھوڑ کر آپ نے وفات پائی، جب آپ ایک سے فارغ ہوتے تو سلمیٰ سے فرماتے: پانی ڈال اور دوسری کے پاس جانے سے قبل غسل کر لیتے، میں بولی: یا رسول اللہ کیا آپ کو ایک غسل کافی نہیں؟ فرمایا: اس طرح طہارت و پاکی خوب ہوتی ہے۔
سرور عالم ﷺ کا اہم بات المؤمنین کو پردہ کا حکم:

باخبار محمد بن عمرؓ بخیر از محمد بن عبد اللہ از زہری از انس بن مالک: رسول اللہ ﷺ کی زینب بنت جحش کے ساتھ شب عروسی سے پردہ کی آیت کے اترنے کی ابتداء ہوئی۔ انس کہتے ہیں: ابی بن کعب مجھ سے یہ حدیث پوچھا کرتے تھے، فرماتے ہیں: زینب کے ساتھ شب عروسی کی صبح کو آپ نے لوگوں کی دعوت کی اور لوگ کھانا کھا کر چلے گئے لیکن چند حضرات مکان میں باقی رہ گئے، وہ رہ گئے اور آپ کے گھر میں کافی دیر تک بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے پھر رسول اللہ ﷺ اٹھ گئے اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی اٹھ گیا حتیٰ کہ ہم حضرت عائشہؓ کے گھر کی چوکھٹ تک آئے پھر آپ یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ لوگ چلے گئے ہوں گے واپس گئے، میں بھی آپ کے ساتھ گیا اور زینب کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ باہر آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ باہر آیا حتیٰ کہ آپ حضرت عائشہؓ کے حجرے کی چوکھٹ تک پہنچے پھر آپ نے خیال کیا کہ وہ چلے گئے

ہوں گے چنانچہ آپ لوٹے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا دیکھا تو وہ چلے گئے تھے پھر آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا اور پردہ کی آیت اتر آئی۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن ابی قتادہ از اسحق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ از انس: پردہ کی آیت اس وقت اتری جب رسول اللہ ﷺ نے زینب بنت علیؓ سے خلوت کی یعنی ۵ھ میں اور آپ نے مجھ سے امہات المؤمنین کا پردہ کر دیا اس وقت میں ۱۵ سال کا تھا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن ابی قتادہ از اسحق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ از انس بن مالک: زینب بنت جحش سے بنا کے وقت پردہ کی آیت اتری آپ کے لیے ام سلیم نے پتھر کے ایک ٹشت میں حبس بنا کر بھیجا آپ نے مجھ سے فرمایا: جاؤ اور جو مسلمان دیکھو اس کو بلاؤ چنانچہ مجھے جو مسلمان ملا میں اس کو بلا لیا لوگ آ کر کھانے لگے اور فارغ ہو ہو کر جانے لگے رسول اللہ ﷺ نے کھانے پر دست مبارک رکھ کر اس میں برکت کی دعا فرمادی تھی ان میں چند حضرات بائیں کرتے ہوئے گھر میں بیٹھے رہے رسول اللہ ﷺ کو شرم آئی کہ آپ ان سے جانے کے لیے کہیں پھر آپ انہیں گھر میں بیٹھا ہوا چھوڑ کر باہر تشریف لے آئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ یعنی اے ایمان والو! بلا اجازت کے نبی کے گھروں میں نہ جاؤ۔ نازل فرمادی۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن ابی عثمان از انس از نبی اکرم ﷺ: ہم مثل۔ باخبار محمد بن عمر، محمد بن موسیٰ بن عبیدہ از ابن کعب: نبی ﷺ جب اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے تو لوگ آپ سے پہلے ہی گھر میں جا کر بیٹھ جاتے اس سے آپ کے چہرے سے کراہت کے آثار مترشح نہ ہوتے تھے اور آپ ان سے شرم کر کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے تھے اس پر لوگوں کو عتاب کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتِ النَّبِيِّ﴾ اتاری یعنی اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں نہ جاؤ الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے اور تم کھانے کے پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھو ہاں جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ جاؤ اور باتوں میں مشغول ہو کر وہاں نہ ٹھہرو کیونکہ تمہارا یہ فعل نبی کو ایذا پہنچاتا ہے اور وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق سے نہیں شرماتا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن ابی قتادہ از عاتشہ: امہات المؤمنین رات میں قضائے حاجت کے لیے میدانوں میں جایا کرتی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے کہتے رہتے تھے کہ امہات المؤمنین کا پردہ کر دیجئے لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے ایک رات سودہ بنتیؓ جو ایک لمبی عورت تھیں قضائے حاجت کے لیے گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پردہ کے شوق میں آ کر انہیں آواز دے کر بلند آواز سے کہا: سودہ! ہم نے تم کو پہچان لیا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن یحییٰ بن عبد الرحمن بن ابی الزناد و نافع از ہشام بن عروہ از عروہ از عاتشہ: پردہ کا حکم آنے کے بعد میں اور سودہ بنتیؓ دونوں عشاء کے وقت قضائے حاجت کے لیے گئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سودہ بنتیؓ کو دیکھ لیا اور انہیں پہچان گئے۔ فرماتی ہیں: سودہ ایک لمبی عورت تھیں اور لمبی بھی کافی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دے کر کہا: سودہ! اللہ کی قسم تم ہم سے چھپ

نہیں سکتیں پھر سووہ نبی ﷺ کے پاس آئیں اور یہ واقعہ آپ سے بیان کیا اس وقت رحمت عالم ﷺ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جس میں سے آپ کھا رہے تھے فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے قضائے حاجت کے لیے میدانوں میں جانے کی تمہیں اجازت دے دی ہے۔

باخبر محمد بن عمر، محمد بن اسحاق بن یحییٰ از مجاہد از ابن عباس: امہات المؤمنین کا پردہ عمر کی وجہ سے اترا، حضرت عمر نبی ﷺ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے آپ کا ہاتھ کسی ام المؤمنین کے ہاتھ پر پڑ گیا پھر آپ کو پردہ کرانے کا حکم دے دیا گیا۔
باخبر محمد بن عمر، محمد بن عبد الحمید بن عمران از ابوالصباح موسیٰ بن ابی کثیر از مجاہد: ہم مثل۔ باخبر محمد بن عمر، محمد بن سعید بن بشیر از قتادہ از ابوالشیخ ہنائی از ابن عباس: ہم مثل۔

باخبر محمد بن عمر، محمد بن اسحاق بن یحییٰ از مجاہد از ابن عباس: امہات المؤمنین کے پاس کون آتے جاتے تھے؟ فرمایا: ہر محرم خواہ نسبی حرمت ہو یا رضاعی۔ پوچھا گیا: اور دوسرے لوگ؟ فرمایا: امہات المؤمنین ان سے پردہ کیا کرتی تھیں اور ان سے پردے کے پیچھے سے بات کیا کرتی تھیں اور صرف ایک پردہ تھا۔

باخبر محمد بن عمر، محمد بن اسحاق بن یحییٰ از مجاہد از ابن عباس: امہات المؤمنین کے پاس کون آتے جاتے تھے؟ فرمایا: ہر محرم خواہ نسبی حرمت ہو یا رضاعی۔ پوچھا گیا: اور دوسرے لوگ؟ فرمایا: امہات المؤمنین ان سے پردہ کیا کرتی تھیں اور ان سے پردے کے پیچھے سے بات کیا کرتی تھیں اور صرف ایک پردہ تھا۔

باخبر محمد بن عمر، محمد بن سعید بن عبد اللہ بن جعفر، بسماع صالح بن کیسان: پردہ امہات المؤمنین پر ذی قعدہ ۵ھ میں اترا۔
پردے سے پہلے کے حالات:

باخبر محمد بن عمر، محمد بن اسحاق بن یحییٰ از مجاہد از ابن عباس: امہات المؤمنین قضائے حاجت کے لیے رات میں نکلا کرتی تھیں اور منافق غنڈے ان سے تعرض کیا کرتے تھے جن سے انہیں ایذا پہنچتی تھی جب اس بات کی لوگوں نے شکایت کی تو منافقوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا: ہم تو لونڈیوں سے تعرض کرتے ہیں آزاد و شریف خواتین کو نہیں چھیڑتے، اس پر یہ آیت اتری: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴾ یعنی اے نبی آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرمادیں کہ چادریں اوڑھ کر نکلا کریں یہ طریقہ شریف خواتین کے پہچانے جانے کے قریب تر ہے تاکہ انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے۔

باخبر محمد بن عمر از سعید بن بشیر از قتادہ از حسن: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ) مدینہ میں کچھ نادان لوگ لونڈیوں کو چھیڑا کرتے تھے اور انہیں ایذا پہنچانی جاتی تھی پھر جب آزاد عورت نکلتی تو اسے لونڈی سمجھ کر ایذا دی جاتی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم فرمایا کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔

باخبر محمد بن عمر از ابن ابی سبرہ از ابو جحر از ابن کعب قرظی: ایک منافق مسلمان عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اور انہیں ایذا پہنچایا کرتا تھا جب اس سے اس سلسلہ میں پوچھا جاتا تو کہتا: میں نے تو لونڈی سمجھا تھا آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو حکم فرمایا کہ

لوٹ یوں کی بیعت کے خلاف کریں اور اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیا کریں یعنی ایک آنکھ چھوڑ کر اپنا منہ چھپا لیا کریں یہ پہچانے جانے کا بہترین طریقہ ہے یعنی آزاد و لوٹنی دور ہی سے معلوم ہو جاتی ہے۔

باخبار محمد بن عمر از عمر بن حبیب از صالح بن ابی حسان از عبید بن حنین (لین لمر ینتہ المنافقون الخ سے لے کر ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا تک کی تفسیر میں یعنی اگر منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے) اس آیت میں مخصوص منافقوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں اڑانے والے ہیں وہ تمام دوسرے منافق ہیں۔ اور وہ مدینہ میں آپ کے پاس چند دنوں کے علاوہ رہنے نہ پائیں گے ان پر اللہ کی پھینکا رہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے قتل کر دیئے جائیں گے یہ اللہ کا طریقہ ہے اور آپ اللہ کے طریقہ کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے۔

باخبار محمد بن عمر از اسامہ بن زید بن سلم از ابن کعب (مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں) منافقوں سے مخصوص منافق مراد ہیں اور روگ سے شک مراد ہے اور جن کے دلوں میں روگ ہے وہ عام منافق ہیں۔
امہات المؤمنین کے سامنے بے پردہ کون آسکتا تھا؟

باخبار محمد بن عمر متحدت محمد بن عمر از زہری: زہری سے پوچھا گیا کہ امہات المؤمنین کے پاس بے پردہ کون آتے جاتے تھے؟ فرمایا محرم حضرات جن کی حرمت رضاعت سے یا نسب سے ثابت تھی پوچھا گیا: اور دوسرے لوگ؟ فرمایا: امہات المؤمنین غیر محرم سے پردہ کیا کرتی تھیں حتیٰ کہ اس سے بات بھی پردہ کے پیچھے سے کیا کرتی تھیں اور بسا اوقات ایک ہی پردہ ہوتا تھا البتہ وہ غلاموں سے اور مکاتب غلاموں سے پردہ نہیں کیا کرتی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر متحدت ابراہیم بن زید کی وسفیان بن عیینہ از عمر بن دینار از ابو جعفر: حسن اور حسین رضی اللہ عنہما امہات المؤمنین کو نہیں دیکھا کرتے تھے پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے پردہ نہیں۔ باخبار محمد بن عمر از ابن ابی سبرہ از عبد الحمید بن سہیل از عکرمہ بسامع ابن عباس: (جب کہ آپ کو معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا حسن رضی اللہ عنہ سے پردہ کرتی ہیں) حسن رضی اللہ عنہ کا عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھنا حلال ہے۔

باخبار محمد بن عمر از عمر و عبد الرحمن بن عبد العزیز و محمد بن عبد اللہ از زہری از بہان مولیٰ ام سلمہ رضی اللہ عنہا: ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بہان سے حالت کتابت میں کہا: ابو یحییٰ! کیا تیرے پاس اتنی رقم ہے جو کتابت کی رقم سے زیادہ ہو؟ بولے ہاں ہے فرمایا: میرے ہتھیارے کو دے دے میں نے ان کے نکاح میں اس سے ان کی اعانت کی ہے۔ بہان نے رو کر کہا: میں وہ انہیں ہرگز دینے والا نہیں فرمایا: اگر تو مجھے نہ دیکھ سکے تو نہ دیکھ لیتی مجھ سے پردہ کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی کا مکاتب ہو اور اس پر کتاب کی رقم باقی نہ رہے تو اس سے پردہ کرو۔

باخبار محمد بن عمر از اسامہ بن زید و عثیم بن نسطاس و سعید بن مسلم بن بابک بخیر سالم سلان: میں بنی نصر کے ایک شخص کا مکاتب تھا اور امہات المؤمنین کو سوار کرایا کرتا تھا اور وہ مجھ سے پردہ نہیں کیا کرتی تھیں اور مطلق غلاموں اور مکاتب غلاموں سے بھی

پردہ نہیں کیا کرتی تھیں ہاں اگر انہیں آزاد کر دیتی تھیں تو ان سے پردہ کیا کرتی تھیں۔

باخبر محمد بن عمر متحد ریث عمر و محمد بن عبد اللہ از زہری از زہبان از ام سلمہ رضی اللہ عنہا: میں اور میمونہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اتنے میں ابن مکتوم آپ کے پاس آگئے (پردہ کا حکم آچکا تھا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان سے پردہ کرو، ہم نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ناپائیدار ہیں دیکھ نہیں سکتے، فرمایا: کیا تم بھی ناپائیدار ہو؟ کیا تم ان کو دیکھ سکتی نہیں؟

باخبر محمد بن عمر متحد ریث ثوری از فراس از شعبی از مسروق از عائشہ: النبی اولی بالمؤمنین النخ کی تفسیر میں، یعنی نبی مومنوں کو ان کے نفسوں سے زیادہ قریب ہے اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں) کی تفسیر میں: صدیقہ کو ایک عورت نے ام المؤمنین کہہ دیا، فرمایا میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں عورتوں کی نہیں، پھر میں نے یہ حدیث عبد اللہ بن موسیٰ مخزومی سے بیان کی، فرمایا: مجھے مصعب بن عبد اللہ بن ابی امیہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ انہوں نے فرمایا: میں تمہارے مردوں اور عورتوں کی ماں ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو کیوں چھوڑا اور انہیں کیوں اختیار دیا؟

باخبر محمد بن عمر متحد ریث جابر بن ابی عمران بسماع ابو سلمہ حضرمی: میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبد اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دونوں باتیں کر رہے تھے جابر رضی اللہ عنہ کی بیٹائی جاتی رہی تھی، پھر ایک شخص نے آ کر سلام کیا اور بیٹھ کر کہنے لگا: ابو عبد اللہ! مجھے آپ کے پاس عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو کیوں چھوڑا؟ جابر نے کہا: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن رات غیر حاضر پایا آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لائے جس سے ہمارے دلوں میں طرح طرح کے دوسے آنے لگے آخر کار ہم آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور باتیں کرنے لگے تاکہ آپ ہماری گفتگو سن لیں، اور ہماری موجودگی معلوم کر لیں ہم کافی دیر تک ٹھہرے رہے لیکن آپ نے ہمیں اندر نہیں بلایا اور نہ آپ باہر تشریف لائے، فرماتے ہیں ہم نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری موجودگی معلوم ہے اگر آپ تمہیں اندر بلانا چاہتے تو بلا لیتے لہذا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اور آپ کو ایذا نہ پہنچاؤ چنانچہ بجز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تمام لوگ اپنے اپنے گھر چلے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانتے رہے اور باتیں کرتے رہے اور اندر آنے کی اجازت مانگتے رہے حتیٰ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اندر جاتا ہوں آپ اپنا ہاتھ رخسارے پر رکھے ہوئے تشریف فرما ہیں اور میں آپ کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار پاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو کسی چیز نے تردد میں ڈال رکھا ہے اور لوگ آپ کو نہ دیکھنے کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ فرمایا: عمر! یہ عورتیں (امہات المؤمنین) مجھ سے وہ مانگ رہی ہیں جو میرے پاس نہیں اسی نے مجھے پریشانی میں ڈال رکھا ہے، میں عرض کرتا ہوں: اے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے جلیلہ بنت ثابت کے ایسا طمانچہ مارا جس نے ان کا رخسارہ زمین سے چپکا دیا کیونکہ انہوں نے مجھ سے ایسی چیز کا سوال کیا تھا جس پر میں قادر نہ تھا، یا رسول اللہ آپ تو اپنے رب کے وعدے پر ہیں اور حق تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کرنے والا ہے، فرماتے ہیں: میں لگاتار آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملال کے کچھ آثار بٹے ہوئے دیکھتا ہوں، فرماتے ہیں: پھر میں باہر آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہوں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آمدہ واقعہ کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کہتے ہیں: تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ امہات المؤمنین سے چھپا کر کوئی چیز نہیں رکھتے خبردار تم آپ سے کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو آپ کے پاس نہ ہو اپنی ضرورت کی چیزیں مجھ سے طلب کر لو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کہتے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر اسی طرح کہتے ہیں: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں: تم کون جب کہ رسول اللہ ﷺ بذات خود حکم کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں اگر آپ ہمیں کسی چیز سے روکتے تو روک دیتے، اگر ہم اپنی ضرورت کی چیزیں رسول اللہ ﷺ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ کیا تم دونوں کے اور تم دونوں کی بیویوں کے درمیان کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم تم کو اس کی تکلیف نہ دیں گے، آخر کار حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے چلے جاتے ہیں پھر امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں: تم نے جو کام کیا ہے حق تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم انہیں کچھ بھی جواب نہ دے سکیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں: کیا حدیث اسی طرح نہیں؟ فرماتے ہیں۔ ہاں اسی طرح ہے اور کچھ باقی بھی ہے۔ جابر کہتے ہیں: میں باقی حدیث بھی ان شاء اللہ بیان کرنے والا ہوں پھر فرماتے ہیں: پھر حق تعالیٰ نے اس میں ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَؤْتِيَنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ عَالِمِينَ﴾ اتاری یعنی اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرمادیں اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی خوبصورتی چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو متعہ دے کر خوبصورتی سے چھوڑ دوں گا (متعہ سے متعہ طلاق مراد ہے اور تسريح سے اچھی طلاق دینا مراد ہے) اور اگر تم اللہ کو اور رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو یعنی اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو آپ کے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا۔ الغرض رسول اللہ ﷺ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں دو باتوں میں اختیار دوں یا تو تم اللہ کو اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو اختیار کر لو یا دنیا کو اور دنیوی زینت کو اختیار کر لو میں سب سے پہلے تمہارے پاس ہی آیا ہوں اور تمہیں اختیار دیتا ہوں بولیں: یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھ سے پہلے کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں گئے؟ فرمایا: نہیں بولیں: میں اللہ کو اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں اور چلتی ہوں میری اس بات کو چھپائیے اور اپنی کسی بیوی کو اس کی خبر نہ کیجئے، فرمایا: بلکہ میں تو انہیں خبر کر دوں گا پھر آپ نے تمام امہات المؤمنین کو خبر کر دی اور سب نے اللہ کو اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چن لیا۔ آپ نے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا تھا کہ وہ چاہیں تو دنیا کو ترجیح دیں اور چاہیں تو آخرت کو آخر انہوں نے آپ کے بعد کسی سے نکاح نہ کرنے کو ترجیح دی پھر فرمایا اے نبی کی عورتو! اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی (زنا) کا ارتکاب کرے گی تو اس کے لیے (آخرت میں) دگنا عذاب ہے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے اور اگر تم میں سے کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اسے (آخرت میں) دہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے اے نبی کی عورتو! تم کسی دوسری عورت کی طرح نہیں اگر تم اللہ سے ڈرو تو نرمی سے بات نہ کرنا کہ اسے (فجور) کا لالچ ہو جس کے دل میں روگ ہے اور معروف بات کہنا اور اپنے گھروں میں چھپی رہنا اور جاہلیت اولیٰ کی زینت کی طرح زینت کر کے نہ نکلنا یعنی نہ اپنے گھروں سے نکلنا اور نہ زینت کرنا، یعنی بلا چادر اوڑھے نہ نکلنا جیسے جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ ابوسعید نے کہا یہ حدیث اپنی اصلی حالت پر ہے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابراہیم بن سعد از صالح بن کیسان از زہری از عبدالمحید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب از محمد بن سعد بن ابی وقاص: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حال میں رسول اللہ ﷺ کے پاس جانے کی اجازت مانگی کہ قریش کی عورتیں آپ سے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں اور آپ سے کپڑے مانگ رہی تھیں پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ فوراً چھپ گئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر اس حال میں آئے کہ سرور عالم ہنس رہے تھے بولے: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہوا ہی رکھے فرمایا: میں ان عورتوں پر ہنس رہا ہوں جو میرے پاس تھیں پھر جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً پردے میں چلی گئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اپنے نفسوں کی دشمن عورتو! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ ﷺ سے نہیں ڈرتیں؟ اندر سے آواز آئی کہ تم سنگدل اور بدخلق ہو رسول اللہ ﷺ ایسے نہیں ہیں پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کبھی کسی گلی میں شیطان تمہارے سامنے آ جاتا ہے تو کتر کر دوسری گلی سے گزر جاتا ہے۔

باخبار محمد بن عمرو بحدیث ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے: آپ کے پاس امہات المؤمنین تھیں اور آپ سے کپڑے مانگ رہی تھیں اسی حال میں آپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے (آگے حسب سابق حدیث ہے)۔



سرور عالم ﷺ پر چڑھائی کرنے والی دو امہات المؤمنین کون کون تھیں؟ اور آپ کا

ازواج مطہرات کو اختیار دینا

باخبار محمد بن عمر بخاری سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا: میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تو تمہارے دل جھک گئے ہیں اور اگر آپ پر چڑھائی کرو تو اللہ جبرئیل اور صلوات آپ کے مددگار ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ایک بار حج کیا میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا آپ (قضائے حاجت کے لیے) راہ سے ہٹ گئے، میں بھی پانی لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو میں نے پانی ڈال کر وضو کر لیا پھر میں نے کہا: امیر المؤمنین! وہ دو ازواج مطہرات کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ﴿ان تتوبوا الی اللہ فقد صفت قلوبکم﴾ فرمایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابن عباس! حیرت ہے کہ تمہارا ذہن ان تک نہیں پہنچا، وہ دونوں عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں پھر آپ حدیث بیان فرمانے لگے اور فرمایا: میں اور میرا انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید میں رہا کرتے تھے اور ہم باری باری سرکار رسالت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ایک دن وہ حاضر ہوا کرتے تھے اور ایک دن میں اگر میں آتا تو اس دن کی وحی وغیرہ کی تمام خبریں انہیں بتا دیا کرتا تھا اور جب وہ آتے تو وہ بھی مجھے بتا دیا کرتے تھے ہم قریشی عورتوں پر حاوی تھے لیکن انصار میں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں ہماری خواتین بھی انصاریہ خواتین کی ریس کرنے لگیں اور ان کے رنگ میں رنگ گئیں، ایک دن میں اپنی بیوی پر چیخا اس نے بھی چیخ کر مجھے جواب دیا۔ مجھے اس کا جواب دینا ناگوار گزارا اور میں نے اسے کہا سنا، بولی تم کو میرا جواب کیوں ناگوار گزارتا ہے؟ اللہ کی قسم امہات المؤمنین بھی نبی ﷺ کو جواب دیتی ہیں اور بعض بیوی تو آپ سے پورے دن بات نہیں کرتی۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا اور میں نے کہا اس کی حرماں نصیبی اور گھائٹے میں کیا شبہ ہے جو آپ کے ساتھ ایسا کرتی ہے پھر میں کپڑے پہن کر باہر نکلا اور سیدھا حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور بولا: حفصہ! کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ ﷺ سے دن بھر ناراض رہتی ہے؟ بولیں: ہاں، میں نے کہا: پھر تو وہ بد نصیب ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ رسول کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور وہ تم کو ہلاک کر دے؟ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ نہ مانگا کرو نہ انہیں الٹ کر جواب دیا کرو اور نہ انہیں چھوڑا کرو تم اپنی ضرورتیں مجھ سے طلب کر لیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ریس کر کے دھوکا نہ کھانا وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور رسول اللہ ﷺ کو بہت ہی محبوب ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم میں آپس میں چرچا تھا کہ شاہ عسماں ہم سے لڑنے کے

لیے گھوڑوں کے نعل جڑوا رہا ہے۔ فرماتے ہیں: میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن عشاء کے وقت واپس آتا ہے اور میرا دروازہ زور سے کھٹکتا ہے اور کہتا ہے: کیا وہ سو رہے ہیں؟ میں گھبرا کر اس کے پاس باہر آتا ہوں۔ وہ کہتا ہے آج ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں: کیا واقعہ پیش آ گیا؟ کیا شاہ غسان آ گیا؟ کہتا ہے: نہیں بلکہ اس نے بھی اہم اور طویل واقعہ ہے رسول اللہ ﷺ نے امہات المؤمنین کو طلاق دے دی۔ میں کہتا ہوں: حصہ محروم ہو گئی اور گھائے میں پڑ گئی مجھے تو پہلے ہی سے خیال تھا کہ ایسا عنقریب ہونے والا ہے پھر میں کپڑے پہنتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھتا ہوں آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے بالا خانہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں: پھر میں حصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتا ہوں اور انہیں روتی ہوئی پاتا ہوں پوچھتا ہوں: کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تم کو یہ بات پہلے ہی نہیں بتا دی تھی؟ کیا رسول اللہ ﷺ نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ فرماتی ہیں: مجھے معلوم نہیں آپ اس بالا خانہ میں گوشہ نشین ہیں فرماتے ہیں: پھر میں وہاں سے اٹھ کر مسجد نبوی میں منبر کے پاس آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے بعض حضرات رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں: میں بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں پھر بے قراری مجھ پر غالب آتی ہے اور میں اٹھ کر اس بالا خانہ کے پاس پہنچتا ہوں جس میں رسول اللہ ﷺ تشریف فرما ہیں اور چشمی غلام سے کہتا ہوں: عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت لے آ فرماتے ہیں: غلام اندر جا کر آپ سے بات کرتا ہے پھر میرے پاس آ کر کہتا ہے: میں نے آپ کے سامنے آپ کا ذکر کر دیا ہے لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا: فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے لوٹ آتا ہوں اور انہیں حضرات کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہوں جو منبر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں فرماتے ہیں: پھر مجھ پر بے کلی غالب آتی ہے اور بالا خانہ کے پاس جا کر غلام سے کہتا ہوں کہ عمرؓ کے لیے اجازت لے آ غلام اندر جا کر آپ سے بات کرتا ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ کا ذکر کیا مگر آپ خاموش رہے۔ فرماتے ہیں: پھر میں منبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں پھر بے چینی مجھ پر غالب آتی ہے اور میں بالا خانہ کے پاس جا کر غلام سے کہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت لے آ غلام اندر جا کر واپس آتا ہے اور کہتا ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ کا ذکر کیا مگر آپ خاموش رہے پھر جب میں بیٹھ موڑ کر واپس جانے لگتا ہوں تو اچانک غلام مجھے آواز دے کر کہتا ہے: آپ کو رسول اللہ ﷺ نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے آخر کار میں حاضر خدمت نبوی ہوتا ہوں دیکھتا ہوں آپ ایک تنگی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس پر بستر وغیرہ بچھا ہوا نہیں بوریے کے نشانات آپ کی کروٹ میں نمایاں ہوئے ہیں۔ پھر میں آپ کو کھڑے کھڑے سلام کر کے عرض کرتا ہوں: یا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی؟ آپ نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں: نہیں۔ میری زبان سے اللہ اکبر نکل جاتا ہے پھر میں آپ کا غم غلط کرنے کے لیے کھڑے کھڑے عرض کرتا ہوں: ہم قرشی عورتوں پر غالب تھے لیکن ہم مدینہ میں ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کی عورتیں ان پر حاوی ہیں کاش آپ دیکھتے کہ ایک دن میں اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہوں پھر وہ مجھے الٹ کر جواب دیتی ہے میں اسے جواب پر ٹوکتا ہوں تو کہتی ہے: کیا تمہیں میرا جواب دینا ناگوار گزرتا ہے امہات المؤمنین رسول اللہ ﷺ کو جواب دیتی ہیں اور آپ سے بولنا ترک کر دیتی ہیں اور بعض تو آپ سے دن بھر ناراض رہتی ہیں اور بات نہیں کرتیں میں کہتا ہوں: حصہ رضی اللہ عنہا محروم ہو گئی اور گھائے میں پڑ گئی، کیا کوئی بیوی اس بات سے بے خوف ہے کہ اس سے رسول اللہ ﷺ کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ

ناراض ہو جائے پھر تو وہ ہلاک ہو جائے گی (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ مسکرانے لگتے ہیں، پھر میں عرض کرتا ہوں: یا رسول اللہ! کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں حصہ جی عیسیٰ کے پاس جا کر ان سے کہتا ہوں: تم عائشہ رضی اللہ عنہا کی ریس نہ کرنا اور دوھکا نہ کھا جانا وہ تو تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور رسول اللہ ﷺ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ ﷺ دوسری بار مسکرا دیتے ہیں، فرماتے ہیں: جب میں آپ کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ کے کمرے میں چاروں طرف غور سے دیکھتا ہوں اللہ کی قسم میں اس میں کوئی خوشنما چیز نہیں پاتا البتہ تین کھالیں ضرور دیکھتا ہوں: عرض کرتا ہوں: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو وسعت و فراخی عطا فرمائے، پارسیوں اور رومیوں پر دولت کی ریل پیل ہے اور انہیں دنیا ملی ہوئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ایک لگائے بیٹھے تھے میری یہ بات سن کر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں: اے ابن خطاب! کیا آپ شک میں ہیں؟ (کہ اللہ مسلمانوں کو نہیں دے گا) انہیں دنیوی زندگی ہی میں نعمتیں دے کر جلدی کی گئی، فرماتے ہیں: میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ ﷺ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ اس بات کی وجہ سے جسے حصہ نے عائشہ پر کھول دی ناراض ہو کر ۲۹ دن علیحدہ رہے اور آپ نے عورتوں سے سخت ناراض ہو کر ایک ماہ تک علیحدہ رہنے کا عزم فرمایا تھا حتیٰ کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا۔ پھر جب ۲۹ دن گزر جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ! کیا آپ نے ہمارے پاس ایک ماہ تک نہ آنے کی قسم نہیں کھائی تھی؟ مگر آپ صرف ۲۹ دن میں تشریف لے آئے میں تو آپ کے لیے ایک ایک دن گن رہی تھی۔ فرمایا: مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے اور یہ مہینہ ۲۹ دن ہی کا تھا۔ صدیقہ فرماتی ہیں: پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار والی آیت اتار دی۔ آپ نے سب سے پہلے مجھ سے ابتداء کی اور فرمایا: میں تمہارے سامنے ایک بات کا ذکر کرتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم جواب میں جلدی نہ کرو جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کرو۔ فرماتی ہیں: مجھے یقین تھا کہ میرے والدین آپ سے علیحدہ ہونے کا مجھے حکم کرنے والے نہیں، حق تعالیٰ فرماتا ہے: اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرمادیں کہ اگر تم دنیوی زندگی کو اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں متعہ دے کر خوبصورتی سے چھوڑ دوں گا اور اگر تم اللہ کو اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اچھے عمل والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا: کیا میں اس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ کو اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں، پھر آپ نے اپنی تمام عورتوں کو اختیار دیا اور سب نے وہی جواب دیا جو صدیقہ نے دیا تھا۔

ناخبا محمد بن عمر از معمر از زہری از ہند بنت حارث از ام سلمہ: جب رسول اللہ ﷺ اپنی عورتوں سے علیحدہ ہو کر بالا خانہ میں گوشہ نشین ہو گئے تو میں رونے لگی، میرے پاس آنے والے آ کر پوچھتے تھے: کیا آپ کو رسول اللہ ﷺ نے طلاق دے دی؟ میں کہتی تھی: اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر آپ سے پوچھا: کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر آپ سے پوچھا: کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے تکبیر کہی جسے ہم نے اپنے

اپنے گھروں میں سن لیا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر آپ نے نفی میں جواب دیا ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر تکبیر کہی ہے حتیٰ کہ بعد میں ہمارے پاس بھی خبر آگئی کہ آپ نے ہمیں طلاق نہیں دی۔ باخبا محمد بن عمر بخدیث خلف بن خلیفہ از ابو ہاشم رمانی از سعید بن جبیر (وصالح المؤمنین کی تفسیر میں) اس سے حضرت عمر مراد ہیں۔

باخبا محمد بن عمر بخدیث سلیمان بن بلال و سفیان از یحییٰ بن سعید از عبید بن حنین از ابن عباس: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان دو عورتوں کے بارے میں پوچھا جنہوں نے چڑھائی کی تھی فرمایا: وہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

باخبا محمد بن عمر بخدیث عمر بن عقبہ از شعبہ بسماع ابن عباس: حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے باہر آئیں: صدیقہ کا دن تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے ہم بستری کی اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ حفصہ بولیں: دیکھئے: آپ نے جو کچھ کیا ہے میں نے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے ان سے کہا: اچھا تو یہ راز چھپا لو اور وہ (لونڈی) مجھ پر حرام ہے لیکن حفصہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر آپ کا یہ راز افشا کر دیا اور یہ بھی انہیں مژدہ سنا دیا کہ آپ نے قبلیہ کو اپنے اوپر حرام فرمایا ہے صدیقہ نے آپ سے شکایت کی کہ میرے دن قبلیہ سے خلوت کی جاتی ہے اور باقی تمام عورتوں کو ان کے دن دے دیئے جاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ﴿وَإِذَا اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا الخ﴾ یعنی جب نبی نے اپنی بعض بیوی سے راز کی ایک بات کہی پھر جب اس بات کی اس نے خبر کر دی اور اللہ نے نبی پر اس کو ظاہر کر دیا تو نبی نے اس میں سے کچھ جتلا دی اور کچھ ٹال دی پھر جب آپ نے اسے اس کی خبر دی تو بولی: آپ کو یہ بات کس نے بتائی فرمایا: یہ بات مجھے جاننے والے اور خبر دار نے بتائی۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کو ۲۹ دن چھوڑے رکھا اس پر ﴿بَابُهَا النَّبِی لَمْ تَحْرَمِ الخ﴾ اتری پھر اللہ کے حکم سے آپ نے قسم کا کفارہ دیا اور بیویوں کے پاس آگئے۔

باخبا محمد بن عمر بخبر مالک بن انس از زید بن اسلم: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ابراہیم کو حرام فرمایا اور فرمایا: وہ مجھ پر حرام ہیں اور یہ بھی فرمایا: اللہ کی قسم میں اس کے قریب نہ جاؤں گا پھر یہ آیت اتری: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ إیمانکم﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں سے حلال ہونا فرض کیا ہے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں: مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: لونڈیوں میں حرام حلال ہے جب کوئی اپنی لونڈی سے کہے: تو مجھ پر حرام ہے تو یہ کچھ نہیں اور اگر یہ کہے اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔

باخبا محمد بن عمر بخدیث ابو حاتم از جویر از ضحاک: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی اپنے اوپر حرام کر لی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ پر انکار کیا اور آپ کی تردید کی اور آپ کو قسم کا کفارہ دینا پڑا۔

باخبا محمد بن عمر بخدیث سحر از قتادہ: آپ نے لونڈی حرام کر لی پھر وہ حرمت قسم میں تبدیل ہوگئی۔ باخبا محمد بن عمر بخدیث ثوری از داؤد بن ابی ہند از شعبی از مسروق: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے ایلاء کیا اور اسے اپنے اوپر حرام کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ إیمانکم﴾ اور یہ بھی ﴿بَابُهَا النَّبِی لَمْ تَحْرَمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الخ﴾ لہذا یہاں حرام حلال ہے۔

باخبا محمد بن عمر بخدیث موسیٰ بن یعقوب از ابو الحویرث از محمد بن جبیر بن مطعم: حفصہ اپنے گھر سے چلی جاتی ہیں پھر رسول

باخبار محمد بن عمر، محدث ابو معشر، محدث حارثہ بن ابی الرجال: میں معہ قاسم بن محمد کے عمرہ بنت عبدالرحمن کے پاس جاتا ہوں، قاسم کہتے ہیں: اے ام محمد! نبی ﷺ نے کس وجہ سے امہات المؤمنین کو چھوڑا تھا؟ عمرہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے صدیقہ نے بتایا کہ میرے گھر میں رسول اللہ ﷺ کو ہدیہ بھیجا گیا پھر آپ نے حصہ رسد ہر عورت کو اس میں سے بھیج دیا اور زینب بنت جحش کو بھی بھیجا لیکن وہ اس سے راضی نہیں ہوئیں پھر آپ نے کچھ اضافہ کر کے دوسری بار بھیجا اس دفعہ بھی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ صدیقہ بولیں: زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کا ہدیہ لوٹا کر آپ کو ذلیل کیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زینب مجھے کیا ذلیل کر لیں گی تم خود اللہ کے پاس ذلیل ہو جاؤ گی، میں ایک مہینہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ فرماتی ہیں: پھر آپ بالا خانہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری سے بھائی چارہ تھا وہ آپ کو اپنے دن کی سنی ہوئی خیریں سنا دیا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں اپنے دن کی خیریں سنا دیا کرتے تھے۔ انصاری کی باری کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے ملاقات کی اور پوچھا کوئی خبر ہے؟ انصاری بولا: ہاں ایک بڑی خبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: شاید حارث بن شمر (شاہ غسان) ہم سے لڑنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے انصاری بولا: اس سے بھی بڑی خبر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا خبر ہے؟ بولا: میرے خیال میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: حصہ رضی اللہ عنہا ذلیل ہو گئیں، میں انہیں منع کیا کرتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح الٹ کر جواب نہ دیا کرو، فرماتی ہیں: پھر عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے لوگ خاموش تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں آپ رسول اللہ ﷺ کے لکڑی کے زینہ پر چڑھے دیکھا، دروازے پر ایک چلبشی غلام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ چلبشی نے اپنے سے گھر کی طرف اشارہ کیا کیا میں انہیں آنے دوں؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں کا اشارہ کیا۔ فرماتی ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی سی دیر تو ٹھہرے رہے پھر آپ کو قرا نہیں آیا اور پھر زینہ کی دو سبزھیوں پر چڑھ گئے اور سلام کر کے کہا: کیا میں اندر آ جاؤں؟ چلبشی نے گھر میں سرداغل کیا پھر بولا: چلے جائیے، فرماتی ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے دیکھا نبی ﷺ سوئے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے چڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کے زیشے بھرے ہوئے ہیں اور آپ تنگی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشانات آپ کی کروٹ پر پڑ گئے ہیں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں پوچھا: عمر! کیوں روتے ہو؟ بولے: یا رسول اللہ! کسرئی اور قیصر جو اللہ کے دشمن ہیں ریشم کے بستر بچھاتے ہیں اور آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں اور آپ کے لیے صرف ایک بوریا اور چڑے کا ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کے زیشے بھرے ہوئے ہیں اور سر پہنے کھال ہے جس میں ہوا ہے۔ فرمایا: ان لوگوں کو دنیا ہی میں نعمتیں دی گئی ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے تکبیر کہی جسے مسجد والوں نے سنا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے حصہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی محبوبہ صدیقہ کا حسن تمہیں دھوکا میں نہ ڈالے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ریشم کے رسول اللہ ﷺ کو الٹ کر جواب دو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیقہ کے حسن کا ذکر کیا تو رسول اللہ ﷺ مسکرانے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! اگر آپ کو حصہ رضی اللہ عنہا کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو آپ شوق سے انہیں طلاق دے دیں اللہ کی قسم آپ مجھے میرے مال اور اہل و عیال سے زیادہ پیارے ہیں فرمایا: عمر! بندہ کبھی مومن

نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ سمجھے بولے: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ پھر جب ۲۹ دن گزر گئے تو رسول اللہ ﷺ بالا خانے سے اتر آئے فرماتی ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے معمولی سمجھ کر ایک بات کہی تھی جس سے آپ ناراض ہو گئے کیا آپ نے ایک ماہ کی تعین نہیں فرمائی تھی؟ فرمایا: عائشہ مہینہ اس طرح، اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے اور تیسری بار آپ نے ایک ہاتھ کا انگوٹھا موڑ لیا یعنی تین بار دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور تیسری بار ایک انگوٹھا موڑ لیا (۲۹ دن بتائے)۔

باخبار محمد بن عمر و جحدیث عبد اللہ بن جعفر از ابن ابی عون از ابن مناح از عائشہ: یہ حدیث حدیث عمرہ از عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہم معنی ہے مگر اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انصاری نے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا: حفصہ رضی اللہ عنہا پر اللہ رحم فرمائے پھر حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر ان سے کہا: شاید تم عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح رسول اللہ ﷺ کو الٹ کر جواب دیتی ہو دیکھو تم عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح نصیبہ والی نہیں اور زینب رضی اللہ عنہا کی طرح حسین نہیں پھر آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر ان سے کہا: ام سلمہ! تم رسول اللہ ﷺ سے بات کرتی ہو اور انہیں الٹ کر جواب دیتی ہو؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم رسول اللہ ﷺ کے اور آپ کی عورتوں کے معاملات میں دخل دیتے ہو ہاں ہاں اللہ کی قسم ہم آپ سے گفتگو کرتی ہیں اگر آپ یہ برقرار رکھیں تو آپ اس کے تمہاری نسبت زیادہ حق دار ہیں اور اگر منع فرمائیں تو تم سے زیادہ لائق اطاعت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے امہات المؤمنین سے جو کچھ کہا اس پر مجھے نادام ہونا پڑا۔

باخبار محمد بن عمر و جحدیث مالک و عبد الرحمن پسران ابوالرجال از ابوالرجال از عمرہ از عائشہ: رسول اللہ ﷺ کے پاس ہدیہ میں گوشت آیا آپ نے فرمایا: اس میں سے زینب بنت جحش کے پاس بھیج دو چنانچہ میں نے اسے ہدیہ کے طور پر ان کے پاس بھیج دیا لیکن انہوں نے الٹے ہاتھوں لوٹا دیا آپ نے فرمایا: تمہیں اللہ کی قسم ذرا اور زیادہ کر کے بھیجو فرماتی ہیں میں نے اس میں اضافہ کر کے بھیجا اس دفعہ بھی انہوں نے لوٹا دیا پھر میں نے اور اضافہ کر کے بھیجا لیکن تیسری بار بھی انہوں نے لوٹا دیا میں نے کہا: دیکھو زینب نے آپ کی عزت نہیں کی، فرمایا: مجھے ذلیل کیا کرو گی اللہ کی نگاہ میں خود ذلیل ہو جاؤ گی میں تمہارے پاس ۲۹ دن تک نہیں آؤں گا۔ فرمایا ہمارا مہینہ اس طرح ہے آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے تین بار اشارہ کیا اور تیسری بار ایک انگلی موڑ لی یعنی مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

باخبار محمد بن عمر و جحدیث محمد بن عبد اللہ از زہری از عمرہ از عائشہ: رسول اللہ ﷺ نے ایک جانور ذبح کیا اور مجھے امہات المؤمنین میں گوشت بانٹنے کا حکم دیا میں نے گوشت بانٹ دیا آپ نے زینب کو ان کا حصہ بھیج دیا لیکن زینب رضی اللہ عنہا نے اسے لوٹا دیا آپ نے فرمایا بڑھا کر بھیج دو غرض کہ تین دفعہ بڑھا کر بھیجا گیا مگر زینب نے ہر بار لوٹا دیا میں نے آپ سے کہا: زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کا ہدیہ لوٹا کر آپ کی عزت نہیں کی فرمایا: تم اللہ کے نزدیک حقیر ہو جاؤ گی مجھے کیا حقیر سمجھو گی اللہ کی قسم میں تمہارے پاس ایک ماہ تک نہیں آؤں گا پھر آپ بالا خانے میں گوشت نشین ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوس بن خولی انصاری کے بھائی تھے آپ جو بات سنتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کر دیا کرتے تھے اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور کہا: کوئی خبر ہے؟ اوس بولے: ہاں بڑی خبر

ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ: شاید حارث بن ابی شمر ہم سے لڑنے کے لیے چل پڑا ہے کیونکہ ہمیں خبر ملی تھی کہ وہ اس مقصد کے لیے گھوڑوں کے نعل جڑوا رہا ہے اوس بولے: اس سے بھی بڑی خبر ہے، عمر: کیا خبر ہے؟ اوس: غالباً نبی ﷺ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے، عمر: حصہ رضی اللہ عنہما پر اللہ رحم فرمائے، میں نے تو انہیں پہلے ہی روکا تھا کہ عائشہ کی طرح نبی ﷺ کو الٹ جواب نہ دینا، پھر عمر رضی اللہ عنہ: حصہ رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر: شاید تم عائشہ رضی اللہ عنہما کی طرح رسول اللہ ﷺ کو الٹ کر جواب دیتی ہو، دیکھو تمہارا عائشہ رضی اللہ عنہما جیسا نصیبہ نہیں اور زنب جیسا حسن نہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہما ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر: آگے عبداللہ بن جعفر از ابن ابی عون از ابن مناح کی حدیث کی طرح حدیث ہے۔

باخبار محمد بن عمر، بحديث محمد بن عبداللہ از زہری از عبید اللہ بن عقبہ از ابن عباس: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے تھے: رسول اللہ ﷺ ایک ماہ تک بالا خانہ میں علیحدہ ہو گئے جب حصہ رضی اللہ عنہما نے عائشہ رضی اللہ عنہما پر آپ کا راز افشا کر دیا آپ نے ناراض ہو کر فرمایا: میں ایک ماہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا پھر جب ۲۹ دن گزر گئے تو آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: یہ مہینہ ۲۹ دن کا ہے واقعی وہ مہینہ ۲۹ دن ہی کا تھا۔

باخبار محمد بن عمر، بحديث عبداللہ بن سلیمان از عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے: جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی عورتوں کو اختیار دیا تو عائشہ رضی اللہ عنہما سے ابتداء کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میری امداد کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہما: نہیں اللہ کی قسم! آپ کی مجھ پر کوئی امانت نہیں کرے گا، آپ مجھے بتائیں تو سہی وہ بات کیا ہے؟ فرمایا: اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے بولیں: میں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا بولیں یہ بات آپ کے پاس امانت ہے اس کی کسی بیوی کو خبر نہ کرنا۔ فرمایا: مجھے لوگوں کو دکھ دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا مجھے خوش خبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے اگر وہ مجھ سے پوچھیں گی تو میں انہیں بتا دوں گا۔ پھر آپ نے حصہ رضی اللہ عنہما کو اختیار دیا آپ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے دیا تھا پھر تمام عورتوں کو خبر دی اور سب نے آپ ہی کو قبول کیا اور بیک زبان کہا کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں البتہ عامریہ نے اپنی قوم کو اختیار کیا بعد میں یہ کہا کرتی تھیں: میں بدنصیب ہوں۔ یہ اونٹ کی بیگنیاں چن چن کر بیچا کرتی تھی اور ازواج مطہرات کے پاس جا کر ان سے مانگا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں بدنصیب ہوں۔

باخبار محمد بن عمر، بحديث عبداللہ بن جعفر از ابن ابی عون از ابن مناح: تمام امہات المؤمنین نے بجز عامریہ کے نبی ﷺ کو قبول کیا، عامریہ نے اپنی قوم کو پسند کیا پھر اس کی عقل جاتی رہی حتیٰ کہ فوت ہو گئی۔

باخبار محمد بن عمر، بحديث محمد بن عبداللہ از زہری از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہما نے اپنی عورتوں کو اختیار دیا انہوں نے آپ ہی کو چنا لیکن یہ اختیار طلاق شمار نہیں کیا گیا۔

باخبار محمد بن عمر، بحديث ابن ابی الزناد از عبدالرحمن بن حارث از قاسم از عائشہ رضی اللہ عنہما: ہمیں نبی ﷺ نے اختیار دیا پھر یہ اختیار طلاق نہیں شمار کیا گیا۔

باخبار محمد بن عمر، بحديث منصور بن ابی الاسود از زیاد بن ابی زیاد از ابو جعفر: ازواج مطہرات نے کہا: نبی ﷺ کے بعد

عورتیں ہم سے زیادہ مہروں والی نہ ہوں گی۔ پھر اللہ کو اپنے نبی کے لیے غیرت آئی اور اللہ نے آپ کو ان سے علیحدہ ہو جانے کا حکم فرمادیا لہذا آپ ان سے ۲۹ دن علیحدہ رہے پھر آپ کو حکم کیا گیا کہ آپ انہیں اختیار دے دیں لہذا آپ نے انہیں اختیار دیا لیکن اسے طلاق نہیں شمار کیا۔

رحمت عالم ﷺ کی قوتِ باہ:

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عمرو، محمد بن ابراہیم از محمد بن ابراہیم: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں ہمبستری میں سب سے کمزور تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک ہانڈی اتاری جس میں گوشت تھا اب جب بھی میں چاہتا ہوں اسے پالیتا ہوں۔
باخبار محمد بن عمرو، محمد بن اسامہ بن زید، لیشی از صفوان بن سلیم: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے پاس جبرئیل علیہ السلام ایک ہانڈی لے کر آئے میں نے اس میں کھایا اور مجھے چالیس آدمیوں کی برابر قوتِ باہ عطا کر دی گئی۔

باخبار محمد بن عمرو، محمد بن محمد بن عبد اللہ از زہری از نبی ﷺ: میں نے دیکھا گیا میرے پاس ایک ہانڈی لائی گئی ہے پھر میں نے اس میں سے خوب پینٹ بھر کر کھایا اب جب بھی میں ہمبستری چاہتا ہوں کر لیتا ہوں یہ حال جب سے ہے جب سے میں نے اس ہانڈی میں سے کھایا ہے۔

باخبار محمد بن عمرو، محمد بن معاویہ بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع از عبد اللہ اپنی دادی سلمیٰ رسول اللہ ﷺ کی آزاد کردہ لونڈی سے: ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی نو عورتوں سے ہمبستری فرمائی جن کو چھوڑ کر آپ کی وفات ہوئی جب آپ اپنی ایک بیوی سے فارغ ہو کر باہر آتے تو سلمیٰ سے کہتے: مجھ پر غسل کے لیے پانی ڈال پھر آپ دوسری کے پاس جانے سے پہلے غسل کر لیتے تھے میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کو ایک غسل کافی نہیں؟ فرمایا اس طرح غسل مزید طہارت و پاکی کا موجب ہے۔
باخبار محمد بن عمرو، محمد بن عمرو از قتادہ از انس: میں رسول اللہ ﷺ پر پانی ڈالا کرتا تھا جب آپ تمام عورتوں سے فارغ ہو کر غسل کیا کرتے تھے۔

باخبار محمد بن عمرو، محمد بن سالم مولیٰ ثابت از سالم مولیٰ ابو جعفر از ابو جعفر: ہم مثل باخبار محمد بن عمرو از ابن طاؤس از طاؤس: رسول اللہ ﷺ کو چالیس مردوں کے برابر قوتِ باہ عطا کی گئی تھی۔
شرمگاہوں سے پردہ:

باخبار محمد بن عمرو، محمد بن ثوری از منصور از مسلم بن عبد اللہ بن یزید از مولیٰ عائشہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔

باخبار محمد بن عمرو، محمد بن صالح بن حمید از قاسم بن محمد از عائشہ: میں اور رسول اللہ ﷺ غسل جنابت ایک ہی برتن سے کیا کرتے تھے۔ باخبار محمد بن عمرو، محمد بن عمرو، محمد بن ابو حمزہ از عمروہ از عائشہ: ہم مثل۔

باخبار محمد بن عمرو، محمد بن ابن جریج از عمرو بن دینار از ابوالشعراء از ابن عباس از میمونہ: میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔

باخبار محمد بن عمر: یہی روایت صحیح ہے پھر جب یہ ان صریح و ثابت وجوہ سے ثابت ہے تو شرمگاہ پر نگاہ پڑے بغیر چارہ نہیں لہذا اگر نہ دیکھنے سے نور سے دیکھنا مراد ہے تو ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز قصد دیکھنا نہیں چاہتا لیکن اچانک اس کی نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے امام مالک اور ابن ابی ذئب کے نزدیک میاں کو بیوی کی اور بیوی کو میاں کی شرمگاہ دیکھنا مباح ہے سفیان ثوری کہتے ہیں: میرے نزدیک مکروہ اور اگر دیکھی جائے تو کوئی گناہ نہیں۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث ثوری از عاصم اخول از ابو قلابہ از نبی ﷺ: جب تم میں سے کوئی جنسی وظیفہ میں مشغول ہو تو دونوں گدھوں کی طرح تنگ نہ ہوں بلکہ پردہ کر لینا چاہیے۔

بعض علماء کے نزدیک وفات سے قبل نبی ﷺ کے لیے تمام عورتیں حلال کر دی گئی تھیں:

باخبار محمد بن عمر: بحدیث محمد بن موسیٰ از محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب نبی ﷺ نے جب تک وفات نہیں پائی جب تک تمام عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں کر دی گئیں آپ کے لیے حلال تھا کہ جس قدر عورتوں سے چاہیں نکاح کر لیں فرمایا: ﴿تزوجی من تشاء ممنهن﴾ یعنی آپ عورتوں میں سے جسے چاہیں حوالہ عقد میں نہ لیں اور جسے چاہیں لے لیں۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث ثوری از عطاء از عائشہ: نبی ﷺ نہیں سدھارے جب تک آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہوا کہ آپ محرم خواتین کے علاوہ جس قدر عورتوں سے چاہیں نکاح کر لیں (آگے مذکورہ بالا آیت ہے) باخبار محمد بن عمر: بحدیث بردان بن ابی النضر از عبداللہ بن وہب بن زمرہ از ام سلمہ: ہم مثل۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث ابن ابی سبرہ وسعد بن محمد از جعفر بن محمد از محمد از عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما: ہم مثل۔
باخبار محمد بن عمر: بحدیث داؤد بن عبدالرحمن وسفیان از عمرو بن دینار از عطاء از عائشہ رضی اللہ عنہا: ہم مثل۔ باخبار محمد بن عمر: بحدیث اسامہ بن زید از زید از عطاء بن یسار: ہم مثل۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث عبدالعزیز بن محمد از ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: جب ﴿تزوجی من تشاء ممنهن﴾ اترتی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان چیزوں میں جلدی کرتا ہے جن کو آپ چاہتے ہیں۔ باخبار محمد بن عمر: یہ وہ مسئلہ ہے جس پر میں نے اپنے شہر والوں کو دیکھا۔

باخبار معطلی بن اسد: بحدیث وہیب از ابن جریج از عطاء از عبید بن عمیر از عائشہ: رسول اللہ ﷺ فوت نہیں ہوئے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس قدر عورتوں سے چاہیں نکاح کرنا حلال نہیں فرمادیا۔

بعض کے نزدیک امہات المؤمنین کے لیے نبی ﷺ کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کرنا حلال نہیں اور نہ نبی ﷺ کو ان کے بعد حلال رہا تھا

باخبار محمد بن عمر: بحدیث معمر و محمد بن عبداللہ از زہری: رسول اللہ ﷺ سدھار گئے اور ہمارے علم میں آپ نے اور عورتوں سے نکاح نہیں کیا۔ باخبار محمد بن عمر: بحدیث عبداللہ بن جعفر از ابن ابی عون از عمران بن مناح از ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن

ہشام ﴿لا تحل لك النساء من بعد﴾ یعنی اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں کی تفسیر میں: رسول اللہ اپنی بیویوں پر روک دیئے گئے اور آپ نے ان کے بعد کسی سے نکاح نہیں کیا اور آپ کی بیویاں آپ پر روک دی گئیں۔
 باخبر محمد بن عمر بخاری سے ہشام بن سعد از عبد اللہ کریم بن ابی حفصہ از ابوامامہ بن اہل ہم مثل۔ باخبر محمد بن عمر بخاری سے معمر از حسن: ہم مثل۔

باخبر محمد بن عمر بخاری سے ابو عمران وسعید بن بشر از الصباح از مجاہد: ﴿ترجی من تشاء الخ﴾ کی تفسیر میں: حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس بیوی سے چاہیں بغیر طلاق کے علیحدہ ہو جائیں اور جسے چاہیں اسے اپنی طرف لوٹالیں اور اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں اس لیے رسول اللہ ﷺ اپنی عورتوں پر مجبوس کر دیئے گئے اور ان کے بعد آپ نے نکاح نہیں کیا یعنی نہ عیسائی عورت سے نہ یہودی عورت سے نہ کافر عورت سے اور نہ کسی اور عورت سے اور نہ آپ کے لیے یہ حلال ہے کہ مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر ان کے عوض غیر مسلم عورتوں سے شادی کریں۔ محمد بن عمر: امام مالک رحمہ اللہ کو مجاہد کی یہ تفسیر پسند نہ تھی اور یہ پہلا قول آپ کو پسند تھا۔

باخبر محمد بن عمر بخاری سے قیس بن ربیع وشیبان بن عبد الرحمن از منصور از ابوزین: رسول اللہ ﷺ نے اپنی بعض عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کیا پھر جب عورتوں نے آپ کی یہ نیت دیکھی تو آپ کو اپنے نفسوں کی طرف حلال کر دیا کہ آپ جسے جس پر چاہیں ترجیح دیں پھر یہ آیت اتر آئی ﴿انا احللنا لك ازواجك اللاتی سے ترجی من تشاء منهن﴾ تک۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جس سے چاہیں علیحدہ ہو جائیں چنانچہ آپ زینب ام حبیبہ صفیہ جویریہ اور میمونہ رضی اللہ عنہن کے پاس نہیں جاتے تھے اور حفصہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن کے پاس جایا کرتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا جس سے چاہیں آپ علیحدہ ہو جائیں اور آپ اپنی مرضی سے جن سے علیحدہ ہو گئے ہیں تو اس سے آپ پر کوئی گناہ نہیں پھر فرمایا اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں یعنی مشرک عورتیں حلال نہیں۔

باخبر محمد بن عبد اللہ اسدی بخاری سے سفیان از منصور از ابوزین: جب امہات المؤمنین کو ڈر ہوا کہ نبی ﷺ ان کو چھوڑ دیں گے تو انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنے نفس و مال میں سے جس قدر چاہیں ہمارے لیے مقرر فرمادیں پھر آپ نے اللہ کے حکم سے پانچ کے پاس جانا چھوڑ دیا اور چار کو برقرار رکھا۔

باخبر عفان بن مسلم بخاری سے ابو عوانہ از مغیرہ از ابوزین: (وینات عمك الخ کی تفسیر میں) یعنی اس صفت کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں۔

باخبر معالی بن اسد از وہیب از داؤد از محمد بن ابی موسیٰ از زیاد انصاری: میں نے ابی بن کعب سے پوچھا: بالفرض اگر آپ کی بیویاں مرجاتیں تو کیا دوسری عورتوں سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال تھا؟ فرمایا: ہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ایک قسم آپ کے لیے حلال فرمائی اور آپ کے لیے ایک صفت بیان کی اور فرمایا اس صفت کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں۔

باخبر محمد بن عمر بخاری سے معقل بن عبید اللہ از حنیف از مجاہد: ﴿لا تحل لك النساء الخ﴾ کی تفسیر میں) یعنی ان بیان کردہ

اصناف کے بعد یعنی چچا زاد بہنوں، پھوپھی زاد بہنوں، ماموں زاد بہنوں، خالہ زاد بہنوں کے بعد جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور اس مومن عورت کے بعد جس نے اپنا نفس نبی کے لیے بہہ کر دیا۔ لہذا اللہ نے ان اصناف سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال فرمادیا۔
باخبار محمد بن عمرو و بحدیث یحییٰ بن واضح از عبید بن سلیمان از ضحاک بن مزاحم: ضحاک بھی اسی کے ہم مثل تفسیر فرمایا کرتے تھے۔

باخبار محمد بن عمرو بحدیث عبد الحمید بن عمران بن ابی انس از عمران از سلیمان بن یسار: جب رسول اللہ ﷺ نے کندہیہ سے نکاح کیا اور عامریات میں پیام بھیجے اور ام شریک غزیہ بنت جابر نے اپنا نفس آپ کو بہہ کر دیا تو آپ کی بیویوں نے کہا: اگر رسول اللہ ﷺ نے ان اجنبی خواتین سے نکاح کر لیا تو آپ کی توجہ ہماری طرف سے ہٹ جائے گی اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک آیت اتار کر ازواج مطہرات پر مجبوس فرمادیا اور آپ کے لیے چچا پھوپھی ماموں اور خالہ زاد بہنوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی ہو حلال فرمادیا اور ان کے ماسوا عورتیں علاوہ لوٹڈیوں کے اور علاوہ اس مومن عورت کے جو اپنے نفس کو آپ کے لیے بہہ کر دے اور یہ ام شریک تھیں آپ پر حرام فرمادیں۔

باخبار محمد بن عمرو بحدیث محمد بن رفاعہ بن ثعلبہ بن ابی مالک از رفاعہ از ثعلبہ: رسول اللہ ﷺ نے بعض عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا پھر عورتوں نے آپ کو اپنے دن معاف فرمادینے چنانچہ آپ زینب بنت جحش عاتشہ اور ام سلمہ کے پاس آتے تھے اور دیگر عورتوں کے پاس نہیں آتے تھے ومن ابتغیت ممن عزلت الخ یعنی جو عورتیں چھوڑ دی گئی ہیں آپ ان کے پاس زیادہ نہ جائیں پھر فرمایا: ان نو کے بعد آپ کے لیے مشرک عورتیں حلال نہیں۔

محمد بن عمر: ثعلبہ کا قول ابو رزین کے قول سے اچھا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے کہ نبی ﷺ کے نزدیک عاتشہ ام سلمہ اور زینب رضی اللہ عنہن کو ترجیح حاصل تھی۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث اسحاق بن محمد بن ابی حرمہ از محمد از عطاء بن یسار: (یانساء النبی من یات سے معروفات کی تفسیر میں) یعنی اے نبی کی عورتو! جو تم میں سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اس کے لیے دگنا عذاب ہے (یعنی آخرت میں) اور جو تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور عمل صالح کرتی رہے (یعنی روزے نماز کی پابند رہے) ہم اسے دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے اے نبی کی عورتو! تم ایک معمولی عورت کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو لہذا نرم بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے اسے لالچ پیدا ہو (یعنی زنا کا) اور معقول بات کہو یعنی بات صاف ہو کہ کسی کو اس سے لالچ نہ پیدا ہو۔

باخبار محمد بن عمرو از محمد بن صالح تمار بسماع عکرمہ: (فیطمہ فی قلبہ مرض کی تفسیر میں) یہاں مرض سے زنا مراد ہے۔
باخبار محمد بن عمرو از مسلم بن خالد از ابن ابی نجیح از مجاہد اور بحدیث قیس از مسلم عورتو! مجاہد: ہم مثل۔

باخبار محمد بن عمرو از اسامہ بن زید بن اسلم از ابن کعب: (وقلن قولاً معروفاً کی تفسیر میں) یعنی ایسا کلام ہو جس میں کسی کو لالچ نہ پیدا ہو۔

باخبار محمد بن عمر از اسامہ بن زید از زید: یعنی ایسا کلام جو بظاہر لوگوں میں معروف ہو۔ باخبار محمد بن عمر از اطلق بن یحییٰ از مجاہد: عورت گھر سے باہر نکلتی تھی اور مردوں کے دوش بدوش چلتی تھی یہی جاہلیت کی زینت تھی۔ باخبار محمد بن عمر از اسامہ بن زید بن اسلم از ابن کعب: یہی جاہلیت کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ ﷺ کا درمیانی زمانہ ہے۔
 باخبار محمد بن عمر: متحدہ یث اسامیل بن یحییٰ از ابن ابی نوح: (ولا تبرجن الغم کی تفسیر میں) یعنی اٹھلا اٹھلا کر غور سے چلنا۔
ان آیتوں کی تفسیر جو از واج مطہرات کے ذکر میں ہیں:

باخبار محمد بن عمر از مصعب بن ثابت از ابوالاسود از عروہ: لیذہب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم و یطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت سے امہات المؤمنین مراد ہیں یعنی اے نبی کی بیویو! اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں انتہائی پاک و صاف بنانا چاہتا ہے یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اتری۔

باخبار محمد بن عمر از عبد السلام بن موسیٰ بن جمیر از موسیٰ بن جمیر از ابوامامہ بن ہبل: واذکون ما یطہرکم یعنی تمہاری گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد کر لو۔ رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں کے گھروں میں دن کو اور رات کو نوافل پڑھا کرتے تھے۔

باخبار محمد بن عمر از ثوری از ابن ابی نوح از مجاہد از ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ ﷺ عورتیں کیا ذکر کریں؟ اس پر ان المسلمین و المسلمات الغ اتری۔

باخبار محمد بن عمر از ابن ابی سبرہ از صالح بن محمد از ابوامامہ بن ہبل از ام سلمہ: رسول اللہ ﷺ اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

باخبار محمد بن عمر از معمر از قتادہ: (ما یطہر فی بیوتکم من الآیات و الحکمۃ کی تفسیر میں) آیات و حکمت سے قرآن و سنت مراد ہیں۔

باخبار محمد بن عمر از معمر از قتادہ: جب از واج مطہرات سے ذکر کیا گیا تو عورتوں نے کہا: اگر ہم میں خیر و فلاح ہوتی تو ہمارا بھی ذکر کیا جاتا اس پر ان المسلمین سے لے کر اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجر اعظیما تک آیت اتری۔

باخبار محمد بن عمر از ثوری از فراس از شعیب از مسروق: (النبی اولیٰ بالمؤمنین الخ کی تفسیر میں) ایک عورت نے صدیقہ کو یا امہ کہہ کر پکارا اس سے آپ نے کہا: میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں عورتوں کی نہیں۔

واقدی: میں نے عبد اللہ بن موسیٰ خزومی سے اس کا ذکر کیا، فرمایا: مجھے مصعب بن عبد اللہ بن ابی امیہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ انہوں نے فرمایا: میں تمہارے مردوں کی بھی ماں ہوں اور عورتوں کی بھی۔

باخبار محمد بن عمر: بخیر ابن ابی سبرہ: بخیر سلیمان بن یسار از مکرمہ: یہی جاہلیت وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے اس زمانہ میں عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھیں اور ایسا لباس پہنا کرتی تھیں جس سے پردہ نہیں ہوتا تھا اور پچھلی جاہلیت میں رحمت عالم ﷺ پیدا ہوئے یہ لوگ تنگ حال تھے اور ان کی مالی حالت کمزور تھی اور موٹا جھوٹا کھاتے سنتے تھے پھر حق تعالیٰ نے اپنے نبی سے

وعدہ فرمایا کہ آپ پر ممالک فتح فرمائے گا اور فرمایا اپنی بیویوں سے فرمادیں اگر وہ آپ کو چاہیں کہ پہلی جاہلیت کا سنا بناؤ سنگھار نہ کریں، اے بیویو! اللہ تم سے نجاست ہٹانا چاہتا ہے اور تم کو پاک کرنا چاہتا ہے تم حدیث و قرآن کا ذکر کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ گھروں میں قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے۔ پھر عورتوں نے مردوں سے کہا: تمہاری طرح ہم بھی اسلام لائیں اور تمہارے عملوں کی طرح ہم بھی عمل کرتی ہیں لیکن قرآن پاک میں تمہارا ذکر آتا ہے ہمارا ذکر نہیں آتا۔ پہلے لوگوں کو مسلمان کہا جاتا تھا لیکن وہ ہجرت کے بعد مومن کے نام سے پکارے گئے پھر حق تعالیٰ نے ان المسلمین والمسلمات الخ اتاری قانتین وقانتات سے اطاعت گزار و وفا شعار مرد اور عورتیں مراد ہیں اور روزوں سے رمضان کے روزے مراد ہیں اور ذکر اللہ سے اللہ کے انعامات و احسانات کا ذکر و شکر مراد ہے۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تو انہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے لا تحل لك النساء الخ اتاری اس آیت میں من بعد سے وہ نوعورتیں مراد ہیں جنہوں نے آپ کو پسند کر لیا تھا اس لیے آپ پر دوسری عورتوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا اور دوسری عورتوں کو ان کے عوض لانا منع کر دیا گیا اگرچہ آپ ان کے حسن سے متاثر کیوں نہ ہوں البتہ لوٹریوں کو مستثنیٰ قرار دے دیا گیا۔

باخبار محمد بن عمر بخاریت عبد اللہ بن جعفر از ابن ابی عون از ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله کی تفسیر میں) یہ آیت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں اتری کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کروں گا یعنی تم کو یہ لائق نہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ کو ایذا پہنچاؤ اور نہ یہ لائق ہے کہ کبھی آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔

باخبار محمد بن عمر از عبد الرحمن بن ابی الزناد از ابراہیم بن عقبہ اور بخاریت عبد السلام بن موسیٰ بن جبیر از موسیٰ بن جبیر از ابو امامہ بن سہل بن خنیف: (ان تبدوا شیننا او تخفوه کی تفسیر میں) ظاہر کرنا یہ ہے کہ نبی ﷺ کی کسی بیوی کے بارے میں زبان سے کہو کہ ہم فلاں سے نکاح کریں گے یا زبان سے تو نہ کہو مگر یہ بات اپنے دلوں میں چھپا لو۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے خواہ تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔

باخبار محمد بن عمر بخاریت معمر بن راشد از زہری (وامرأة مؤمنة الخ کی تفسیر میں) یعنی بہہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں (بہہ سے مراد کسی عورت کو اپنا نفس بہہ کرنا ہے یہ رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت تھی کسی اور کے لیے حلال نہیں)۔ باخبار محمد بن عمر بخاریت ثوری از ابو عبد اللہ کرمی از ابراہیم بن محمد۔

باخبار محمد بن عمر از سفیان و منصور بن ابی الاسود از زکریا بن ابی زائدہ از شعبی (ومن ابتغیت ممن عزلت الخ کی تفسیر میں) کچھ ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنے نفس نبی ﷺ کو بہہ کر دیئے تھے آپ نے ان سے پردہ کے اندر خلوت نہیں فرمائی اور نہ آپ کے بعد ان سے کسی نے نکاح کیا ان میں سے ایک ام شریک بھی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر بخاریت اسامہ بن زید بن اسلم از عمر بن عبد اللہ عیسیٰ از محمد بن کعب قرظی: ہم مثل محمد بن عمر: ہمارے نزدیک یہ ایک مشہور بات ہے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث اسامہ بن زید بن اسلم از ابن کعب قرظی: (ما کان علی النبی من حرج الخ کی تفسیر میں) یعنی آپ جس قدر عورتوں سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے فرض ہے لیکن پہلے نبیوں کی سنت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار بیویاں تھیں ۷۰۰ آزاد اور ۳۰۰ لونڈیاں اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے سو بیویاں تھیں جن میں اور یا کی عورت ام سلیمان بھی تھیں آپ نے فتنہ کے بعد ان سے نکاح کیا تھا لہذا نبی ﷺ کی بیویوں سے ان نبیوں کی بیویاں بہت زیادہ تھیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ہشام بن سعد از عمر مولیٰ غفرہ: جب یہودیوں نے دیکھا کہ نبی ﷺ نکاح کرتے رہتے ہیں تو آپ پر اعتراض کیا کہ انہیں دیکھو نہ ان کا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے اور نہ عورتوں سے اور وہ عورتوں کی کثرت کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگے اور آپ پر عیب لگانے لگے: اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کا رجحان عورتوں کی طرف نہ ہوتا اس اعتراض میں جی بن اخطب پیش پیش تھا آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کو ان کے اعتراض کی خبر دی اور فرمایا کیا وہ اس فضل پر جو اللہ نے آپ پر کیا ہے حسد کرتے ہیں (یعنی اس پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی) ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور انہیں عظیم ملک بھی عطا فرمایا ملک اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا آپ کی ایک ہزار بیویاں تھیں سات سو آزاد اور مہر والیاں اور تین سو لونڈیاں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں جن میں ام سلیمان اور یا کی عورت بھی تھیں آپ نے ان سے آزمائش میں پڑنے کے بعد نکاح کیا، ظاہر ہے کہ ان نبیوں کی بیویاں رسول اللہ ﷺ کی بیویوں سے کہیں زیادہ تھیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابراہیم بن یزید کی از سلیمان احوال و ہشام بن حجر از طاؤس و بحدیث ابن ابی الزناد از ابو الزناد از اعرج از ابو ہریرہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آج رات کو میں اپنی ستر عورتوں کے پاس جاؤں گا۔ ہر ایک کے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ اس پر آپ کے ساتھی نے کہا ان شاء اللہ کہہ لیجئے لیکن آپ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے لہذا ایک عورت کے سوا کوئی عورت بھی حاملہ نہیں ہوئی اور حاملہ عورت کے بھی ناقص بچہ ہوا، اگر آپ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو آپ کی قوم بھی نہ ٹوٹی اور آپ اپنی مراد پالیتے اور ستر کے ستر جوان گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابو معشر از مقبری: حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا: آج میں اپنی سو عورتوں سے ہمبستری کروں گا اور ہر ایک سے ایک شہسوار پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا لیکن آپ نے استثناء نہیں کیا (ان شاء اللہ نہیں کہا) اگر آپ استثناء کر لیتے تو ایسا ہی ہوتا چنانچہ آپ نے سو عورتوں سے صحبت کی صرف ایک حاملہ ہوئی اور اس کے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا آپ کی اولاد مرجایا کرتی تھی ایک دن انسانی شکل میں آپ کے پاس موت کا فرشتہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا: اگر ہو سکے تو میرے اس بیٹے کو ۸ دن کی موت کے وقت سے مہلت دے دیجئے، فرمایا نہیں البتہ میں موت سے تین دن پہلے خبر دے دوں گا چنانچہ موت سے تین دن قبل ملک الموت نے آپ کو خبر دے دی۔ آپ نے اپنے پاس والے جنوں سے کہا: تم میں سے کون میری خاطر میرے اس بیٹے کو چھپا سکتا ہے؟ ایک جن بولا: میں اسے آپ کی خاطر مشرق میں چھپا لوں گا اس نے پوچھا: آپ اسے کس سے چھپواتے ہیں؟ فرمایا: ملک الموت سے بولا: ان کی نگاہ تو بڑی دور رس اور تیز ہے اور ہر چیز سے پار ہو جانے والی ہے پھر دوسرا جن بولا میں اسے

مغرب میں جا چھپاؤں گا لیکن آپ اسے کس شخص سے چھپواتے ہیں؟ فرمایا: ملک الموت سے بولا: اس کی نظر تو ہر چیز سے پار ہو جاتی ہے تیسرا بولا: میں اسے ساتویں زمین میں چھپا دوں گا، لیکن پھر بھی یہ ملک الموت سے نہیں چھپ سکتا، چوتھا بولا: میں اسے ایسے دو سفید بادلوں میں چھپا دوں گا جو دکھائی نہیں دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر کوئی چیز چھپا سکتی ہے تو وہ یہی سفید بادل ہیں پھر جب اس کی موت کا مقرر وقت آیا تو اسے ملک الموت نے زمین میں دیکھا لیکن وہ زمین کے مشرق و مغرب میں نہ تھا اور نہ کسی سمندر میں تھا لیکن ملک الموت نے اسے دو سفید بادلوں کے درمیان پایا، چنانچہ ملک الموت اسے پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر لایا اور کرسی ہی پر اس کی روح قبض کی و لقد فتنا سلیمان الغی میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

کیا مرد ادب کے لیے عورتوں کو مار سکتا ہے؟

باخبار محمد بن عمر بحدیث عبد الرحمن بن ابی الزناد از ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ: رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا اور نہ کسی خدمت گار کو اور نہ کسی چیز کو مارا الا یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہوں نہ آپ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی نہ آپ نے اپنی ذات کا کبھی کسی سے انتقام لیا جب تک اللہ کی حرمتوں کے پردے نہ پھاڑے گئے ہوں اس صورت میں آپ اللہ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث محمد بن عبد اللہ از زہری از علی بن حسین: ہم مثل ”جہاد کرتے ہوئے ہوں“ تک۔ باخبار محمد بن عمر بحدیث محمد بن عبد اللہ از زہری از عائشہ رضی اللہ عنہا: ہم مثل۔

باخبار محمد بن عمر از عمر بن عبد اللہ از بکیر از قاسم بن محمد: رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا، کہا گیا: یا رسول اللہ! عورتیں کام بگاڑ دیتی ہیں اور فساد کرتی ہیں، فرمایا: انہیں نہ مارو مارنے والا شریعہ ہی ہوتا ہے۔

باخبار محمد بن عمر از اراج بن حمید از حمید از ام کلثوم بنت ابی بکر: مردوں کو عورتوں کو مارنے سے روک دیا گیا تھا پھر مردوں نے عورتوں کی شکایت کی آپ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی پھر آپ نے فرمایا آج ہمارے گھر ستر عورتیں آئیں۔ جن کو مارا گیا تھا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں ایک شخص کو دیکھوں کہ وہ اپنی گردن کے پٹھے کے گوشت کا اپنے زخروں سے انتقام لے اور اس سے جنگ کرے۔

باخبار محمد بن عمر از سلیمان بن بلال از یحییٰ بن سعید از حمید بن نافع از ام کلثوم بنت ابی بکر از نبی اکرم ﷺ: ”مجھے یہ بات محبوب نہیں“ سے آخر تک ہم مثل۔

باخبار محمد بن عمر از ابن ابی حنیبہ از داؤد بن حصین از ایوب: نبی ﷺ کے پاس ایک عورت آئی جسے اس کے شوہر نے خوب مارا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا اور کہا: تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کو مارے جانے کی طرح مارتا ہے پھر اس سے معاف بھی کر لیتا ہے کیا اسے شرم نہیں آتی؟

باخبار محمد بن عمر از محمد بن عبد اللہ از زہری از عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ از ایاس بن عبد اللہ بن ابی ذکاب از نبی اکرم ﷺ: عورتوں کو نہ مارو۔ پھر لوگوں نے عورتوں کو مارنا چھوڑ دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہا: یا رسول اللہ!

عورتیں اپنے شوہروں کے سرچڑھ گئی ہیں آپ انہیں مارنے کی اجازت دے دیں نبی ﷺ نے فرمایا: آج رات آل محمد کے پاس ستر عورتیں آئیں اور ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی ہم انہیں تم میں اچھے نہیں سمجھتے۔

باخبار محمد بن عمر از سفیان و اسرائیل از منصور از سالم بن ابی الجعد از عبد اللہ بن شداد از نبی ﷺ: تم میں بہتر وہی ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔

باخبار محمد بن عمر از ابن ابی حنیبہ از داؤد بن حصین از عمرہ از ابن عباس از نبی ﷺ: ہم مثل۔

باخبار محمد بن عمر: یث موئی بن محمد انصاری از ریثہ از عمرہ بنت عبد الرحمن: رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا: یا رسول اللہ! آپ انصاری کی عورتوں سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ ان میں خوبصورتی ہے فرمایا: ان خواتین میں سخت غیرت ہے وہ سوتوں کو برداشت نہ کر سکیں گی، میں سوتوں والا ہوں اور مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ ان کے سلسلہ میں میں ان کو ناخوش کروں۔

باخبار علی بن عبد اللہ العلیٰ: یث محمد بن عبد الرحمن بن مہدی از معاذ بن معاذ از شعبہ از ابو بکر بن حفص از ابوسلمہ بن عبد الرحمن: ازواج مطہرات اپنے بال کاٹ لیا کرتی تھیں حتیٰ کہ وہ کانوں تک ہو جاتے تھے۔

رحمت عالم ﷺ کا ازواج مطہرات کو حج کرانا:

باخبار محمد بن عمر: یث خالد بن الیاس از یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب از ابوسلمہ بن عبد الرحمن از ام سلمہ: حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی تمام عورتوں کو ہودجوں میں حج کرایا فرماتی ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس ذوالحلیفہ میں رات کے وقت پہنچے ہمارے ساتھ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان بھی تھے۔

باخبار محمد بن عمر: یث یعقوب بن یحییٰ بن عماد از عیسیٰ بن معمر از عباد بن عبد اللہ از اسماء بنت ابی بکر: جب رسول اللہ ﷺ عرج میں ٹھہرے تو اپنی منزل کے صحن میں تشریف فرما ہوئے صدیقہ بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں آپ کے دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام کرتہ پہنے ہوئے آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تیرا اونٹ کہاں ہے؟ بولا: کھو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اسے مارنے لگے کہنے لگے: ایک اونٹ کی بھی تجھ سے نگرانی نہ ہو سکی۔ رسول اللہ ﷺ مسکرا کر فرمانے لگے: تم اس محرم کو نہیں دیکھتے یہ کیا کر رہے ہیں اور کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟

باخبار محمد بن عمر: یث ابن ابی الذئب از صالح مولیٰ توتہ از ابن عباس: عرفہ کے دن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے روزے میں اختلاف کیا ام الفضل نے کہا میں حقیقت حال تمہیں بتائے دیتی ہوں پھر ام الفضل نے بیالہ میں دودھ بھر کر اسے آپ کے پاس بھیجا آپ نے خطبہ کی حالت میں اسے پی لیا۔

باخبار محمد بن عمر: یث ابن ابی ذر: سودہ بنت زمعہ نے لوگوں کی بھیڑ سے پہلے پہلے مزدلفہ سے منیٰ جانے کی اجازت مانگی آپ ایک بھاری بھرکم عورت تھیں آپ نے انہیں اجازت دے دی اور دیگر تمام عورتوں کو اپنے ساتھ رکھا حتیٰ کہ وہ صبح کو آپ ہی کے ساتھ روانہ ہوئیں فرماتی ہیں: کاش سودہ کی طرح میں بھی آپ سے لوگوں کی روانگی سے قبل مزدلفہ سے منیٰ

جانے کے لیے اجازت مانگ لیتی تو یہ بات مجھے ہر خوش کرنے والی چیز سے پیاری تھی۔

باخبا محمد بن عمر بن محمد بن ابی سبرہ از اسحق بن عبد اللہ از عمران بن ابی انس اپنی والدہ سے: میں بھی سودہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی ﷺ کے حجۃ الوداع میں تھی اور انہیں کے ساتھ مزدلفہ سے منی گئی تھی اور ہم حجرۃ العقیقہ پر سنگریزے فجر سے قبل ہی مار چکی تھیں۔

باخبا محمد بن عمر بن محمد بن ابی ذب از شعبہ بسماح ابن عباس: مجھے رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیوی کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے قبل از فجر رمی جمرہ کیا۔

باخبا عبد اللہ بن وہب مصری از عمرو بن حارث از عمرو بن دینار از ابن عباس: میں ان میں تھا جن کو رسول اللہ ﷺ نے مزدلفہ سے منی اپنی کمزور بیویوں کے ساتھ لوگوں سے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔

باخبا فضل بن دکین از ابن عیینہ از عبد اللہ بن ابی یزید بسماح ابن عباس رضی اللہ عنہما: میں اور میری والدہ کمزوروں میں سے تھے اور میں ان میں سے تھا جن کو رسول اللہ ﷺ نے اپنی کمزور بیویوں کے ساتھ مزدلفہ سے منی رات ہی میں بھیج دیا تھا۔

باخبا فضل بن دکین بن محمد بن سفیان از سلمہ بن کعبیل از حسن عرفی از ابن عباس: ہم اولاد عبدالمطلب کے بچوں کو رسول اللہ ﷺ نے مزدلفہ کی رات ہی میں گدھوں پر سوار کر کے لوگوں سے پہلے منی بھیج دیا تھا آپ نے ہماری رانوں کو تھپک کر فرمایا تھا: پیارے بچو! سورج نکلنے سے پہلے رمی جمرہ نہ کرنا۔

باخبا محمد بن عمر بن محمد بن اسحاق بن حمید از قاسم بن محمد از عائشہ رضی اللہ عنہا: نبی ﷺ کے سامنے صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آیا اور آپ سے کہا گیا کہ ان کے ایام ماہواری شروع ہو گئے ہیں فرمایا: کیا وہ ہمیں روک لیں گی؟ کہا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں۔ فرمایا: پھر تو وہ روکنے والی نہیں۔

باخبا محمد بن عمر بن محمد بن ابی ذب از صالح مولیٰ تومہ از ابو ہریرہ از رسول اللہ ﷺ (حجۃ الوداع میں اپنی عورتوں سے) یہی حج ہے پھر بوریوں کا ظہور ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی ﷺ کے بعد تمام ازواج مطہرات حج کیا کرتی تھیں البتہ سودہ بنت زمعہ اور زینب بنت جحش حج نہیں کیا کرتی تھیں یہ دونوں کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد ہمیں کوئی جانور حرکت نہ دے۔

باخبا محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ بن جعفر از عثمان بن محمد احنسی از عبد الرحمن بن سعید بن ربیع: نبی ﷺ نے حجۃ الوداع میں اپنی بیویوں سے فرمایا: یہ حج ہے پھر بوریوں کا ظہور ہوگا۔

باخبا محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ بن از محمد بن حرمہ از عطاء بن یسار از نبی ﷺ (ازواج مطہرات سے) تم میں سے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا اور کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرے گی اور اپنی چٹائی کی پشت سے چمٹی رہے گی وہی آخرت میں میری بیوی ہوگی۔

باخبا محمد بن عمر بن محمد بن حماد بن زید وعدی بن فضل از ہشام از ابن سیرین از سودہ بنت زمعہ: میں حج اور عمرہ کر چکی اب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے گھر میں بیٹھوں گی۔

محمد بن عمر: سودة بنت عاصم ایک نیک خاتون تھیں آپ نے رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان پر عمل کیا: یہ حج ہے پھر چٹائیوں کا ظہور ہے اس لیے آپ نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مرتے دم تک حج نہیں کیا۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث موسیٰ بن یعقوب زمعی اپنی پھوپھی سے اور وہ اپنی والدہ سے: رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد زینب بنت جحش نے حج نہیں کیا بس آپ کے ساتھ حج کر لیا تھا حتیٰ کہ آپ عہد فاروقی میں ۲۰ھ میں اپنے رب سے جا ملیں۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث عبدالرحمن بن عبدالعزیز از سلیمان بن بلال از ربیعہ بن ابی عبدالرحمن از ابو جعفر: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امہات المؤمنین کو حج اور عمرے سے روک دیا تھا۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث ابراہیم بن سعد اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے: جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ۲۳ھ میں اپنا آخری حج کیا تو امہات المؤمنین نے بھی آپ سے حج کی اجازت مانگی آپ نے اجازت دے دی اور ان کے حج کی تیاری کا حکم دے دیا انہیں ہودجوں میں جن پر ہبز پردے تھے سوار کیا گیا اور ان کے ساتھ عبدالرحمن و عثمان رضی اللہ عنہما کو بھیجا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر ان کے آگے آگے چل رہے تھے اور کسی کو ان کے قریب نہ آنے دیتے تھے اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور کسی کو ان کے قریب نہ آنے دیتے تھے اور امہات المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہر منزل میں ٹھہرتی ہیں۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث ابراہیم بن سعد اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبدالرحمن سے: مجھے اور عثمان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے سال ازواج مطہرات کے ساتھ بھیجا آپ ان کو حج کراتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات کے آگے آگے چل رہے تھے اور کسی کو ان کے پاس نہیں آنے دیتے تھے اور انہیں وہی دیکھ سکتا تھا جو دور سے ان پر نگاہ ڈالے اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور کسی کو ان کے قریب نہیں آنے دیتے تھے امہات المؤمنین ہودجوں میں تھیں اور یہ دونوں بزرگ ازواج مطہرات کو گھائیوں میں ٹھہرا دیتے تھے اور کسی گھائی میں انہیں قبولہ کرا دیا کرتے تھے اور گھائی کے سائے میں اتار دیتے تھے اور ان کے پاس کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث فروہ بن زید از عائشہ بنت سعد از ام ذرہ بسماع عائشہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں ہمیں حج اور عمرے سے روک دیا تھا حتیٰ کہ آپ کے عہد کے آخری سال میں آپ نے ہمیں حج کی اجازت دی پھر ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عہد آیا تو میں ام سلمہ میمونہ اور ام حبیبہ جمع ہوئیں اور ہم نے ان کے پاس آدمی بھیج کر ان سے حج کی اجازت مانگی۔ فرمایا: تم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل کی خبر ہے ہی۔ میں بھی ان کی طرح تم کو حج کرا دوں گا تم میں سے جو کوئی حج کرنا چاہے میں بھی ان کے ساتھ حج کو چلا جاؤں گا چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بجز دو عورتوں کے ہم سب کو حج کرایا زینب عہد عمر میں فوت ہوئیں اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج نہیں کرایا اور سودة بنت عاصم رضی اللہ عنہا تو نبی ﷺ کی وفات کے بعد گھر سے باہر نکلی ہی نہیں اور ہم سے پردہ کرایا جاتا تھا۔

باخبار محمد بن عمر: بحدیث علی بن زید از زید اپنی پھوپھی ام معبد بنت خالد بن خلیف: میں نے عہد عمر میں عبدالرحمن و عثمان

ﷺ کو دیکھا کہ انہوں نے ازواج مطہرات کو حج کرایا اور میں نے ان کے ہودجوں پر سبز ریشمیں چادریں پڑی ہوئی دیکھیں اور وہ لوگوں سے علیحدہ رہتی تھیں آگے آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر چلتے تھے اور اگر کسی کو ان کے قریب آتا دیکھتے تو بلند آواز فرماتے ہٹ جاو اور ابن عوف ازواج مطہرات کے پیچھے ہی فریضہ انجام دے رہے تھے پھر وہ قدید میں میری منزل کے قریب ٹھہریں اور لوگوں سے علیحدہ رہیں اور لوگوں نے درختوں سے ہر طرف سے ان پر پردہ کر رکھا تھا میں ان کے پاس گئی تو وہ سب آٹھ ازواج مطہرات تھیں میں انہیں دیکھ کر رونے لگی بولیں: کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا: تم کو دیکھ کے مجھے سرور عالم ﷺ یاد آگئے یہ سن کر وہ بھی رونے لگیں میں نے کہا: میرے پاس آپ کی یہ منزل ہے پھر انہوں نے مجھے پہچانا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے ان کے سامنے اونٹ کا گوشت اور دودھ پیش کیا اور انہوں نے سب کا سب مجھ سے قبول فرمایا اور ہر ایک نے مجھے کچھ نہ کچھ دیا اور سب نے مجھ سے کہا جب ہم ان شاء اللہ مدینہ جائیں گے اور امیر المومنین ہمیں ہمارا وظیفہ دیں گے اس وقت تم ہمارے پاس آنا فرماتی ہیں: میں اس وقت مدینہ گئی اور ہر ایک کی خدمت میں حاضر ہوئی ہرام المومنین نے مجھے پچاس پچاس دینار دیئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بقدر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وظیفہ دیا کرتے تھے۔

باخبار ولید بن عطاء بن اغرکلی باخبار ابراہیم بن سعد اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پچھلے حج کے موقع پر امہات المومنین کو حج کی اجازت دے دی تھی اور ان کے ساتھ عثمان و عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کو کر دیا تھا۔ عثمان اعلان کرتے جاتے تھے: سنو! ان کے قریب کوئی نہ جائے اور نہ انہیں کوئی دیکھے وہ ہودجوں میں اونٹوں پر تھیں پھر جب وہ ٹھہرنا چاہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں گھائی کے شروع میں ٹھہرا دیتے تھے اور گھائی کے اخیر میں دونوں خود ٹھہر جاتے تھے اس لیے ان تک کوئی نہیں پہنچتا تھا۔

باخبار عمر بن خالد مصری، محمد یرث زہیر بن معاویہ از ابی اسحاق: میں نے ازواج مطہرات کو دیکھا کہ انہوں نے ہودجوں میں مغیرہ کے زمانہ میں حج کیا ہودجوں پر ریشمیں پردے پڑے ہوئے تھے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد یرث سفیان بن عیینہ از ابن نجیح: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری بیویوں کی حفاظت کرنے والا سچا اور نیک ہے چنانچہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے اور انہیں ایسی گھائی میں ٹھہرایا کرتے تھے جس میں کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو اور ان کے ہودجوں پر ریشمیں چادریں ڈالتے تھے۔

باخبار محمد بن عمر از عبداللہ بن جعفر از ابن ابی عون از مسور بن مخرمہ: بسا اوقات میں دیکھتا تھا کہ ایک شخص کجاو ٹھیک کرنے کے لیے یا اپنا سامان درست کرنے کے لیے اونٹ راستہ پر بٹھائے ہوئے ہے پھر اس کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ازواج مطہرات کے آگے آگے ہوتے ہیں پہنچتے ہیں اگر راستہ فراخ ہوتا ہے تو آپ اس سے دائیں یا بائیں جانب ہٹ کر دور چلے جاتے ہیں اور اگر راستہ فراخ نہیں ہوتا تو ایک گوشہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ شخص کجاوہ کس لیتا ہے یا اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ کی مکہ سے آنے والوں سے راہ میں مڈ بھٹڑ ہو جاتی ہے آپ ان سے فرماتے ہیں دائیں یا بائیں جانب ہٹ جاؤ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں منہجائے نگاہ تک ہٹا دیتے ہیں تاکہ ازواج مطہرات آسانی سے گزر جائیں۔

باخبار محمد بن عمر بن عبد اللہ بن جعفر از ام بکر بنت مسور از مسور: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی کیدمد والی جانیدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چالیس ہزار دینار میں فروخت کی جب آپ کو یہ رقم وصول ہوئی تو آپ نے مجھے اور عبدالرحمن بن اسود اور فلاں کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ رقم ملی ہے جیسا کہ تم کو علم ہے اور میں اسے بانٹنے کی ابتداء ازواج مطہرات سے کروں گا پھر آپ نے ہرام المؤمنین کے لیے دینار وزن کر کے علیحدہ کیے جو تعداد میں ایک ہزار دینار تھے پھر جب امہات المؤمنین کے پاس یہ رقم پہنچی تو انہوں نے آپ کو دعائیں دیں کہ اللہ انہیں جزائے خیر دے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے بعد تمہاری خیر خرد ہی ہے لے گا جو سچا اور نیکو کار ہوگا یعنی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے باقی رقم اپنے عزیزوں میں بانٹ دی اور جب کھڑے ہوئے تو آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔

باخبار محمد بن عمر از ہارون بن محمد از محمد از ابوسلمہ بن عبدالرحمن: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ کے پاس عروہ جب چاہتے ہیں آجاتے ہیں اس اعتبار سے وہ ہم سے سبقت لے گئے فرمایا تم بھی جب چاہو آؤ اور پردے کے پیچھے سے مجھ سے جو چاہو پوچھو کیونکہ ہم نے نبی ﷺ کے بعد تمہارے والد سے زیادہ ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا کسی کو نہیں پایا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم پردہ ہی جھکے گا جو سچا اور نیکو کار ہوگا اور وہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ ہیں۔
حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ:

باخبار محمد بن عمر بن عبد اللہ بن یعقوب بن محمد بن ابی صعصعہ: مقوقس شاہ اسکندریہ نے مجھ میں سرکار رسالت کی خدمت اقدس میں ماریہ کو اور ان کی ہمشیرہ سیرین کو بطور ہدیہ کے بھیجا اور ایک ہزار مثقال سونا ۲۰ مہین تھان اور دلذال نجر اور غفیر یا لغفور گدھا بھی ان کے ساتھ ایک خضی آدمی مابور بھی تھا جو بہت بوڑھا تھا اور ماریہ کا بھائی تھا، مقوقس نے یہ ساری چیزیں حاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ بھیجیں، حاطب نے ماریہ کو اسلام کی رغبت دلائی اور ان کے سامنے اسلام کے محاسن بیان کیے ماریہ معہ اپنی بہن سیرین کے اسلام لے آئیں اور خضی اپنے دین پر قائم رہا حتیٰ کہ مدینہ میں اس کے بعد عہد رسالت ہی میں وہ بھی مسلمان ہو گیا: ماریہ گوری چٹی اور خوبصورت تھیں رسول اللہ ﷺ کو پسند آئیں آپ نے انہیں عالیہ میں یعنی اس مکان میں جسے آج مشربہ ام ابراہیم کہا جاتا ہے ٹھہرا دیا اسی جگہ آپ ان کے پاس آتے جاتے رہے اور ان سے پردہ کرایا آپ ان سے لونڈی کی حیثیت سے صحبت کیا کرتے تھے ماریہ آپ سے حاملہ ہو گئیں اور عالیہ ہی میں ان کے لڑکا پیدا ہوا اور دانی کے فرائض سلمیٰ، مولوۃ رسول اللہ رضی اللہ عنہا نے انجام دیئے پھر ابورافع نے جو سلمیٰ کا شوہر تھا رسول اللہ ﷺ کو ابراہیم کی خوشخبری سنائی آپ نے اسے ایک غلام بہہ کیا۔ یہ ذی الحجہ ۸ھ کا واقعہ ہے انصار ابراہیم سے محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ماریہ کو نبی ﷺ کے لیے فارغ کر دیں کیونکہ انہیں ماریہ سے آپ کی محبت معلوم ہی تھی۔

باخبار محمد بن عمر بن عبد اللہ بن موسیٰ بن محمد بن عبدالرحمن بن حارثہ بن نعمان از حارثہ بن نعمان از عمرہ از عائشہ: مجھے ماریہ پر جس قدر رغبت تھی اس سے کم ہی دوسری عورت پر غیر تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھیں اور ان کے بال گھونگھریا لے تھے یا گتھے ہوئے جسم کی تھیں آپ رسول اللہ ﷺ کی پسندیدہ خاتون تھیں شروع میں جب یہ آئی تھیں تو آپ نے انہیں حارثہ بن نعمان کے گھر ٹھہرا دیا تھا

اس لیے یہ ہماری ہمسائی بھی تھیں رسول اللہ ﷺ عموماً دن رات آپ ہی کے پاس رہتے تھے حتیٰ کہ ہم ان کے پیچھے بڑ گئے پھر وہ پریشان ہوئیں تو آپ نے انہیں عالیہ میں منتقل فرمایا اور ان کے پاس عالیہ ہی میں آتے جاتے رہے یہ بات ہمیں اور بھی شاق گزری پھر حق تعالیٰ نے ان سے آپ کو بیٹا عطا فرمایا اور ہم اس سے محروم رہیں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ بن مسلم از زہری از انس بن مالک: ام ابراہیم نبی ﷺ کی لوٹھی اپنے بالا خانہ میں رہتی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر باخبار مالک بن انس از زید بن اسلم: نبی ﷺ نے ام ابراہیم اپنے اوپر حرام فرمائی تھی اور فرمادیا تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہے اور یہ بھی کہا تھا: اللہ کی قسم! میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا پھر قد فرض اللہ لکم الخاثری یعنی اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں سے حلال ہونا فرض کر دیا ہے۔ محمد بن عمر: مالک بن انس فرماتے ہیں لہذا لوٹھیوں میں حرام حلال ہے جب کوئی شخص اپنی لوٹھی سے کہے تو مجھ پر حرام ہے تو یہ کچھ نہیں اور اگر کہے اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہ آؤں گا تو اس پر قسم کا کفارہ ہے۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن ابوحاتم از جوہر از شحاک: رسول اللہ ﷺ نے اپنے اوپر اپنی لوٹھی حرام کر لی اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کا انکار کیا اور لوٹھی آپ پر لوٹا دی پھر آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن سعد از قتادہ: آپ نے اسے حرام فرمایا تھا پھر یہ حرمت قسم قرار دے دی گئی۔ باخبار محمد بن عمر بن محمد بن ثوری از داؤد بن ابی ہند از شعبی از مسروق: رسول اللہ ﷺ نے اپنی لوٹھی سے قسم کھالی اور اسے حرام کر لیا پھر حق تعالیٰ نے ایلاء میں یہ آیت اتاری قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم اور یہ آیت بھی پائیہا النبی لہ تحرم ما أحل اللہ لکم لہذا حرام حلال ہے یعنی لوٹھیوں میں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن سوید بن عبد العزیز از اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فرود از قاسم بن محمد: رسول اللہ ﷺ نے حصہ بنی سہم کے گھر میں اپنی لوٹھی ماریہ سے خلوت کی پھر جب نبی ﷺ باہر آئے تو وہ آپ کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھیں بولیں کیا میرے گھر میں اور میرے دن؟ فرمایا: وہ مجھ پر حرام ہے یہ راز نہ کھولنا بولیں: قسم کھائے بغیر میں راضی ہونے والی نہیں فرمایا: اللہ کی قسم! میں کبھی اسے نہیں چھوؤں گا۔ قاسم کی رائے میں آپ کا قول حرام ہے کچھ نہیں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ از زہری: ماریہ اور ان کی بہن سیرین کو متوقس نے نبی ﷺ کو ہدیہ میں بھیجی تھی نبی ﷺ نے ام ابراہیم کو اپنے پاس رکھ لیا اور سیرین کو حسان بن ثابت کو ہبہ کر دیا۔ محمد بن عمر: ماریہ حنن کی تھیں جو انصاریا انصاریہ کے علاقہ میں سے تھیں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ از زہری از ابن کعب از مالک: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قبیلوں کے بارے میں میری یہ سفارش منظور کر لو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ ان کے لیے عہد بھی ہے اور ان میں میری رشتہ داری بھی ہے عربوں کی رشتہ داری تو یہ ہے کہ ام اسماعیل قبیلہ تھیں اور رسول اللہ ﷺ کی رشتہ داری یہ ہے کہ ام ابراہیم بن رسول اللہ ان میر سے ہیں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ از زہری از انس بن مالک ام ابراہیم نبی ﷺ کی لونڈی اپنے بالا خانہ میں رہتی تھیں اور ایک قبلی ان کے پاس رہتا تھا جو ان کو پانی اور لکڑیاں لا کر دے دیا کرتا تھا لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ ایک دیہاتی ایک دیہاتن کے پاس آتا جاتا ہے رسول اللہ ﷺ کو بھی یہ افواہ پہنچ گئی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس سلسلہ میں بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے ایک کھجور پر پایا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور ڈر کے مارے اس کا تہبند کھل گیا دیکھا تو اس کا ذکر کٹا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل نہیں کیا اور آپ نبی ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگے: یا رسول اللہ! اگر آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجیں پھر وہ چیز اس میں نہ دیکھے تو کیا وہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے؟ فرمایا: ہاں پھر آپ نے بتایا کہ اس قبلی کا عضو مخصوص ہی کٹا ہوا ہے پھر ماریہ کے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور جبرئیل نبی ﷺ پر اتارے اور فرمایا: السلام علیک اے ابراہیم کے والد! اس سے رسول اللہ ﷺ کی دلجوئی ہوئی۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عمر از محمد بن عمر از علی: ہم مش۔ اس میں یہ بھی ہے کہ علی نے اس قبلی کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے سر پر گھڑا ہے اور وہ ماریہ رضی اللہ عنہا کے لیے میٹھا پانی لا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر تلوار کھینچی اور اس کی طرف بڑھے جب قبلی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو مشکیزہ پھینک کر ایک کھجور پر چڑھ گیا اور اس کا تہبند کھل گیا اور بالکل نیگا ہو گیا دیکھا تو اس کا عضو مخصوص ہی کٹا ہوا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار میان میں کر لی اور نبی ﷺ کے پاس واپس لوٹ آئے اور نبی ﷺ کو صورت حال سے آگاہ کیا آپ نے فرمایا: تم نے ٹھیک کیا شاہد وہ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا۔

باخبار معن بن عیسیٰ بن محمد بن سعید بن کلیب قاضی عدنان از حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس از عکرمہ از ابن عباس رضی اللہ عنہما و باخبار عبد اللہ بن مسلمہ بن قعب و ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی اویس و محمد بن عمر بن محمد بن ابوبکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ از حسین بن عبید اللہ بن عباس از عکرمہ از ابن عباس و باخبار عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما و محمد بن یونس از ابو بکر بن ابی سبرہ از حسین بن عبد اللہ از عکرمہ از ابن عباس! جب ماریہ کے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انہیں ان کے بیٹے نے آزاد کر دیا۔ باخبار اسامعیل بن عبد اللہ بن ابی اویس بن محمد بن عبد اللہ بن اویس از حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ از عکرمہ از ابن عباس: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس لونڈی کے اس کے مالک سے اولاد ہو جائے تو وہ سید کے مرنے کے بعد آزاد ہے یہ دوسری بات ہے کہ مالک اسے اپنے مرنے سے قبل ہی آزاد کر دے۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن اسامہ بن زید از منذر بن عبید از عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما اپنی والدہ سے (نبی ﷺ نے ماریہ کی بہن سیرین کو حسان کو بہہ کر دیا تھا جن سے عبد الرحمن پیدا ہوئے) جب ابراہیم پر سکرات طاری ہوئی تو میں اور میری بہن زور زور سے رونے لگی میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ ہمیں منع نہیں فرما رہے تھے لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو نبی ﷺ نے ہمیں چیخنے سے منع فرما دیا۔ حضرت ابراہیم کو فضل بن عباس نے غسل دیا رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے پھر میں نے آپ کو قبر کے کنارے پر دیکھا آپ کے پاس عباس تھے اور قبر میں فضل اور اسامہ بن زید اتارے اتفاق سے اس دن سورج میں گرہن لگ گیا لوگ بولے: ابراہیم کی موت کی وجہ سے گرہن لگا پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دیکھو گرہن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا۔ رسول

اللہ ﷺ نے کچی اینٹوں میں کشادگی دیکھی اور حکم فرمایا کہ اسے بند کر دیا جائے پھر نبی ﷺ سے پوچھا گیا تو فرمایا: دیکھو اس سے نہ نقصان پہنچتا ہے اور نہ فائدہ ہاں آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے دیکھو بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو حق تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ اسے اچھی طرح سے انجام دیا جائے۔

باخبار یحییٰ بن عبید دمشق، متحد بیٹ سعید بن عبدالعزیز از عطاء: ام ولد ماریہ رضی اللہ عنہا کو تین حیض عدت کرنے کا حکم دیا گیا۔ باخبار محمد بن عمر از ولید بن مسلم از سعید بن عبدالعزیز از عطاء: نبی ﷺ کی وفات کے بعد ماریہ نے تین حیض عدت کی۔ باخبار محمد بن عمر متحد بیٹ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم از محمد بن ابراہیم: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آخری دم تک ماریہ کا خرچ اٹھاتے رہے پھر ان پر عمر خرچ کرتے رہے حتیٰ کہ وہ آپ کے عہد میں فوت ہو گئیں محمد بن عمر: ماریہ محرم الحرام ۱۶ھ میں فوت ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ ان کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو جمع فرما رہے تھے آپ ہی نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

اصحاب المؤمنین کی تعداد:

باخبار محمد بن عمر متحد بیٹ محمد بن عبداللہ از زہری و متحد بیٹ کثیر بن زید از مطلب بن عبداللہ بن حطب: قبل از نبوت سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں جن سے رسول اللہ ﷺ نے نکاح کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا عتیق بن عابد مخزومی کے نکاح میں تھیں جن سے آپ کی بچی ہند ہے عتیق کی موت کے بعد آپ سے ابو ہالہ بن نباش بن زرارہ تمیمی نے جو بنو عبدالدار کا حلیف تھا نکاح کیا جس سے آپ کے ایک لڑکا ہند پیدا ہوا پھر آپ سے رسول اللہ ﷺ نے نکاح کیا اس وقت نبی ﷺ کی عمر ۲۵ سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر چالیس سال تھی آپ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قاسم و طاہر پیدا ہوئے لیکن دونوں قبل از نبوت فوت ہو گئے پھر زینب رقیۃ ام کلثوم اور فاطمہ پیدا ہوئیں سب سے بڑی زینب ہیں جو ابوالعاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں زینب سے چھوٹی رقیہ ہیں جن کا نکاح عقیبہ بن ابی لہب سے ہوا لیکن رخصتی سے قبل ہی اس نے آپ کو طلاق دے دی پھر آپ کا نکاح نبوت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ رقیہ سے چھوٹی ام کلثوم ہیں جن سے رقیہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ۱۰ رمضان المبارک ۱۰ انبوی میں ہجرت سے تین سال قبل ۶۵ سال کی عمر میں ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی ﷺ نے حضرت سودہ بنت زمعہ عامریہ سے نکاح کیا۔ اس سے قبل سودہ سکران بن عمرو سمیل بن عمرو کے بھائی کے نکاح میں تھیں سکران ان کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے پھر مکہ آ گئے اور مکہ میں آ کر فوت ہو گئے پھر سودہ رضی اللہ عنہا سے نبی ﷺ نے ۱۰ انبوی میں ہجرت سے قبل نکاح کر لیا پھر آپ نے سودہ کو رمضان ۱۰ انبوی میں مدینہ بلوایا پھر سودہ کے بعد جلد ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مکہ میں شوال ۱۰ انبوی میں ۶ سال کی عمر میں نکاح کیا پھر ۹ سال کی عمر میں مدینہ میں شوال ہی میں ہجرت کے آٹھویں مہینہ رخصتی ہوئی آپ کی وفات کے وقت صدیقہ کی عمر ۸ سال تھی پھر آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا حفصہ پہلے حمیس بن حذافہ سہمی کے نکاح میں تھیں ان سے آپ کے اولاد نہیں ہوئی تھیں بدر سے واپس آنے کے بعد فوت ہوئے آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے شوال ۳ھ میں ہجرت کے تیسویں ماہ جنگ احد سے

دو ماہ قبل نکاح کیا۔ پھر آپ نے ام سلمہ سے نکاح کیا۔ ام سلمہ ابوسلمہ بن عبدالاسد کے نکاح میں تھیں ان سے آپ کے عمر سلمہ زینب اور برہ چار بچے پیدا ہوئے پھر جنگ احد کے بعد ابوسلمہ مدینہ میں فوت ہو گئے آپ نے ام سلمہ سے اخیر شوال ۴ھ میں نکاح کیا پھر آپ نے جویریہ سے نکاح کیا اس سے قبل جویریہ اپنے چچا زاد بھائی صفوان ذوالشفر بن مالک بن جذیمہ کے نکاح میں تھیں صفوان جنگ مریسج میں قتل ہوئے اور جویریہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مال نے میں آئیں آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا جنگ مریسج شعبان ۵ھ میں پیش آئی پھر آپ نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا اس سے قبل زینب زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں لیکن زید سے ان کے اولاد نہ تھی آپ نے ذی قعدہ ۵ھ میں زینب سے نکاح کیا پھر آپ نے زینب بنت خزیمہ ام المساکین سے نکاح کیا اس سے قبل آپ طفیل بن حارث بن مطلب کے نکاح میں تھیں زینب آپ کے سامنے ہی فوت ہو گئی تھیں پھر آپ نے ریحانہ سے نکاح کیا اس سے قبل ریحانہ حکم نضری کے نکاح میں تھیں حکم فوت ہو گیا ریحانہ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھیں غزوہ بنو قریظہ ذی قعدہ یا ذی الحجہ ۵ھ میں واقع ہوا پھر آپ نے ام حبیبہ سے وقفہ کے زمانہ میں نکاح کیا ام حبیبہ نکاح کے وقت حبشہ میں تھیں آپ نے نجاشی کے پاس آدی بھیجا کہ وہ ان کا آپ سے نکاح کرادے خالد بن سعید نے ولی کے قرائض ادا کیے اس سے قبل آپ عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں عبید اللہ مسلمان ہو گئے تھے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے پھر یہ عیسائی ہو گئے اور اسی پر فوت ہو گئے پھر آپ نے صفیہ سے نکاح کیا یہ آپ کی لونڈی تھیں آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ اس سے قبل صفیہ سلام بن مشکم کے نکاح میں تھیں لیکن اس نے انہیں طلاق دے دی تھی پھر ان سے کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق نے نکاح کر لیا تھا جو جنگ خیبر میں مارا گیا ان دونوں سے ان کے اولاد نہیں ہوئی۔ صفیہ قبوس سے گرفتار کی گئیں آپ نے جمادی الاوٰی کے ۷ھ میں مقام صہباء میں آپ سے خلوت کی پھر میمونہ سے ذی قعدہ ۷ھ میں نکاح کیا یہ عمرہ القضاء کا سال ہے اس سے قبل میمونہ ابورہم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں یہ بلا اولاد کے فوت ہو گئے تھے۔ اور آپ نے فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان کلابیہ سے نکاح کیا لیکن اس نے آپ سے پناہ مانگی آخر کار آپ نے اسے چھوڑ دیا پھر یہ امہات المؤمنین کے پاس آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں بدنصیب ہوں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسے سفید داغ کی وجہ سے طلاق دے دی تھی یہ نکاح ذیقعدہ ۸ھ میں ہجرت سے واپس آنے کے بعد ہوا تھا فاطمہ ۶۰ھ میں فوت ہوئیں اور آپ نے اسماء بنت نعمان سے نکاح کیا اور اس سے خلوت نہیں کی اس نے بھی آپ سے پناہ مانگی تھی آپ نے جونہی سے ربیع الاول ۹ھ میں نکاح کیا تھا یہ عہد عثمانی میں نجد میں اپنے قبیلہ میں فوت ہوئیں۔

ان خواتین کے علاوہ دیگر خواتین سے نکاح کو علماء نہیں مانتے کہتے ہیں آپ نے قبیلہ بنت قیس سے اور کنانہ سے نکاح نہیں کیا کہتے ہیں آپ نے صرف چودہ عورتوں سے نکاح کیا جن میں سے چھ بلاشبہ قریشیہ ہیں: خدیجہ عائشہ سودہ ام سلمہ ام حبیبہ اور حفصہ رضی اللہ عنہن اور عرب کی عورتوں میں زینب بنت جحش، میمونہ جویریہ اسماء بنت نعمان جونہی فاطمہ بنت ضحاک کلابیہ زینب بنت خزیمہ ریحانہ بنت زید نضریہ اور صفیہ کھجلی دو عورتیں آپ کو مال نے میں ملی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر بن عبد بن اسرائیل از جابر از عامر: رسول اللہ ﷺ نے ۱۴ عورتوں سے نکاح کیا۔ باخبار محمد بن عمر بن عبد بن

موسیٰ بن عبیدہ از محمد بن کعب قرظی و عمر بن حکم و عبد اللہ بن عبید اللہ رسول اللہ ﷺ نے تیرہ عورتوں سے شادی کی، ریحانہ کے علاوہ باقی وہی عورتیں ہیں جو ہم اوپر بتائے ہیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث عبید بن جابر از محمد بن یحییٰ بن حبان: رسول اللہ ﷺ نے پندرہ عورتوں سے نکاح کیا چودہ تو وہی ہیں جن کو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں آگے فرماتے ہیں اور آپ نے بنو لیث کی ایک عورت ملیکہ بنت کعب سے نکاح کیا۔

محمد بن عمر ابو معشر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ملیکہ بنت کعب سے نکاح کیا۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث عبد العزیز جندی اپنے والد سے اور وہ عطاء بن یزید جندی سے: رسول اللہ ﷺ نے ملیکہ سے رمضان میں نکاح کیا اور ان سے خلوت کی اور وہ آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں۔ باخبار محمد بن عمر بحدیث محمد بن عبد اللہ از زہری: زہری لیشیہ سے نبی ﷺ کے نکاح کو نہیں مانتے تھے۔ محمد بن عمر: ہمارے نزدیک اس پر اجماع ہے کہ نبی ﷺ نے ۱۴ عورتوں سے نکاح کیا جن کا ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اور ان میں سے آپ نے جونہ اور کلابیہ کو طلاق دے دی تھی اور آپ کی زندگی میں حدیجہ، زینب بنت خزیمہ، ہلالیہ اور ریحانہ نصریہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں اور نبی ﷺ نے نو بیویاں چھوڑ کر وفات پائی۔ حاکم حصہ ۴ ام سلمہ، ام حبیبہ، سودہ، زینب بنت جحش، میمونہ، جویریہ اور صفیہ رضی اللہ عنہن۔

از و اج مطہرات کی عدت کا ذکر:

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابن ابی سبرہ از عمرو بن سلیم از عروہ بن زبیر: عمرو نے عروہ سے پوچھا: کیا امہات المؤمنین نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد عدت کی تھی؟ فرمایا: ہاں چار ماہ دس دن عدت کی تھی۔ بولے: کیوں عدت کی تھی حالانکہ وہ دنیا کے ہر شخص پر حرام ہیں اور عدت صرف رحم کی صفائی کے لیے ہی ہوتی ہے؟ عروہ نے غضبناک ہو کر کہا: شاید تمہارا ذہن یا نساء النبی لستن کا احد من النساء کی طرف گیا۔ امہات المؤمنین نے قرآن کے حکم کے بموجب عدت کی۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابن ابی سبرہ از عمر بن عبد اللہ عنسی بحدیث جعفر بن عبد اللہ بن ابی الحکم: امہات المؤمنین نے ۴ ماہ دس دن سوگ منایا سوگ میں بعض بعض سے ملاقات کر لیا کرتی تھیں مگر رات سب اپنے گھر ہی میں بسر کیا کرتی تھیں وہ دنیا سے اس قدر بے رغبت ہو گئی تھیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ نہیں ہیں اور روزانہ یا دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کے رونے کی آواز سنائی دیا کرتی تھی اور بلک بلک کر رو یا کرتی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر از ابن ابی سبرہ از عمر بن عبد اللہ عنسی: میں نے عمرہ سے امہات المؤمنین کے بارے میں پوچھا کیا انہوں نے عدت کی؟ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے خلوت کے بعد جس کو طلاق دی اس نے تین حیض عدت کی یعنی کلابیہ نے تین حیض عدت کی اور سودہ نے بھی لیکن آپ نے سودہ سے پاک ہونے سے قبل ہی شروع حیض میں رجوع کر لیا تھا اور آپ کی تمام بیویوں نے وفات کی عدت کے ۴ ماہ دس دن گزارے۔



بیعت کرنے والی خواتین اسلام کے اسمائے گرامی

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا:

آپ اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت قیس بن ہرم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن بغیض بن عامر بن لوی ہیں۔ آپ زائدہ بن اہم بن ہرم بن رواحہ جو خدیجہ بنت خویلد کے دادا ہیں کی چچا زاد اخیانی بہن ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ابو طالب نے نکاح کیا جن سے آپ کے طالب، عقیل، جعفر اور علی چار بیٹے اور ام ہانی، جمانہ اور ریہہ تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فاطمہ مسلمان ہو گئی تھیں اور ایک نیک خاتون تھیں۔ نبی ﷺ ان سے ملتے جلتے رہتے تھے اور دو پہر کو انہیں کے گھر میں سویا کرتے تھے۔

رقیقہ رضی اللہ عنہا:

آپ ابوصفیٰ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ ہالہ (تماضر) بنت کلدہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی ہیں آپ نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن قصی بن زہرہ بن کلاب کے نکاح میں تھیں جن سے آپ کے مخزومہ صفوان اور امیہ پیدا ہوئے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ بن جعفر از ام بکر بنت مسور بن مخزومہ بن نوفل از رقیقہ بنت ابی صفیٰ بن ہاشم بن عبد مناف، گویا میں اپنے چچا جان شیبہ کو دیکھ رہی ہوں۔ یعنی عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف کو اس وقت میں کچی تھی جب ان کو مطلب بن عبد مناف ہمارے پاس لے کر آئے تھے۔ سب سے پہلے میں ہی دوڑ کر ان کے پاس گئی اور انہیں چمٹ گئی اور ان کے آنے کی گھر میں خبر کی۔ اس وقت آپ عبدالمطلب سے بڑی تھیں آپ نے رسول اللہ ﷺ کو پایا اور آپ اپنے بیٹے مخزومہ پر بڑی سخت تھیں یعنی مخزومہ کے اسلام لانے سے قبل ان پر سخت تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد اللہ بن جعفر از ام بکر بنت مسور از مسور: رقیقہ بنت ابی صفیٰ بن ہاشم بن عبد مناف، ام مخزومہ بن نوفل نے رسول اللہ ﷺ کو ایک خطرے سے آگاہ کیا کہ قریش نے ایک اجتماع میں آج رات آپ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسور کہتے ہیں: پھر رسول اللہ ﷺ اپنے بستر سے ہٹ گئے اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ رات بھر سوتے رہے۔

ام ایمن، برکہ، رسول اللہ ﷺ کی آزاد کردہ لونڈی اور دائی:

رسول اللہ ﷺ کو اپنے والد سے جو میراث ملی تھی اس میں ام ایمن پانچ موٹے تازے اونٹ اور کچھ مکریاں شامل ہیں۔ جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تم ام ایمن کو آزاد کر دیا اور ام ایمن سے عبید بن زید حارثی نے نکاح کر لیا۔ جن سے آپ کے ایمن پیدا ہوئے۔ ایمن نبی ﷺ کے صحابی ہیں اور جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے زید کو رسول اللہ ﷺ کو بہہ کر دیا۔ آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور نبوت کے بعد ان کا ام ایمن سے نکاح کر دیا جن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔

باخبر محمد بن عمر از یحییٰ بن سعید بن دینار سعد بن بکر کے ایک شیخ سے رسول اللہ ﷺ ام ایمن کو امی جان کہا کرتے تھے جب آپ انہیں دیکھتے تو فرماتے: میرے گھر والوں میں یہی زندہ ہیں۔

باخبر ابو اسامہ یعنی حماد بن اسامہ از جریر بن حازم بسماح عثمان بن قاسم: جب ام ایمن نے ہجرت کی تو منصرف میر جو رحاء کے قریب ہے شام ہو گئی اور انہیں سخت پیاس محسوس ہوئی۔ ان کے پاس پانی نہ تھا اور روزہ کھولنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ پھر جب پیاس انتہاء کو پہنچ گئی تو ان پر آسمان سے پانی سے بھرا ہوا ڈول لٹکایا گیا جس سے موتیوں کی طرح سفید سفید قطرے ٹپک رہے تھے۔ انہوں نے اس ڈول کو لے کر اس سے خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ فرمایا کرتی تھیں اس کے بعد مجھے پر کبھی پیاس محسوس نہ ہوئی۔ مجھے سخت سے سخت گرم دو پہر کو بھی روزے میں اس پانی پینے کے بعد پیاس نہیں لگتی تھی۔

باخبر عبید اللہ بن موسیٰ باخبر فضیل بن مرزوق از سفیان بن عقیبہ: ام ایمن نبی ﷺ سے آپ کے بچپن میں انتہائی لطف پیار سے پیش آتی تھیں اور آپ کی دیکھ بھال رکھتی تھیں۔ ایک دفعہ نبی ﷺ نے فرمایا: اگر کسی کو جنتی عورت سے شادی کرنے میں لطف آتا ہو تو وہ ام ایمن سے شادی کر لے پھر ان سے زید بن حارثہ نے نکاح کر لیا جن سے ان کے اسامہ پیدا ہوئے۔

باخبر فضل بن دکین: متحد ریث سفیان از ابو اسحاق از مجاہد: نبی ﷺ نے ام ایمن سے فرمایا اپنی چادر سے پردہ کر لو۔ باخبر فضل بن دکین: متحد ریث ابو معشر از محمد بن قیس: ام ایمن نے نبی ﷺ کے پاس آ کر کہا مجھے سواری دے دیجئے۔ فرمایا: میں تم کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ بولیں: یا رسول اللہ ﷺ! وہ میرا بوجھ نہ اٹھا سکے گا اور نہ میں بچوں گی۔ فرمایا: میں تو تمہیں اونٹنی کے بچے ہی پر سوار کروں گا۔ یعنی آپ ان سے دل لگی کر رہے تھے اور دل لگی میں بھی آپ سچ ہی فرمایا کرتے تھے کیونکہ اونٹ اونٹنیوں کے بچے ہی ہوتے ہیں۔

باخبر محمد بن عبد اللہ اسدی: متحد ریث سفیان از جعفر اپنے والد سے: ام ایمن آتی تھیں اور کہتی تھی: (علیکم) نہیں بس سلام ہی کافی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے سلام کہنا حلال قرار دے دیا۔

باخبر قبیصہ بن عقیبہ: متحد ریث سفیان از جعفر اپنے والد سے: جب ام ایمن آپ کے پاس آتیں تو صرف سلام کہتیں علیکم نہیں کہتی تھیں۔ پھر آپ نے انہیں صرف سلام کی رخصت دے دی۔

باخبر محمد بن عمر از عائد بن یحییٰ از ابو الحویرث: جنگ حنین میں ام ایمن نے مسلمان بھاگنے والوں کو کوسا اور کہا: اللہ تمہارے قدم عارت کرے نبی ﷺ نے فرمایا: ام ایمن خاموش رہو تم سخت زبان ہو۔

باخبر عقیان بن مسلم: متحد ریث معتمر بن سلیمان بسماح سلیمان: متحد ریث انس بن مالک از نبی ﷺ: انصار آپ کو اپنے باغ کے کچھ کھجوروں کے درخت یا جس قدر اللہ کو منظور ہوتا دے دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ قرظہ اور نصیر کے علاوے فتح ہو گئے اور نبی ﷺ کے قبضہ میں آ گئے۔ پھر آپ انصار کو ان کے دیئے ہوئے درخت لوٹانے لگے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے بھی اس سلسلہ

میں نبی ﷺ کے پاس بھیجا گیا تاکہ میں بھی دیئے ہوئے تمام یا بعض درخت آپ سے مانگوں اور نبی ﷺ نے انہیں ام ایمن کو دے دیا تھا۔ فرماتی ہیں میں نے وہ درخت نبی ﷺ سے مانگے اور آپ نے مجھے دے دیئے۔ پھر ام ایمن نے آکر میری گردن میں کپڑا ڈال کر کہنے لگیں: اس کی قسم جس کے سوا کوئی حقدا عبادت نہیں رسول اللہ ﷺ تجھے وہ درخت نہیں دے سکتے۔ وہ تو آپ نے مجھے دے دیئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے لئے اتنے اتنے اور اتنے درخت ہیں، مگر وہ وہی رٹ لگاتی رہیں حتیٰ کہ آپ نے فرمایا: تمہارے لئے اس سے دس گنا زیادہ ہیں یا قریب قریب دس گنا ہیں۔ محمد بن عمر: ام ایمن جنگ احد و خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک ہوئیں زمینوں کو پانی پلاتی تھیں اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔

باخبار سلیمان بن عبدالرحمن دمشقی: متحد بیث ولید بن مسلم، متحد بیث عبدالرحمن بن نمر از زہری، متحد بیث حویلہ مولیٰ اسامہ بن زید: اس حال میں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حجاج بن امین آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور رکوع و سجود میں اعتدال نہیں کرتے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو ابن عمر رضی اللہ عنہما بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں: بھائی جان! کیا آپ نے اپنے خیال میں نماز پڑھ لی؟ دیکھئے آپ نے نماز نہیں پڑھی نماز لوٹائیے۔ پھر جب حجاج چلے گئے تو مجھ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما بولے: یہ کون ہیں؟ میں نے کہا حجاج بن امین بن ام ایمن۔ فرمایا: اگر ان کو رسول اللہ ﷺ دیکھتے تو آپ ان سے محبت کرتے۔ پھر آپ نے بتایا کہ نبی ﷺ کو ام ایمن کی اولاد سے محبت تھی ام ایمن نے نبی ﷺ کو اپنی گود میں کھلایا تھا۔

باخبار محمد بن عبداللہ اسدی: متحد بیث سفیان از قیس بن سلم از طارق بن شہاب: جب نبی ﷺ کو وفات ہوئی تو ام ایمن رونے لگیں۔ پوچھا گیا: کیوں روتی ہو؟ بولیں: اس لئے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی بند ہوگئی۔

باخبار عرقان بن مسلم: متحد بیث حماد از ثابت از انس ام ایمن رسول اللہ ﷺ کی وفات پر رونے لگیں۔ ان سے پوچھا گیا کیا تم بھی روتی ہو؟ بولیں: ہاں! اللہ کی قسم مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ ﷺ ایک نہ ایک دن فوت ہو جائیں گے میں تو اس لئے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا اترنا بند ہو گیا۔

باخبار محمد بن عبداللہ اسدی و قبیسہ بن عقبہ: متحد بیث سفیان از قیس بن سلم از طارق بن شہاب: جب حضرت عمر قتل کئے گئے تو ام ایمن رونے لگیں اور بولیں اب اسلام میں کمزوری آگئی۔ قبیسہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں: نبی ﷺ کی وفات پر بھی ام ایمن روتی تھیں۔ پوچھا گیا تو بولیں: میں آسمان کی خبر (کے منقطع ہونے) پر روتی ہوں۔

قبیسہ کہتے ہیں سفیان جب جعفر والی حدیث بیان کرتے تو یہ بھی اس میں ذکر کر دیتے اور جب طارق والی حدیث بیان کرتے تو یہ بھی اس میں ذکر کر دیتے تو ہم کہا کرتے تھے سفیان کو یاد نہیں رہا کہ یہ کس حدیث میں ہے۔ محمد بن عمر: عہد عثمانی کے شروع میں فوت ہوئیں۔

باخبار محمد بن عمر ابن ابی الفرات مولیٰ اسامہ بن زید اور حسن بن اسامہ بن زید میں جھگڑا ہوا ابن ابی الفرات نے اشارے گفتگو میں کہا: اے برکہ (ام ایمن) کے بیٹے! حسن بولے: گواہ رہو اور حسن اپنا مقدمہ قاضی یا والی مدینہ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کے پاس لے گئے۔ ابو بکر نے ابن ابی الفرات سے کہا: ابن برکہ سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ کہنے لگے: میں نے ان کی ماں کا

نام لے کر انہیں پکارا تھا۔ ابو بکر نے کہا: نہیں بلکہ تم نے ان کی تخفیر کے لئے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ حالانکہ اسلام میں برکہ کا مرتبہ تم معلوم ہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ انہیں امی جان اور امی امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اگر میں تم کو معاف کر دوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ پھر ابو بکر نے ان کے ستر کوڑے لگوائے۔

سلمی رضی اللہ عنہا:

آپ رسول اللہ ﷺ کی آزاد کردہ لونڈی ہیں۔ میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ آپ صبیہ بنت عبدالمطلب کی لونڈی ہیں سلمیٰ ابورافع کی بیوی تھیں جو رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ابورافع کی اولاد کی ماں تھیں یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دائی تھیں اور آپ کے رسول اللہ ﷺ سے جتنے بچے پیدا ہوئے دائی کے فرائض انہیں نے انجام دیئے۔ یہ ضروری چیزیں ولادت تیار رکھا کرتی تھیں۔ انہیں نے ولادت ابراہیم کے موقع پر دائی کے فرائض انجام دیئے اور انہیں نے اپنے شوہر ابورافع ابراہیم کی ولادت کی اطلاع دی اور ابورافع نے رسول اللہ ﷺ کو خوشخبری پہنچائی اور رسول اللہ ﷺ نے خوشی میں ابورافع کو ایک غلام دیا۔ سلمیٰ جنگ خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھیں۔

خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت حصین:

آپ حارث بن مطلب بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں آپ نے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی رسول اللہ ﷺ نے انہیں اور ان کی بہن ہند کو خیبر کی کھجوروں میں سے سو سو وسق کھجوریں دیں۔

ہند بنت حصین:

آپ خدیجہ بنت حصین کی ہمیشہ ہیں۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی رسول اللہ ﷺ نے انہیں اور ان کی بہن خدیجہ کو خیبر میں سو سو وسق کھجوریں دیں۔

اُمّ رمثہ یا رمثہ:

آپ عمرو بن ہاشم بن مطلب بن عبدمناف بن قصی کی بیٹی ہیں آپ نے مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو خیبر میں چالیس وسق کھجوریں دیں اور پانچ وسق جو دیئے آپ حکیم ابو القحطاع بن حکیم والدہ ہیں اور حکیم قبیلہ ازد کے ہیں اور اولاد مطلب کے حلیف ہیں۔

حسینہ:

آپ کا نام عبیدہ بنت حارث ہے اور وہ ارت بن مطلب بن عبدمناف بن قصی ہیں حسینہ کی ماں ام صفیٰ بن اسود، مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ہے آپ سے مالک ازدی نے جواز و کاحلیف تھا کاح کر لیا جن سے آپ کے عبد اللہ جبر پیدا ہوئے۔ حسینہ نبی ﷺ کی صحابیہ ہیں آپ نے بھی اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور رسول اللہ ﷺ نے آپ سے بھی تیس وسق کھجوریں دیں۔

ہند بنت اثاشہ:

آپ عباد بن مطلب بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ اُمّ مسطح بنت ابی رہم بن مطلب بن عبدمناف بن قصی ہیں۔ ہند مشرف بہ اسلام ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں مع ان کے بھائی مسطح بن اثاشہ کے خیبر میں تیس وسق کھجوریں دیں۔ آپ کی غیر برادری میں ابو جندب سے شادی ہوئی اور ان سے ریطہ پیدا ہوئیں۔
ام مسطح:

آپ ابو رہم بن مطلب بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ ریطہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہیں۔ آپ کا نکاح اثاشہ بن عباد بن مطلب بن عبدمناف سے ہوا اور ان سے آپ کے مسطح اور ہند دو بچے پیدا ہوئے۔ مسطح بدری ہیں۔ ام مسطح اسلام کی سعادت سے بہرہ یاب ہوئیں۔ آپ ایک مخلص مومنہ تھیں اور جب صدیقہ کے سلسلہ میں بہتان پاندھنے والوں نے بہتان پاندھا اور مسطح بھی اسی قسم کا چرچا کرنے لگے تو آپ مسطح کے حق میں انتہائی سخت رہیں اور انہیں برا بھلا کہتی رہیں۔

اروی بنت گریز:

آپ ربیعہ بن حبیب بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ اُمّ حکیم بیضاء بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ہیں۔ آپ سے عفان بن ابوالعاص بن امیہ نے نکاح کیا۔ جن سے آپ کے عثمان اور آمنہ پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے نکاح عقبہ بن ابی معیط نے کہا۔ جن سے آپ کے ولید، عمارہ، خالد، ام کلثوم، ام حکیم اور ہند پیدا ہوئے۔ اروی مشرف بہ اسلام ہوئیں اور اپنی بیٹی اُمّ کلثوم کی ہجرت کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آگئیں اور سرور عالم ﷺ سے بیعت کی پھر آپ مدینہ ہی میں رہیں حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانہ میں مدینہ ہی میں اپنے خالق سے جا ملیں۔

باخبار محمد بن عمر باخبار داؤد بن بکر بن ابی الفرات اشجعی بسماع عبد اللہ بن کعب مولیٰ آل عثمان بسماع عبد اللہ بن حنظلہ بن راہب، ہم ام عثمان بن عفان کے جنازے میں شریک تھے وہ بقیع میں دفن کی گئیں۔ پھر جب عبد اللہ واپس آئے تو لوگ مسجد میں نماز پڑھ چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد میں تنہا نماز پڑھی۔ صرف میں آپ کے ساتھ تھا میں نے دیکھا سجدے میں حضرت عثمان فرما رہے ہیں: اے اللہ! میری امی جان پر رحم فرما، یا اے اللہ! میری امی جان کو بخش دے۔ آپ ہی کی خلافت میں آپ کی والدہ کی وفات ہوئی۔

باخبار محمد بن عمر باخبار اسحاق بن یحییٰ، خبیر میرے چچا عیسیٰ بن طلحہ: میں نے دیکھا حضرت عثمان دار غخطیش سے دو تھموں کے درمیان اپنی امی جان کی نعش اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ برابر اٹھائے رہے حتیٰ کہ جنازہ جنازوں کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور دفن کئے جانے کے بعد بھی میں نے آپ کو دُعاء کے لئے آپ کی قبر پر کھڑا ہوا دیکھا۔
اُمّ کلثوم:

آپ عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصی کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ اروی بنت گریز

میں نبی ﷺ کے پاس بھیجا گیا تاکہ میں بھی دیئے ہوئے تمام یا بعض درخت آپ سے مانگوں اور نبی ﷺ نے انہیں ام ایمن کو دے دیا تھا۔ فرماتی ہیں میں نے وہ درخت نبی ﷺ سے مانگے اور آپ نے مجھے دے دیئے۔ پھر ام ایمن نے آ کر میری گردن میں کپڑا ڈال کر کہنے لگیں: اس کی قسم جس کے سوا کوئی حقدا عبادت نہیں رسول اللہ ﷺ تجھے وہ درخت نہیں دے سکتے۔ وہ تو آپ نے مجھے دے دیئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے لئے اتنے اتنے اور اتنے درخت ہیں، مگر وہ وہی رٹ لگاتی رہیں حتیٰ کہ آپ نے فرمایا: تمہارے لئے اس سے دس گنا زیادہ ہیں یا قریب قریب دس گنا ہیں۔ محمد بن عمر: ام ایمن جنگ احد و خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک ہوئیں زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں اور ان کی مرہم پی کرتی تھیں۔

باخبار سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی، محمد بن مسلم، محمد بن عبد الرحمن بن نمر از زہری، جحدیث حویلیہ مولیٰ اسامہ بن زید: اس حال میں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حجاج بن امین آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور رکوع و سجود میں اعتدال نہیں کرتے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو ابن عمر رضی اللہ عنہما بلا تے ہیں اور فرماتے ہیں: بھائی جان! کیا آپ نے اپنے خیال میں نماز پڑھی؟ دیکھئے آپ نے نماز نہیں پڑھی نماز تو ناپیچھے۔ پھر جب حجاج چلے گئے تو مجھ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما بولے یہ کون ہیں؟ میں نے کہا حجاج بن امین بن ام ایمن۔ فرمایا: اگر ان کو رسول اللہ ﷺ دیکھتے تو آپ ان سے محبت کرتے۔ پھر آپ نے بتایا کہ نبی ﷺ کو ام ایمن کی اولاد سے محبت تھی ام ایمن نے نبی ﷺ کو اچی گود میں کھلایا تھا۔

باخبار محمد بن عبد اللہ اسدی، محمد بن سفیان از قیس بن مسلم از طارق بن شہاب: جب نبی ﷺ کو وفات ہوئی تو ام ایمن رونے لگیں۔ پوچھا گیا: کیوں روتی ہو؟ بولیں: اس لئے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی بند ہوگئی۔

باخبار عرفان بن مسلم، محمد بن حماد از ثابت از انس: ام ایمن رسول اللہ ﷺ کی وفات پر رونے لگیں۔ ان سے پوچھا گیا کیا تم بھی روتی ہو؟ بولیں: ہاں! اللہ کی قسم مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ ﷺ ایک نہ ایک دن فوت ہو جائیں گے میں تو اس لئے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا اترنا بند ہو گیا۔

باخبار محمد بن عبد اللہ اسدی و قبیصہ بن عقبہ، محمد بن سفیان از قیس بن مسلم از طارق بن شہاب: جب حضرت عمر قتل کئے گئے تو ام ایمن رونے لگیں اور بولیں اب اسلام میں کمزوری آگئی۔ قبیصہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں: نبی ﷺ کی وفات پر بھی ام ایمن روتی تھیں۔ پوچھا گیا تو بولیں: میں آسمان کی خبر (کے منقطع ہونے) پر روتی ہوں۔

قبیصہ کہتے ہیں سفیان جب جعفر والی حدیث بیان کرتے تو یہ بھی اس میں ذکر کر دیتے اور جب طارق والی حدیث بیان کرتے تو یہ بھی اس میں ذکر کر دیتے تو ہم کہا کرتے تھے سفیان کو یاد نہیں رہا کہ یہ کس حدیث میں ہے۔ محمد بن عمر: عہد عثمانی کے شروع میں فوت ہوئیں۔

باخبار محمد بن عمر، ابن ابی الفرات مولیٰ اسامہ بن زید اور حسن بن اسامہ بن زید میں جھگڑا ہوا، ابن ابی الفرات نے اثنائے گفتگو میں کہا: اے برکہ (ام ایمن) کے بیٹے! حسن بولے: گواہ رہو اور حسن اپنا مقدمہ قاضی یا والی مدینہ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کے پاس لے گئے۔ ابو بکر نے ابن ابی الفرات سے کہا: ابن برکہ سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ کہنے لگے: میں نے ان کی ماں کا

نام لے کر انہیں پکارا تھا۔ ابو بکر نے کہا: نہیں بلکہ تم نے ان کی تحفیر کے لئے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ حالانکہ اسلام میں برکہ کا مرتبہ تم معلوم ہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ انہیں امی جان اور امی امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اگر میں تم کو معاف کر دوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ پھر ابو بکر نے ان کے ستر کو ڈرے لگوائے۔

سلمی رضی اللہ عنہا:

آپ رسول اللہ ﷺ کی آزاد کردہ لونڈی ہیں۔ میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ آپ صبیہ بنت عبدالمطلب کی لونڈی ہی سلمیٰ ابورافع کی بیوی تھیں جو رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ابورافع کی اولاد کی ماں تھیں یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دائی تھیں اور آپ کے رسول اللہ ﷺ سے جتنے بچے پیدا ہوئے دائی کے فرائض انہیں نے انجام دیئے۔ یہ ضروری چیزیں ولادت تیار رکھا کرتی تھیں۔ انہیں نے ولادت ابراہیم کے موقع پر دائی کے فرائض انجام دیئے اور انہیں نے اپنے شوہر ابورافع ابراہیم کی ولادت کی اطلاع دی اور ابورافع نے رسول اللہ ﷺ کو خوشخبری پہنچائی اور رسول اللہ ﷺ نے خوشی میں ابورافع کو آپ کا غلام دیا۔ سلمیٰ جنگ خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھیں۔

خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت حصین:

آپ حارث بن مطلب بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں آپ نے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی رسول اللہ ﷺ نے انہیں اور ان کی بہن ہند کو خیبر کی کھجوروں میں سے سوسو سق کھجوریں دیں۔

ہند بنت حصین:

آپ خدیجہ بنت حصین کی ہمیشہ ہیں۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی رسول اللہ ﷺ نے انہیں اور ان کی بہن خدیجہ کو خیبر میں سوسو سق کھجوریں دیں۔

أم رمثہ یا رمثہ:

آپ عمرو بن ہاشم بن مطلب بن عبدمناف بن قصی کی بیٹی ہیں آپ نے مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو خیبر میں چالیس سق کھجوریں دیں اور پانچ سق جو دیئے آپ حکیم ابوالقحطاف بن حکیم والدہ ہیں اور حکیم قبیلہ ازد کے ہیں اور اولاد مطلب کے حلیف ہیں۔

بحسینہ:

آپ کا نام عبیدہ بنت حارث ہے اور وہ ارت بن مطلب بن عبدمناف بن قصی ہیں بحسینہ کی ماں ام صفیٰ بنت اسود مطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی ہے آپ سے مالک ازدی نے جواز کا حلیف تھا، کاح کر لیا جن سے آپ کے عبد اللہ جبیر پیدا ہوئے۔ بحسینہ نبی ﷺ کی صحابیہ ہیں آپ نے بھی اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور رسول اللہ ﷺ نے آپ سے بھی تیس سق کھجوریں دیں۔

ہند بنت اشاشہ:

آپ عباد بن مطلب بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ اُمّ مسطح بنت ابی رہم بن مطلب بن عبدمناف بن قصی ہیں۔ ہند مشرف بہ اسلام ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں مع ان کے بھائی مسطح بن اشاشہ کے خیبر میں تیس وقت کھجوریں دیں۔ آپ کی غیر برادری میں ابو جندب سے شادی ہوئی اور ان سے ریطہ پیدا ہوئیں۔
امّ مسطح:

آپ ابو رہم بن مطلب بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ ریطہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہیں۔ آپ کا نکاح اشاشہ بن عباد بن مطلب بن عبدمناف سے ہوا اور ان سے آپ کے مسطح اور ہند دو بچے پیدا ہوئے۔ مسطح بدری ہیں۔ امّ مسطح اسلام کی سعادت سے بہرہ یاب ہوئیں۔ آپ ایک مخلص مومنہ تھیں اور جب صدیقہ کے سلسلہ میں بہتان باندھنے والوں نے بہتان باندھا اور مسطح بھی اسی قسم کا چرچا کرنے لگے تو آپ مسطح کے حق میں انتہائی سخت رہیں اور انہیں برا بھلا کہتی رہیں۔

اروئی بنت گریز:

آپ ربیعہ بن حبیب بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ اُمّ حکیم بیضاء بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ہیں۔ آپ سے عفان بن ابوالعاص بن اُمیہ نے نکاح کیا۔ جن سے آپ کے عثمان اور آمنہ پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے نکاح عقبہ بن ابی معیط نے کیا۔ جن سے آپ کے ولید، عمارہ، خالد، ام کلثوم، ام حکیم اور ہند پیدا ہوئے۔ اردو مشرف بہ اسلام ہوئیں اور اپنی بیٹی اُمّ کلثوم کی ہجرت کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں اور سرور عالم ﷺ سے بیعت کی پھر آپ مدینہ ہی میں رہیں حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانہ میں مدینہ ہی میں اپنے خالق سے جا ملیں۔

باخبار محمد بن عمر، باخبار داؤد بن بکر بن ابی الفرات اشجعی، بسماع عبد اللہ بن کعب مولیٰ آل عثمان، بسماع عبد اللہ بن حنظلہ بن راہب: ہم ام عثمان بن عفان کے جنازے میں شریک تھے وہ یقیناً میں دفن کی گئیں۔ پھر جب عبد اللہ واپس آئے تو لوگ مسجد میں نماز پڑھ چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد میں تہا نماز پڑھی۔ صرف میں آپ کے ساتھ تھا میں نے دیکھا سجدے میں حضرت عثمان فرما رہے ہیں: اے اللہ! میری امی جان پر رحم فرما یا اے اللہ! میری امی جان کو بخش دے۔ آپ ہی کی خلافت میں آپ کی والدہ کی وفات ہوئی۔

باخبار محمد بن عمر، باخبار اسحاق بن یحییٰ، یحییٰ بن یحییٰ، یحییٰ بن طلحہ: میں نے دیکھا حضرت عثمان دار غخطیش سے دو تھمبوں کے درمیان اپنی امی جان کی نعش اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ برابر اٹھائے رہے حتیٰ کہ جنازہ جنازوں کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور دفن کئے جانے کے بعد بھی میں نے آپ کو دُعاء کے لئے آپ کی قبر پر کھڑا ہوا دیکھا۔

امّ کلثوم:

آپ عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن اُمیہ بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصی کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ اروئی بنت گریز

ہیں آپ مکہ میں مسلمان ہوئیں اور ہجرت سے پہلے بیعت کی۔ آپ سرور عالم ﷺ کی ہجرت کے بعد ہجرت کرنے والی سب سے پہلی مسلمان خاتون ہیں۔ ہمارے علم میں بجرام کلثوم کے کوئی قریشی خاتون ایسی نہیں جو مسلمان ہونے کے بعد اپنے والدین کو چھوڑ کر اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر گئی ہو۔ آپ مکہ سے تہاروانہ ہوئیں اور ایک نزاعی شخص کے ہمسفر ہو گئیں حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں مدینہ آ گئیں۔ پھر ان کو لانے کے لئے ان کے دونوں بھائی ولید و عمارہ روانہ ہوئے اور مدینہ میں اُم کلثوم کے پہنچنے کے دوسرے دن ان کے بھائی بھی پہنچ گئے۔ اور بولے: محمد! معاہدے کی شرط پوری کیجئے۔ اُم کلثوم نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں ایک عورت ہوں اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں۔ کیا آپ مجھے کافروں کی طرف لوٹا دیں گے کہ وہ مجھے دین سے ہٹا دیں اور دین کے بغیر مجھے صبر و قرائتیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں عہد میں ترمیم فرمادی اور ان کے بارے میں امتحان کی آیت اُتار دی اور اس سلسلہ میں ایسا حکم فرمایا جس سے سب خوش ہو گئے۔ اُم کلثوم ہی کے بارے میں:

﴿ فامتنحوهن اللہ اعلم بایمانہن ﴾

یعنی ”ان کا امتحان لو اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔“

اُتری پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کا امتحان لیا۔ پھر ان کے بعد عورتوں کا امتحان لیا جانے لگا۔ آپ فرماتے تھے: کہو! اللہ کی قسم ہمیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اسلام کی محبت ہی نے ہجرت پر مجبور کیا ہے۔ ہم شوہر کے لئے نہیں نکلیں اور نہ مال کے لئے۔ پھر جب عورتیں یہ اقرار کر لیتی تھیں تو انہیں روک لیا جاتا تھا اور انہیں مکہ واپس نہیں بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ولید و عمارہ سے فرمایا: حق تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں اس ترمیم کے ساتھ جو تمہیں معلوم ہے شرط ختم فرمادی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں مکہ واپس لوٹ گئے۔ مکہ میں اُم کلثوم کا شوہر نہیں تھا۔ پھر جب یہ مدینہ آ گئیں تو ان سے زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی نے نکاح کر لیا جن سے ان کے اولاد ہوئی۔ پھر زید جنگ موتہ میں شہید ہو گئے۔ پھر ان سے زبیر بن عوام بن خویلد نے نکاح کر لیا جن سے زینب پیدا ہوئیں۔

باخبار زید بن ہارون از عمرو بن میمون از میمون: اُم کلثوم زبیر بن عوام کے نکاح میں تھیں۔ زبیر عورتوں کے حق میں سخت تھے اور اُم کلثوم ان سے ناراض رہا کرتی تھیں اور طلاق مانگا کرتی تھیں۔ مگر زبیر طلاق نہیں دیتے تھے۔ ایک موقع پر آپ کے در زہ شروع ہوا۔ زبیر نماز کے لئے وضو کر رہے تھے۔ اُم کلثوم نے طلاق کے لئے اصرار کیا۔ آخر کار انہوں نے ایک طلاق دے دی۔ پھر اُم کلثوم کے بٹنے ہی ولادت ہو گئی۔ کسی نے زبیر کو خبر کر دی کہ ان کے تو بچہ بھی ہو گیا۔ بولے: اس نے مجھے دھوکا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے دھوکا دے۔ پھر زبیر نبی ﷺ کے پاس آئے اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ فرمایا: اب تو اللہ کی کتاب سبقت کر چکی اب ان پر پیام ڈالو۔ بولے: اب کبھی وہ میرے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ محمد بن عمر: پھر اُم کلثوم سے عبد اللہ بن عوف نے نکاح کر لیا جن سے ابراہیم و حمید پیدا ہوئے، پھر عبد الرحمن وفات پا گئے۔ پھر ان سے عمرو بن عاص نے نکاح کر لیا اور یہ عمرو ہی کے پاس فوت ہو گئیں۔

باخبار خالد بن مخلد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز بن محمد بن عبد شہاب مشرکوں نے صلح حدیبیہ کے دن نبی ﷺ سے یہ ہی ایک شرط کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ہماری جانب سے کوئی شخص آئے اگرچہ آپ کے دین پر ہو آپ کو اسے لوٹانا پڑے گا اور آپ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آئے گا تو اسے ہم کو لوٹانا ہوگا۔ چنانچہ آپ اس شرط کے بموجب مکہ سے مسلمان ہو کر جو نص رسول اللہ ﷺ کے پاس آتا اسے لوٹا دیا کرتے تھے۔ پھر جب ام کلثوم ہجرت کر کے آئیں اور ان کو لینے کے لئے ان کے دونوں بھائی آئے اور انہوں نے شرط کے بموجب ام کلثوم کو واپس لوٹانے کی نبی ﷺ سے درخواست کی تو اللہ نے ایہا النبی اذا جاء کد المؤمنات مهاجرات سے مثل ما انفقوا تک آیت اتاری۔ یعنی اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں جانچ لو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ یہ عورتیں کافروں کے لئے حلال نہیں اور نہ کافران کے لئے حلال ہیں اور افروں کو وہ دے دو جو انہوں نے ان پر خرچ کیا ہے اور ان سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بشرطیکہ تم انہیں ان کے مہر دو رکافروں کی ناموں پر قبضہ نہ کرو اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے اس کا ان سے مطالبہ کرو اور انہیں بھی اپنے خرچ کا مطالبہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے یعنی مہر اور اگر تمہارے ہاتھ سے تمہاری کوئی بیوی جاتی رہے اور وہ کافروں کی طرف چلی جائے پھر تم بدلہ کا وقفہ پاؤ تو انہیں ان کے خرچ کی برابر دو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اور تم اللہ سے ڈرجاؤ جس پر تمہارا ایمان ہے۔ یعنی ایک عورت مسلمان ہو کر آتی ہے تو مسلمان اس کا مہر کافروں کو لوٹا دین اور مسلمانوں نے جن کافر بیویوں کو طلاق دی ہے تو ان پر لازم ہے کہ ان کا مہر مشرکوں کو لوٹا دیں۔ اگر مشرک کافر مطلقہ عورتوں کا مہر قبول کر لیں تو مسلمان بھی مسلمان عورتوں کا جو ان کے پاس مسلمان کر آئی ہیں مہر قبول کر لیں۔

امامہ:

آپ ابو العاص بن ربیع بن عبد العزیز بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ زینب بنت

رسول اللہ ﷺ ہیں۔

باخبار ضحاک بن مخلد ابو عاصم نبیل از ابن عجلان از مقبری از عمرو بن سلیم زرقی از ابو قتادہ: نبی ﷺ امامہ کو اپنے کندھے پر

ٹھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر جب رکوع کرتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے تھے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے تھے۔

باخبار ہشام ابو الولید طایسی: محمد بن لیث بن سعد: محمد بن سعید بن ابی سعید مقبری از عمرو بن سلیم زرقی بسام ابو قتادہ:

ان حال میں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر تھے اتنے میں رسول اللہ ﷺ امامہ کو لئے ہوئے باہر تشریف لائے۔ امامہ بچی

ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے انہیں کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھی۔ رکوع کے وقت انہیں زمین پر بٹھا دیتے تھے اور قیام کے وقت اٹھا

لیتے تھے۔ پوری نماز میں آپ ایسا ہی کرتے رہے حتیٰ کہ آپ نے نماز پوری کر لی۔

باخبار عبد اللہ بن مسلمہ بن قعب بن محمد بن مالک بن انس از عامر بن عبد اللہ بن زبیر از عمرو بن سلیم زرقی از ابو قتادہ: رسول

اللہ ﷺ امامہ کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے پھر آپ کھڑے ہوتے تھے تو انہیں اٹھا لیتے تھے اور جب سجدہ کرتے تو انہیں بٹھا

دیتے تھے۔

باخبار یحییٰ بن عمار، یحییٰ بن سلیمان، یحییٰ بن عمار، یحییٰ بن عبد اللہ بن زبیر، از عمرو بن سلیم از ابو قتادہ ربیعہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ اپنی نواسی امامہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب رکوع کرتے ہیں تو انہیں بٹھاد۔ ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں اٹھالیتے ہیں۔

باخبار ولید بن عطاء بن اغرکی، یحییٰ بن سعید بن سعید از ابو سلیمان از عبد اللہ بن حارث بن نوفل: نبی ﷺ کا حال میں نماز پڑھتے تھے کہ امامہ آپ کے کندھے پر ہوتی تھیں پھر جب رکوع کرتے تو بٹھادیتے تھے اور جب کھڑے ہوتے تو لیتے تھے۔

باخبار عارم بن فضل، یحییٰ بن حماد بن زید از علی بن زید: نبی ﷺ خرمہروں کا ایک ہار لٹے ہوئے اپنے گھر تشریف لا اور فرمایا: میں یہ ہار اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ از وراج مطہرات نے خیال کیا کہ آپ یہ ہار حضرت عائشہؓ کو دیں گے پھر آپ نے اپنی نواسی زینب والوالعاص کی بیٹی کو بلوایا اور ہاران کے گلے میں اپنے ہاتھ سے باندھا اور امامہ آنکھ میں کچھ تھی جسے آپ نے ہاتھ سے صاف کیا۔

باخبار عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ، یحییٰ بن عبد اللہ بن نمیر از محمد بن اسحاق از یحییٰ بن عمار بن عبد اللہ بن زبیر اپنے والد سے وہ صدیقہ سے: نجاشی نے نبی ﷺ کو ہدیہ میں زیورات بھیجے جن میں ایک سونے کی انگٹھی بھی تھی۔ آپ نے وہ اعراض کر ہوئے لی اور اپنی نواسی زینب کی بیٹی کو بھیج دی اور فرمایا: پیاری بچی یہ زیور پہن لے۔ محمد بن عمر: حضرت علی نے حضرت فاطمہؓ کی وفات کے بعد امامہ سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت علی شہید ہو گئے اور امامہ کے آپ سے اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ان سے مغیرہ نوفل بن حارث بن عبد المطلب نے نکاح کیا۔

باخبار محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک از ابن ابی ذئب: امامہ نے مغیرہ سے کہا: معاویہ نے مجھ پر پیام ڈالا ہے۔ بولے: کیا آپ جگر کو کھانے والی کے بیٹے سے نکاح کریں گی۔ کاش آپ اپنے نکاح کا اختیار مجھے دے دیں۔ فرمایا: اچھا۔ میں نے کہا: میں نے آپ سے نکاح کر لیا۔ ابن ابی ذئب فرماتے ہیں: پھر مغیرہ کا نکاح نافذ ہو گیا۔

اُمّ خالد:

آپ کا نام اُمّت ہے اور آپ خالد بن سعید بن عاص بن اُمیہ بن عبد شمس کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ ہمینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سمیع بن جحشم بن سعد بن یثیع بن عمرو خزاعی ہیں۔ خالد بن سعید اپنی بیوی ہمینہ کو لے کر ہجر کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حبشہ ہی میں آپ کے یہاں اُمّت بنت خالد پیدا ہوئیں۔ یہ حبشہ ہی میں رہیں حتیٰ کہ مہاجرین کشتیوں میں واپس آئے۔ اس وقت اُمّت بالغ و عاقل ہو چکی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر، یحییٰ بن جعفر بن محمد بن خالد از ابو الاسود از ام خالد: جس دن ہم حبشہ سے روانہ ہوئے تو میں نے نبی ﷺ سے سنا کہ وہ دونوں کشتیوں کے سواروں سے فرما رہے تھے: تم سب میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو سلام کہنا۔ اُمّت کہتی ہے:

میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے نجاشی کا رسول اللہ ﷺ کو سلام پہنچایا۔ اُمت رسول اللہ ﷺ سے حدیثیں روایت کرتی ہیں۔

باخبار فضل بن دکین و ہشام ابوالولید طرابلسی، محمد یث اسحاق بن سعید بحدیث ام خالد بنت خالد: رسول اللہ ﷺ کے پاس کپڑے آئے جن میں ایک چھوٹا سا سیاہ کمل بھی تھا۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے خیال میں یہ کمل کسے دوں گا؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ فرمایا: میرے پاس ام خالد کو لے آؤ۔ فرماتی ہیں: پھر مجھے اٹھا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ کمل مجھے اڑھا کر دو یا تین بار فرمایا: اسے قبول کرو اللہ کرے تم پر یہ پرانا ہو اور پھٹ جائے پھر آپ کمل کی زرد یا سرخ دھاریوں کو دیکھ کر فرمانے لگے: ام خالد! یہ (دھاریاں) خوبصورت ہیں نا؟ فرماتی ہیں: حسیوں کی زبان میں ”سنا“ خوبصورت کو کہتے ہیں۔ اسحاق کہتے ہیں: پھر مجھ سے میرے خاندان کی ایک عورت نے کہا کہ میں نے ام خالد کے پاس وہ کمل دیکھا تھا۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث جعفر بن محمد بن خالد بن زبیر ازہرا تیم بن عقبہ بسامع ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص: اس وقت وہ بہت بوڑھی تھیں اور حبشہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے کہا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث سنی ہے؟ فرمایا: میں نے آپ سے سنا کہ آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔

محمد بن عمر: زبیر بن عوام نے اُمت سے نکاح کیا جن سے ان کے عمر و اور خالد پیدا ہوئے۔ اسی لئے ان کی کنیت ام خالد تھی۔

ہند بنت عتبہ:

آپ عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ صفیہ بنت امیہ بن حارثہ بن اوقص بن مرہ بن ہلال بن فالح بن ذکوان بن ثعلبہ بن بہجتہ بن سلیم ہے ہند سے حفص بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم نے شادی کی جن سے آپ کے ادبان پیدا ہوئے۔

باخبار مالک بن اسماعیل ابو عسان نهدی، محمد یث عمر بن زیاد ہلالی از عبد الملک بن نوفل بن مساحق جو مدینہ میں آل عامر بن لوی کے ایک شیخ ہیں: ہند نے اپنے والد سے کہا: میں ایک ایسی عورت ہوں جسے ذاتی اختیارات حاصل ہیں۔ لہذا اگر آپ کسی سے میرا نکاح کرنا چاہیں تو پہلے اسے مجھے بتادینا۔ والد نے اقرار کر لیا۔ پھر ایک دن ان سے ان کے والد کہنے لگے: تمہارے بارے میں تمہاری قوم کے دو آدمیوں کے پیام آئے ہیں۔ میں نام بتانے سے پہلے ان کا حال بیان کرتا ہوں۔ پہلا شخص سراپا خالص شرف اور بزرگ حسب ہے تم اسے اس کی غفلت کی وجہ سے بے وقوف خیال کرو گی حالانکہ اس کی عادت میں نرمی ہے۔ وہ بہترین دوست ہے اور بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اگر تم اس کی پیروی کرو گی تو وہ تمہاری پیروی کرے گا اور اگر اس سے ایک طرف کوچھوگی تو تمہارے ساتھ رہے گا۔ تم اس کا مال بے دھڑک خرچ کرو اور اپنی کمزور رائے پر قناعت کرو۔ دوسرا خالص حسب والا اور مستحکم رائے والا ہے۔ اس کی جڑ چاند والی ہے اور اس کا قبیلہ معزز ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو ادب سکھاتا ہے۔ گھر والے اسے ادب نہیں سکھاتے۔ اگر اس کی پیروی کرو تو وہ نرم ہے اور اگر اس سے غیرت برتو تو خطر ناک ہے وہ سخت غیرت والا اور فوراً بری فال لینے والا ہے۔ اس کے خیمہ کا پردہ سخت ہے۔ اگر بھوکا ہو تو کسی سے سوال کرنے والا نہیں اور اگر اس سے جھگڑا کیا

جائے تو کوئی اس پر غالب آنے والا نہیں۔ میں نے تمہارے سامنے دونوں کا حال بیان کر دیا ہے۔

بولیں: پہلا شخص سردار ہے مگر اپنی شرافت کو ضائع کر رہا ہے اور اس چیز میں اس کے موافق ہے کہ اگر غیر محفوظ رہے تو قریب ہے کہ اس کے انکار کے بعد نرم پڑ جائے اور اپنے پھلوں کے نیچے ضائع ہو جائے۔ اگر وہ بچہ والی ہو تو بے وقوف کہلائے اور اگر شریف بچہ جنے تو غلطی سے جنے اس کا ذکر چھوڑو اور میرے سامنے اس کا نام نہ لو۔

ہاں! دوسرا شخص شریف و آزاد عورت کا شوہر ہونے کے لائق ہے میں اس کے اخلاق پر گرویدہ ہوں اس کے ہم خیال ہوں اور شوہر کے آداب کو بجالانے والی ہوں اور اپنے خیمہ کو چمٹی رہنے والی ہوں اور اس کی طرف توجہ نہ دینے والی ہوں اور ہم دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد اس لائق ہے کہ اپنے خاندان سے دفاع کرے اور خاندانی دستوں سے دشمن کو ہٹائے اور ان کی لاج رکھ لے اور ان کی جڑوں کو خوبصورتی بخشنے اور وہ سخت حوادث کے وقت دوسروں پر بھروسہ کرنے والی نہ ہو اور نہ بزدل ہو۔ اب بتائیے یہ شخص کون ہے؟

عقبہ نے کہا: یہ ابوسفیان بن حرب ہے۔ بولی: آپ میرا ان سے نکاح کر دیجئے اور مجھے اس کی طرف نکلنے والے نرم طبع کے ڈالے جانے کی طرح نہ ڈالئے اور نہ اس سے لڑنے والے اور مقابلہ کرنے والے کے سودے کی طرح سودا کیجئے۔ آسمان والے اللہ سے مشورہ کیجئے۔ وہ اپنے کوئی علم سے آپ کے لئے بہتر فرمائے گا۔

باخبا محمد بن عمر بجدیث ابراہیم بن محمد بن شرجیل عبد ریی از محمد بن شرجیل: ہند کی رخصتی کے وقت ان کے والد عقبہ نے اپنے بیٹے کو آل ابوالحقیق کے پاس بھیجا اور ان کے زیورات مانگ کر لئے اور ولید نے خود کو نبی عبد شمس کے چند آدمیوں کے ساتھ رہن رکھ دیا اور زیورات لے گیا اور ایک ماہ تک غائب رہا۔ پھر لوگوں نے اسے مالدار بنا کر واپس کیا اور رہن شدہ آدمی چھڑائے۔

باخبا محمد بن عمر بجدیث ابن ابی سمرہ از موسیٰ بن عقبہ از ابو حبیبہ مولیٰ زبیر از عبد اللہ بن زبیر: فتح مکہ کے دن ہند معہ چند خواتین کے مسلمان ہوئیں اور ابطلح میں نبی ﷺ کے پاس آ کر آپ سے بیعت کی۔ ہند نے آپ سے گفتگو کی اور بولیں: یا رسول اللہ ﷺ! الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب فرمایا جسے اس نے اپنے نفس کے لئے پسند فرمایا۔ تاکہ آپ کی قرابت داری ہمیں فائدہ پہنچائے۔

اے محمد ﷺ! میں ایک ایسی عورت ہوں جو اللہ پر ایمان لے آئی ہے اور اس کے رسول ﷺ کو سچا مانتی ہے۔ پھر ہند نے اپنے چہرے سے نقاب اُلٹ دیا اور بولیں: میں ہند بنت عقبہ۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں مرحبا کہا۔ بولیں: اللہ کی قسم میرے نزدیک روئے زمین میں آپ کے خیمہ والوں سے زیادہ کوئی عزیز نہیں اور میں آپ کو معزز ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا: کچھ اور؟ آپ نے ان تمام خواتین کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا اور ان سے بیعت کی۔ ہند بولیں: یا رسول اللہ ﷺ! ہم آپ سے مصافحہ کریں گی۔ فرمایا: میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ میری بات سو عورتوں کے لئے ایسی ہی ہے جیسی ایک عورت کے لئے۔ محمد بن عمر: جب ہند مسلمان ہو گئی تو کلباڑی یہ کہہ کر کہ ہم تیری طرف سے دھوکا میں رہے اپنے بت کے گلے لکڑے کر دیئے۔

باخبار کعب بن جراح از ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ: ہند رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ ﷺ! ابوسفیان بخیل ہیں اور مجھے اور میری اولاد کو بقدر ضرورت خرچ نہیں دیتے۔ لایہ کہ میں ان کو خبر کئے بغیر ان کے مال میں سے لے لوں۔ فرمایا: دستور کے مطابق بقدر ضرورت لے لیا کرو۔

باخبار عبد اللہ بن جعفر رقی، متحدہ بیٹ ابوالسلیح از میمون بن مہران: کچھ عورتیں نبی ﷺ کے پاس بیعت کرنے کے لئے آئیں جن میں ہندام معاویہ بھی تھیں۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گی اور نہ چوری کرو گی تو ہند بولیں: یا رسول اللہ ﷺ! ابوسفیان بخیل آدمی ہیں۔ اگر ان کی اجازت کے بغیر میں ان کے طعام میں سے لے لوں تو کیا مجھ پر گناہ ہے؟ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے تیار کھانے کو بقدر ضرورت لینے کی اجازت دے دی۔ خشک میں رخصت نہیں دی۔ فرمایا: اور نہ زنا کرو گی۔ بولیں: کیا شریف خاتون زنا کر سکتی ہے؟ فرمایا: اور نہ اولاد کو قتل کرو گی۔ بولیں: آپ ہی نے جنگ بدر میں ہمارے بچوں کو قتل کر دیا اور کوئی بچہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا: اور نہ میری معروف میں نافرمانی کرو گی۔ میمون: نبی ﷺ نے ان پر معروف ہی میں اپنی اطاعت لازم فرمائی اور معروف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

باخبار عبد اللہ بن موسیٰ باخبار عمر بن ابی زائدہ بسام شعمی: عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تم بیعت اس پر کرو گی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گی۔ ہند بولیں: ہم اس کا اقرار کرتی ہیں۔ فرمایا: اور نہ چوری کرو گی۔ بولیں: میں ابوسفیان کے مال میں سے انہیں خبر کئے بغیر کچھ لے لیتی ہوں۔ ابوسفیان نے کہا: تم نے میرے مال میں سے مجھے خبر کئے بغیر جو کچھ لے لیا وہ تمہارے لئے حلال ہے۔ فرمایا: اور نہ زنا کرو گی۔ بولیں: کیا شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ فرمایا: اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گی۔ بولیں: آپ نے تو ان کو قتل کر دیا۔
اُمّ کلثوم:

آپ عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ حارثہ بن اوقص کی بیٹی ہیں۔ آپ سے عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا جن سے آپ کے اسلام سے پہلے سالم اکبر پیدا ہوئے۔

فاطمہ:

آپ بھی عتبہ ہی کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت امیہ بن حارثہ بن اوقص ہیں۔ آپ سے قرظہ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصی نے نکاح کیا۔ جن سے آپ کے ولید، ہشام، ابی آمنہ، عتبہ اور مسلم پیدا ہوئے۔ مسلم جنگ جمل میں کام آئے اور فاختہ معاویہ بن ابی سفیان سے پیدا ہوئیں پھر ان سے عبد اللہ بن عامر بن کریز نے نکاح کیا۔ پھر بقول مورخین ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ نے فاطمہ کا نکاح سالم مولیٰ ابو حذیفہ سے کر دیا پھر آپ نے مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کر لی۔

باخبار رضاک بن خالد ابو عاصم نبیل از ابن جریج از ابن ابی ملیکہ: عقیل بن ابی طالب نے فاطمہ بنت عتبہ سے نکاح کیا۔ فاطمہ ایک دولت مند خاتون تھیں۔ بولیں: میں تم سے اس شرط پر نکاح کرتی ہوں کہ تم میرے لئے ضامن بن جاؤ اور میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں۔ آخر کار عقیل نے ان سے نکاح کر لیا۔ عقیل جب ان کے پاس آتے تو یہ پوچھتیں عتبہ کہاں ہے؟ اور شیبہ کہاں ہے؟

ایک دن عقیل ان کے پاس آئے عقیل کا مزاج ناخوشگوار تھا فاطمہ نے آج بھی ان سے پوچھا کہ عتبہ اور شیبہ کہاں ہیں؟ بولے: جب تو جہنم میں جائے گی تو انہیں اپنی بائیں جانب پائے گا یہ سن کر فاطمہ نے کپڑے پہنے اور بولیں اب مجھے اور تمہیں کوئی چیز جمع کرنے والی نہیں پھر یہ حضرت عثمان کے پاس پہنچیں آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلوا بھیجا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں ان دونوں میں تفریق کروں گا لیکن حضرت معاویہ نے کہا: میں تو بنی عبدمناف کے دو بزرگوں میں تفریق کرانے والا نہیں پھر یہ دونوں کپڑے پہن کر آئے اور دونوں میں صلح کرادی۔

باخبار محمد بن عمر، باخبار معمر، باخبار ابن طاؤس از عکرمہ از ابن عباس و معاویہ: انہیں بلایا (میرے خیال میں یہی کہا کہ حضرت عثمان نے ان کو بلایا) اور فرمایا اگر مناسب سمجھو تو ان دونوں میں صلح کرادو ورنہ دونوں میں تفریق کرادو یہ فاطمہ اور عقیل کے بارے میں حضرت عثمان نے ابن عباس رضی اللہ عنہما و معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا۔ فاطمہ عقیل سے ناراض ہو کر اور ان کی نافرمانی کر کے چلی گئی تھیں۔

رملہ:

آپ شیبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبدمناف کی صاحبزادی ہیں آپ کی صاحبزادی اُمّ شراک بنت و قدان بن عبد شمس بن عبدود ہیں جو بنی عامر بن لؤی سے ہیں۔ رملہ سے حضرت عثمان نے نکاح کیا جن سے آپ کے عاتشہ اُمّ ابان اور ام عمرو پیدا ہوئیں۔ ابوالزناد عبد اللہ ذکوان رملہ بنت شیبہ کے آزاد کردہ غلام تھے رملہ نے مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

امیئہ:

آپ ابوسفیان بن حرب بن امیئہ بن عبد شمس بن عبدمناف کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص بن امیئہ بن عبد شمس ہیں۔ آپ سے حویطب بن عبد العزی بن ابی قیس بن عبدود بن نضر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی نے نکاح کیا جن سے ابوسفیان پیدا ہوئے پھر آپ سے صفوان بن امیئہ بن خلف نے نکاح کیا جن سے عبدالرحمن پیدا ہوئے۔

جویریہ:

آپ بھی ابوسفیان کی بیٹی ہیں آپ کی والدہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ ہیں جویریہ سے سائب بن ابی حمیش نے نکاح کیا پھر عبدالرحمن بن حارث بن امیئہ اصغر بن عبد شمس نے۔

اُمّ حکم:

آپ بھی ابوسفیان کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت عتبہ ہیں۔ آپ سے عبد اللہ بن عثمان بن عبد اللہ بن ربیعہ بن حارث بن حبیب بن حارث بن مالک بن حلیط بن جشم ثقفی نے نکاح کیا جن سے عبدالرحمن پیدا ہوئے۔ اسی لئے عبدالرحمن کو ابن ام حکم کہا جاتا تھا۔

ہند:

آپ بھی ابوسفیان کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت ابی عمرو بن امیئہ بن عبد شمس ہیں آپ سے حارث بن نوفل بن

رث نے نکاح کیا جن سے عبداللہ محمد اکبر زبیرہ عبد الرحمن زملہ اور ام زبیر (ام مغیرہ) اور ظریبہ سات بچے پیدا ہوئے۔

۵:

آپ بھی ابوسفیان کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت ابی عمرو ہیں۔ آپ سے سعید بن اخنس بن شریق ثقفی نے نکاح جن سے آپ کے بچے پیدا ہوئے۔

۶:

آپ بھی ابوسفیان کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ لبابہ بنت ابی العاص بن امیہ ہیں۔ آپ سے عروہ بن مسعود ثقفی نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی پھر مغیرہ بن شعبہ ثقفی نے نکاح کر لیا۔

۷:

آپ جحش بن رباب بن بھمر بن صبرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ امیہ عبدالمطلب (رسول اللہ ﷺ کے دادا) ہیں جحش بن رباب حرب بن امیہ بن عبد شمس کے حلف تھے حمزہ سے مصعب بن عمیر ہاشم بن عبد مناف نے نکاح کیا جن سے ایک بچی پیدا ہوئی پھر مصعب جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔

باخبار خالد بن مخلد بکلی و محمد بن عمر متحد بیٹ عبد اللہ بن عمر از عبد اللہ بن ابراہیم از ابراہیم از محمد بن عبد اللہ بن جحش: جب رسول اللہ ﷺ جنگ احد سے واپس آئے تو عورتیں اپنے اپنے آدمیوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھنے لگیں لیکن کسی نے انہیں بات نہیں بتائی۔ آخر کار وہ نبی ﷺ کے پاس آئیں۔ آپ سے جس عورت نے جو کچھ پوچھا آپ نے اسے بتا دیا۔ پھر آپ پاس حمزہ آئیں فرمایا: حمزہ! اپنے بھائی عبد اللہ بن جحش پر اللہ کی رضا اور ثواب کے لئے صبر کرو۔ بولیں: انا للہ وانا الیہ نون۔ اللہ ان پر رحم فرمائے اور انہیں بخش دے۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: حمزہ! اپنے شوہر مصعب پر اللہ کی رضا کے لئے صبر کرو۔

بولیں: ہائے لڑائی تیرا برا ہو۔

نبی ﷺ نے فرمایا: عورت کے لئے مرد کے اندر ایک ایسا گوشہ ہے جو مرد کے لئے کچھ نہیں یعنی عورت کو جتنی اپنے شوہر محبت ہوتی ہے اتنی کسی سے نہیں ہوتی۔ محمد بن عمر (اپنی حدیث میں): ان سے نبی ﷺ نے پوچھا: تم نے مصعب کی موت پر وہ کیوں کہا جو دوسروں کی موت پر نہیں کہا؟ بولیں: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ان کے یتیم بچوں کا خیال آ گیا۔ فرماتے ہیں: حمزہ! احد میں موجود تھیں برابر پیاسوں کو پانی پلاتی رہیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو بھی خیبر میں وقت کھجوریں دی تھیں پھر ان سے طلحہ بن عبید اللہ نے نکاح کر لیا جن سے محمد سجاد اور عمران پیدا ہوئے۔ سجاد ہی کے نام پر طلحہ کی

ت ہے۔

بہ اُم حبیب:

آپ بھی جحش بن رباب کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ امیہ بنت عبدالمطلب ہیں۔ یہ وہی حبیبہ ہیں جو استخاضہ کی

بیماری میں مبتلا تھیں۔ بعض محدثین ان کا نام پلٹ دیتے ہیں اور اُم حبیبہ کے نام سے پکارتے ہیں حالانکہ ان کی کنیت اُم حبیبہ ہے اور نام حبیبہ ہے۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار ابی ذب از زہری از عروہ از عمرہ بنت عبد الرحمن از عائشہ ام حبیبہ جو عبد الرحمن بن عوف نکاح میں تھیں۔ سات سال لگا تا استخاضہ کی بیماری میں مبتلا رہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: یہ ایک (کا خون) ہے حیض نہیں۔ تم غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ فرماتی ہیں: پھر آپ ہر نماز کے وقت غسل کر لیا کرتی تھیں۔ محمد بن بعض لوگ یہ روایت غلط بیان کرتے ہیں کہ استخاضہ کی بیمار حمنہ بنت جحش تھیں ان کا گمان ہے کہ اُم حبیبہ حمنہ ہی کی کنیت ہے۔ حقیقت وہی ہے جس کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں۔ عبد الرحمن سے حبیبہ کے اولاد نہیں ہوئی۔

اُم قیس:

آپ محسن بن حریث بن قیس بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد کی صاحبزادی ہیں۔ اور عکاشہ بن محسن کی ہمشیرہ ہیں۔ عکاشہ حرب بن امیہ کے حلفاء میں سے ہیں۔ اُم قیس رسول اللہ ﷺ سے روایت بھی کرتی ہیں۔ آپ اسلام میں آئی اور مکہ ہی میں اس سعادت سے بہرہ یاب ہو چکی تھیں۔ اور اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلی آئی تھیں باخبار یعقوب بن ابراہیم بن سعد زہری از ابراہیم از صالح بن کیسان از ابن شہاب زہری عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ قیس بنت محسن خواہر عکاشہ بن محسن: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے بچہ کو لائی جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا اس نے رسول ﷺ پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگا کر اس پر چھڑک لیا اور اسے دھویا نہیں۔

آمنہ:

آپ رفیقہ بن ربیع بن بصرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد کی صاحبزادی ہیں اور یزید بن بدری کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ بھی مکہ کی قدیم الاسلام خاتون ہیں۔ پھر اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھیں۔

جدامہ:

آپ جندل اسدیہ کی بیٹی ہیں۔ آپ بھی مکہ کی قدیم الاسلام خاتون ہیں۔ جو اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر باخبار عمر بن عثمان صحیحی: غنم بن دودان کی اولاد حرب بن امیہ کی حلیف تھی اور مسلمان تھی یہ سب لوگ میں مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے تمام مرد و عورتیں ہجرت کر گئی تھیں حتیٰ کہ ان کے دروازے بند کر دیئے گئے۔ ان میں سے کرنے والی عورتیں زینب حبیبہ حمنہ جدامہ اُم قیس آمنہ اور اُم حبیبہ بنت نباتہ ہیں۔ محمد بن عمر: جدامہ انیس بن قوادہ بن بن خالد بن حارث بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن عیوق بن اوس بدری کے نکاح میں تھیں۔ انیس احد میں شہید ہوئے۔ جدامہ رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث روایت کرتی ہیں۔

باخبار معن بن عیسیٰ، حدیث مالک بن انس از محمد بن عبد الرحمن بن نوفل از عروہ از عائشہ از جدامہ اسدیہ: میں نے

اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لوگوں کو مدت رضاعت میں صحبت سے روک دوں حتیٰ کہ مجھ سے ذکر کیا گیا کہ زوی اور پارسی اسی حالت میں صحبت کرتے ہیں جس سے ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

اُم حبیبہ:

آپ نباتہ اسدیہ کی بیٹی ہیں آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی ﷺ سے بیعت کی اور اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں۔

نقیبہ:

آپ اُمیہ بن ابی بن عبید بن ہمام بن حارث بن بکر بن زید بن مالک بن حنظلہ بن مالک بن زید مناۃ بن تمیم کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ معیہ بنت جابر بن وہب بن نسیب بن زید بن مالک بن حارث بن عوف بن مازن بن منصور ہیں۔ منیہ عقبہ بن غزوان بن جابر کی پھوپھی ہیں۔ یہ سب حارث بن نوفل بن عبدمناف بن قصی کے حلیف ہیں۔ نقیبہ نے اسلام کی سعادت حاصل کی آپ ہی نے بیچ میں پڑ کر حضرت خدیجہ بنت ابی سفیانہ سے رسول اللہ ﷺ کا نکاح کرایا تھا۔ رسول اللہ ﷺ آپ کے اس احسان کو مانتے تھے۔

حولاء:

آپ ثویبہ بنت حنیس بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی صاحبزادی ہیں آپ ہجرت کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

فاطمہ:

آپ ابو حنیس بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی بیٹی ہیں آپ سے عبد اللہ بن حنیس بن رماح نے شادی کی جن سے آپ کے محمد پیدا ہوئے۔

باخبا روکیج بن جراح، محمد بن ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ، فاطمہ بنت حمیش نے نبی ﷺ کے پاس آ کر کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں استحاضہ کی مریضہ ہوں اور پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا: یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں، پھر جب حیض کی ابتداء ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو اپنے سے خون دھو کر نماز پڑھ لو۔

بُسرہ:

آپ صفوان بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ سالمہ بنت امیہ بن حارثہ بن اوقص بن مرہ بن ہلال بن فاتح بن ذکوان بن ثعلبہ بن ہرثہ بن سلیم ہیں اور آپ کے اخیالی بھائی عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ ہیں۔ بسرہ مغیرہ بن ابی العاص کے نکاح میں تھیں جن سے آپ کے معاویہ پیدا ہوئے۔ یہی وہ ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ احد سے واپس ہوئے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ آپ عبدالمطلب بن مروان کے دادا ہیں اور عبد الملک کی والدہ عائشہ بنت معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ ہیں۔ بسرہ رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث مخصوص کے چھونے کے بارے میں روایت کرتی ہیں۔

باخبار محمد بن عمر باخبار عمر باخبار زہری از عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم بسماع عروہ بن زبیر بسماع مروان بن حکم بسماع برہ بنت صفوان: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے اگر کوئی اپنا ذکر (عضو مخصوص) چھو لے تو اسے وضو کر لینا چاہئے۔

برکہ:

آپ یسار کی بیٹی ہیں اور ابو تجراہ مولیٰ بنی عبدالدار کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم یمن کے ہیں اور قبیلہ ازد سے ہیں اور بنی عبدالدار کے حلیف ہیں۔ برکہ قدیم الاسلام ہیں اور مکہ ہی میں اسلام قبول کر چکی تھیں اور آپ سے بیعت کر لی تھی پھر یہ دوسری ہجرت کے موقع پر ہجرت کر کے اپنے شوہر قیس بن عبداللہ اسدی کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھیں۔ یسار کی کنیت ابو فکیہ ہے۔

فکیہ:

برکہ کی بہن فکیہ بنت یسار ہیں یہ بھی مکہ میں قدیم الاسلام ہیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت شدہ ہیں۔ یہ بھی دوسری ہجرت کے موقع پر اپنے شوہر خطاب بن حارث بن معمر بن حبیب نجفی کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں۔

برہ:

آپ ابو تجراہ بن ابی فکیہ کی جس کا نام یسار ہے بیٹی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ قبیلہ ازد کے تھے اور بنی عبدالدار کے حلیف تھے اور ان میں ان کے بچے ہیں برہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار محمد بن عمر باخبار علی بن محمد بن عبید اللہ عمری از منصور بن عبد الرحمن اپنی والدہ برہ بنت ابی تجراہ سے: جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اعزاز و شرف بخشا چاہا اور آپ کی نبوت کا آغاز کیا تو رسول اللہ ﷺ جب قضائے حاجت کے لئے جاتے تو بہت دور چلے جاتے تھے حتیٰ کہ آپ کسی گھر کو نہیں دیکھتے اور کسی گھائے میں یا وادی کے اندر جا کر قضائے حاجت فرماتے تو جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے وہی کہتا: السلام علیک یا رسول اللہ ﷺ! آپ دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھتے تو کسی شے کو نہیں دیکھتے۔

حبیبہ:

برہ کی ہمشیرہ حبیبہ ہیں یہ بھی رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث کی راویہ ہیں۔

باخبار معاذ بن ہانی بہرانی: تحدیث عبد اللہ بن مومل کی بحدیث عمر بن عبد الرحمن بن محیصن سہمی از عطاء بن ابی رباح بحدیث صفیہ بنت شیبہ از حبیبہ بنت ابی تجراہ: ہم قرشی خواتین کے ساتھ ابو حسین کے گھر گئے۔ رسول اللہ ﷺ طواف کر رہے تھے اور آپ کا کپڑا آپ کے ساتھ گردش کر رہا تھا۔ آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے: سخی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے۔

عاتکہ:

آپ عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی اور عبد الرحمن بن عوف کی حقیقی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ شفاء بنت عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ ہیں عاتکہ سے مخرمہ بن نوفل بن ابیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب نے نکاح کیا

جن سے آپ کے مسور صفوان اکبر صلت اکبر اور ام صفوان چار بچے پیدا ہوئے۔ عاتکہ اور ان کی والدہ شفاء نے اسلام قبول کر لیا اور دونوں ماں بیٹی نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

شفاء:

آپ عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ سلمیٰ بنت عامر بن بياضہ بن سمیع بن جعشمہ بن سعد بن لیح بن خزاعہ ہیں۔ آپ عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ کے عقد میں تھیں جن سے آپ کے عبد الرحمن (جو بدر میں شریک تھے) اور اسود (جو مسلمان ہو کر فتح مکہ سے قبل ہجرت کر گئے تھے) اور عاتکہ اور امت چار بچے پیدا ہوئے۔ شفاء اور ان کی بیٹی عاتکہ نے مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ شفاء ام عبد الرحمن بن عوف مہاجر خواتین میں سے تھیں۔ انہیں کے بارے میں مردوں کی طرف سے لونڈی غلام آزاد کرنے کی سنت جاری ہوئی۔ آپ رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھیں۔ عبد الرحمن بولے: یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں اپنی اسی جان کی طرف سے غلام آزاد کروں؟ فرمایا: ہاں! چنانچہ عبد الرحمن نے ان کی طرف سے غلام آزاد کئے۔

خالہ:

آپ اسود بن عبد یثوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ آمنہ بنت نوفل بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ ہیں۔ خالہ مدینہ میں مسلمان ہوئیں اور آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ سے عبد اللہ بن ارقم بن عبد یثوث نے شادی کی۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث معمر از زہری (یخرج الحی من المیت۔ الخ کی تفسیر میں) رسول اللہ ﷺ کسی امّ المؤمنین کے گھر تشریف لے گئے دیکھا کہ ان کے پاس ایک (اچھی ہیئت والی) عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا: یہ کون ہے؟ بولیں: آپ کی ایک خالہ ہیں۔ فرمایا: اس زمین پر میری خالہ کا ہونا نادر ہے۔ یہ میری کونسی خالہ ہیں؟ بولیں: یہ خالہ بنت اسود ہیں۔ فرمایا: سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے یہ ایک نیک خاتون تھیں اور ان کے والد کفر پر فوت ہو گئے تھے۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث موسیٰ بن محمد بن ابراہیم از محمد از ابوسلمہ بن عبد الرحمن از عائشہ از نبی ﷺ: ہم مثل محمد بن عمر: لہذا یہ یخرج الحی... الخ کی تفسیر میں داخل ہے یعنی اللہ کافر سے مومن پیدا کرتا ہے۔

امّ فروہ:

آپ ابو قحافہ کی بیٹی ہیں ابو قحافہ کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے ام فروہ کی والدہ ہند بنت نقید بن بحیر بن عبد بن قصی ہے۔ حضرت ابو بکر نے اشعث بن قیس کندی سے آپ کا نکاح کر دیا تھا۔ جن سے آپ کے محمد اسحاق، اسماعیل، حبابہ اور قریبہ چار بچے پیدا ہوئے۔

قریبہ:

آپ بھی ابو قحافہ اور ہند کی بیٹی ہیں۔ آپ قیس بن سعد بن عمادہ بن ذؤلم کے نکاح میں تھیں اور لا ولد رہیں۔

ام عامر:

آپ بھی ابوقحافہ اور ہند کی بیٹی ہیں آپ سے عامر بن ابی وقاص نے شادی کی جن سے آپ کے ضعیفہ پیدا ہوئیں۔

اسماء:

آپ حضرت ابوبکر کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ قتیلہ بنت عبدالعزیٰ بن اسعد بن جابر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی ہیں۔ اسماء عبداللہ بن ابی بکر کی سگی بہن ہیں آپ شروع اسلام میں مکہ ہی میں مشرف بہ اسلام ہو گئی تھیں اور آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کر لی تھی آپ ہی کو ذات الطاقین (دو کمر بندوں والی) کہا جاتا ہے۔ جس رات رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر غار ثور کے لئے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنا کمر بند لے کر اسے بیچ میں سے پھاڑ دیا، ایک ٹکڑے سے تو رسول اللہ ﷺ کا دسترخوان باندھا اور دوسرے ٹکڑے سے آپ کے مشکیزہ کا منہ کس دیا۔ لہذا آپ کا لقب ذات الطاقین پڑ گیا۔ آپ زبیر بن عوام کے عقد میں تھیں جن سے عبداللہ عروہ، منذر، عاصم، مہاجر، خدیجہ الکبریٰ، ام حسن اور عائشہ ۸ بچے پیدا ہوئے۔

باخبار ابواسامہ حماد بن اسامہ، متحد ریث ہشام بن عروہ و قاطمہ از اسماء: جب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کی ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے ابوبکر کے گھر رسول اللہ ﷺ کے لئے دسترخوان تیار کیا۔ پھر ہمیں آپ کے دسترخوان اور مشکیزے کو باندھنے کے لئے کوئی چیز نہیں ملی۔ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان دونوں کو باندھنے کے لئے بجز میرے کمر بند کے کوئی چیز نہیں۔ فرمایا: اسی کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر لو ایک سے مشکیزے کو باندھ دو اور ایک سے دسترخوان کو۔ اسماء نے ایسا ہی کیا۔ اسی لئے آپ کا لقب ذات الطاقین پڑ گیا۔

باخبار ابواسامہ متحد ریث ہشام بن عروہ از عروہ: شامی ابن زبیر کو جب ان سے لڑ رہے تھے ابن ذات الطاقین کے لقب سے پکارتے تھے ابن زبیر نے فرمایا تو ایک ایسی چیز ہے جس کا طعنہ دینا فضول ہے۔ اسماء نے ابن زبیر سے پوچھا: کیا شامی اس لفظ سے تم پر طعن کرتے ہیں؟ بولے: جی ہاں۔ فرمایا: اللہ کی قسم یہ ایک سچی بات ہے۔ اس میں طعن کیا؟

باخبار ابواسامہ متحد ریث ہشام بن عروہ از عروہ از اسماء بنت ابی بکر: جب میرا زبیر سے عقد ہوا تو ان کے پاس کچھ نہ تھا اور نہ کوئی غلام تھا بس ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کا چارہ میرے ذمہ تھا اور اس کی دیکھ بھال بھی میں ہی رکھا کرتی تھی اور پانی کھینچنے والے اونٹ کے لئے کھجوروں کی گھٹلیاں میں ہی کوٹا کرتی تھی اور اسے دانہ پانی میں ہی دیا کرتی تھی اور چرس میں ہی سیا کرتی تھی اور آٹا میں ہی گوندھا کرتی تھی لیکن مجھے اچھی طرح سے روٹی پکانی نہیں آتی تھی ہماری روٹی ہماری انصار ہمسایاں پکا دیا کرتی تھیں۔ بے چاری اچھی عورتیں تھیں، نبی ﷺ نے زبیر کو جو زمین دی تھی اس سے سرپرلا کر میں ہی گھٹلیاں لاپا کرتی تھی۔ یہ زمین دو میل کے فاصلے پر تھی فرماتی ہیں: ایک دن میں گھٹلیاں سرپرلا دے ہوئے آ رہی تھی کہ راہ میں رسول اللہ ﷺ مل گئے۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ آپ نے مجھے آواز دی پھر اپنا اونٹ بٹھایا تاکہ آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیں۔ مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر کی غیرت بھی یاد آئی (زبیر بڑے غیور تھے)۔ رسول اللہ ﷺ بھانپ گئے کہ میں شرمارہی ہوں۔ آخر کار آپ تشریف لے گئے۔ پھر میں نے اس کا ذکر زبیر سے کیا۔ بولے: اللہ کی قسم تمہارا سر پر گھٹیوں کا لانا بہ نسبت تمہارے آپ کے

پچھے سوار ہونے کے مجھے زیادہ شاق تھا۔ فرماتی ہیں: پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے پاس ایک خادم بھیج دیا اور وہی گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے لگا مجھے چھٹی مل گئی گویا ابو بکر نے مجھے آزاد کر دیا۔

باخبار کثیر بن ہشام، متحد بیٹ فرات بن سلمان از عبد الکریم از عمرہ و باخبار عبد اللہ بن جعفر رقی، متحد بیٹ عبید اللہ بن عمرو از عبد الکریم از عمرہ: اسماء زبیر کے عقد میں تھیں زبیر اسماء سے سخت کام لیتے تھے۔ اسماء نے اس کی اپنے والد سے شکایت کی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا: بیماری بچی صبر کرو۔ کیونکہ اگر کسی عورت کا نیک شوہر ہو اور وہ اسے چھوڑ کر مر جائے اور اس کی بیوی کسی اور سے شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں جمع فرمادے گا۔

باخبار حجاج بن محمد و ابو عاصم نبیل و محمد بن عبد اللہ انصاری از ابن جریج بن خبیر ابن ابی ملیکہ از عباد بن عبد اللہ بن زبیر از اسماء بنت ابی بکر: اسماء نے نبی ﷺ سے آ کر کہا: میرے گھر میں بجز اس کے جو گھر میں لے آتے ہیں اور کچھ نہیں اگر میں اس میں سے کچھ لے کر خیرات کر دوں تو کیا مجھ پر گناہ ہے؟ فرمایا: خیرات کرو جہاں تک تمہیں قدرت ہو۔ ٹھیلی کا منہ باندھ کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں باندھ کر دے گا۔

باخبار عوفان بن مسلم، متحد بیٹ حماد بن سلمہ از حمید از عبید از عمیر: اسماء کی گردن میں ورم تھا رسول اللہ ﷺ اس پر ہاتھ پھیر کر دم کر رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے: اللھم عافھا من فھشھا و اذاھا یعنی اے اللہ انہیں ان کی تکلیف و اذیت سے عافیت عطا فرما۔

باخبار یحییٰ بن عباد، متحد بیٹ حماد بن سلمہ از ابو عامر خزاز از ابن ابی ملیکہ: جب اسماء کے سر میں درد ہوتا تھا تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتی تھیں اور کہتی تھیں: میرا سر دکھ رہا ہے یا درد میرے گناہوں کی وجہ سے ہے اور میرے گناہ کثرت سے اللہ معاف بھی فرمادیتا ہے۔

باخبار ابو اسامہ از ہشام بن عروہ از قاطمہ بنت منذر از اسماء بنت ابی بکر: جب اسماء بیمار پڑتیں تو اپنا ہر غلام آزاد کر دیا کرتی تھیں۔

باخبار ابو اسامہ از ہشام از قاطمہ از اسماء: آپ اپنی بیٹیوں اور گھر والوں سے کہا کرتی تھیں: تم لوگ خرچ و خیرات کرو بچت کو نہ دیکھو کیونکہ اگر تم بچت کا انتظار کرو گی تو حسب ضرورت ہی تم کو ملے گا اور اگر تم خیرات کرتی رہو گی تو تمہارا ہاتھ کبھی نہ رکے گا۔

باخبار عبد اللہ بن موسیٰ، متحد بیٹ اسامہ از محمد بن منکدر: رسول اللہ ﷺ نے اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا: باندھ کر نہ رکھو ورنہ اللہ تمہ پر باندھ دے گا۔ حضرت اسماء ایک فیاض و سخی خاتون تھیں۔

باخبار موسیٰ بن اسماعیل، متحد بیٹ عبد اللہ بن مبارک باخبار مصعب بن ثابت از عامر بن عبد اللہ بن زبیر از عبد اللہ بن زبیر: قبیلہ بنت عبد العزیٰ اپنی بیٹی اسماء کے پاس متھے گھی اور چھال بطور ہدیہ کے لائیں۔ حضرت ابو بکر نے جاہلیت میں انہیں طلاق دے دی تھی حضرت اسماء نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت بھی نہ دی اور حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آدمی بھیج کر کہا گیا کہ رسول اللہ ﷺ سے معلوم کر کے بتائیں کہ میں اپنی والدہ کے ہدیے قبول کروں یا نہ کروں اور گھر میں آنے دوں یا نہ آنے دوں؟ نبی ﷺ نے فرمایا: تحائف قبول کر لو اور انہیں اپنے گھر میں آنے دو اور قرآن پاک میں یہ آیت اتر آئی:

﴿لَا ينهاكم الله عن الذين لعدو يقاتلوكم... الخ﴾

یعنی ”اللہ تعالیٰ تم کو ان سے جو تم سے دین کے سلسلہ میں لڑتے نہیں اور نہ تمہیں تمہارے.... گھروں سے نکالتے ہیں“ نیک سلوک کرنے سے اور عدل کرنے سے منع نہیں فرماتا وہ تو ان سے تمہیں دوستی کرنے سے روکتا ہے جو دین میں تم سے لڑتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور جو ان سے دوستی کرتا ہے وہی ظالم ہے۔“

باخباہر ہشام ابوالولید طرابلسی، متحد ریث شریک از زکین بن زبج، میں حضرت اسماء کے پاس گئی، آپ بہت بوڑھی اور ناپینا ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ ان کے پاس ایک شخص تھا جو انہیں پتاتا جاتا تھا کہ کھڑی ہو جاؤ بیٹھے جاؤ۔

باخباہر اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اویس، متحد ریث عبداللہ بن ابی اویس از ہشام بن عروہ: منذر بن زبیر عراق سے آئے اور حضرت اسماء کے پاس مروی وقوہی مہین و نفیس جوڑے ان کے ناپینا ہونے کے بعد بھیجے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے انہیں ٹٹول کر فرمایا: اُف! انہیں ان کے کپڑے لوٹا دو۔ منذر کو یہ بات گراں گزری اور بولے: امی جان! ان سے بدن نہیں جھلملاتا۔ فرمایا: اگر بدن نہیں جھلملاتا تو یہ بھڑکیلو تو ہیں پھر منذر تو آپ کو مروی وقوہی کپڑا خرید کر دیا آپ نے اسے قبول کر لیا اور فرمایا: اس جیسا کپڑا مجھے دو۔

باخباہر انس بن عیاض، متحد ریث محمد بن ابی یحییٰ از اسحاق، مولیٰ محمد بن زیاد از ابو اقدلیسی صحابی: (اس حدیث میں جس میں جنگ یرموک میں ان کی شرکت کا ذکر ہے) اور حضرت اسماء زبیر کے ساتھ تھیں، میں نے سنا آپ زبیر سے فرما رہی تھیں: ابو عبداللہ! دشمن کا ایک شخص بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کا پیر میرے خیمہ کی رسیوں میں الجھ جاتا ہے اور وہ منہ کے بل کر کر مر جاتا ہے حالانکہ اسے اسلحہ کی گرد بھی نہیں پہنچتی۔

باخباہر یزید بن ہارون باخباہر حماد بن سلمہ از ہشام بن عروہ از عروہ یا از فاطمہ بنت منذر: حضرت اسماء بن عاص کے زمانہ میں چوروں کے لئے بنجر اپنے سر کے نیچے رکھا کرتی تھیں چوروں نے مدینہ میں لوٹ مار پھاڑی تھی۔

باخباہر کثیر بن ہشام، متحد ریث فرات بن سلمان از عبدالکریم از عکرمہ: حضرت اسماء سے پوچھا گیا کیا سلف میں سے کبھی کسی کو خوف سے غش بھی آجاتا تھا؟ فرمایا: نہیں! البتہ وہ رویا کرتے تھے۔

باخباہر احمد بن عبداللہ بن یونس، متحد ریث زبیر از ابو اسحاق از مصعب بن سعد: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء کا وظیفہ ایک ہزار درہم سالانہ تھا۔

باخباہر عصفان بن مسلم، متحد ریث حماد بن سلمہ، متحد ریث ہشام بن عروہ: زبیر نے اسماء کو طلاق دی اور عروہ کو لے لیا، عروہ اس

وقت بچے تھے۔ باخبار انس بن عیاض از ہشام بن عروہ: حضرت اسماء نے احرام کی حالت میں عصفر کے گہرے رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے جس میں زعفران نہ تھا۔

باخبار انس بن عیاض از ہشام بن عروہ از فاطمہ بنت منذر: میں نے اسماء کو عصفر میں رنگے ہوئے کپڑوں ہی میں دیکھا حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملیں اگرچہ کبھی کبھی وہ ایسا کرتے پہنتی تھیں جو عصفر میں رنگے ہوئے کپڑے کے قائم مقام ہوتا تھا۔

باخبار عارم بن فضل بخدیث حماد بن زید از ہشام از فاطمہ بنت منذر: اسماء عصفر کے گہرے رنگ میں رنگے ہوئے کرتے میں احرام باندھتی تھیں۔

باخبار یحییٰ بن حماد بخدیث ابو عوانہ از یزید بن ابی زیاد از قیس بن اخف نخعی و بخدیث قاسم بن محمد ثقفی: اسماء رضی اللہ عنہا نابینا ہونے کے بعد اپنی بچیوں کے ساتھ حجاج کے پاس آئیں۔ پوچھا: حجاج کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: حجاج یہاں نہیں ہیں۔ فرمایا: جب حجاج آئے تو اس سے کہنا کہ ان ہڈیوں کو (عبداللہ بن زبیر کے ڈھانچہ کو) اتارنے کا حکم دے دے اور اسے بتا دینا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: ثقیف میں دو شخص ہیں ایک کذاب ہے اور ایک ہلاک کرنے والا۔

بخدیث اسحاق از رقیہ از عوف اعرابی از ابوالصدق ناجی: حجاج نے حضرت اسماء کے پاس آ کر کہا آپ کے بیٹے کی اس گھر میں لحد بنا دی گئی اور اللہ نے اسے دردناک عذاب چکھا دیا اور اس کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا۔ حضرت اسماء نے جواب دیا تم جھوٹے ہو وہ تو ماں باپ کے فرمانبردار روزے دار اور شب بیدار تھے۔ ہاں! اللہ کی قسم ہمیں رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ عنقریب ثقیف سے دو جھوٹے شخص ظاہر ہوں گے جن میں پچھلا پہلے سے بد ہوگا اور وہ ہلاک کرنے والا بھی ہوگا۔

باخبار فضل بن دکین بخدیث حفص بن غیاث از ہشام بن عروہ از فاطمہ بنت منذر: اسماء رضی اللہ عنہا نے وصیت کی: جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا، کفنانا اور خوشبو لگانا اور میرے کفن پر حنوط (ایک قسم کی مرکب خوشبو) نہ چھڑکنا اور میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا۔

باخبار کعب بن جراح از ہشام بن عروہ از فاطمہ بنت منذر از اسماء بنت ابی بکر: آپ نے وصیت کی: میرے کفن پر حنوط نہ چھڑکنا۔

باخبار عبداللہ بن نمیر از ہشام بن عروہ از عروہ: حضرت اسماء نے اپنے گھر والوں سے کہا: جب میں مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو دھونی دینا اور میرے جسم کو حنوط لگا دینا اور اسے کفن پر نہ چھڑکنا اور نہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر جانا۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار حماد بن سلمہ از ہشام بن عروہ از فاطمہ بنت منذر: حضرت اسماء نے فرمایا: میرے کپڑوں کو دھونی دینا اور مجھے خوشبو لگانا لیکن میرے کفن پر خوشبو نہ چھڑکنا۔

باخبار معن بن عیسیٰ بخدیث مالک بن انس از ہشام بن عروہ از عروہ از اسماء بنت ابی بکر: آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا: جب میں مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو دھونی دینا پھر مجھے حنوط لگانا اور میرے کفن پر حنوط نہ چھڑکنا اور نہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر جانا۔

باخبر عمرو بن عاصم، متحد بیٹ ہمام از ہشام بن عمروہ از فاطمہ بنت منذر از اسماء: میرے کپڑوں کو جو کھٹنی پر ہیں دھونی دینا اور مجھے حنوط لگانا اور میرے کپڑوں پر ذرا سی حنوط بھی نہ چھڑکنا۔ حضرت اسماء اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کے قتل کے چند دنوں بعد وفات پا گئیں۔ حضرت ابن زبیر منگل کے دن ۱۷ جمادی الاول ۳۷ھ میں قتل کئے گئے۔

تاریخہ:

آپ حارث بن حبیبہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ زینب بنت عبداللہ بن ساعدہ بن مشوٰء بن عبد بن حترزاعیہ ہیں۔ آپ صبیحہ بن حارث کی ہمیشہ ہیں اور قدیم الاسلام ہیں۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور دوسری ہجرت کے زمانہ میں حبشہ کی طرف اپنے شوہر حارث بن خالد بن صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کے ساتھ ہجرت کر گئیں۔ وہاں آپ کے یہاں موسیٰ عانتہ اور زینب تین بچے پیدا ہوئے۔ پھر موسیٰ تو حبشہ ہی میں فوت ہو گئے اور ریبط واپس ہو رہی تھیں گذراہ میں فوت ہو گئیں۔

امیمہ:

آپ رقیقہ کی بیٹی ہیں جن سے محمد منکر رزواوی ہیں اور یہ خود رسول اللہ ﷺ سے بھی عورتوں کی بیعت کے بارے میں ایک حدیث روایت کرتی ہیں۔ امیمہ عبداللہ بن بجاہ بن عمیر بن حارث بن حارثہ بن سعد بن تیم بن مرہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ رقیقہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی حضرت خدیجہ بنت خویلد کی ہمیشہ ہیں۔ امیمہ کی غیر برادری میں حبیب بن کعب بن عمیر ثقفی سے شادی ہوئی جس سے ان کے نہد یہ ایک اور بچی ام عمیس زُنیرہ پیدا ہوئیں یہ سب شروع اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں اور انہوں نے اسلام کی پاداش میں بڑے بڑے ڈکھ برداشت کئے ہیں۔ پھر ان سب کو حضرت ابوبکر نے خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابوقحافہ سے نہ رہا گیا اور بولے: بیٹا تو سب کو چھوڑ کر اس شخص کو چھٹ گیا ہے اور ان کمزوروں کو خرید کر آزاد کرتا رہتا ہے۔

حضرت ابوبکر نے فرمایا: ابا جان! جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی مصلحت مجھے معلوم ہے۔ حضرت ابوبکر نے جس دن تہدید کو خریدا ہے اس دن کان کے پاس اپنے مالک کے لئے پیسے کا اناج یا کوٹنے کے لئے گھٹلیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم اپنی مالکہ کو اناج یا گھٹلیاں واپس کر دو۔ بولیں: نہیں! میں یہ کام پورا کروں گی۔ حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد بھی کر دیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد زُنیرہ کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی اور وہ نابینا ہو گئیں ان سے کہا گیا دیکھالات وعزلی نے کیسا بدلہ لیا؟ بولیں: نہیں اللہ کی قسم! انہوں نے مجھے یہ تکلیف نہیں پہنچائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بھران کی قوت ایمانیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی اس پر قریش کہنے لگے یہ بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک جادو ہے۔

جاریہ:

آپ عمرو بن مومل کی صاحبزادی ہیں اور قدیم الاسلام ہیں۔ آپ بھی ان میں شامل ہیں جن کو اللہ پر ایمان لانے کی پاداش میں ڈکھ پہنچائے جاتے تھے۔ خود حضرت عمر اسلام لانے سے قبل انہیں ایذا دیا کرتے تھے تاکہ اسلام چھوڑ دیں۔ چنانچہ عمر

خوب مصائب ڈھا کر انہیں چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے: اللہ کی قسم میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہاں اکتا کر ہی چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں! آپ جواب دیا کرتی تھیں: ایسا ہی تیرے ساتھ تیرا رب کرے گا۔

بریرہ:

آپ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی ہیں۔

باخبار محمد بن عبد اللہ اسدی، متحد بیٹ عبد الواحد بن امین بحد بیٹ امین: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر ان سے پوچھا: ام المؤمنین! میں عقبہ بن ابی لہب کا غلام تھا پھر اس کے بیٹوں نے اور عورت نے مجھے فروخت کر دیا اور اپنے لئے ولاء کی شرط کر لی لہذا اب میں کس کا مولیٰ بنوں گا؟ فرمایا: بیٹا میرے پاس حالت کتابت میں بریرہ آئیں اور مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں خرید لوں۔ میں نے کہا: اچھا خرید لوں گی۔ بولیں: میرے مالک اپنے لئے ولاء کی شرط مقرر کرائیں گے۔ میں نے کہا: پھر تو مجھے تم کو خریدنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے بھی سُن لی یا آپ ﷺ کو اس کی خبر مل گئی۔ پوچھا: بریرہ کیوں آئی تھی؟ میں نے آپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ فرمایا: اسے خرید کر آزاد کرو اور انہیں جس قدر چاہیں شرطیں لگانے دو۔ آخر کار میں نے بریرہ کو خرید کر آزاد کر دیا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق ولاء آزاد کرنے والے کا ہے اگرچہ لوگ سو شرطیں کیوں نہ مقرر کر لیں۔

باخبار عوفان بن مسلم، متحد بیٹ ہام بن یحییٰ، اسماع نافع، بحد بیٹ ابن عمر رضی اللہ عنہما: صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ کے خریدنے کے لئے مول تول کیا۔ نبی ﷺ نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بریرہ کے سید ولاء کی شرط پر فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا: ولاء آزاد کرنے والے ہی کا حق ہے۔

ہام: میں نے نافع سے پوچھا: کیا بریرہ کا شوہر آزاد تھا یا غلام تھا؟ فرمایا: مجھے معلوم نہیں۔

باخبار عبد اللہ بن عبد المجید حنفی، متحد بیٹ ابو حزہ از حسن، صدیقہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ میں بریرہ کو خرید کر آزاد کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ولاء کی شرط لگاتے ہیں۔ فرمایا: ولاء اسی کی ہے جو قیمت دے۔

باخبار محمد بن عبید عبدی از معمر از زہری از عروہ از عائشہ: جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ کو خرید کر آزاد کیا اور مالکوں نے ولاء کی شرط لگائی تو بریرہ کے بارے میں نبی ﷺ نے ایک خطبہ دیا۔ فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا، کیوں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں۔ اگر کسی نے ایسی شرط مقرر کی جو اللہ کی کتاب میں نہیں تو اس کی شرط باطل ہے۔ اگرچہ سو شرطیں کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ اللہ کی شرط انتہائی مستحکم ہے اور پوری کئے جانے کی زیادہ حق دار ہے۔

باخبار عوفان بن مسلم و عمر و بن عاصم، متحد بیٹ ہام، متحد بیٹ قتادہ از عمرہ از ابن عباس: بریرہ کا شوہر مغیث ایک سیاہ فام غلام تھا۔ پھر نبی ﷺ نے بریرہ کے واقعہ میں چار فیصلے فرمائے: بریرہ کے مالکوں نے ولاء کی شرط لگائی، آپ نے فیصلہ کیا کہ ولاء آزاد کرنے والے کا حق ہے اور بریرہ کو اختیار دیا گیا۔ پھر انہوں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا اور نبی ﷺ نے بریرہ کو عدت گزارنے کا حکم دیا۔ میرے گمان میں ان کا شوہر ان کے پیچھے پیچھے روتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا اور بریرہ کے پاس صدقہ

ﷺ نے بریرہ کو اپنے شوہر کے پاس رہنے اور نہ رہنے کا اختیار دے دیا۔ پھر انہوں نے اپنا نفس چن لیا اور آزاد عورت کی طرح عدت کی۔ پھر نبی ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ کے پاس گوشت دیکھا۔ پوچھا: کہاں سے آیا؟ بولیں: یہ گوشت بریرہ نے اس بکری کا بھیجا ہے جو ان کے پاس صدقہ میں آئی تھیں۔ فرمایا: وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ باخباہر عبد الوہاب بن عطاء از داؤد بن ابی ہند از عامر شعی: جب بریرہ آزاد کر دی گئیں تو نبی ﷺ نے ان سے کہا: تمہارے ساتھ تمہاری شرمگاہ آزاد ہوگئی اب تمہیں اختیار ہے۔

باخباہر محمد بن عمر از ثوری از ابن ابی لیلیٰ از عطاء: بریرہ کا شوہر مغیث اولاد مغیرہ کا غلام و مملوک تھا۔ پھر جب بریرہ آزاد ہو گئیں تو نبی ﷺ نے انہیں اختیار دے دیا۔ ابن ابی لیلیٰ کی رائے ہے کہ بریرہ کو شوہر کے مملوک ہونے کی بناء پر اختیار ملا اگر مغیث آزاد ہوتا تو بریرہ کو اختیار حاصل نہ ہوتا۔

باخباہر عارم بن فضل: متحد بیٹ حماد بن زید از ایوب از محمد: رسول اللہ ﷺ نے بریرہ کو اختیار دے دیا پھر ان سے رسول اللہ ﷺ نے (مغیث کو نہ چھوڑنے کے بارے میں) گفتگو کی۔ بولیں: یا رسول اللہ ﷺ! کیا انہیں نہ چھوڑنا مجھ پر واجب ہے؟ فرمایا: نہیں، میں سفارش کرتا ہوں۔ بولیں: تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔

باخباہر عمرو بن شیم ابو قطن: متحد بیٹ شعبہ از قتادہ از انس: رسول اللہ ﷺ کے پاس گوشت آیا لوگوں نے کہا یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ فرمایا: بریرہ پر صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

باخباہر محمد بن حمید عبدی از معمر از قتادہ: بریرہ کو صدقہ کی ایک بکری دی گئی۔ انہوں نے اس میں سے کچھ گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے مکروہ سمجھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: یہ بریرہ کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

باخباہر عبد اللہ بن نمیر: متحد بیٹ سعید از ایوب از عکرمہ از ابن عباس: بریرہ کے آزاد ہونے کے دن ان کا سیاہ قام شوہر مغیث آل مغیرہ کا غلام تھا گویا میں اسے مدینہ کی گلیوں میں بریرہ کے پیچھے پیچھے روتا ہوا جاتا دیکھ رہا ہوں۔ آنسوؤں سے داڑھی ٹرا اور اور بریرہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن بریرہ انکار ہی پر اڑی رہیں۔

باخباہر فضل بن دیکین از ابن عبیدہ از ایوب از عکرمہ: لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا ذکر کیا۔ فرمایا: یہ مغیث تھا جو بنی فلاں کا غلام تھا میں نے اسے بریرہ کے پیچھے پیچھے روتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں دیکھا ہے۔

باخباہر ہشام ابو الولید طیالسی از شعبہ از قتادہ از عکرمہ از ابن عباس رضی اللہ عنہما: میں نے اسے (بریرہ کے شوہر کو) غلام دیکھا۔ باخباہر عارم بن فضل: متحد بیٹ حماد بن زید از ایوب از عکرمہ از ابن عباس: بریرہ کا شوہر غلام تھا گویا میں بریرہ کے پیچھے پیچھے اسے روتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں دیکھ رہا ہوں۔

باخباہر عارم بن فضل: متحد بیٹ حماد بن زید از ایوب: مکہ اور مدینہ کے علماء میں اس میں اختلاف نہیں کہ وہ (بریرہ کا شوہر) غلام تھا۔

باخبار عبد الوہاب بن عطاء از سعید از ایوب از عکرمہ از ابن عباس: جس دن بریرہ کو اختیار دیا گیا اس دن ان کا شوہر مغیث آل مغیرہ کا غلام تھا۔ گویا میں اسے مدینہ کی گلیوں میں بریرہ کے پیچھے پیچھے اسے راضی کرنے کے لئے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے داڑھی آنسوؤں سے شرابور ہے اور بریرہ کہہ رہی ہے: مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری، محمد بن سعید بزرگ ابو معشر از نخعی از اسود: بریرہ کا شوہر آزاد تھا۔

باخبار عبد الوہاب بن عطاء از سعید از ابو معشر از ابراہیم از اسود از عائشہ: جس دن بریرہ کو اختیار دیا گیا ہے اس دن ان کا شوہر آزاد تھا۔

باخبار ہشام ابو الولید طیالسی، محمد بن شعبہ از حکم از ابراہیم: بریرہ کا شوہر آزاد تھا۔

باخبار عبد اللہ بن نمیر، محمد بن عبید اللہ بن عمر از نافع بن خبیر صفیہ بنت عبید: بریرہ کا شوہر آزاد تھا۔ (اگر مغیث آزاد ہوتا بریرہ کو آزاد ہونے کے بعد حق اختیار کیسے حاصل ہوتا۔ لہذا اس وقت مغیث آزاد نہ تھا بعد میں آزاد ہو گیا ہوگا)۔

فاطمہ:

آپ ولید بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ حنتمہ بنت شیطان ہیں۔ شیطان عبد اللہ بن عمرو بن کعب بن واہلہ بن احمد بن حارث بن عبد مناتہ بن کنانہ ہیں۔ فاطمہ سے حارث بن ہشام بن مغیرہ نے نکاح کیا جس سے ان کے عبد الرحمن اور ام حکیم دو بچے پیدا ہوئے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن ابوبکر بن عبد اللہ بن ابی سہرہ از موسیٰ بن عقبہ از ابو حنیفہ مولیٰ زبیر از عبد اللہ بن زبیر: فتح مکہ کے دن فاطمہ مشرف بہ اسلام ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کی۔

ام حکیم:

آپ حارث بن ہشام بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ہیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن ابوبکر بن عبد اللہ بن ابی سہرہ از موسیٰ بن عقبہ از ابو حنیفہ مولیٰ آل زبیر از عبد اللہ بن زبیر: فتح مکہ کے دن ام حکیم بنت حارث زوجہ مکرمہ بن ابوجہل نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر آپ سے بیعت کی۔

جویریہ:

آپ ابوجہل بن ہشام بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ ارویٰ بنت ابی العیص بن امیہ بن عبد شمس ہیں۔ آپ نے اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ سے عتاب بن اسید بن ابی العیص بن امیہ نے شادی کی پھر ابان بن سعید بن عاص بن امیہ نے لیکن آپ کے کسی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے جویریہ پر یہی پیام ڈالا تھا۔ جو مغیرہ رسول اللہ ﷺ کے پاس اس سلسلہ میں آپ سے مشورہ کرنے کے لئے آئے لیکن آپ نے انہیں جویریہ کا علی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی اور فرمایا: فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے جس چیز سے اسے صدمہ پہنچتا ہے اس سے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے۔

حشواء:

آپ بھی ابو جہل و ازدی کی بیٹی ہیں اور آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔ آپ سے سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حنظل بن عامر بن لوی نے نکاح کیا جن سے ہند پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سے اسامہ بن زید بن حارثہ نے بھی نکاح کیا۔

قریبہ الصغریٰ:

آپ امیہ بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ عاتکہ بنت عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس ہیں۔ آپ ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیہ کی علاقائی بہن ہیں۔ آپ نے بھی اسلام لا کر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ سے عبد الرحمن بن وکبر صدیق نے نکاح کیا جن سے عبد اللہ ام حکیم اور حفصہ تین بچے پیدا ہوئے۔

باخبار عامر بن فضل، محمد بن حماد بن زید از ایوب از ابن ابی ملیکہ: عبد الرحمن بن ابی بکر نے قریبہ سے نکاح کیا۔ آپ نے طبع تھیں ایک دن عبد الرحمن سے کہنے لگیں: دیکھو اللہ کی قسم مجھے تم سے ڈرایا گیا ہے عبد الرحمن نے کہا: تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بولیں: میں ابن صدیق پر کسی کو ترجیح دینے والی نہیں۔ پھر ان پر طلاق نہیں پڑی اور اپنے نکاح پر قائم رہیں۔

طمنہ:

آپ اسود بن عبد الاسد بن ہلال بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم کی بیٹی ہیں۔ آپ نے اسلام قبول فرما کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی چوری کرنے پر رسول اللہ ﷺ نے آپ ہی کا ہاتھ کاٹا تھا۔

باخبار ابن نمیر از جلیح از حبیب بن ابی ثابت (مرفوعاً) عہد رسالت میں فاطمہ بنت اسود نے زیورات کی چوری کی، وہ نے نبی ﷺ سے سفارش کی اور سفارش کے لئے اسامہ کو کھڑا کر دیا۔ آپ اسامہ کی بات مانا کرتے تھے۔ جب اسامہ آئے انہیں نبی ﷺ نے دیکھا تو فرمایا: اسامہ! تم اس سلسلہ میں بات نہ کرنا کیونکہ جب حدوں کا معاملہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے تو انہیں ہی حال میں بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتیں تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹنے بغیر نہ رہتا۔

محمد بن سعد: فاطمہ بنت اسود کے بارے میں یہی روایت ہے لیکن مکہ اور مدینہ والوں کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ہی میں جس عورت کا ہاتھ کاٹا تھا وہ ام عمرو بنت سفیان بن عبد الاسد بن ہلال بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ہیں۔ ان کی والدہ بنت العززی بن ابی قیس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حنظل بن عامر بن لوی، حویطب بن عبد العززی کی بہن ہیں۔ انہوں نے حجہ راج کے زمانہ میں رات میں ایک قافلہ کے انتظار میں بیٹھ کر ان کے کپڑوں کا ایک صندوق چھ لیا تھا۔ لوگوں نے انہیں پکڑ کر لہ دیا اور صبح کو انہیں نبی ﷺ کے پاس لائے۔ انہوں نے حضرت ام المومنین ام سلمہ کے تہ بندوں میں اپنے ہاتھ چھپائے۔ پھر آپ کے حکم سے وہاں سے ان کے ہاتھ کاٹنے گئے اور آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتیں تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ پھر آپ کے حکم سے ان کا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر یہ جب کہ ان کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا اسید بن خبیر اشہلی کی بیوی پاس گئیں جنہوں نے ان کو پہچان لیا اور پناہ دے دی اور ان کے لئے گرم گرم کھانا تیار کیا۔ اتنے میں اسید نبی ﷺ کے

پاس سے گھر آگئے اور گھر میں داخل ہونے سے قبل بلند آواز سے اپنی بیوی سے کہا: تمہیں معلوم ہے ام عمرو بنت سفیان کے ساتھ کب ہوا؟ بولیں: دیکھئے وہ تو یہاں میرے پاس ہی ہے۔ آخر کار اسید نے واپس جا کر نبی ﷺ کو خبر کی۔ فرمایا: تو نے اس پر ترس کھایا اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا رحم فرمائے۔ پھر جب یہ اپنے والد کے پاس گئیں تو والد نے کہا: انہیں آل عبد العزیٰ کے پاس لے جاؤ۔ کیونکہ یہ انہیں کے مشابہ ہیں۔ لوگوں کا زعم ہے کہ حویطب بن عبد العزیٰ نے جو ان کے ماموں تھے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ فرماتے ہیں حسین بن ولید بن امیہ تمہی عبد اللہ بن سفیان بن عبد الاسد پر غصہ ہوئے (ام عمر عبد اللہ بن سفیان کی بہن ہیں) اور یہ اشعا پڑھے۔

رَدَّتْ ابْنَةُ لَأْبِي سَلِيْمِي جَعْدَةَ سَرَّاقَةَ لِحَقَابِ الرُّكْبَانِ

”ابو سلیمی کی بہت سی گداز بٹھوس جسم کی بیٹیاں قافلہ والوں کے صندوق چرانے والیاں۔“

بَاتَتْ تَحْرُسُ عِيَابَهُمْ بِيَمِينِهَا حَتَّى أَقْرَتْ غَيْرَ ذَاتِ بَنَانِ

”قافلہ والوں کے صندوق اپنے دائیں ہاتھ سے ٹٹلتے ہوئے راتیں گزارتی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ جب اقرار کرتی ہیں جب ان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔“

سمیہ:

آپ نجیاط ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم کے آزاد کردہ غلام کی صاحبزادی ہیں اور عمار بن یاسر کی والدہ ہیں اور قدیم الاسلام ہیں۔ آپ کو اسلام چھوڑنے کے لئے طرح طرح کی انسانیت سوز تکلیفیں دی گئیں لیکن آپ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں اور ہر طرح کی تکلیف صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہیں حتیٰ کہ ایک دن ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا اور ”بد بخت نے نیزہ آپ کی شرمگاہ میں گھونپ دیا جس کے صدمہ سے آپ شہید ہو گئیں۔ مرحومہ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہیں آپ بہت بوڑھی اور کمزور تھیں۔ جب جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے عمار سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارا والدہ کے قاتل کو کفر کرنا تک پہنچا دیا۔“

باخباہر اسماعیل بن عمر ابو المہذوب بن محمد بن سفیان ثوری از منصور از عجاہد: اسلام میں درجہ شہادت پر قاتل المرام ہونے و سب سے پہلی خاتون سمیہ ام عمار ہیں۔ آپ کے پاس ابو جہل نے آکر آپ کی فرج میں چھوٹا نیزہ گھونپ دیا تھا (جس کی تاب لا کر شہادت پائی)۔

عائیکہ:

آپ زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبد اللہ بن قرظ بن رزاح بن عدی بن کعب کی بیٹی ہیں۔ آپ والدہ اُم کرز بنت حضرمی بن عمار بن مالک بن ربیعہ بن نکیر بن مالک بن عوف ہیں۔ آپ نے اسلام لاکر بیعت کی اور ہجرت کی باخباہر یزید بن ہارون باخباہر محمد بن عمرو از یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب: عائیکہ عبد اللہ بن ابی بکر صدیق کے نکاح تھیں۔ عبد اللہ فوت ہو گئے اور عائیکہ سے شرط کر گئے کہ میرے بعد نکاح نہ کرنا۔ چنانچہ وہ دنیا کی تارک بن گئیں اور کسی سے نکاح

نہیں کیا۔ لوگ پیام لے لے کر آتے تھے مگر آپ انکار کر دیا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ولی سے کہا: ان کے پاس میرا ذکر کرنا۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ولی سے کہا: ان سے میرا نکاح کر دیجئے۔ چنانچہ ولی نے آپ کا حضرت عاتکہ سے نکاح کر دیا۔ خلوت ہوئی انہوں نے ہمہ ستری سے انکار کیا۔ عمر نے زبردستی ان سے صحبت کی، فارغ ہو کر بولے: تھو تھو تھو، ان پر تھو تھو کی اور ان کے پاس سے چلے گئے اور انہیں چھوڑ گئے اور آنا جانا بند کر دیا۔ انہوں نے اپنی آزاد کردہ لونڈی بھیج کر کہلوا یا کہ آپ تشریف لائیں میں آپ کے لئے تیاری کروں گی۔

باخبار عارم بن فضل، محمد بن حجاج بن اسلمہ از خالد بن سلمہ: عاتکہ عبد اللہ کے نکاح میں تھیں اور عبد اللہ کو ان سے بے حد محبت تھی۔ عبد اللہ نے ان کے نام اس شرط پر کہ میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا اپنی کوئی جائیداد کر دی پھر ان سے حضرت عمر بن خطاب نے نکاح کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کے ذریعہ ان کے پاس پیام بھیجا کہ ہمازی زمین واپس کر دیجئے۔ جب عبد اللہ بن ابی بکر فوت ہوئے تو عاتکہ نے ان کے غم میں یہ شعر کہا:

آلیت لا تنفک نفسی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا

”میں نے تم کھائی ہے کہ آپ پر میرا دل غم سے جدا نہ ہوگا اور نہ میرا بدن گرد و غبار سے جدا ہوگا۔“

پھر جب عاتکہ نے حضرت عمر سے نکاح کر لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ شعر فرمایا:

آلیت لا تنفک عینی قریرۃ علیک ولا ینفک جلدی اصفرا

”میں نے تم پر تم کھائی ہے کہ میری آنکھ ہمیشہ ٹھنڈی رہے گی اور میرا بدن ہمیشہ زرد رہے گا ہماری جائیداد ہمیں واپس کر دیجئے۔“

باخبار یزید بن ہارون، باخبار محمد بن عمرو از یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب: ربیعہ بن امیہ نے حضرت عمر کے پاس آ کر آپ سے کہا: میں نے خواب میں دیکھا گیا حضرت ابو بکر فوت ہو گئے اور ان کی جگہ آپ آ گئے۔ پھر آپ نے اس راہبہ عورت کی طرف پیام بھیجا۔ پھر آپ نے اس سے نکاح کر لیا پھر وہ دلہن بن کر آپ کے پاس آئی اور آپ کے دروازے پر بالیوں کا ٹوکرا تھا یعنی عاتکہ سے۔ آپ عبد اللہ کے عقد میں تھیں۔ عبد اللہ غزوہ طائف میں شہید ہو گئے۔ آپ نے عاتکہ کو اس شرط پر کچھ جائیداد دے دی تھی کہ میرے بعد نکاح نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ربیعہ تیرے منہ میں پتھر ہوں۔ اللہ ابو بکر کو باقی رکھے اور ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے دے۔ عاتکہ سے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں آخر کار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور ان کی جگہ حضرت عمر خلیفہ بنا دیئے گئے۔ پھر آپ نے عاتکہ کے پاس پیام بھیجا کہ تم نے اپنے نفس پر وہ چیز حرام فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال فرمائی تھی۔ لہذا مال مال والوں کو لوٹا دو اور نکاح کر لو۔ عاتکہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات مان لی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر پیام ڈالا اور ان سے نکاح کر لیا۔ پھر جب حضرت عمران کے دو لہا تھے تو ربیعہ نے حضرت عمر سے آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ! اسے خوش ہونے کا موقع نہ دے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی اور ربیعہ حضرت عمر کے دروازے پر جگہ قرط (بالیوں کا ٹوکرا) دیکھنے لگے۔

باخبار یزید بن ہارون، خنجر یحییٰ بن سعید از ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از عبداللہ بن عبداللہ بن عمر عاتکہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان کے روزے کی حالت میں بوسہ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع نہیں کیا۔ باخبار معن بن عیسٰی، متحد بیٹ مالک از یحییٰ بن سعید، عاتکہ اہلیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ لے لیا کرتی تھیں۔ جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روزہ ہوتا تھا۔ آپ انہیں منع نہیں فرمایا کرتے تھے۔

باخبار محمد بن عمر متحد بیٹ معمر از زہری از حمید بن عبدالرحمن بن عوف، عاتکہ زوجہ عمر، حضرت عمر سے مسجد میں جانے کی اجازت لے لیا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا کرتے تھے: تم کو معلوم ہے کہ میری خواہش یہی ہے کہ تم گھر ہی میں رہو۔ آپ جواب دیتیں: میں مسجد میں جانے کے لئے اجازت مانگنے کو چھوڑنے والی نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں مسجد میں جانے سے روکتے بھی نہ تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا ہے تو عاتکہ مسجد ہی میں تھیں۔

فاطمہ

آپ خطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرظ بن رزاح بن عدی بن کعب کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ ہیں۔ آپ کی والدہ حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہیں۔ فاطمہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کے نکاح میں تھیں۔ آپ مع اپنے شوہر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے جبکہ رسول اللہ ﷺ دار ارقم میں نہیں گئے تھے اسلام لا چکی تھیں۔ اس روایت میں فاطمہ ہی کا ذکر ہے لیکن نسب میں ہے کہ جس عورت سے سعید بن زید نے نکاح کیا تھا وہ ام جمیل بنت خطاب ہیں۔ واللہ اعلم۔

لیلیٰ

آپ ابو شحمہ بن حدیفہ بن عامر بن عبداللہ بن عبید بن عوث بن عدی بن کعب کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ ثوخ سے ام ولد ہیں اور عرب کے قیدیوں میں سے ہیں۔ آپ قدیم الاسلام ہیں اور بیعت شدہ ہیں اور حبشہ کی طرف دونوں ہجرتوں میں مع اپنے شوہر کے شریک ہیں۔ آپ کے شوہر عامر بن ربیعہ عنزی ہیں جو خطاب بن نفیل کے حلیف تھے۔ آپ سے عامر کی اولاد ہوئی اور عامر کی اولاد کے رشتے بنی عدی میں ہوئے۔

باخبار محمد بن عمر متحد بیٹ معمر از زہری از عبداللہ بن عامر بن ربیعہ: کوئی پردہ نشین خاتون مدینہ میں لیلیٰ سے پہلے نہیں آئیں۔ وہ ہجرت کر کے میرے ساتھ مدینہ آئیں۔

شفاء

آپ عبداللہ بن عبد شمس بن خلف بن صداد بن عبداللہ بن قرظ بن رزاح بن عدی بن کعب کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت وہب بن عمرو بن عاصم بن عمران بن مخزوم ہیں۔ شفاء ہجرت سے قبل شروع ہی میں اسلام لے آئی تھیں اور نبی ﷺ سے بیعت کر چکی تھیں۔ آپ سے ابو شحمہ بن حدیفہ نے نکاح کیا جن سے آپ کے سلیمان پیدا ہوئے اور مرزوق بن حدیفہ سے ابو حکیم پیدا ہوئے۔ آپ شریف تھے شفاء ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں۔

رملہ:

آپ ابو عوف بن صیرہ بن سعید بن سعد بن سہم کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ عبداللہ کی ماں ضرماء بنت حارث بن عوف بن عمرو بن ربیع بن ناضرہ بن غاضرہ بن حلیط راعی الشمس ہیں۔ رملہ قدیم الاسلام ہیں۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ سے بیعت کر لی تھی۔ آپ دوسری ہجرت کے زمانہ میں مکہ سے ہجرت کر کے اپنے شوہر مطلب بن ازہر بن عبد عوف بن عبد حارث بن زہرہ کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھیں جہاں ان کے عبداللہ بن مطلب پیدا ہوئے۔

ریطہ:

آپ منجہ بن حجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ شعمیہ ہیں۔ آپ سے عمرو بن العاص بن وائل سہمی نے نکاح کیا جن سے عبداللہ بن عمرو پیدا ہوئے۔

باخبا محمد بن عمر بن محمد بن ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سیرہ از موسیٰ بن عقبہ از ابو حبیہ مولیٰ زبیر از عبداللہ بن زبیر فتح مکہ کے دن ریطہ مسلمان ہوئیں آپ عبداللہ بن عمرو کی والدہ ہیں۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت بھی کی۔

زینب:

آپ عثمان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح کی صاحبزادی ہیں۔

باخبا راسما عیال بن عبداللہ بن ابی اویس بن محمد بن عبدالعزیز بن مطلب از عمر بن حسین از نافع عبداللہ بن عمر نے زینب کے والد کی وفات کے بعد زینب سے نکاح کیا۔ زینب کے چچا جان قدامہ نے زینب کا نکاح عبداللہ سے کرایا پھر مغیرہ بن شعبہ نے ان لوگوں کو مہر کے بارے میں رغبت دلائی تو بچی کی والدہ نے بچی سے کہا: تم نکاح کی اجازت نہ دینا۔ لہذا بچی نے نکاح مکروہ سمجھا اور بچی نے اور اس کی والدہ نے اس کی رسول اللہ ﷺ کو خبر کی۔ آپ ﷺ نے زینب کا نکاح رد کر دیا پھر زینب سے مغیرہ بن شعبہ نے نکاح کیا۔

محمد بن محمد بن حسن بن موسیٰ از ابن لہیعہ، محمد بن عبد الرحمن اعرج، جس عورت کو حالت حیض میں عبداللہ بن عمر نے عہد رسالت میں طلاق دی تھی وہ آمنہ بنت عفان تھیں۔

تومہ:

آپ امیہ بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمح کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ لیلیٰ بنت حبیب بن عمرو بن حارث تیمیہ براجمیہ ہیں۔ تومہ کی غیر برادری میں عاصم بن جعد فزاری سے شادی ہوئی۔ جن سے ان کے اولاد ہوئی۔ یہ دو بہنیں جڑواں پیدا ہوئی تھیں، اس لئے ان کا نام تومہ (جڑواں) پڑ گیا۔

باخبا محمد بن عمر بن محمد بن ابن جریج از عمرو بن دینار از عبداللہ بن سلمہ از سلیمان بن یسار، تومہ کو طلاق شدہ دے دی گئی پھر انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا آپ نے اسے ایک طلاق ٹھہرائی۔

سہلہ:

آپ سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وڈ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت عبد العزیٰ بن ابی قیس بن عبد وڈ ہیں۔ آپ مکہ میں شروع اسلام میں اسلام لائیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور اپنے شوہر ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس کے ساتھ حبشہ کی طرف دونوں ہجرتیں کیں۔ وہاں ان کے محمد بن ابی حذیفہ پیدا ہوئے۔ ابو حذیفہ کے بعد آپ سے عبد اللہ بن اسود بن جوآل مالک بن حسل میں سے ہیں شادی کی جن سے آپ کے سلیط بن عبد اللہ پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے شاخ بن سعید بن قائف بن اوقص بن مرہ بن ہلال بن فالج بن ذکوان بن ثعلبہ بن بیدہ بن سلیم بن منصور نے شادی کی جن سے آپ کے عامر بن شاخ پیدا ہوئے۔ پھر ان سے عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن عوف بن حارث بن زہرہ نے شادی کی جن سے آپ کے سالم بن عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ سہلہ نے سالم مولیٰ ابو حذیفہ کو بیٹا بنا لیا تھا اور سالم بالغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ آخر کار سہلہ کو نبی ﷺ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ اپنا پانچ گھونٹ دودھ سالم کو پلا دیں تاکہ رضاعت کی حرمت ثابت ہو جائے (ضرورت و مجبوری کے وقت ایسا بھی جائز ہے)۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابی سلمہ از زہری سہلہ نے نبی ﷺ سے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم سالم کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں وہ ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں۔ میں کام کاج کے کپڑوں میں ہوتی ہوں اور وہ مجھے اس حال میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا تم اسے اپنا پانچ گھونٹ دودھ پلا دو اب وہ بے کھلکے تمہارے پاس آتا جاتا رہے۔ زہری: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہی فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ مجھے سالم نے خبر دی کہ میں اُمّ کلثوم بنت ابوبکر کے پاس گیا کہ وہ مجھے اپنا پانچ گھونٹ دودھ پلا دیں تاکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ جا سکوں اور ان سے حدیثیں سن سکوں۔ پھر اُمّ کلثوم نے انہیں دو یا تین گھونٹ دودھ پلایا پھر وہ بیمار ہو گئیں اور رضاعت کے گھونٹ پورے نہ کر سکیں لہذا سالم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس نہ جا سکے۔

باخبار محمد بن عمر بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن زعمہ اپنی والدہ اُمّ سلمہ سے: اس سے امہات المؤمنین نے انکار کیا اور کہا کہ اس کی رسول اللہ ﷺ نے سہلہ ہی کو رخصت دی تھی۔

باخبار خالد بن خالد بن محمد بن عبد اللہ بن بلال از یحییٰ بن سعید بن عبد الرحمن: ابو حذیفہ کی اہلیہ نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا کہ سالم مولیٰ ابی حذیفہ میرے پاس آتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ انہیں اپنا دودھ پلا دو آخر کار انہوں نے سالم کو اپنا دودھ پلا دیا حالانکہ سالم بڑے تھے اور جنگ بدر میں شرکت کر چکے تھے۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عبد اللہ (زہری کے بھتیجے) اپنے والد سے سہلہ کسی شیشی یا برتن میں بقدر ایک گھونٹ کے اپنا دودھ نکال دیا کرتی تھیں اور سالم روزانہ اسے پی لیا کرتے تھے اس طرح پانچ دن پیتے رہے پھر سالم ان کے پاس آتے جاتے تھے حالانکہ وہ ننگے سر ہوتی تھیں۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے سہلہ کو رخصت دی گئی تھی۔

اُمّ کلثوم:

آپ سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وڈ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ فاطمہ

بت عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصی ہیں۔ آپ قدیم الاسلام ہیں اور نبی ﷺ سے بیعت شدہ ہیں۔ آپ دوسری ہجرت کے زمانہ میں اپنے شوہر ابوسبرہ بن ابی رہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عدوہ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلی گئی تھیں جہاں اُمّ کلثوم کے ابوسبرہ سے محمد اور عبداللہ پیدا ہوئے۔

فاطمہ:

آپ کی کنیت اُمّ جمیل ہے۔ آپ بجلل بن عبد بن ابی قیس بن عدوہ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ اُمّ حبیب بنت عاص بن امیہ بن عبد شمس ہیں اور ابو اُحجہ سعید بن عاص بن امیہ کی بہن ہیں۔ آپ قدیم الاسلام اور بیعت شدہ ہیں اور اپنے شوہر حاطب بن حارث بن معمر بن حبیب نجی کے ساتھ دوسری ہجرت کے زمانہ میں ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں اس وقت ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے محمد اور حارث بھی تھے۔

فاطمہ:

آپ اُمّ قحطم بنت علقمہ بن عبداللہ بن ابی قیس بن عدوہ ہیں اور آپ کی والدہ عاتکہ بنت اسعد بن عامر بن براء بن شیح بن بھشمہ بن سعد بن سلیم خزاعیہ ہیں۔ آپ بھی قدیم الاسلام اور بیعت شدہ ہیں اور دوسری ہجرت کے زمانہ میں اپنے شوہر سلیط بن عمرو بن عبد شمس بن عدوہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں جہاں آپ کے سلیط بن سلیط پیدا ہوئے۔

عمیرہ:

آپ سعدی کی بیٹی ہیں سعدی کا نام عمرو بن وقدان بن عبد شمس بن عدوہ ہے۔ آپ بھی قدیم الاسلام اور بیعت شدہ ہیں۔ اور دوسری ہجرت کے زمانہ میں اپنے شوہر مالک بن زعمہ بن قیس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں۔ مالک بن زعمہ ام المومنین حضرت سودہ بنت زعمہ کے سگے بھائی ہیں۔

فاطمہ:

آپ قیس کی بیٹی اور سخاک بن قیس بن خالد اکبر بن وہب بن ثعلبہ بن واثلہ بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فہر کی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ امیمہ بنت ربیعہ بن حذیم بن عامر بن مبذول بن احمر بن حارث بن عبد مناة بن کنانہ ہیں۔ فاطمہ ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم کے عقد میں تھیں ابو عمرو نے ان کو طلاق دے دی پھر ان پر معاویہ بن سفیان بن حرب نے اور ابو جہم بن حذیفہ بن غانم عدوی نے پیام ڈالا آپ نے ان دونوں کے بارے میں نبی ﷺ سے مشورہ کیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: معاویہ نادار ہیں ان کے پاس کچھ نہیں اور ابو جہم کے کندھے پر ہر وقت لٹھ رہتا ہے۔ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ چنانچہ فاطمہ نے اسامہ سے نکاح کر لیا۔ فرماتی ہیں اس نکاح سے مجھ پر رشک کیا گیا۔

باخبار معن بن عیسیٰ از مالک بن انس از عبداللہ بن یزید مولیٰ اسود بن سفیان از ابوسلمہ بن عبدالرحمن از فاطمہ بنت قیس ابو عمرو بن حفص نے مجھے طلاق دے دی اور غائب تھے ان کے وکیل نے مجھے کچھ جو بھیجے میں ان پر ناراض ہوئی۔ بولے: اللہ کی قسم! اب ہم پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: اب تمہارا نان و نفقہ ان

کے ذمہ نہیں اور مجھے حکم دیا کہ اُم شریک کے گھر عدت گزاروں۔ پھر فرمایا: اُم شریک کے پاس میرے صحابہ آتے جاتے ہیں تم اُم کلثوم کے گھر عدت گزارو کیونکہ وہ نابینا ہیں۔ تم اپنا دوپٹہ بھی اتار سکتی ہو۔ پھر جب حلال ہو جاؤ تو مجھے خبر کر دینا۔ فرماتی ہیں پھر جب میری عدت گزر گئی تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ معاویہ کا اور ابو جہم کا پیام آیا ہے۔ فرمایا: ابو جہم کا لٹھ کندھے پر رہتا ہے اور معاویہ نادار ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تم اسامہ سے نکاح کر لو مجھے یہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا: اسامہ ہی سے نکاح کر لو! آخر کار میں نے ان سے نکاح کر لیا اور اللہ نے ان میں میرے لئے خیر و فلاح عطا فرمائی اور اس نکاح سے مجھ پر رشک کیا گیا۔

باخباہر عبید اللہ بن موسیٰ، متحد ریث موسیٰ بن عبیدہ از یعقوب بن زید و عبد اللہ بن عبیدہ: فاطمہ، ضحاک کی ہمیشہ ابو عمرو بن حفص کے نکاح میں تھیں انہوں نے فاطمہ کو طلاق بتدے دی۔ ان کے وکیل عیاش بن ابی ربیعہ تھے فاطمہ نے نان و نفقہ کے مطالبہ کے لئے ان کے پاس آدمی بھیجا۔

باخباہر عبد اللہ بن ادریس، متحد ریث محمد بن عمرو از ابوسلمہ: میرے پاس فاطمہ آئیں بولیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس نان و نفقہ کے لئے گئی تھی آپ نے فرمایا: فاطمہ! رجعی طلاق میں نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ تم اُم شریک کے گھر منتقل ہو جاؤ اور ہمیں اپنے سے نہ کھونا۔ پھر فرمایا: ام شریک کے پاس ان کے مہاجر بھائی آتے جاتے ہیں۔ تم ابن ام مکتوم کے گھر منتقل ہو جاؤ وہ نابینا ہیں۔ پھر جب فاطمہ کی عدت پوری ہو گئی تو ان پر معاویہ ابو جہم اور اسامہ نے پیام ڈالا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: معاویہ نادار ہیں ان کے پاس مال نہیں اور ابو جہم کا لٹھ کندھے پر رہتا ہے۔ اسامہ کو کیوں بھول رہی ہو؟ اسامہ کا رشتہ گھر والوں کو پسند نہ تھا لیکن فاطمہ نے کہا: میں تو اسی سے نکاح کروں گی جس سے رسول اللہ ﷺ نے نکاح کرنے کو فرمایا ہے۔

باخباہر یعلیٰ بن عبید، متحد ریث محمد بن عمرو از ابوسلمہ از فاطمہ: میں ایک مخزومی شخص کے نکاح میں تھی۔ اس نے مجھے طلاق بتدے دی میں نے اس کے گھر والوں کے پاس آدمی بھیج کر نان و نفقہ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا: اب تمہارا خرچہ ہم پر نہیں رہا (آگے حدیث عبد اللہ کے ہم معنی حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے) اُم شریک کے پاس پہلے مہاجرین میں سے ان کے بھائی آتے جاتے ہیں (اور ابن ام مکتوم کے بارے میں یہ ہے) وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کی بیٹائی نہیں اگر تم اپنا کوئی کپڑا اتارو گی تو وہ تمہارا کچھ بھی نہ دیکھیں گے (اور پیام دینے والوں میں اسامہ کا ذکر نہیں ہے)۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا: پھر تم اسامہ کو کیوں بھول گئے؟ (اور اخیر میں ہے) پھر انہوں نے اسامہ سے نکاح کر لیا۔

باخباہر فضل بن وکیع، متحد ریث سعید بن زید از حمسی، متحد ریث شععی، متحد ریث فاطمہ بنت قیس: میں فلاں بن مغیرہ یا مغیرہ بن فلاں مخزومی کے نکاح میں تھی انہوں نے ایک لڑائی کی جو بین والوں سے لڑی تھی راہ سے مجھے طلاق کہلا بھیجی۔ میں نے ان کے گھر والوں سے نان و نفقہ اور مکان کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ انہوں نے ہمارے پاس ان میں سے کچھ نہیں بھیجا۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہا کہ میں آل خالد کی بیٹی ہوں اور میرے شوہر نے مجھے طلاق کہلا کر بھیجی ہے۔ جب میں نے ان کے آدمیوں سے نان و نفقہ وغیرہ کا سوال کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے آدمیوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! انہوں نے تین طلاق کہلا کر بھیجی ہیں۔ فرمایا: نان و نفقہ طلاق رجعی میں ہوتا ہے۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار محمد بن عمرو از ابو سلمہ از فاطمہ بنت قیس: (فاطمہ نے ابو سلمہ سے بیان کیا اور ابو سلمہ نے فاطمہ کا بیان لکھا بھی) میں ایک شخص قرشی مخزومی کے نکاح میں تھی اس نے مجھے طلاق بتہ دے دی پھر جب میری عدت گزر گئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا کہ مجھ پر معاویہ اور ابو جہم نے پیام ڈالا ہے۔ فرمایا معاویہ کے پاس تو مال نہیں اور ابو جہم کا لٹھ اس کے کندھے سے اترتا نہیں۔ تم اسامہ کو کیوں بھول گئے؟ ان کے گھر والوں کو اسامہ سے رشتہ ناپسند تھا لیکن انہوں نے کہا میں تو وہیں نکاح کروں گی جہاں رسول اللہ ﷺ کی مرضی ہے۔ پھر انہوں نے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار زکریا از عامر از فاطمہ: مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دے دیں۔ پھر مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم کیا کہ میں ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزاروں اور آپ نے مجھے خرچ نہیں دلوایا۔

باخبار یعلیٰ بن عبید، محمد بن عمرو و محمد بن محمد بن ابراہیم: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: فاطمہ اللہ سے ڈرجا کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ کس چیز میں یہ تھا؟



حرب کی مسلمان، مہاجر، بیعت شدہ اور اجنبی خواتین اسلام کے

اسمائے گرامی

اُمّ رومان:

آپ عامر بن عویمیر بن عبد شمس بن عتاب بن اذینہ بن سلجج بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ کی صاحبزادی ہیں۔ محمد بن سعد بعض کو میں نے ان کا دوسرا نسب بیان کرتے ہوئے سنا وہ کہتے ہیں اُمّ رومان بنت عامر بن عمیرہ بن ذہل بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ ہیں۔

ام رومان، حارث بن سحرہ بن جرثومہ بن عادیہ بن مرہ بن جسم بن اوس بن عامر بن ہفیر بن نمر بن عثمان بن نصر بن زہران بن کعب ازدی کے نکاح میں تھیں، جن سے ان کے طفیل پیدا ہوئے، حارث معاً اپنی بیوی ام رومان کے اور اپنے بچہ طفیل کے سرہ سے مکہ آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے حلیف بنے پھر حارث مکہ میں فوت ہو گئے اور اُمّ رومان قدیم الاسلام ہیں۔ مکہ میں آپ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ رسول اللہ ﷺ کی اہل و عیال کے اور ابو بکر کے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں جب ان سب کو مدینہ بلاوایا گیا۔

اُمّ رومان نیک و صالحہ خاتون تھیں آپ نے عہد رسالت میں مدینہ میں ذی الحج ۶ھ میں وفات پائی۔

باخبار یزید بن ہارون و عفان بن مسلم، تحدیث حماد بن سلمہ از علی بن زید از قاسم بن محمد: جب ام رومان قبر میں اتاری گئیں تو نبی ﷺ نے فرمایا: جسے حورین میں سے کسی حور کو دیکھنا پسند ہو تو وہ اُمّ رومان کو دیکھ لے۔ حدیث عفان میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ ان کی قبر میں اترے۔

اُمّ الفضل:

آپ ہی کو لبابہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ آپ حارث بن حزن بن نجیر بن ہزم بن رویبہ بن عبد اللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن مضر کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ ہند خولہ بنت عوف بن زہیر بن حارث بن حنظلہ بن ذی حلیل جرشی ہیں ان کا نسب حمیر تک پہنچتا ہے اور خولہ کی والدہ عائشہ بنت مخرم بن کعب بن مالک بن قافحعی ہیں۔ مکہ میں حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلی خاتون اسلام اُمّ الفضل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ آپ کے گھر آتے جاتے رہتے تھے اور آپ ہی کے گھر میں دو پہر کو سویا کرتے تھے۔ اُمّ الفضل کی بہنوں میں اُمّ المومنین حضرت میمونہ سگی بہن ہیں اور لبابہ صغریٰ یعنی عصماء حضرت خالد کی والدہ علاقہ بنی ہیں اور خزہ بھی علاقہ بنی ہیں اور ہزلیہ بھی اُمّ الفضل کا

عقد حضرت عباس بن عبدالمطلب سے ہوا جن سے فضل، عبداللہ، عبیداللہ، معبد، قثم، عبدالرحمن اور ام حبیب کل سات بچے پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن یزید علی کہتا ہے۔

ما ولدت نجیۃً من فحلٍ کستۃ من بطن ام الفضل
اکربھا من کھلۃ و کھل

”کسی جوان سے کسی شریف عورت کے ام الفضل کے چھ بیٹوں کی طرح بیٹے پیدا نہیں ہوئے، یہ بوڑھے مرد و عورتیں کتنے معزز ہیں۔“

باخبار محمد بن عمر باخبار اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ از ابراہیم بن عقبہ از کریب: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (جبکہ میمونہ، ام الفضل، ان کی بہن لباہ صغریٰ، ہزلیہ، عذہ، اسماء، سلمیٰ بنات عیسیٰ کا ذکر کیا گیا) بلاشبہ یہ تمام بہنیں مومنہ ہیں۔

باخبار محمد بن عمر از ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سبرہ از عبدالمجید بن سہیل از عمرہ از ابن عباس: مجھے اپنی والدہ سے محبت ہے آپ ہر پیر و جمعرات کا روزہ رکھا کرتی تھیں۔ محمد بن عمر: حضرت عباس کے اسلام لانے کے بعد ام الفضل ہجرت کر کے مدینہ گئیں۔ رسول اللہ ﷺ ان کے گھر کثرت سے آتے جاتے تھے۔

باخبار عبداللہ بن نمیر از اناج بسماع زید بن علی بن حسین: رسول اللہ ﷺ نے بجز ام الفضل کے کسی عورت کی گود میں سر نہیں رکھا اور نہ ایسا کرنا آپ کے لئے حلال تھا۔ ام الفضل آپ کے جویں دیکھا کرتی تھیں اور سرمہ لگایا کرتی تھیں۔ جویں دیکھتے دیکھتے ام الفضل کی آنکھ سے ایک آنسو نپک پڑا اور آپ کے رخساروں پر گرا۔ آپ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پوچھا: کیا بات ہے؟ بولیں: اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی وفات کی خبر دے دی۔ کاش آپ ہمیں وصیت فرما جاتے کہ آپ کے بعد خلافت کس کے پاس رہے گی۔ ہمارے پاس یا کسی دوسرے کے پاس۔ آپ نے فرمایا: تم میرے بعد کمزور و مغلوب کر دیئے جاؤ گے۔

باخبار عبداللہ بن بکر بن حبیب سہمی، متحد بیث حاتم بن ابی صغیرہ از سماک بن حرب از ام الفضل: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے خواب میں دیکھا گویا آپ کا ایک عضو اڑ کر میرے گھر میں آ گیا۔ فرمایا: تم نے اچھا خواب دیکھا۔ فاطمہ کے بیٹا ہوگا اور تم اپنے بیٹے قثم کا دودھ اسے پلاؤ گی۔ پھر حضرت فاطمہ کے حسین پیدا ہوئے اور ام الفضل حسین کی کفیل بنی۔ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں حسین کو آپ کے پاس لائی۔ آپ ﷺ انہیں پونچھ پانچھ کر ان کے بوسے لینے لگے۔ اتنے میں حسین نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ فرمایا: ام الفضل! میرا بیٹا مجھ سے لے لو اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا۔ فرماتی ہیں میں نے حسین کو لے لیا اور ان کے ایسی چنگی بھری کہ وہ رونے لگے اور آپ میں نے کہا: تم نے رسول اللہ ﷺ کو ایذا پہنچائی اور آپ کے اوپر پیشاب کر دیا۔ پھر جب بچہ رونے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ام الفضل! تم نے میرے بیٹے کو لاکر مجھے ایذا پہنچائی۔ پھر آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا اور فرمایا: اگر بچہ ہو تو پیشاب پر پانی چھڑک دو اور اگر بچی ہو تو دھو ڈالو۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ متحد بیث اسراہیل از سماک از قابوس بن مخارق: ام الفضل نے خواب میں دیکھا گویا رسول اللہ ﷺ کے جسم کا ایک حصہ ان کے گھر میں ہے۔ پھر انہوں نے اپنا خواب رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان

شاء اللہ یہ خواب اچھا ہے۔ فاطمہ کے بیٹا ہوگا اور تم اسے اپنے پیٹے قسم کا دودھ پلاؤ گی۔ پھر فاطمہ جن اللہ کے حسین پیدا ہوئے اور فاطمہ نے مجھے حسین کو دیا اور میں انہیں دودھ پلاتی رہی حتیٰ کہ حسین حرکت کرنے لگے اور ایک دن میں انہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لائی اور آپ کی گود میں بٹھا دیا۔ حسین نے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا۔ میں نے حسین کے کندھوں کے درمیان ہاتھ مارا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تمہاری اصلاح کرے یا تم پر رحم فرمائے۔ تم نے میرے پیٹے کو تکلیف پہنچائی۔ میں نے کہا: آپ مجھے اپنا تہبند اُتار کر دے دیجئے اور دوسرا کپڑا باندھ لیجئے تاکہ میں اسے دھو دوں۔ فرمایا: لڑکے کے پیشاب میں صرف پانی چھڑکا جاتا ہے اور لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے۔

باخبر خالد بن مخلد، محمد بن عبد اللہ بن عمر از سالم ابو النضر از ام الفضل بنت حارث: میں نے عرفہ کے دن نبی ﷺ کے پاس ایک پیالہ میں دودھ بھیجا۔ آپ اپنے اونٹ پر کھڑے تھے پھر آپ نے وہ دودھ پی لیا۔
لبابہ بر صغریٰ:

آپ عصماء بنت حارث بن حزن بن بحیر بن ہزم بن رویہ بن عبید اللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ ہیں اور آپ کی والدہ فاخنتہ بنت عامر بن معتب بن مالک ثقفی ہیں آپ کی شادی ولید بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم سے مکہ میں ہوئی جن سے آپ کے خالد بن ولید، سیف اللہ پیدا ہوئے پھر آپ ہجرت کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئیں اور آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ہزبیلہ:

آپ بھی حارث بن حزن کی بیٹی ہیں آپ نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عرزہ:

آپ بھی حارث بن حزن کی بیٹی ہیں۔ آپ سے عبد اللہ بن مالک بن ہزم بن رویہ نے شادی کی جن سے آپ کے زیاد و عبد الرحمن اور برزہ تین بچے پیدا ہوئے اور برزہ کی شادی اصم بکائی سے ہوئی جن سے برزہ کے یزید بن اصم، عبد اللہ بن عباس کے شاگرد پیدا ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ برزہ ام یزید بن اصم عرزہ بنت حارث کی علاقائی بہن ہیں اور ان کی والدہ عامرہ بن معتب ثقفی کی بیٹی ہیں اور عرزہ بنو کلاب کے ایک شخص کے نکاح میں تھیں جن سے ان کے اولاد ہوئی۔

اسماء:

آپ عمیس بن معد بن تیم بن حارث بن کعب بن مالک بن قافہ بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن معاویہ بن زید بن مالک بن نسر بن وہب اللہ بن شہران بن عفرس بن اقل کی جو ثعم کی جڑ ہیں صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ ہند یعنی خولہ بنت عوف بن زہیر بن حارث بن حنظلہ (جو جرش سے ہیں) ہیں۔

باخبر محمد بن عمر، محمد بن صالح بن یزید بن رومان: اسماء بنت عمیس رسول اللہ ﷺ کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل مکہ میں مسلمان ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئیں

جہاں آپ کے عبداللہ محمد اور عون پیدا ہوئے۔ پھر جعفر جمادی الاولیٰ ۸ھ میں جنگ موتہ میں شہید ہو گئے۔
 باخبا عبد اللہ بن زبیر حمیدی، متحد بیٹ سفیان، متحد بیٹ اسماعیل از شعی (اور ابو حمزہ اسے مندلایے ہیں): جب اسماء حبشہ سے آئیں تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے حبش! ہم ہجرت میں تم سے پہلے کر گئے۔ بولیں: ہاں! اللہ کی قسم تم ٹھیک کہتے ہو تم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور جاہلوں کو تقسیم دیتے تھے اور ہم بہت دور لٹاڑے ہوئے تھے۔ دیکھو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کو اس بات کی ضرور خبر کروں گی۔ چنانچہ آپ نے نبی ﷺ کے پاس آ کر آپ سے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا: ہماری ایک ہجرت ہے اور تمہاری دو ہجرتیں ہیں۔ سفیان: حدیث ابو حمزہ میں ”اے حبش“ ہے حدیث اسلیعل میں نہیں۔

باخبا محمد بن عبیدطنافسی وفضل بن دکین: متحد بیٹ زکریا بن ابی زائدہ از عامر: اسماء نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! لوگ ہم پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سابق مہاجرین میں شامل نہیں۔ فرمایا: بلکہ تمہاری دو ہجرتیں ہیں۔ تم لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ اور ہم مکہ میں گھرے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد بھی تم نے ہجرت کی۔ عامر کہتے ہیں: یہ لوگ خیبر کے زمانہ میں حبشہ سے آئے تھے۔

باخبا عبد اللہ بن نمیر از صالح از عامر: اسماء نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! لوگوں کا گمان ہے کہ ہم مہاجر نہیں۔ فرمایا: جو ایسا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ تمہاری دہری ہجرت ہے۔ تم ہجرت کر کے نجاشی کے پاس گئے پھر دوسری بار ہجرت کر کے میرے پاس آئے۔

باخبا عبد اللہ بن نمیر: متحد بیٹ اسلیعل از عامر: سب سے پہلے (مردہ) عورت کی نعش بنانے کا جس نے اشارہ کیا وہ اسماء ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حبشہ میں عیسائی ایسا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مدینہ میں آ کر لوگوں کو اس سے آگاہ کیا اور نعش تیار کی جانے لگی۔

باخبا محمد بن عمر: متحد بیٹ مالک بن ابی الرجال از عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از ام عیسیٰ بنت جزار از ام جعفر بنت محمد بن جعفر اپنی دادی اسماء سے: جس دن جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے ہیں اس دن میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ میں چالیس کھالوں کو دباغت دے چکی تھی۔ آنا گوندھ چکی تھی اور بچوں کو نہلا دھلا رہی تھی اور ان کے تیل رگا رہی تھی۔ کہ آپ تشریف لے آئے اور فرمایا: اسماء! جعفر کے بیٹے کہاں ہیں؟ میں انہیں آپ کے پاس لے آئی۔ آپ نے انہیں چمپایا اور سوگھا۔ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے اور آپ رونے لگے۔ میں بولی: یا رسول اللہ ﷺ! شاید آپ کو جعفر کی کچھ خبر ملی ہے؟ فرمایا: ہاں وہ آج شہید کر دیئے گئے۔ فرماتی ہیں: میں چیختی لگی اور میرے پاس عورتیں جمع ہو گئیں۔ رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے: اسماء! بے ہودہ کلام نہ کرو (زبان سے بری باتیں نہ نکالو) اور نہ سینہ چپڑو۔ پھر رسول اللہ ﷺ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ بھی فرما رہی تھیں: ہائے میرے چچا جان رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہئے۔ پھر آپ نے فرمایا: آل جعفر کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ وہ آج اپنے نفوس سے مشغول ہیں۔

باخبار عقان بن مسلم و اسحق بن منصور، محمد بن طلحہ، بسام حکم بن عیینہ از عبد اللہ بن شداد بن الہاد از اسماء: جب جعفر شہید ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: تین (حیض یا طہر) پورے کر لو پھر جو چاہو کرو۔ محمد بن عمر: پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسماء سے شادی کر لی اور ان سے آپ کے محمد پیدا ہوئے۔ پھر اسماء کو چھوڑ کر ابو بکر بھی فوت ہو گئے۔

باخبار عبد اللہ بن نمیر از یحییٰ بن سعید از سعید بن مسیب: اسماء کے محمد بن ابی بکر ذوالخلیفہ میں پیدا ہوئے۔ جب لوگ حجۃ الوداع کا ارادہ کر رہے تھے پھر حضرت ابو بکر نے اسماء کو حکم دیا کہ غسل کر کے حج کا احرام باندھ لیں۔

باخبار وکیع بن جراح و فضل بن دیکین، محمد یث سفیان از عبد الکریم از سعید بن مسیب: اسماء کے محمد ذوالخلیفہ میں پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے انہیں مدینہ واپس بھیجے کا قصر کیا اور رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ پوچھا۔ فرمایا: انہیں حکم کرو کہ غسل کر کے احرام باندھ لیں۔

باخبار کثیر بن ہشام، محمد یث فرات بن سلمان از عبد الکریم از سعید بن مسیب: اسماء کو نفاس کی حالت میں احرام باندھنے کا حکم دیا گیا۔

باخبار اسماعیل بن عبد اللہ بن ابی اویس، محمد یث مالک بن انس از عبد الرحمن بن قاسم از قاسم از اسماء: میرے محمد بیداء میں پیدا ہوئے اس کا ذکر ابو بکر نے رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینا چاہئے۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری، محمد یث ابن جریج، جعفر بن محمد از جابر: جب نبی ﷺ ذوالخلیفہ میں آئے تو وہاں نماز پڑھی۔ پھر اسماء کے محمد پیدا ہوئے آپ نے نبی ﷺ سے مسئلہ معلوم کرایا۔ فرمایا: کپڑے سے لنگوٹ کس لیں پھر غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ باخبار یزید بن ہارون باخبار اسماعیل بن ابی خالد از قیس بن ابی حازم میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس گیا۔ حضرت ابو بکر ہلکے ہلکے اور گورے چٹے تھے۔ میں نے اسماء کے دونوں ہاتھ گدے ہوئے دیکھے (عفان نے خالد وغیرہ سے زیادہ کیا) اور اسماء ابو بکر سے کھیاں جل رہی تھیں۔

باخبار وکیع بن جراح، از شعبہ از سعد بن ابراہیم: ابو بکر نے وصیت کی کہ انہیں ان کی اہلیہ اسماء غسل دیں۔

باخبار وکیع بن جراح از ابن ابی ملیکہ: ہم غسل۔

باخبار وکیع بن جراح و فضل بن دیکین از سفیان از ابراہیم بن مہاجر از ابراہیم: ابو بکر کو ان کی بیوی اسماء نے غسل دیا۔

باخبار عمرو بن حاصم کلانی، محمد یث ہمام از قتادہ: ہم غسل۔

باخبار عبد اللہ بن نمیر از سعید از قتادہ از حسن: ابو بکر نے وصیت کی کہ انہیں اسماء غسل دیں۔

باخبار عبد اللہ بن نمیر، محمد یث اسماعیل بن ابی خالد از سعید بن ابی بردہ از ابو بکر بن حفص: حضرت ابو بکر نے اسماء کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے تم ہی غسل دینا اور انہیں قسم دلائی کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ کیونکہ قوی رہیں گی پھر انہیں آپ کی قسم آخر دن میں یاد آئی اور پانی منگا کر پی لیا اور فرمایا: اللہ کی قسم آج میں ایسا نہ کروں گی۔ کہ ابو بکر کی قسم ٹوٹے۔

باخبار معاذ بن معاذ عنبری و محمد بن عبد اللہ انصاری، محمد یث اشعث از عبد الواحد بن سہرہ از قاسم بن محمد: ابو بکر صدیق

جنی اللہؓ نے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی اسماء نہلائیں۔ اگر نہلا نا ان کے بس کا نہ ہو تو ان کی اعانت آپ کا بیٹا محمد کرے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں: یہ سہو ہے۔

باخبار ابن جریج از عطاء ابو بکر نے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی اسماء نہلائیں۔ اگر نہلا نا اس کے بس کا نہ ہو تو عبدالرحمن بن ابی بکر سے مدد لیں۔ محمد بن عمر کہتے ہیں: یہ صحیح ہے کیونکہ اسماء کا بیٹا محمد جو حجۃ الوداع کے موقعہ پر ذوالحلیفہ میں ۱۰ھ میں پیدا ہوا تھا۔ کس طرح نہلانے میں اپنی ماں کی مدد کر سکتا ہے کیونکہ ابو بکر کی وفات کے دن محمد کی عمر تقریباً تین سال کی تھی۔

باخبار معن بن عیسیٰ بن محمد یث ابو معشر از ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ: ابو بکر کو اسماء نے نہلایا۔

باخبار معن بن عیسیٰ بن محمد یث مالک بن انس از عبداللہ بن ابی بکر: اسماء اہلیہ ابو بکر صدیق نے غسل دیا۔ جب وہ فوت ہوئے پھر آپ نے تمام موجودہ مہاجرین سے پوچھا کہ میرا روزہ ہے اور آج سخت ٹھنڈا دن ہے۔ کیا مجھ پر غسل واجب ہے؟ بولے: نہیں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد یث عبداللہ بن جعفر از ابو سعید دربان سلیمان از عطاء: اسماء نے ابو بکر کو ٹھنڈی صبح کے وقت غسل دیا۔ پھر عثمان جنی اللہؓ سے پوچھا: کیا مجھ پر غسل ہے؟ فرمایا: نہیں۔ عمر جنی اللہؓ یہ جواب سن رہے تھے اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ باخبار احمد بن عبداللہ بن یونس بن محمد یث زہیر از ابوالفتح از مصعب بن سعد: عمر جنی اللہؓ نے وظائف مقرر کئے اور اسماء کے ہزار درہم مقرر فرمائے۔

محمد بن عمر: پھر اسماء بنت عمیس سے حضرت علی جنی اللہؓ نے نکاح کر لیا جن سے آپ کے بیٹے اور عوان پیدا ہوئے۔ باخبار فضل بن دکین بن محمد یث زکریا بن ابی زائدہ بسام عامر: حضرت علی جنی اللہؓ نے اسماء سے نکاح کیا۔ پھر محمد بن جعفر اور محمد بن ابی بکر نے ایک دوسرے پر فخر کیا اور ہر ایک نے کہا: میں تم سے زیادہ معزز ہوں اور میرے والد تمہارے والد سے بہتر ہیں۔ حضرت علی جنی اللہؓ نے اسماء سے کہا: تم ان میں فیصلہ کرو۔ بولیں: میں نے جعفر سے بہتر عرب میں کوئی جوان نہیں دیکھا اور ابو بکر سے بہتر کوئی ادھیڑ عمر کا نہیں دیکھا۔ حضرت علی جنی اللہؓ نے کہا: تم نے ہمارے لئے کچھ نہیں چھوڑا۔ اگر تم اس فیصلہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرتیں تو میں تم پر ناراض ہوتا۔ اسماء نے کہا: تینوں جن میں تم سب سے نیچے کے ہو بہتر ہیں۔

باخبار عبداللہ بن زبیر حمیدی بن محمد یث سفیان بن عیینہ از اسماعیل از قیس: حضرت علی جنی اللہؓ نے فرمایا: تم سے دانت پینے والی عورتوں نے جھوٹ بولا اور بجز اسماء کے کوئی ثابت نہیں رہی۔

سلمیٰ

آپ عمیس بن معد بن تمیم بن حارث بن کعب بن مالک بن قافہ بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن معاویہ بن زید بن مالک بن نسر بن وہب اللہ بن شہران بن عفرس بن اہل کی جو خشم کی جڑ ہیں بیٹی ہیں آپ کی والدہ ہند یعنی خولہ بنت عوف بن زہیر بن حارث بن حماط بن جرش ہیں۔ آپ شروع اسلام میں اپنی بہن اسماء کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوئیں اور آپ سے حمزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم نے نکاح کیا جن سے آپ کے عمارہ پیدا ہوئیں۔ عمارہ ہی مکہ میں تھیں جن کو حضرت علی جنی اللہؓ نے وہاں سے

عمرۃ القضاء کے ساتھ نکالا اور انہیں کے بارے میں علی زید اور جعفر میں جھگڑا ہوا تھا اور ہر شخص نے ان کو اپنے پاس رکھنا چاہا تھا لیکن رسول اللہ ﷺ نے جعفر کے حق میں فیصلہ کیا۔ کیونکہ ان کی خالہ اسماء جعفر کے نکاح میں تھیں۔ اور نبی ﷺ نے فرمایا: کسی عورت کا اپنی پھوپھی پر اور اپنی خالہ پر نکاح نہیں کیا جاتا یعنی پھوپھی جنتی کا اور خالہ بھانجی کا ایک نکاح میں حج کرنا حرام ہے۔ حضرت حمزہ جنگ اُحد میں شہید ہو گئے تھے۔ لہذا سلمی بیوہ ہو گئیں پھر ان سے نکاح شداد بن الہادیشی نے کیا۔ جن سے عبد اللہ بن شداد پیدا ہوئے۔ عبد اللہ عمارہ کے اخیانی بھائی ہیں اور ام الفضل سے عباس کی اولاد کے خالہ کے بیٹے ہیں اور خالد بن ولید کے خالہ کے بیٹے ہیں۔

ہمیدہ:

آپ خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سلج بن جعشم بن سعد بن لیح بن عمرو خزاعی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ مکہ میں قدیم الاسلام ہیں اور دوسری ہجرت کے زمانہ میں اپنے شوہر خالد بن سعید بن عاص بن امیہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں۔ وہیں آپ کے سعید بن خالد اور امت بنت خالد پیدا ہوئیں۔ پھر امت کی شادی زبیر بن عوام سے ہوئی جن سے عمرو اور خالد پیدا ہوئے۔

حرمہ:

آپ عبد بن اسود بن جذیمہ بن اقیس بن عامر بن بیاضہ بن سلج بن جعشم بن سعد بن لیح بن عمرو خزاعی کی لڑکی ہیں۔ آپ مکہ میں قدیم الاسلام ہیں اور بیعت شدہ ہیں اور دوسری ہجرت کے زمانہ میں اپنے شوہر جم بن قیس بن شریل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں پھر حرمہ حبشہ میں فوت ہو گئیں۔ وہاں آپ کے حرمہ عبد اللہ اور عمرو پیدا ہوئے۔ حرمہ کو ام حرمہ بھی کہا جاتا ہے ان کی والدہ عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی کی لونڈی تھیں۔

فاطمہ:

آپ صفوان بن محرز بن خمل بن شق کی صاحبزادی ہیں۔ آپ بھی مکہ میں قدیم الاسلام اور بیعت شدہ ہیں۔ دوسری ہجرت کے زمانہ میں اپنے شوہر عمرو بن سعید بن عاص بن امیہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں۔

حسنہ:

آپ شریل بن حسنہ کی والدہ ہیں اور حسنہ عبد اللہ بن مطاع بن عمرو کندی کے بیٹے ہیں۔ آپ بھی مکہ میں قدیم الاسلام اور بیعت شدہ ہیں اور دوسری ہجرت کے زمانہ میں اپنے بیٹے شریل کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں۔

خریقہ:

آپ حصین بن عبید بن خلف بن عبد نهم بن جریبہ بن جہمہ بن غاضرہ بن حبشہ بن کعب بن عمرو خزاعی کی صاحبزادی ہیں آپ نے مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور آپ سے روایت بھی کرتی ہیں۔

سبیعہ:

آپ خاتہ اسمیہ کی صاحبزادی ہیں اور سعد بن خولہ کے عقد میں تھیں پھر بیوہ ہو گئیں۔
باخبا ر معن بن عیسیٰ، محمد بن مالک بن انس از ہشام بن عروہ از عروہ از مسور بن مخرمہ: سبیعہ اسمیہ کے ان کے شوہر کی وفات کے چند ایام کے بعد بچہ پیدا ہو گیا پھر آپ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر آپ سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ پھر آپ نے نکاح کر لیا۔

باخبا ر قبیصہ بن عقبہ بن سفیان از ابو بکر بن عبداللہ بن ابی جہم از عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ: ابوالسائل بن بعلک نے سبیعہ پر طعن کیا انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھ لیا تھا اور آپ نے مجھے نکاح کرنے کی اجازت دے دی تھی۔
باخبا ر موسیٰ بن اسمعیل بن محمد بن ابان بن یزید بن محمد بن یحییٰ بن ابی کثیر از ابوسلمہ بن عبدالرحمن (سبیعہ اسمیہ والی حدیث میں ابوسلمہ اور ابن عباس میں اختلاف کے وقت) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام کرب کو حکم فرمایا کہ ام سلمیٰ سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ آ۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ سبیعہ کے ان کے شوہر کی وفات کے بیس دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے انہیں نکاح کرنے کا حکم دے دیا اور ان پر پیام ڈالنے والوں میں ابوالسائل بھی تھے۔

ام معبد:

آپ عائکہ بنت خالد بن خلیف بن معقد بن ربیعہ بن اصرم بن ضمیس بن حرام بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو خزاعی ہیں۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی تمیم بن عبدالعزیٰ بن معقد بن ربیعہ کے نکاح میں تھیں۔ آپ کا مکان قدید میں تھا جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ انہیں کے پاس ٹھہرے تھے۔

باخبا ر محمد بن عمر بن محمد بن ابراہیم بن نافع از ابن ابی نجیح وغیرہ۔ جب رسول اللہ ﷺ غار ثور سے پیر کی شب کو یا منگل کو سحر کے وقت قدید کی طرف نکل کھڑے ہوئے تو قریش کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کدھر کو گئے ہیں۔ اور لوگوں نے مکہ کے نشیبی علاقہ سے یہ اشعار سنے۔ ان اشعار کو غلاموں، بچوں اور عورتوں سب ہی نے سنا حتیٰ کہ وہ اشعار مکہ کے بالائی علاقہ تک سنے گئے اور پڑھنے والا دکھائی نہیں دیا۔

جزی اللہ رب الناس خیر جزاءہ رفیقین قالا خیمتی ام معبد

”اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا رب ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا عطا فرمائے جنہوں نے ام معبد کے دو خیموں میں دو پہر کو آرام فرمایا۔“

ہما نزلا بالبر و اعتدیاہ فقد فاز من امسبی رفیق محمد

”وہ دونوں جنگل میں ٹھہرے اور وہیں ناشتہ کیا۔ پھر محمد کا رفیق فاز المرام ہوا۔“

لہن بنی کعب مقام فئاتہم و مقعدہا للمسلمین بمرصد

”بنی کعب کو ان کی جوان بچی کی ٹھہرنے کی جگہ مبارک ہو اور اس بچی کی بیٹھنے کی جگہ مسلمانوں کے لئے گھات

والی جگہ ہے۔“

باخبا محمد بن عمر از حزام بن ہشام از ام معبد: ہمارے سامنے دو اونٹوں پر چار شخص نمودار ہوئے اور میرے خیمہ میں آ کر ٹھہر گئے۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس ذبح کرنے کے لئے ایک بکری لائی مگر وہ دودھ والی تھی میں نے اسے آپ کے قریب کر دیا پھر نبی ﷺ نے اس کا باکھ ٹٹولا اور فرمایا اسے ذبح نہ کرو آخر کار میں اسے چھوڑ کر دوسری بکری لے آئی اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا اور آٹا پیس کر روٹی پکائی اور آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھانا کھایا۔ میں نے پوچھا: آپ کے ساتھ کون تھے؟ بولیں ابن ابی قحافہ، موالیٰ ابن ابی قحافہ اور ابن ابی اریقہ فرماتی ہیں: پھر آپ نے اور آپ کے رفقاء نے ناشہ کیا اور میں آپ کے توشہ دان کو بھردیا اور ہمارے پاس کچھ یا زیادہ تر گوشت باقی رہ گیا اور وہ بکری جس کا باکھ رسول اللہ ﷺ نے چھوا تھا ہمارے پاس مدتوں رہی حتیٰ کہ رمادہ کے وقت تک رہی یعنی حضرت عمر کے عہد خلافت میں بھی ۸۱ھ تک رہی۔ ہم اسے صبح و شام دوہتے رہتے تھے حالانکہ دودھ دور دور تک مفقود ہوتا تھا۔ اس دن ام معبد مسلمان تھیں۔ محمد بن عمر: دوسرے لوگ کہتے ہیں: بلکہ ام معبد اس کے بعد آئیں اور اسلام لائیں اور آپ سے بیعت کی۔

ام عبد اللہ:

آپ کا نام ام عبد ہے۔ آپ عبد و ذہ بن سوی بن قریم بن صاہلہ بن کامل بن حارث بن تمیم بن سعد بن ہزریل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر کی صاحبزادی ہیں اور ابن مسعود کی والدہ ہیں۔ اُمّ عبد کی والدہ ہند بنت عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب ہیں۔ آپ نے مشرف بہ اسلام ہو کر ہر ورع عالم ﷺ سے بیعت کی۔

باخبا راحمہ بن عبد اللہ بن یونس، متحد یت زہیر از ابوالاسحق از مصعب بن سعد: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وظائف مقرر فرمائے تو ام عبد کے ہزار درہم مقرر فرمائے۔

ریطہ:

آپ عبد اللہ کی بیٹی اور ابن مسعود کی بیوی ہیں اور ان کی ام ولد ہیں آپ ایک کارگیر خاتون تھیں بولیں: یا رسول اللہ ﷺ میں ایک صنعت کار عورت ہوں اور اپنی مصنوعات کو فروخت کرتی ہوں اور میرے پاس اور میری اولاد کے پاس کچھ اور نہیں اور میں نے آپ سے پوچھا کیا میں اپنے شوہر اور اولاد پر خرچ کر سکتی ہوں؟ فرمایا: تمہیں ان پر خرچ کا اجر ملے گا۔

زیینب:

آپ ابو معاویہ ثقفیہ کی بیٹی اور ابن مسعود کی بیوی ہیں۔ آپ نے اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور آپ سے ایک حدیث بھی روایت کرتی ہیں۔

باخبا ریحوب بن ابراہیم بن سعد زہری از ابراہیم بن سعد زہری از صالح بن کیسان از محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن ہشام از کبیر بن عبد اللہ بن اشج از بسر بن سعید، بخبر زینب ثقفیہ زوجہ ابن مسعود: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم نماز عشاء کے لئے آؤ تو خوشبو لگا کر نہ آنا۔

بنت خباب:

آپ خباب بن ارت بن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب بن سعد (جو آل سعد بن زید مناة بن تمیم سے ہیں) کی صاحبزادی ہیں آپ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی اور آپ سے روایت بھی کی۔

باخبار کعب بن جراح محدیث اعمش از ابواسحق از عبدالرحمن بن عبد قاشی از بنت خباب: خباب ایک دستہ میں شامل ہو کر جہاد پر روانہ ہو گئے پھر رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس پابندی سے آتے رہے حتیٰ کہ آپ ہماری بکری کا دودھ مکئی میں دوہ دیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بھر جاتی اور دودھ بہنے لگتا تھا پھر جب خباب آئے تو دودھ نکالنے لگے اور دودھ سابق مقدار پر لوٹ آیا (بقول کعب گھٹ گیا) فرماتی ہیں: میں نے خباب سے کہا: جب رسول اللہ ﷺ دوہا کرتے تھے تو مکئی بھر جاتی تھی اور دودھ بہنے لگتا تھا۔ لیکن جب آپ نے دوہا تو دودھ گھٹ کر پہلی مقدار پر آ گیا۔

باخبار عبداللہ بن رجاہ بصری یاخبار اسرائیل از ابواسحق از عبدالرحمن بن مدرک از بنت خباب بن ارت: میرے والد ایک جہاد پر گئے اور ہمارے لئے صرف ایک بکری چھوڑ گئے اور یہ فرما گئے کہ اس کا دودھ اصحاب صفہ کے پاس لے جا کر دوہنا۔ فرماتی ہیں: پھر ہم وہ بکری اصحاب صفہ کے پاس لے گئے تو وہاں رسول اللہ ﷺ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے بکری باندھ کر اس کا دودھ نکالنے کا ارادہ کیا اور فرمایا: تمہارے پاس جو سب سے بڑا برتن ہے اسے لے آؤ میں گھر گئی اور میں سب سے بڑا لگن لے آئی جس میں آٹا گوندھا جاتا تھا۔ پھر آپ نے اس میں دودھ دوہا حتیٰ کہ اسے بھر دیا اور فرمایا لے جاؤ خود بھی پیو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی پلاؤ اور جب اسے دوہنا چاہو تو اسے پیئیں لے آنا۔ چنانچہ ہم بکری آپ کے پاس پابندی سے لاتے رہے اور آپ نے ہم دودھ کی ریل پیل کر دی حتیٰ کہ والد صاحب تشریف لے آئے اور آپ نے بکری باندھ کر دودھ دوہنا شروع کیا۔ پھر بکری اپنے ابق دودھ کی طرف لوٹ گئی۔ میری والدہ نے کہا: تم نے بکری خراب کر دی۔ پوچھا: کیسے؟ بولیں: یہ بکری اس لگن کو دودھ سے بھر لیا کرتی تھی۔ پوچھا: اسے کون دوہا کرتا تھا؟ بولیں: رسول اللہ ﷺ۔ بولے: تم نے مجھے آپ کے برابر سمجھ لیا۔ آپ کی قسم آپ کے دست مبارک میں تو بڑی برکت ہے۔

کعبیہ:

آپ سعد اسمیہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ نے ہجرت کے بعد رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ ہی مسجد میں ایک رے میں رہا کرتی تھیں اور بیماروں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ جب غزوہ خندق میں حضرت سعد کے تیر مارا گیا ہے تو آپ انہیں کی گمرانی میں تھیں اور یہیں آپ کے زخم کا علاج کرتی تھیں۔ حتیٰ کہ سعد فوت ہو گئے۔ کعبیہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک تھیں۔

مطالع اسمیہ:

آپ ہجرت کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئیں اور رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی اور آپ کے ساتھ جنگ خیبر میں شریک

ہیں۔

ام سنان اسلمیہ:

آپ نے بھی ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا اور رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔

باخبر محمد بن عمرؓ بیعت عبد اللہ بن ابی بکرؓ کی ازبیت بنت حنظلہ اسلمیہ اپنی والدہ ام سنان اسلمیہ سے: جب رسول اللہ ﷺ نے خیبر کا ارادہ فرمایا تو میں نے آپ کے پاس آ کر کہا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ مشکیزے سیونگی اور بیماروں کی اور خدا نہ کرے زخمیوں کی دیکھ بھال رکھوں گی اور کجاووں کی نگرانی کروں گی۔ فرمایا: اللہ کی برکت کے ساتھ چلو تمہاری ساتھ والی عورتوں نے اس بارے میں مجھ سے گفتگو کی ہے اور میں نے انہیں اجازت دے دی ہے۔ وہ تمہاری قوم کی بھی ہیں اور دوسرے قبیلوں کی بھی۔ اگر تم چاہو تو اپنے قبیلہ کے ساتھ رہو اور چاہو تو ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے کہا: میں تو آپ کے ساتھ رہوں گی۔ فرمایا: اچھا تو میری بیوی ام سلمہ کے ساتھ رہو۔ فرماتی ہیں: پھر میں ام سلمہ ہی کے ساتھ رہی۔

باخبر محمد بن عمرؓ بیعت عمر بن صحاح حوطی از حریت بن زید اسلمیؓ بیعت بنت حنظلہ اپنی والدہ ام سنان اسلمیہ سے جو بیعت شدہ تھیں اور نبی ﷺ کے ساتھ فتح خیبر میں موجود تھیں، ہم جمعہ کی اور عید و بقر عید کی نماز کے لئے نہیں آتی جاتی تھیں حتیٰ کہ ہم خاندان سے ناامید ہو جاتی تھیں۔ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر آپ سے بیعت کی۔ آپ نے میرا ہاتھ دیکھ کر فرمایا: اگر تم ناخنوں کے رنگ بدل لو اور اپنے ہاتھوں میں ایک تسمہ ہی باندھ لو تو کیا حرج ہے؟

امیہ:

آپ قیس ابوالصلت غفاریہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ نے ہجرت کے بعد مسلمان ہو کر بیعت کی اور جنگ خیبر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوئیں۔ باخبر محمد بن عمرؓ بیعت ابو بکر بن عبد الرحمن بن ابی سبرہ از سلیمان بن سہیم از ام علی بنت ابی الحکم از امیہ بنت قیس ابوالصلت غفاریہ: میں بنی غفار کی عورتوں میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور ہم نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! اس جنگ (خیبر) میں ہم آپ کے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتی ہیں تاکہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کریں اور مقدور بھر مسلمانوں کی اعانت کریں۔ فرمایا: بسم اللہ۔ اللہ کی برکت کے ساتھ چلو۔ فرماتی ہیں: میں بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئی، میں نے عمرؓ سے رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنے پیچھے کجاوے کی خرچی کے پاس بٹھالیا اور آپ صبح کو اترے اور آپ نے اونٹ بٹھایا۔ میں نے خرچی پر خون کے دھبے دیکھے یہ مجھے سب سے پہلے حیض آیا تھا۔ میں کجاوے پر بیٹھی رہی اور اس سے ہٹنے سے شرمائی۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے خون دیکھا اور میرے شرمانے کا احساس کیا تو فرمایا: شاید تمہیں ایام شروع ہو گئے؟ میں نے کہا: معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا: اچھا تو اس کی تیاری کر لو اور پانی کے ایک برتن میں نمک ڈال کر خرچی سے لگے ہوئے خرن کو دھو دو۔ پھر آ جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے خیبر فتح کر دیا تو آپ نے مال نے میں سے قدرے ہمیں بھی دیا لیکن ہمارا حصہ نہیں لگایا اور آپ نے یہ بار جسے تم میرے گلے میں دیکھ رہی ہو لے کر مجھے دیا اور میری گردن میں اپنے ہاتھ سے ڈال دیا۔ اللہ کی قسم یہ کبھی مجھ سے جدا نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ ہمارے دم تک آپ کے گلے میں رہا اور آپ وصیت کر گئی تھیں کہ میرے ساتھ بار کو بھی دفن کر دینا۔ آپ کا دستور تھا جب حیض سے پاک ہوتیں تو جس پانی سے غسل فرماتیں اس میں نمک ضرور ڈال لیا کرتی تھیں اور وصیت بھی کر گئی تھیں کہ میرے غسل

کے پانی میں نمک ضرور ڈال لینا۔

اُمّ حفید ہلالیہ:

آپ نے ہجرت کے بعد اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ ہی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بطور تحفہ کے پکی ہوئی گوہیں بھیجی تھیں۔

ام سنبلہ مالکیہ:

مالکیہ اسلم کے جو خزاہ سے ہیں بھائی ہیں ام سنبلہ نے ہجرت کے بعد اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ باخبار محمد بن عمر بحدیث عبد اللہ بن جعفر از عبد الرحمن بن حرمہ از عبد اللہ بن دینار از عروہ بن زبیر از ام المومنین عائشہ: جب ہم مدینہ آ گئے تو نبی ﷺ نے ہمیں کسی دیہاتی کا ہدیہ قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر ہمارے پاس ام سنبلہ دودھ ہدیہ کے طور پر لائیں لیکن ہم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ معہ ابو بکر کے تشریف لائے اور پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ یہ ام سنبلہ ہیں اور ہمارے پاس بطور ہدیہ کے دودھ لائی ہیں اور آپ نے کسی دیہاتی کا ہدیہ قبول کرنے سے ہمیں منع فرما دیا ہے۔ فرمایا: لے لو کیونکہ اسلم اعراب نہیں ہیں وہ ہمارے جنگل والے ہیں اور ہم ان کے شہر والے ہیں۔ اگر وہ ہمیں پکاریں تو ہم ان کی پکار پر لبیک کہیں اور اگر وہ ہم سے مدد مانگیں تو ہم ان کی مدد کریں۔ ام سنبلہ دودھ لاؤ انہوں نے دودھ برتن میں ڈال کر دیا اور اسے رسول اللہ ﷺ نے پیا۔ پھر فرمایا اور لاؤ۔ انہوں نے اور دودھ دیا۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیا اور کہا: اس سے جگر میں ٹھنڈک پیدا ہوگی۔ آپ نے ہمیں کسی دیہاتی سے ہدیہ قبول کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ فرمایا: اسلم دیہاتی نہیں ہیں وہ ہمارے جنگل والے ہیں اور ہم ان کے شہر والے ہیں۔ اگر وہ ہمیں پکاریں تو ہم ان کی پکار پر لبیک کہیں اور اگر وہ ہم سے مدد مانگیں تو ہم ان کی مدد کریں۔

ام کرز:

آپ خزاہیہ ہیں آپ حدیبیہ والے دن نبی ﷺ کے پاس آئیں آپ قربانی کے جانور کا گوشت بانٹ رہے تھے پھر آپ مسلمان ہو گئیں۔ آپ نبی ﷺ سے روایت بھی کرتی ہیں۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار محمد بن اسحاق از عطاء بن ابی رباح از حبیہ بنت میسرہ از ام کرز خزاہیہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے حقیقہ کے بارے میں پوچھا: فرمایا: لڑکے کی طرف سے دو کھریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک کھری ہے۔

اُمّ معقل:

آپ اسدیہ ہیں آپ نے مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور آپ سے روایت بھی کرتی ہیں۔ باخبار محمد بن مصعب قرظانی محمد بن اوزاعی از یحییٰ بن ابی کثیر از ابوسلمہ بن عبد الرحمن از ام معقل: یا رسول اللہ ﷺ! میرا حج کا ارادہ تھا۔ مگر میرا اونٹ ڈبلا ہے۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: رمضان میں عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان کا عمرہ (ثواب میں) حج کے برابر ہوتا ہے۔

ام صبیہ خولہ:

آپ قیس جہنیہ کی صاحبزادی ہیں آپ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور رسول اللہ ﷺ سے چند حدیثوں کی راویہ بھی ہیں۔

باخبار انس بن عیاض لیشی از اسامہ بن زید از سالم ابو النعمان بن خربوز از ام صبیہ جہنیہ: ایک وضو کے برتن میں میرے اور رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ آئے گئے۔

باخبار ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی اوسین از سلیمان بن بلال از اسامہ از سالم ابو النعمان بن خربوز از ام صبیہ: ہم مثل۔
باخبار اسامعیل بن عبد اللہ بن ابی اوسین بحديث خارجہ بن حارث از سالم بن سرج مولیٰ ام صبیہ اور آپ خولہ بنت قیس ہیں اور وہ خارجہ بن حارث کی دادی ہیں: میرا اور رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ ایک برتن میں آیا گیا۔
محمد بن عمر: خارجہ بن حارث رافع بن مکیت جہنی پھر ربیع کے بیٹے ہیں۔

باخبار خالد بن مخلد بنکلی بحديث خارجہ بن حارث بن رافع بن مکیت جہنی بحديث سالم و مانع پسران سرج مولیٰ ام صبیہ از خولہ بنت قیس: ہم مثل۔

باخبار محمد بن عمر از اسامہ بن زید لیشی بخبر سالم بن سرج ابو النعمان بسماح خولہ بنت قیس ام صبیہ جہنیہ: میرا اور رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ وضو کے ایک برتن میں آیا گیا۔ محمد بن عمر: جس نے سالم بن سرج ابو النعمان کہا اسی کا قول صحیح ہے۔

باخبار محمد بن عمر بخبر عیث ابو بکر بن یحییٰ بن نصر از سالم ابو النعمان از ام صبیہ خولہ بنت قیس جہنیہ: میں سب سے پیچھے ہوتی تھی اور جمعہ کے دن رسول اللہ ﷺ کا خطبہ اور منبر پر آپ کی قراءت سن لیا کرتی تھیں۔

باخبار محمد بن عمر بخبر عیث عمر بن صالح بن نافع بحديث سوده بنت ابی ضمیس جہنی (سودہ نے نبی ﷺ کو پایا اور آپ سے بیعت کی اور ابو ضمیس صحابی تھے) از ام صبیہ خولہ بنت قیس: ہم عہد رسالت میں عہد صدیقی میں اور شروع عہد فاروقی میں مسجد میں آپس میں دوستی کیا کرتی تھیں اور کبھی چرخہ بھی کات لیا کرتی تھیں اور کبھی بعض عورت کجور کے پتوں سے کوئی چیز بنا لیا کرتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہیں آزادی کی حالت میں نکال دوں گا۔ آخر کار ہم مسجد سے نکال دی گئیں۔ البتہ نماز کے لئے وقت پر حاضر ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد اپنا ڈزہ لے کر مسجد میں موجود اشخاص کے پاس جاتے تھے انہیں دیکھتے تھے ان کے چہروں سے انہیں پہچانتے تھے اور انہیں ڈھونڈھا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کھانا کھالیا یا نہیں اگر کوئی بھوکا ہوتا تو اسے لے جا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔

سودہ جہنیہ:

آپ ابو ضمیس کی بیٹی ہیں۔ آپ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ کے والد کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت حاصل ہے۔

امیہ یا امامہ:

آپ سفیان بن وہب بن اشیم کی جو آل حارث بن عبدمنافہ بن کنانہ سے ہیں صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ اُمّ عبد اللہ ہیں۔ امیہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیوی ہیں۔ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے چند دنوں بعد مسلمان ہوئیں۔

برزہ:

آپ مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ امت بنت خلف بن وہب بن حذافہ بن حج ہیں۔ برزہ سے صفوان بن امیہ بن خلف ثقفی نے نکاح کیا جن سے عبد اللہ اکبر (طویل) (عبد اللہ) عبد اللہ بن زبیر کے ساتھ قتل کئے گئے۔ اور ہشام اکبر اور امیہ اور ام حبیب چار بچے پیدا ہوئے۔ برزہ حجۃ الوداع میں مسلمان ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

البنوم:

آپ معدّل یعنی خالد بن عمرو بن سفیان بن حارث بن زبان بن عبد یاسیل (جو آل حارث بن عبدمنافہ بن کنانہ میں سے ہیں) کی بیٹی ہیں۔ آپ عبد اللہ اصغر بن صفوان بن امیہ صفوان بن عمرو بن صفوان کی والدہ ہیں۔ حجۃ الوداع میں بنوم نے مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی یہ بھی مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن حجۃ الوداع سے قبل مسلمان ہوئیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ از موسیٰ بن عقبہ از ابو حبیہ مولیٰ زبیر از عبد اللہ بن زبیر: فتح مکہ کے دن بنوم صفوان بن امیہ کی اہلیہ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر آپ سے بیعت کی۔

ام حکیم:

بنت طارق کنانیہ نے حجۃ الوداع میں مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

تقیلہ:

بنت عمرو بن ہلال کنانیہ نے حجۃ الوداع میں مسلمان ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔

تماضر:

آپ اصغ بن عمرو بن شلبہ بن حضر بن ضمضم بن عدی بن جناب بن ہبل کلبی کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ جویریہ بنت وبرہ بن رومانس ہیں جو آل کنانہ بن عوف بن عدوہ بن زید الملات بن زفیدہ کلبی ہیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث عبد اللہ بن جعفر از ابن ابی عون از صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن: نبی ﷺ نے عبد الرحمن بن عوف کو بنو کلب کی طرف بھیجا اور فرمایا: اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں تو ان کے بادشاہ یا سردار کی بیٹی سے نکاح کر لو۔ پھر جب عبد الرحمن نے بنو کلب کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور ان میں سے کچھ لوگ جزیرہ دینے پر بھی راضی ہو گئے پھر عبد الرحمن بن عوف نے تماضر بنت اصغ بن عمرو سے جو بنو کلب کا بادشاہ تھا نکاح کر لیا اور تماضر کو مدینہ لے آئے۔ آپ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف

کی والدہ ہیں۔

باخباہ محمد بن عمر بنیہ سب سے پہلی کلبیہ خاتون ہیں جن سے قرشی نے نکاح کیا ہے۔ ان کے عبدالرحمن سے بجز ابوسلمہ کے کوئی اور بچہ نہیں ہوا۔

باخباہ یزید بن ہارون باخباہ ابراہیم بن سعد از سعد اپنے والد سے: تمار کے مزاج میں بد خلقی تھی اور انہیں دو طلاقیں دی جا چکی تھیں پھر جب عبدالرحمن بیمار ہوئے تو دونوں میاں بوی میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور عبدالرحمن نے تمار سے کہہ دیا: اگر تم مجھ سے طلاق مانگو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بولیں: میں طلاق مانگتی ہوں۔ فرمایا: اچھا تو جب تم حیض سے غسل کرو تو مجھے خبر کر دینا۔ انہوں نے حیض سے غسل کر کے عبدالرحمن کو خبر کرنے کے لئے ان کا قاصد عبدالرحمن کے کسی آدمی کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے خیال کیا کہ قاصد اسی مقصد کے لئے آیا ہے۔ بلا کر پوچھا کہ دھر جا رہے ہو؟ بولا: مجھے تمار نے عبدالرحمن کے پاس بھیجا ہے کہ میں انہیں خبر کر دوں کہ وہ حیض سے نہا کر پاک ہو گئی ہیں۔ بولے: تمار سے جا کر کہو کہ ایسا نہ کریں کیونکہ عبدالرحمن اپنی قسم توڑنے والے نہیں۔ قاصد نے واپس جا کر تمار کو اطلاع دی۔ تمار بولیں: اللہ کی قسم میں بھی کبھی اپنی قسم توڑنے والی نہیں۔ جاؤ اور عبدالرحمن کو خبر کر دو۔ چنانچہ قاصد نے عبدالرحمن کو خبر کر دی آپ نے تمار کو طلاق دے دی۔

باخباہ عبداللہ بن نمیر از محمد بن اسحاق از سعد بن ابراہیم از ابراہیم اپنی داوی ام کلثوم سے: جب عبدالرحمن بن عوف نے اپنی اہلیہ تمار کلبیہ کو طلاق دی تو انہیں متعہ میں ایک سیاہ قام لوٹھی دی۔

باخباہ روکیع بن جراح از عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ باحسون از سعد بن ابراہیم از کثیف سلمی: عبدالرحمن نے تمار کو طلاق دی اور اسے عطیہ میں ایک لوٹھی دی۔

باخباہ حجاج بن محمد از شعبہ از سعد بن ابراہیم از حمید بن عبدالرحمن اپنی والدہ سے: گویا میں اس سیاہ قام لوٹھی کو دیکھ رہی ہوں جو مجھے متعہ میں عبدالرحمن نے دی تھی۔

باخباہ محمد بن مصعب قرظانی از محمد بن یث از زہری از طلحہ بن عبداللہ: حضرت عثمان نے تمار کلبیہ کو عبدالرحمن کے ورثہ میں سے دیا۔ عبدالرحمن نے انہیں اپنے مرض الموت میں ایک طلاق دی تھی اور یہ تیسری طلاق تھی۔

باخباہ حارم بن فضل از محمد بن یث از یث از ابوب الزنازع از سعد بن ابراہیم: عبدالرحمن نے تمار کو تینوں طلاقیں دے دی تھیں پھر عدت گزار جانے کے بعد حضرت عثمان نے تمار کو عبدالرحمن کے مال میں سے ان کو آٹھویں حصہ کا وارث بنایا۔ سعد کہتے ہیں: ابوسلمہ کی والدہ تمار تھیں۔ محمد بن عمر کہتے ہیں: پھر تمار سے زبیر بن عوام نے نکاح کر لیا مگر تھوڑے سے دنوں میں زبیر نے بھی انہیں طلاق دے دی۔

باخباہ اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اوس بن محمد بن یث از ابی اوس بن عمر بن ابی سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف از ابوسلمہ بن عبدالرحمن اپنی داوی تمار سے (جب انہیں زبیر نے نکاح سے سات دن کے بعد طلاق دے دی) تمار عورتوں سے کہا کرتی تھیں: جب تم میں سے کوئی نکاح کرے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس سات دن دھوکا میں نہ ڈالیں کیونکہ زبیر نے مجھے سات دن کے بعد طلاق

دے دی تھی۔

اسماء:

آپ مخرمہ بن جندل بن امیر بن نھشل بن دارم تمیمی کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ عناق بنت جبار بن عوف بن ابی حارثہ بن زید بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل ہیں۔ اسماء سے ہشام بن مغیرہ بن عبد اللہ بن مخزوم نے نکاح کیا جس سے ابو جہل اور حارثہ پسران ہشام پیدا ہوئے پھر ہشام کی موت کے بعد اس کے بھائی ابو ربیعہ بن مغیرہ نے اسماء سے نکاح کیا جس سے عیاش، عبد اللہ، ام حنیر تین بچے پیدا ہوئے۔ اسماء نے اسلام لاکر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کر لی تھی اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھیں۔ اور عہد فاروقی تک یا بعد تک زندہ رہیں۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن عبد الحمید بن جعفر و عبد اللہ بن ابی عبیدہ از ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر از ربیع بنت معوذ بن عفراء: میں انصاری عورتوں کے ساتھ حضرت عمر کے زمانہ میں اسماء ام ابو جہل کے پاس گئی۔ اسماء کا بیٹا عبد اللہ بن ابی ربیعہ انہیں مین سے عطر بھیجا کرتے تھے جسے آپ عطیات میں فروخت کر دیا کرتی تھیں۔ ہم بھی ان سے عطر خریدا کرتے تھے۔ پھر جب اسماء میری شیشیوں میں عطر ڈال کر میرے ساتھ والی دوسری عورتوں کی طرح وزن کر کے مجھے عطر دے تیں تو کہتیں: عورتو! اپنے اوپر میرا حق لکھ لو۔ میں کہتی: ہاں! میں ان کے لئے ربیع بنت معوذ پر حق لکھے لیتی ہوں۔ اسماء کہتیں: پیچھے ہٹ جا تو اس کی بیٹی ہے جس نے اپنے مالک کو قتل کیا میں جواب دیتی: نہیں بلکہ میں اس کی بیٹی ہوں جو اپنے غلام کا قاتل ہے۔ فرماتیں: اللہ کی قسم! میں تیرے ہاتھ ذرا سا عطر بھی فروخت نہیں کروں گی۔ میں کہتی: اللہ کی قسم! میں تم سے کبھی ذرا سا عطر بھی نہیں خریدوں گی کیونکہ تمہارا عطر اچھا نہیں اور نہ اس میں خوشبو ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میں نے ان کے عطر سے بہتر اور عمدہ عطر کبھی نہیں سونگھا لیکن میں اپنے غصہ میں اسے بسر اجایا کرتی تھی۔

اسماء:

آپ سلامہ بن مخرمہ بن جندل کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ سلمیٰ بنت زہیر بن امیر بن نھشل بن دارم تمیمیہ ہیں۔ آپ مکہ میں قدیم الاسلام ہیں اور بیعت شدہ ہیں۔ آپ دوسری ہجرت کے زمانہ میں اپنے شوہر عیاش بن ابی ربیعہ بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی جہاں آپ کے عبد اللہ بن عیاش پیدا ہوئے۔

ام سباع:

باخبار عبد اللہ بن ادریس، باخبار اسلم مہری از عطاء: ام سباع نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ کریں؟ فرمایا: ہاں! لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔
ماویہ، مولاة حنیر:

جو ابواہاب کے بیٹے ہیں۔ یہ وہی خاتون ہیں جن کے گھر میں مکہ میں خیب بن عدی بند تھے تاکہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو خیب قتل کر دیے جائیں۔ بعد میں ماویہ، حضرت خیب کا واقعہ بیان کیا کرتی تھیں پھر آپ مشرف بہ اسلام ہو گئیں اور

اچھی مسلمان ثابت ہوئیں۔ فرمایا کرتی تھیں: اللہ کی قسم! میں نے خیب سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ میں انہیں دروازے کی درزوں سے دیکھا کرتی تھی آپ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور میرے علم میں روئے زمین پر کھائے جانے کے لئے انگوڑا کا ایک دانہ بھی لوگوں کو میسر نہ تھا مگر خیب کے ہاتھوں میں آدی کے سر کے برابر انگوڑوں کا خوشہ ہوتا تھا جس میں سے وہ کھاتے تھے۔ اللہ ہی نے انہیں یہ خوشہ عطا فرمایا تھا۔ خیب رات کو تہجد میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے عورتیں ان سے قرآن پاک سن کر رویا کرتی تھیں اور خیب پر عورتوں کو رحم آتا تھا۔

فرماتی ہیں: ایک دن میں نے خیب سے کہا: خیب تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ بولے: میری کوئی آرزو نہیں۔ ہاں مجھے بیٹا پانی پلا دو اور دیکھو مجھے ان جانوروں کا گوشت نہ دینا جو بتوں کے نام پر ذبح کئے جاتے ہیں اور جب لوگ میرے قتل کا ارادہ کریں تو مجھے خبر کر دینا۔ پھر جب حرمت والے مہینے ختم ہو گئے اور لوگوں نے خیب کے قتل پر عزم و اتفاق کر لیا تو میں نے ان کے پاس جا کر انہیں خبر دے دی۔ اللہ کی قسم انہوں نے اپنے قتل کئے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور مجھ سے کہا: میرے پاس استرہ بھیج دو تا کہ میں اس سے اپنی اصلاح کروں۔ فرماتی ہیں: میں نے ان کے پاس اپنے بیٹے ابو حسین کے ہاتھ استرا بھیج دیا۔ یہ میرا بیٹا ہوا بیٹا تھا۔ مجھ سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ پھر جب بچہ چلا گیا تو میرے دل میں دوسو سہ پیدا ہوا کہ اللہ کی قسم خیب نے اپنا انتقام پا لیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اس بچہ کے ہاتھ استرا بھیج دیا۔ خیب یہ خیال کر کے کہ مرد کے بدلے مرد ہے اس بچہ کو استرے سے قتل کر ڈالیں گے۔ پھر جب بچہ ان کے پاس استرا لے کر پہنچا تو آپ نے استرا لے کر اس سے دل لگی کے طور پر کہا: اللہ کی قسم تو بڑا بہادر ہے۔ کیا تمہاری ماں نے یہ نہیں سوچا کہ مرنا کیا نہیں کرتا اور تمہارے ہاتھ میرے پاس استرا بھیج دیا۔ جبکہ تم میرے قتل کا ارادہ بھی کر چکے ہو۔ ماویہ فرماتی ہیں: میں خیب کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ میں بولی: خیب! میں اللہ کی امان کے ساتھ تم سے بے خوف رہی اور میں نے تمہارے معبود پر بھروسہ کر کے اس بچہ کے ہاتھ تمہارے پاس استرا بھیجوا دیا۔ میں نے استرا اس لئے نہیں بھیجوا یا کہ تم اس سے میرے اس معصوم بیٹے کو قتل کر ڈالو۔ فرمایا: میں ایسا نہیں ہوں کہ اس معصوم کو قتل کروں۔ ہم اپنے دین میں غداری حلال نہیں سمجھتے۔

فرماتی ہیں: پھر میں نے انہیں خبر دی کہ لوگ کل صبح انہیں قتل کرنے والے ہیں۔ فرماتی ہیں: لوگ انہیں زنجیر میں جکڑے ہوئے جمعیم تک لے گئے اور آپ کے قتل کا تماشہ دیکھنے کے لئے بچے عورتیں غلام اور مکہ والوں کی ایک جماعت جمعیم پہنچ گئی اور کوئی بھی مکہ میں نہیں رہا۔ طالب انتقام تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لئے گئے اور غیر طالب انتقام اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کا اظہار کرنے اور خوش ہونے کے لئے۔ پھر جب آپ کو معہ زید بن دشنہ کے جمعیم لے کر پہنچ گئے تو ان کے حکم سے ایک طویل لکڑی کھودی گئی پھر جب خیب کو ان کی لکڑی کے پاس لے کر پہنچے تو خیب بولے: کیا مجھے دور کعت پڑھنے کی مہلت دی جائے گی؟ لوگ بولے: ہاں۔ آخر کار آپ نے مختصر دو گانہ ادا کیا اور اسے لہا نہیں کیا۔ ہمیں یہ تمام باتیں محمد بن عمر نے علماء سے بتائیں۔

ام طارق:

آپ سعد کی آزاد کردہ لونڈی ہیں۔

باخبا ریعلی بن عبید متحد بیٹا عمش از جعفر بن عبدالرحمن انصاری از ام طارق مولاة سعد: نبی ﷺ سے ملنے آئے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ لیکن سعد تینوں بار خاموش رہے۔ جب نبی ﷺ واپس ہونے لگے تو مجھے سعد نے آپ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ ہمیں آپ کو اندر آنے کی اجازت دینے سے اس بات نے روکا کہ ہم نے آپ سے مزید دعاؤں کا ارادہ کر لیا تھا۔ فرماتی ہیں: پھر میں نے دروازہ پر ایک آواز سنی کہ کوئی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ لیکن میں کسی کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا: کون ہے؟ بولی: میں ام ملام ہوں۔ فرمایا: نہ تیرے لئے مرحبا ہے اور نہ خوش آمدید ہے۔ فرمایا: کیا تو قبائلوں کو ہدیہ دے گی؟ بولی: ہاں۔ فرمایا: اچھا تو انہیں کے پاس چلی جا۔

ام فروہ:

آپ قاسم بن غنم کی دادی ہیں۔

باخبا ریزید بن ہارون و فضل بن دکین باخبا ر عبداللہ بن عمر از قاسم بن غنم اپنے اہل بیت سے اور فضل بن دکین فرماتے ہیں میری کسی ماں نے اپنی دادی ام فروہ سے خبر دی (انہوں نے نبی ﷺ سے بیعت کر لی تھی) کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا جب کہ آپ سے ایک شخص نے سب سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا۔ آپ فرما رہے تھے وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔

میمونہ بنت کردم:

باخبا ر فضل بن دکین و محمد بن عبداللہ اسدی متحد بیٹا عبداللہ بن عبدالرحمن بن یعلیٰ بن کعب بن خزیمہ بن یزید بن مقسم اپنی مولاة میمونہ بنت کردم سے: میں اپنے والد کے پیچھے سواری پر تھی میں نے ان سے سنا کہ وہ نبی ﷺ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے منت مانی تھی کہ بوانہ میں ایک اونٹ نحر کروں۔ پوچھا کیا بوانہ میں کوئی بت یا سورتی ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: اپنی منت پوری کرو (بقول ابو نعیم) جس جگہ کی تم نے منت مانی ہے۔

باخبا ر یزید بن ہارون باخبا ر عبداللہ بن یزید بن مقسم (ابن خبہ) بخدیث پھوپھی جان سارہ بنت مقسم از میمونہ بنت کردم میں نے رسول اللہ ﷺ کو مکہ میں آپ کی اونٹنی پر دیکھا۔ میں اپنے والد کے ساتھ تھی اور رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ کا تھوں کے درہ کی طرح کوئی چیز تھی پھر میں نے دیہاتیوں کو اور لوگوں کو طبطبیہ طبطبیہ کہتے ہوئے سنا۔ میرے والد نے آپ کے پاس جا کر آپ کا قدم پکڑ لیا۔ پھر ان کے لئے رسول اللہ ﷺ نے اقرار کر لیا۔ فرماتی ہیں: میں آپ کے پیر کی دیگر انگلیوں کی بہ نسبت سبابہ کا طول آج تک نہیں بھولی۔ میرے والد نے آپ سے عرض کیا: میں عفران کی فوج میں موجود تھا یہ سن کر رسول اللہ ﷺ اس لشکر کو سمجھ گئے پھر طارق بن مرثد نے کہا: مجھے نیزے کے ثواب پر کون نیزہ دیتا ہے؟ میں نے کہا: اس کا ثواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں اپنی پہلی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا۔ آخر کار میں نے طارق کو نیزہ دے دیا۔ پھر میں انتظار میں رہا حتیٰ کہ ان کے بچی پیدا ہوئی اور بالغ ہو گئی۔ پھر میں نے ان کے پاس آ کر کہا: میری بیوی کو رخصت کر دو۔ انہوں نے کہا: نہیں اللہ کی قسم! میں اسے رخصت نہیں کروں گا جب تک تم اس کا اس شرط کے علاوہ مہر مقرر نہ کرو لیکن میں نے مہر مقرر نہ کرنے کی قسم کھالی پھر رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: وہ عورت کس عورت کی ہم عمر ہے؟ کہنے لگے: اس کے بال کہیں کہیں سے سفید ہونے لگے ہیں۔ پھر مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو تمہارے لئے اس میں خیر نہیں۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا اور میں حیرت سے آپ کو تکتے لگا۔ آپ نے فرمایا: نہ تم پر گناہ ہے اور نہ تمہارے ساتھی پر۔ فرماتی ہیں پھر آپ سے میرے والد نے اسی مقام پر پوچھا: میں نے منت مانی ہے کہ میں چند بکریاں بوانہ میں ذبح کروں۔ غالباً ۵۰ بکروں کا ذکر کیا۔ پوچھا: کیا وہاں ان بتوں میں سے کوئی بت ہے؟ بولے: نہیں۔ فرمایا اپنی نذر پوری کرو پھر میرے والد نے پچاس بکریاں جمع کیں اور بوانہ میں لے جا کر انہیں ذبح کیا لیکن ان میں سے ایک بکری بھاگ گئی۔ آپ اسے ڈھونڈنے لگے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ! میری منت پوری کر حتیٰ کہ بکری آپ کو مل گئی اور آپ نے اسے بھی ذبح کیا۔

میمونہ:

آپ سعید کی بیٹی اور رسول اللہ ﷺ کی آزاد کردہ لونڈی ہیں۔

باخبار عبد اللہ بن موسیٰ و فضل بن دکین باخبار اسرائیل از زید بن جیر از ابو زید صبی از میمونہ بنت سعید: نبی ﷺ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا جو روزہ دار تھی بوسہ لے لیا تھا۔ فرمایا: روزہ نہ رکھے اور آپ سے حرام کے بچہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا: اس میں خیر نہیں وہ جوتے جن کو پہن کر میں جہاد کروں حرام کے بچہ کے آزاد کرنے سے مجھے زیادہ پیارے ہیں۔

باخبار موسیٰ بن مسعود متحد یرث عکرمہ بن عمار از طارق بن قاسم بن عبد الرحمن از میمونہ مولاۃ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میمونہ! عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! کیا عذاب قبر برحق ہے۔ فرمایا: ہاں! اے میمونہ! قیامت کے دن انتہائی سخت عذاب غیبت اور پیشاب کی وجہ سے ہوگا (یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے)۔
ام الحسین، احمسیہ:

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ باخبار اسرائیل از ابواسحق از یحییٰ بن ام الحسین اپنی دادی ام الحسین سے: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ منیٰ میں لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور آپ کے بازو کا عضلہ مل رہا تھا۔ آپ فرما رہے تھے: لوگو! اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی باتیں سنو اور اطاعت کرو اور اگر تم پر ایک حبشی غلام امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات بھی سنو اور اطاعت کرو جب تک وہ اللہ کی کتاب قائم کرتا رہے۔

باخبار حسن بن موسیٰ باخبار زہیر باخبار ابواسحق از یحییٰ بن حسین اپنی دادی ام حسین سے: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ اپنی سواری پر اس کے کجاوے پر تشریف فرما تھے حسین میری گود میں تھا آپ لوگوں سے فرما رہے تھے اور بغل کے نیچے سے چادر نکال رکھی تھی (زہیر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہاتھ پھیلا لیا)۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے امیر کی بات سنو اور اس کا کہنا مانو۔ اگر چہ وہ حبشی ہو اور اگر وہ کن کٹا حبشی ہو تو جب تک وہ تم میں اللہ کی کتاب قائم کرتا رہے اس کی بات سن کر اس کا کہنا مانو۔

باخبار فضل بن دکین و محمد بن عبد اللہ اسدی و ابوقطن عمرو بن ہشام متحد یرث یونس بن ابی اسحق از عزیز ابن حرث بسامع ام

حصین احمیہ: میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ پر چادر تھی جس کو آپ نے بغل کے نیچے سے نکال کر اوڑھ رکھا تھا اور میں آپ کے بازو کے عضلہ کو ہلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آپ فرما رہے تھے: لوگو! اللہ سے ڈرو! اگر تم پر جنبی کن کٹنا غلام امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو جب تک وہ تم کو اللہ کی کتاب پر چلاتا رہے۔

ام جنذب ازدیہ:

آپ ہی ام سلیم بن عمرو بن احوص ہیں۔ آپ نے اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور آپ سے روایت بھی

کرتی ہیں۔

باخبار عبد اللہ بن ادریس بسام یزید بن ابی زیاد از سلیمان بن عمرو بن احوص اپنی والدہ سے: میں نے نبی ﷺ کو دیکھا آپ بطن وادی سے حمرة العقبہ پر نکلیں مار رہے تھے۔ آپ نے باقلا کے دانے کے برابر سات کنکریں ماریں اور آپ فرما رہے تھے: لوگو! کوئی کسی کو قتل نہ کرے اور آپ کے پیچھے ایک شخص تھا جو آپ کو لوگوں کے سنگریزوں سے بچار ہاتھا۔ (فرماتے ہیں:) میں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ عباس بن عبد المطلب تھے۔ آپ سات کنکریں مار کر واپس ہو گئے۔ پھر آپ سے ایک عورت نے آ کر کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میرا اکھوتا بچہ ہے (اور بیمار ہے)۔ فرمایا: ان خیموں میں سے پانی لے آ۔ چنانچہ وہ پتھر کے ایک برتن میں پانی لے آئیں۔ آپ ﷺ نے اس میں سے پیا اور اس میں کلی کی اور فرمایا: یہ پانی اپنے بیٹے کو پلا اور اللہ سے اس کی شفاء کے لئے دعا کر۔ چنانچہ انہوں نے وہ پانی اپنے بیٹے کو پلایا اور ان کا بیٹا اچھا ہو گیا۔

باخبار فضل بن ذکین و محمد بن مندل از یزید بن ابی زیاد از سلیمان بن عمرو بن احوص اپنی والدہ ام جنذب سے: میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ حمرة العقبہ پر سنگریزے مار رہے تھے اور اپنے خچر پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو آپ کو سنگریزوں سے بچار ہاتھا۔ میں نے کہا نبی ﷺ کے پیچھے یہ کون شخص بیٹھا ہے؟ مجھ سے کہا گیا: یہ فضل بن عباس ہیں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے: لوگو! پرسکون و سکینت کے ساتھ رہو اور باقلا کے دانے کے برابر پتھر مارو۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار جراح از یزید مولیٰ عبد اللہ بن حارث از عبد اللہ بن حارث از ام جنذب ازدیہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگو! حمرة عقبہ کے پاس اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو اور باقلا کے دانے کے برابر کنکریں لازم کرلو۔

ام حکیم بنت وداع خزاعیہ:

آپ نے اسلام قبول فرمایا تھا اور رسول اللہ ﷺ سے کئی حدیثیں روایت کرتی ہیں۔

باخبار موسیٰ بن اسماعیل و محمد بن حبابہ بنت عجلان خزاعیہ اپنی والدہ ام حفص بنت جریر سے اور وہ ام حکیم بنت وداع سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: مالدار کو فقیر (اس کے احسان کا) کیا بدلہ دے؟ فرمایا: اس کی خیر خواہی میں رہے اور اس کے لئے دعائے خیر کرتا رہے اسی اسناد سے ام حکیم نے نبی ﷺ سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔

ام مسلم اشجعیہ:

آپ بھی مسلمان ہو گئی تھیں اور رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث روایت کرتی ہیں۔

باخبار قبیضہ بن عقبہ باخبار سفیان از حبیب از شخصے از امام مسلم اشجعیہ میں اپنے چمڑے کے خیمہ میں تھی کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: یہ کتنی حسین ہے اگر مردہ نہ ہو پھر میں اس کی جستجو میں لگی رہی۔

ام کیشہ قضاعیہ:

آپ نے بھی اسلام کی سعادت حاصل کی اور رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث روایت کی۔

باخبار عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ: تحدیث حمید بن عبد الرحمن رواہی از حسن بن صالح از اسود بن قیس از سعید بن عمرو از امام مسلم: میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کی اجازت مانگی اور میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں زخمیوں کا علاج کروں گی اور بیماروں کی دیکھ بھال کروں گی۔ فرمایا: لوگ کہیں گے کہ محمد عورتوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔

ام سائب:

آپ نے رسول اللہ ﷺ کو پایا اور مشرف بہ اسلام ہوئیں۔

باخبار شبابہ بن سوار: تحدیث مغیرہ بن مسلم از ابوالزیر از جابر: نبی ﷺ ام سائب کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ ہانپ رہی تھیں۔ پوچھا: کیا بات ہے؟ کہنے لگیں: بخار ہے۔ اللہ اسے ذلیل کرے۔ فرمایا: ہائیں! خبردار! بخار کو برانہ کہنا کیونکہ بخار مسلمانوں کے گناہ اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔

قبیلہ جہنیہ:

آپ صفی کی بیٹی ہیں آپ نے اسلام کو سینہ سے لگایا اور رسول اللہ سے ایک حدیث بھی روایت کرتی ہیں۔

باخبار کعب بن جراح و محمد بن عبید از مسعودی از معبد بن خالد از عبد اللہ بن یسار از قبیلہ بنت صفی: ایک یہودی عالم نے نبی ﷺ کے پاس آ کر کہا: تم اچھے لوگ ہوتے اگر شرک نہ کرتے۔ نبی ﷺ نے پوچھا: ہمارا شرک کیا ہے؟ کہنے لگا: مسلمان کعبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ نبی ﷺ نے صحابہ سے فرمایا: دیکھو! اس نے اعتراض کر ہی دیا۔ آئندہ سے ہر مسلمان رب کعبہ کی قسم کھایا کرے پھر اس یہودی نے کہا: تم اچھے ہوتے اگر تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے۔ فرمایا: یہ کس طرح؟ کہنے لگا: تم کہتے ہو: جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا: اس نے جو کچھ کہا وہ تم نے سن لیا آئندہ تم کو اس طرح کہنا چاہئے: جو اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا۔

سلامہ بنت خزیمہ:

آپ اسلام لائیں اور رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث بھی روایت کی۔

باخبار کعب بن جراح از امام غراب از عقیلہ از سلامہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ ایک ایک گھنٹہ کھڑے رہیں گے اور نماز پڑھانے کے لئے کوئی امام نہ پائیں گے۔

بُسَیْرَة، حُمَیْضَة بنت یاسر کی داوی:

آپ نے مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور ایک حدیث بھی روایت کی۔

باخبار محمد بن بشر عبدی بحدیث ہانی بن عثمان اپنی والدہ حمیضہ بنت یاسر سے اپنی دادی بسیرہ سے (آپ مہاجرہ تھیں): ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ایمان والی عورتو! اپنے اوپر لا الہ الا اللہ اور تسبیح و تقدیس لازم کر لو اور غافل نہ رہو۔ ورنہ رحمت سے محروم ہو جاؤ گی اور تسبیحات پوروں پر پڑھا کرو کیونکہ انہیں زبان دے دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔
سراء بنت نبہان غنویہ:

آپ نے بھی اسلام کی بہار لوٹی اور رسول اللہ ﷺ سے چند حدیثیں بھی روایت کرتی ہیں۔

باخبار ابو عاصم ضحاک بن مخلد از ربیعہ بن عبد الرحمن غنوی بحدیث میری دادی سراء بنت نبہان (آپ جاہلیت میں ایک گھر کی مالکہ تھیں) میں نے نبی ﷺ سے سنا آپ اس دن جسے لوگ روؤس (قربانیوں والے دن) کے نام سے پکارتے ہیں اور ذی الحج کی دسویں تاریخ سے متصل ہے۔ فرما رہے تھے: یہ کونسا دن ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا: یہ ایام تشریق کا درمیانی دن ہے۔ پوچھا جانتے ہو یہ کونسا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے۔ فرمایا: یہ مشعر الحرام ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: میں اس سال کے بعد تم لوگوں سے نہیں ملوں گا۔ دیکھو تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ہر ایک کی دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس شہر میں یہ دن حرام ہے۔ میرا یہ پیغام قریب والا دور والے کو پہنچادے حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ پھر وہ تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھے گا۔ فرماتی ہیں: پھر آپ مدینہ روانہ ہو گئے اور کچھ دنوں کے بعد اپنے رب سے جا ملے۔

باخبار احمد بن حارث غسانی بصری بحدیث ساکنہ بنت جعد غنویہ بسماح سراء بنت نبہان غنویہ: میں جاہلیت میں ایک گھر کی مالکہ تھی۔ فرماتے ہیں: آپ رسول اللہ ﷺ سے اسی سند سے کئی حدیثیں روایت کرتی ہیں۔
رُزَیْنَةُ خَادِمَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

مشفربہ اسلام ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ سے کئی حدیثیں روایت کرتی ہیں۔

باخبار مسلم بن ابراہیم از علیہ بنت کیت حکلیہ اپنی والدہ امینہ سے اور وہ امۃ اللہ بنت رزینہ سے اور وہ رزینہ سے جو رسول اللہ ﷺ کی خادمہ ہیں اور آپ سے عاشورہ کے روزے کے اور وصال وغیرہ کے بارے میں کئی حدیثیں روایت کرتی ہیں۔
قبیلہ، اُمّ بنی انمار:

آپ رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث روایت کرتی ہیں۔

باخبار اسماعیل بن خالد سکری بحدیث یعلیٰ بن شیبہ کئی اسدی مولیٰ بنی اسد قریش بحدیث عبد اللہ بن عثمان بن عقیم قاری از قبیلہ ام بنی انمار: رسول اللہ ﷺ کو مہرہ پر آئے تاکہ عمرہ میں عمرے سے حلال ہو جائیں میں لکڑی پر سہارا دے کر آئی اور آپ کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں خرید و فروخت کرنے والی عورت ہوں۔ کبھی میں ایک چیز خریدنا چاہتی ہوں اور میں نے اس کی جو قیمت اپنے ذہن میں مقرر کر لی ہے۔ اس سے کم قیمت دیتی ہوں۔ پھر بڑھاتے بڑھاتے اسے اس قیمت پر لے لیتی ہوں جو قیمت میں نے اپنے ذہن میں مقرر کی تھی اسی طرح کبھی میں ایک چیز بیچنا چاہتی ہوں اور اس کی اپنے

ذہن میں مقرر کردہ قیمت سے زیادہ قیمت بتاتی ہوں۔ پھر گھٹاتے گھٹاتے اس قیمت پر بیچ ڈالتی ہوں جو قیمت میں نے اپنے ذہن میں مقرر کی تھی۔ فرمایا: قبیلہ! ایسا نہ کیا کرو۔ جب تم کسی چیز کو خریدنا چاہو تو وہی قیمت دو جس قیمت پر تم اسے خریدنا چاہتی ہو، خواہ چیز تم کو ملے یا نہ ملے اور جب تم کوئی چیز بیچنا چاہو تو جس قیمت پر اسے بیچنا چاہتی ہو وہی قیمت بناؤ خواہ وہ قیمت تم کو ملے یا نہ ملے۔
قبیلہ بنت مخزومہ تمیمیہ:

آپ آل خباب کی برادری کے ایک شخص حبیب بن ازہر کے نکاح میں تھیں۔ جس سے آپ کے بچیاں پیدا ہوئیں۔ وہ شروع اسلام میں مر گئے۔ پھر آپ سے بچیاں بچیوں کے چچا اثوب بن ازہر نے چھین لیں۔ پھر آپ آغاز اسلام میں رسول اللہ ﷺ کے فیض سے فائدہ اٹھانے کے لئے کوئی ذریعہ ڈھونڈنے لگیں اور حریث بن حسان شیبانی کے ساتھ ہو گئیں جو بکر بن وائل سے نمائندے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس جا رہے تھے اور ان کے ساتھ سرکار رسالت کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے مسائل پوچھے۔ حدیثیں سنیں اور آپ کے ساتھ وہ نماز پڑھی جس کا بیان عبداللہ بن حسان عمری نے حدیث قبیلہ میں کیا ہے۔ کیا کے ایک بیٹے کا نام حزام تھا۔ فرماتی ہیں: حزام نبی ﷺ کے ساتھ جنگ ربذہ میں شریک تھا پھر وہ روزگار کی تلاش میں خیبر چلا گیا جہاں اسے بخار چڑھا اور اسی میں فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے بچیاں چھوڑ گیا۔

عمہ العاص بن عمرو طفاوی:

آپ عاص بن عمرو کی چھوٹی بیٹی ہیں اور رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث روایت کرتی ہیں۔
باخباہر معلیٰ بن اسد غمی تجدیث ابوسہل تمام بن بزیج بحدیث العاص بن عمرو طفاوی: میں نے اپنی چھوٹی بیٹی جان سے کہ وہ اپنی قوم کے چند لوگوں میں مل کر نبی ﷺ کے پاس گئیں اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ ﷺ کوئی ایسی حدیث بیان دیجئے جس سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے۔ آپ نے تین بار فرمایا: کان کو بری لگنے والی بات سے بچ۔
ام ولد شیبہ:

باخباہر رض بن ذکین تجدیث ہشام یعنی دستوائی از بدیل از صفیہ بنت شیبہ از ام ولد شیبہ: میں نے رسول اللہ کو صفامر کے درمیان سہمی کرتے ہوئے دیکھا آپ فرما رہے تھے: اٹھ (وادی) طے نہ کی جائے مگر دوڑ کر۔
باخباہر حجاج بن نصیر بحدیث ابوالحسن محمد بن ذکوان جہضمی از بدیل بن میسرہ عقیلی از صفیہ بنت عثمان: میں ابو حنین کے گ کی کھڑکی میں تھی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو صفامر وہ کے درمیان سہمی میں یہ کہتے ہوئے سنا: وادی یعنی بطن میل (وادی کا نشہ حصہ) بھاگ کر ہی طے کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنا تہبند اٹھا رکھا تھا حتیٰ کہ میری نکاح آپ کے گھٹنوں پر پڑ گئی۔
خلیدہ:

آپ قیس بن ثابت بن خالد بن اشجع وہمانی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ سے براء بن معرور سلمی نے جو سرداروں میں سے ایک سردار تھے نکاح کیا۔ جن سے آپ کے بشر بن براء پیدا ہوئے۔ بشر بدر میں شریک تھے۔ آپ نے بھی نبی ﷺ کے ساتھ بکری کا زہر ملا ہوا گوشت کھایا تھا۔ خلیدہ نے اسلام لاکر نبی ﷺ سے بیعت کی اور آپ سے روایت بھی کرتی ہیں۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن سعد بن عاصم بن عمر بن قتادہ از محمود بن لبید از امام بشر بن براء: میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا مردے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے؟ فرمایا: تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں یا میری پیشانی خاک آلود ہو۔ پاکیزہ نفس جنت میں سبز پرندہ ہے اگر پرندے درختوں پر ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں تو جنتی بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔

باخبار اسماعیل بن عبد اللہ بن خالد سکری، محمد بن محمد بن سلمہ از محمد بن اسحاق از ابن ابی نجیح از مجاہد از امام بشر بن براء بن حرور: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے۔ کیا میں تم لوگوں کو بہترین شخص کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ کیوں نہیں، ضرور خبر دیجئے۔ فرمایا: (مغرب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے) بہترین وہ شخص ہے جو اپنے ٹھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے اور اسے حملہ کرنے کا یا حملہ کئے جانے کا انتظار ہے۔ کیا میں تم کو اس کے بعد بہترین شخص کی خبر دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! ضرور خبر دیجئے۔ آپ نے حجاز کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا: اس کے بعد وہ شخص ہے جو اپنی کمریوں میں ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اپنے مال میں اللہ کا حق جانتا ہے اور لوگوں کی شرارتوں سے بچنے کے لئے طبعاً ہوا گیا ہے۔

باخبار محمد بن عمر بن محمد بن عمرو مالک از عمروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ ﷺ کے مرض الموت میں ام بشر آپ کی خدمت حاضر ہوئیں۔ آپ کو بخار تھا، ام بشر نے آپ کو چھو کر کہا: آپ پر جیسا بخار ہے ایسا بخار میں نے کسی پر نہیں دیکھا۔ فرمایا: جس رح ہمارا اجر عظیم ہے اسی طرح ہماری تکلیف بھی عظیم ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے کہا لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو تالجب (منویا، درد پہلو) ہے۔ فرمایا: اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ مجھے ذات الجذب میں مبتلا فرمائے۔ وہ تو شیطان کی طرف سے دن ہی ہوتا ہے البتہ جو نوالہ میں نے اور تمہارے بیٹے نے خیر کے دن کھالیا تھا یہ بخار اسی کا اثر ہے۔ اس کے اثر سے مجھے برابر رہ پڑا کرتا تھا حتیٰ کہ یہ دورہ پڑا اور میری شاہ رگ کے کٹنے کا وقت آ پہنچا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کو شہادت نصیب ہوئی۔



قبیلہ اوس کی بیعت کرنے والی انصاریہ خواتین اسلام

الرباب

آپ نعمان بن امرئ القیس بن زید بن عبدالاشہل کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ معاذہ بنت اسد بن قیس بن عبید بن زید بن معاویہ بن مالک بن نجار ہیں یہ لوگ بنو عدیلہ ہیں۔ رباب سعد بن معاذ کی پھوپھی ہیں۔ آپ نے زرارہ بن عمرو بن عدی بن حارث بن مرہ بن کعب سے شادی کی اور وہ ظفر بن خزرج بن عمرو ہیں اور وہ عبید بن مالک بن اوس ہیں۔ رباب و زرارہ سے معاذ بن زرارہ پیدا ہوئے جو ابو سلمہ صحابی کے والد ہیں۔ پھر رباب سے معمر بن معمر بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ خزرجی نے شادی کی جن سے آپ کے براء بن معمر پیدا ہوئے۔ بارہ نقباء میں سے آپ بھی ایک نقیب (سر دار) ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت سے قبل ہی براء فوت ہو گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ کی قبر پر جا کر آپ کے جنازے کی نماز پڑھی رباب کو شرف اسلام و بیعت حاصل ہے۔

عقر ب:

آپ معاذ بن نعمان بن امرئ القیس کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ کعبہ بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن الجبر ہیں اور وہ خدرہ بن عوف بن حارث بن خزرج ہیں اور عقر ب سعد بن معاذ کی سگی بہن ہیں۔ عقر ب کا نکاح یزید بن کرز بن زعمراء بن عبدالاشہل سے ہوا جن سے رافع اور حواء دو بیٹے پیدا ہوئے پھر عقر ب سے قیس بن عظیم بن عدی بن عمرو بن سواد بن ظفر نے نکاح کیا جن سے یزید پیدا ہوئے (قیس کی کنیت یزید ہی کے نام پر تھی آپ جسر ابو عبید والی جنگ میں قتل ہوئے اور ثابت بھی) عقر ب کو اسلام و بیعت کی سعادت حاصل ہے۔

ہند:

آپ سماک بن عحیک بن امرئ القیس بن زید بن عبدالاشہل کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ ام جندب بنت رفاعہ بن زہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف اوسی ہیں آپ اسید بن حنیر کی پھوپھی ہیں۔ ہند سے سعد بن معاذ نے نکاح کیا جن سے آپ کے عمرو اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ ہند سے اوس بن معاذ بن نعمان نے بھی نکاح کیا جن سے حارث پیدا ہوئے۔ حارث بدر میں شریک تھے ہند کو بھی اسلام و بیعت کی سعادت حاصل ہے۔

امامہ:

آپ بھی سماک بن عحیک اور ام جندب کی بیٹی ہیں اور اسید بن حنیر کی پھوپھی ہیں۔ امامہ سے شریک بن انس نے شادی

کی جن سے عبداللہ ام صحرا، ام سلیمان اور حبیہ چار بچے پیدا ہوئے۔ آپ کو بھی اسلام و بیعت کا شرف حاصل ہے۔
حواء:

آپ رافع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشہل کی بیٹی ہیں۔ محمد بن عمر نے ان کا اسی طرح نسب بیان کیا ہے اور انہیں بیعت کرنے والی خواتین میں شامل فرمایا ہے۔ لیکن ہم انصار کے نسب میں رافع بن قیس کی صرف ایک بیٹی صعبہ پاتے ہیں۔ آپ کی والدہ خزیمہ بنت عدی بن عیس بن حرام بن جندب آل عدی بن نجار میں سے ہیں۔ صعبہ ابوالحسیر انس بن رافع بن امری القیس کی بہن ہیں۔

ام ایاس:

آپ انس بن رافع کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ ام شریک بنت خالد بن حنیس بن لوذان بن عبدوڈ بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ ہیں۔ ام ایاس سے ابوسعید بن طلحہ بن ابی طلحہ جو بنی عبدالدار بن قصی سے ہیں نکاح کیا ام ایاس کو بھی اسلام و بیعت کی سعادت حاصل ہے۔

ام الحکم:

آپ کا نام وژہ بنت عقبہ بن رافع بن امری القیس ہے۔ آپ کی والدہ ام البہین بنت حدیفہ بن ربیعہ بن سالم بن معاویہ بن ضرار بن ذبیان ہیں۔ جو قضاہ کے بنو سلیمان بن سعد ہزیم میں سے ہیں۔ آپ محمود بن لبید بن عقبہ کی پھوپھی ہیں۔ ام الحکم نے قیس بن مخرمہ بن مطلب بن عبدمناف بن قصی سے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ آپ بھی اسلام و بیعت کے شرف سے مالا مال ہیں۔

ام سعد:

آپ عقبہ بن رافع بن امری القیس کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ سلمہ بنت عمرو بن حنیس بن لوذان ہیں۔ آپ محمود بن لبید کی بھی پھوپھی ہیں۔ آپ کا دوسرا نکاح قیس بن مخرمہ بن مطلب بن عبدمناف سے آپ کی بہن وژہ بنت عقبہ کے فوت ہونے کے بعد ہوا۔ ام سعد کو اسلام و بیعت کی سعادت حاصل ہے۔

خولہ:

آپ بھی عقبہ بن رافع کی اور سلگی بنت عمرو کی بیٹی ہیں اور محمود بن لبید کی پھوپھی ہیں۔ خولہ نے حارث بن صہبہ بن عتیک سے جو بنو مالک بن نجار کے بنو عمرو بن مہذول سے ہیں۔ نکاح کیا جن سے سعد پیدا ہوئے پھر ان سے عبداللہ بن قتادہ بن نعمان بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر اوسی نے نکاح کیا جن سے عمرو پیدا ہوئے۔ خولہ کو بھی اسلام و بیعت کی سعادت حاصل ہے۔

عمیرہ:

آپ یزید بن سکن بن رافع بن امری القیس کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ ام سعد بنت خزیمہ بن مسعود بن قلیح بن حراش بن عبدالاشہل ہیں۔ عمیرہ کا نکاح منظور بن لبید بن عقبہ بن رافع بن امری القیس سے ہوا جن سے حارث اور عثیرہ دو بچے پیدا

ہوئے۔ آپ کو بھی اسلام و بیعت کی سعادت حاصل ہے۔

ام عامر شہلیہ:

آپ کا نام فکیہہ یا اسماء بنت یزید بن سکن بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشہل ہے اور آپ کی والدہ ام سعد بنت خزیم بن مسعود بن قلع بن حریش بن عبدالاشہل ہے آپ کو اسلام و بیعت اور چند روایات کی سعادت حاصل ہے۔ آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بعض غزوات میں بھی شریک رہیں۔

باخبار اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اویس بحدیث ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ از عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن ثابت بن صامت انصاری از ام عامر بنت یزید بن سکن (جو بیعت شدہ تھیں) میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کچھ ہڈیاں پیش کیں۔ آپ نے ان سے مسجد بنواشہل میں گوشت کھایا۔ پھر آپ نے نماز پڑھ لی اور وضو نہیں کیا۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ از عبداللہ بن ابی سفیان از ابوسفیان از ام اسماء بنت یزید بن سکن: میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ نے ہماری مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر میں اپنے گھر آئی اور آپ کے پاس گوشت روٹی لے کر حاضر ہوئی۔ اور میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں رات کا کھانا تناول فرما لیجئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا: اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ چنانچہ آپ نے اور صحابہ نے جو آپ کے ساتھ آئے تھے اور گھر والوں نے جو گھر میں موجود تھے سب نے کھانا کھایا۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں نے دیکھا بعض بوئیاں جوں کی توں باقی ہیں اور اکثر روئیاں بھی باقی ہیں۔ حالانکہ چالیس آدمی کھانے والے تھے۔ پھر آپ نے ہماری ایک پرانی مٹک سے پانی پیا اور واپس تشریف لے گئے۔ میں نے اس مٹک پر روغن مل کر اور اسے لپیٹ کر رکھ دیا۔ پھر اس کا پانی پیاروں کو اور مرنے والوں کو برکت و عافیت کے لئے پلایا کرتے تھے۔ ام عامر اہلبیتہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ خیبر میں شریک تھے۔

باخبار فضل بن دکنین بحدیث سفیان بن عیینہ از عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین از شہر بن حوشب از اسماء بنت یزید: ہمارے پاس سے رسول اللہ ﷺ نزرے میں بھی عورتوں میں تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ہم نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ باخبار خالد بن مخلد بحدیث ابی بحدیث ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ بسامع عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن ثابت انصاری: ام عامر بنت یزید جو رسول اللہ ﷺ سے بیعت کر چکی تھیں۔ آپ کے پاس گوشت لائیں۔ آپ نے اسے کھایا پھر وضو کے بغیر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔

الرباب:

آپ کعب بن عدی بن عبدالاشہل کی بیٹی ہیں۔ آپ نے یزید بن جابر ہنسی سے جو عوسس کے حلیف تھے نکاح کیا۔ جن سے حذیفہ، سعد، صفوان، مندج اور لیلیٰ پانچ بچے پیدا ہوئے۔ رباب کو اسلام و بیعت کا شرف حاصل ہے۔

اتم نیار:

آپ زید بن مالک بن عدی بن کعب بن عبدالاشہل کی بیٹی ہیں اور سعد بن زید اشہلی کی بہن ہیں۔ سعد بیعت العقیقہ اور بدر میں شریک تھے۔ محمد بن عمر نے ان کا نسب اسی طرح بیان کیا ہے اور ان کو بیعت کرنے والی خواتین میں شامل کیا ہے لیکن ہم

انصار کے نسب کی کتاب میں ان کا ذکر نہیں پاتے۔

ام عمرو:

آپ سلامہ بن وقش بن زعبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ سلمی بنت سلمی بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ ہیں۔ آپ سلمہ بن سلامہ کی سگی بہن ہیں جو بیعت عقبہ اور بدر میں شریک تھے۔ ام عمرو نے محمد بن مسلمہ بن سلمہ سے شادی کی جن سے ان کے اولاد ہوئی۔ ام عمرو کو اسلام و بیعت کی سعادت حاصل ہے۔

نا نکلہ:

آپ ام عمرو بنت سلامہ کی بہن ہیں اور آپ کی والدہ ام عمرو بنت عتیک ہیں اور سلمہ بن سلامہ کی علاقائی بہن ہیں۔ نا نکلہ نے عبداللہ بن سماک بن عمرو بن غزیہ غسانی سے نکاح کیا جو بنو معاویہ بن مالک اوسی کے حلیف تھے۔ نا نکلہ کی ان سے اولاد ہے۔ پھر آپ سے قیس بن کعب بن قین بن کعب بن سواد سلمی نے نکاح کیا جن سے سہل پیدا ہوئے جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نا نکلہ کو بھی اسلام و بیعت کی سعادت حاصل ہے۔

عقرب:

آپ بھی سلامہ بن وقش کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ سمیہ بنت عبداللہ بن رفاعہ بن بجدہ بن نمیر واقفی اوسی ہیں۔ آپ سلمہ بن سلامہ کی علاقائی بہن ہیں۔ آپ نے رافع بن یزید بن کرز بن زعوراء بن عبدالاشہل سے نکاح کیا جن سے اسید پیدا ہوئے۔ عقرب کو بھی شرف اسلام و بیعت حاصل ہے۔

الحیاء:

آپ سلکان بن سلامہ بن وقش بن زعبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ ام سہل بنت رومی بن وقش ہیں۔ آپ کو اسلام کی سعادت حاصل ہے اور عبداللہ بن محمد بن عمارہ کی روایت کی رو سے بیعت کی بھی۔ محمد بن عمر: آپ کا نام عبادہ ہے اور آپ ابو نا نکلہ سلکان بن سلامہ کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ سلکان کی ان کے سوا کوئی اور بیٹی نہ تھی۔ مؤرخین کا الحیاء کے نام میں اختلاف ہے۔

ام حظلہ:

آپ رومی بن وقش بن زعبہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ سمیہ بنت عبداللہ بن رفاعہ بن بجدہ بن نمیر واقفی اوسی ہیں۔ آپ سے ثعلبہ بن انس بن عدی بن زعوراء بن عبدالاشہل نے نکاح کیا جن سے آپ کے اولاد ہوئی۔ آپ کو بھی شرف اسلام حاصل ہے اور محمد بن عمر کی روایت کی رو سے شرف بیعت بھی۔

ام سہل:

آپ رومی بن وقش بن زعبہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ سمیہ بنت عبداللہ بن رفاعہ بن بجدہ بن نمیر واقفی اوسی ہیں۔ آپ نے سلکان بن سلامہ سے نکاح کیا جن سے آپ کے اولاد ہوئی۔ ام سہل کو بھی سعادت اسلام حاصل ہے اور محمد بن عمر کی روایت کی رو سے سعادت بیعت بھی۔

امامہ:

آپ بشر بن دقش بن زغبہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی بن ابی غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج ہیں۔ آپ عباد بن بشر کی بہن ہیں جو نہ صرف بدر میں بلکہ تمام غزوات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ امامہ نے محمود بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ اوسی سے نکاح کیا جن سے آپ کے اولاد ہوئی۔ محمد بن عمر لکھتے ہیں کہ امامہ بنت بشر علی بن اسد بن عبید بن سعید ہدلی کی والدہ ہیں۔ بدل قرظہ کے بھائی ہیں اور بنو قرظہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ لیکن عبد اللہ بن محمد بن عمارہ کہتے ہیں کہ علی بن اسد کی والدہ ام علی بنت سلامہ بن دقش بن زغبہ ہیں۔ امامہ کو بھی اسلام کی سعادت حاصل ہے اور محمد بن عمر کے قول کی رو سے بیعت کی بھی۔

حواء:

آپ زید بن سکس بن کرز بن زعوراء بن عبدالاشہل کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ عقرب بنت معاذ بن نعمان بن امرئ القیس ہیں۔ حواء رافع بن زید کی جو بدر میں شریک تھے بہن ہیں۔ آپ سے قیس بن خطیم بن عدی بن عمرو بن سواد بن ظفر نے نکاح کیا جن سے آپ کے ثابت پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ ہی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے قیس بن خطیم کو وصیت کی تھی۔ آپ مکہ میں قدیم الاسلام ہیں اور آپ بہترین خاتون اسلام ثابت ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ کو آپ کے اسلام کی خبر لگ گئی اتفاق سے آپ نے مکہ کی مشہور منڈی ذوالحجاز میں قیس بن خطیم کو پایا اور اس کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کا شوق دلایا۔ قیس نے کہا: آپ کی دعوت کتنی اچھی ہے اور جس کی طرف آپ بلا تے ہیں وہ امر بلاشبہ اچھا ہے لیکن اس کام میں دلچسپی لینے سے مجھے لڑائی نے روک رکھا ہے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ قیس کو ان کی کنیت سے خطاب کر کے اسلام لانے پر اسرار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اے ابوزید! تمہاری رفیقہ حواء کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے اور قیس آپ کو حسب سابق جواب دیتے رہے۔ آخر کار آپ نے فرمایا: ابوزید! تمہاری رفیقہ حواء کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ تم ان سے جب سے بیزار ہو گئے ہو جب سے وہ تمہارے دین سے ہٹی ہیں۔ لہذا اللہ سے ڈراؤ اور ان کے بارے میں میری بات مانو اور انہیں نہ چھیڑو۔ بولے: ہاں! آپ کی خاطر میں ایسا ہی کروں گا اور میں ان سے بھلائی ہی سے تعرض کروں گا اس سے قبل قیس ان سے بہت بری طرح پیش آتے تھے پھر قیس نے مدینہ آ کر حواء سے کہا: میں نے تمہارے نبی محمد ﷺ سے ملاقات کی اور آپ نے مجھ سے درخواست کی کہ میں آپ کی خاطر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ میں اللہ کی قسم وہ وعدہ پورا کروں گا جو وعدہ میں نے آپ سے کر لیا ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم! میری طرف سے تمہیں آئندہ کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ حواء اپنا اسلام جسے وہ چھپایا کرتی تھیں ظاہر کر دیا اور قیس نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس سلسلہ میں قیس سے کہا جاتا تھا کہ اے ابوزید! تمہاری بیوی محمد کے دین کی پیروکار بن گئی۔ اس کا قیس یہ جواب دیا کرتے تھے: میں نے محمد سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کروں گا اور اس کے بارے میں آپ کی بات کا خیال رکھوں گا۔

امیمہ:

آپ عمرو بن سہل بن معبد بن خزیمہ بن قلع بن حریش بن عبدالاشہل کی بیٹی ہیں۔ آپ نے بھی اسلام لا کر بقول محمد بن عمر

آپ سے بیعت کی۔

ہند:

آپ سہل بن زید بن عامر بن عمرو بن جشم راجی کی بیٹی ہیں۔ عمرو بن جشم عبدالاشہل بن جشم کے بھائی ہیں۔ آپ نے بھی اسلام قبول فرما کر بقول محمد بن عمرو اور عالمؓ سے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔

ملیکہ:

آپ ہند بنت سہل کی بہن ہیں اور ابوہشیم بن تیمان کی بیوی ہیں جن سے آپ کے اولاد ہوئی۔ آپ نے بھی اسلام لا کر بقول محمد بن عمر آپ سے بیعت کی۔

صعبہ:

آپ بھی ہند بنت سہل کی بہن ہیں آپ نے بھی اسلام لا کر بقول محمد بن عمر آپ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

امیمہ:

آپ ابوالبہشیم مالک بن تیمان بن مالک بن بلی قضاہ (جو بنو عبدالاشہل کے حلیف ہیں) کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ ملکہ بنت سہل بن زید بن عامر بن عمرو بن جشم ہیں۔ آپ نے بھی اسلام قبول کر کے بقول محمد بن عمر آپ سے بیعت کی۔

فاطمہ:

آپ یمان کی صاحبزادی ہیں اور حذیفہ بن یمان عسی کی ہمیشہ ہیں یہ لوگ بنی عبدالاشہل کے دوست اور حلیف تھے۔ آپ کو بھی اسلام کی بیعت کی اور روایت کی سعادت حاصل ہے۔

باخبار ابو عامر عبدالملک بن عمرو عقیقی، محمد بن شعبہ از حصین بن عبدالرحمن، بسماع ابو عبیدہ بن حذیفہ اپنی پھوپھی جان فاطمہ سے: میں نے عورتوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی عیادت کی۔ میں نے دیکھا کہ شدت بخار کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک مشک لٹکی ہوئی ہے اور اس سے آپ پر قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! کاش آپ اللہ سے دعا فرماتے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ تکلیف دور فرما دیتا۔ فرمایا: انبیاء کو سب سے زیادہ دکھ پہنچائے جاتے ہیں پھر ان کے قریب والوں کو پھر ان کے قریب والوں کو۔

باخبار محمد بن عبداللہ اسدی و قبیصہ بن عقبہ بن سفیان از منصور از زبیری بن حراش کسی عورت سے اور وہ حذیفہ کی بہن سے (حذیفہ کی بہنوں نے نبی ﷺ کو پایا ہے)۔ نبی ﷺ نے ہم سے ایک خطبہ میں فرمایا: عورتو! کیا تمہیں چاندی کے زیورات کافی نہیں؟ دیکھو! تم میں جو عورت سونے کا زیور پہن کر اس کا اظہار کرے گی اسے ضرور عذاب دیا جائے گا۔ منصور کہتے ہیں میں نے اس کا ذکر مجاہد سے کیا۔ فرمایا: میں نے ان بہنوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ان کے کرتوں کی آستینوں میں مٹن لگے رہتے تھے تاکہ ان کی انگوٹھیاں چھپی رہیں۔



بنو حارثہ بن خزرج (نبیت بن مالک بن اوس) میں سے

بیعت کرنے والی خواتین اسلام

امامہ:

آپ خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن ہشم بن حارثہ کی بیٹی ہیں اور رافع بن خدیج کی بہن ہیں۔ محمد بن عمر نے یہی

کہا ہے۔

امامہ:

آپ رافع کی بیٹی ہیں آپ کو اسلام و بیعت کی سعادت حاصل ہے۔ آپ کی والدہ حلیمہ بنت عمرو بن مسعود بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن یحییٰ بن خزیج ہیں۔ امامہ سے اسید بن ظہیر بن رافع بن عدی بن زید بن ہشم بن حارثہ اوسی نے نکاح کیا جن سے ثابت محمد ام کلثوم اور ام حسن چار بچے پیدا ہوئے۔

عمیرہ:

آپ ظہیر بن رافع بن عدی بن زید بن ہشم بن حارثہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی بن ابی بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف (جو خزرج کے بنو قیل سے ہیں اور بنو عبد الأشمل کے حلیف ہیں) ہیں۔ آپ سے مرلیح بن قیظی بن عمرو بن زید بن ہشم بن حارثہ اوسی جن سے آپ کے زید صرارہ، عبد الرحمن اور عبد اللہ پیدا ہوئے۔ آخر الذکر دونوں جنگ جمر میں شہید ہوئے اور کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ عمیرہ نے مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

لیلیٰ:

آپ نہیک بن یساف بن عدی بن زید بن ہشم بن حارثہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ ام عبد اللہ بنت اسلم بن حریش بن مجدہ بن حارثہ بن حارثہ ہیں۔ لیلیٰ سے سہل بن ربیع بن عمرو بن عدی بن زید نے نکاح کیا۔ لیلیٰ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

شکبہ:

آپ ربیع بن عمرو بن عدی بن زید بن ہشم بن حارثہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ سہلہ بنت امری القیس بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدہ بن حارثہ ہیں۔ شکبہ سے اوس بن قیظی بن عمرو بن زید بن ہشم بن حارثہ نے شادی کی جن سے عبد اللہ کہا بش اور عرابہ تین بچے پیدا ہوئے آپ کو بھی اسلام و بیعت کی سعادت حاصل ہے۔

جمیلہ:

آپ صفی بن عمرو بن زید بن حشم بن حارثہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ نوار بنت قیس بن لوذان بن ثعلبہ بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حارثہ ہیں۔ جمیلہ ثعلبہ بن زید بن عمرو بن زید بن حشم بن حارثہ کی اخیانی بہن ہیں۔ آپ سے تنیک بن قیس بن ہبشہ بن حارثہ بن امیہ بن معاویہ نے جو بنی عمرو بن عوف سے ہیں نکاح کیا۔ جمیلہ کو بھی شرف اسلام و بیعت از رسول اللہ ﷺ حاصل ہے۔

امیمہ:

آپ عقبہ بن عمرو بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ ام عمیر بنت عمرو بن عدی (جو بنو تمیم کے بنو حنظلہ ہیں) ہیں۔ امیمہ سے کھل بن تنیک بن نعمان بن عمرو نے جو اولاد مذبول یعنی عامر بن مالک بن نجار سے ہیں نکاح کیا۔ امیمہ نے مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

ام عامر:

آپ سلیم بن صبح بن عامر بن مجدعہ بن حشم بن حارثہ کی صاحبزادی ہیں۔ ام عامر کا نام حبابہ ہے اور آپ کی والدہ سعاد بنت عامر بن عدی بن حشم بن مجدعہ بن حارثہ ہیں۔ آپ سے اسید بن ساعدہ بن عامر بن عدی بن حشم بن مجدعہ بن حارثہ نے شادی کی جن سے آپ کے یزید پیدا ہوئے۔ آپ کو اسلام کی سعادت حاصل ہے اور بقول عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری بیعت کی بھی۔

جمیلہ:

آپ سنان بن ثعلبہ بن عامر بن مجدعہ بن حشم بن حارثہ کی بیٹی ہیں۔ آپ سے عبید السہام بن سلیم بن صبح بن عامر نے نکاح کیا جن سے ثابت پیدا ہوئے جمیلہ کو بھی اسلام کی اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل ہے۔

عمیرہ:

آپ ابو حثمہ عبداللہ بن ساعدہ بن عامر بن عدی بن حشم کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ ام ربیع بنت اسلم بن حریش بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ ہیں آپ سے یزید بن اسید بن ساعدہ بن عامر بن عدی نے نکاح کیا پھر ان کے بعد یزید بن ربیع بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر نے نکاح کیا۔ عمیرہ کو شرف اسلام و بیعت حاصل ہے۔

ام سہیل:

آپ ابو حثمہ عبداللہ بن ساعدہ بن عامر بن عدی بن حشم بن مجدعہ بن حارثہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ حجہ بنت عمیر بن عقبہ بن عمرو بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ ہیں۔ آپ سے یزید بن براء بن عازب بن حارثہ بن عدی بن حشم بن مجدعہ نے نکاح کیا جن سے مخلد پیدا ہوئے۔ ام سہیل نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

امیہ:

آپ ام سہیل کی سگی بہن ہیں آپ سے ہلال بن حارث بن ربیعہ بن معاذ بن عقیف نے پھر ان کے بعد ابوسندر بن حصین بن بجاہ اسلمی نے نکاح کیا۔ امیہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

عمیرہ:

آپ سعد بن عامر بن عدی بن جشم بن مجدعہ بن حارثہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ ام عامر بنت سلیم بن صبح بن عامر بن مجدعہ بن جشم بن حارثہ ہیں۔ آپ سے کنانہ بن اوس بن قنیطی بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثہ نے نکاح کیا۔ عمیرہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

الوقصاء:

آپ مسحور بن عامر بن عدی بن جشم کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ کبشہ بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عامر بن ظلمہ (عبداللہ) بن جشم بن مالک بن اوس ہیں۔ آپ سے نعمان بن مالک بن عامر بن مجدعہ بن جشم بن حارثہ نے نکاح کیا و قصاء نے بھی مسلمان ہو کر شرف بیعت حاصل کی۔

النوار:

آپ قیس بن حارث بن عدی بن جشم بن مجدعہ بن حارثہ کی بیٹی ہیں۔ قیس کی کنیت آپ ہی کے نام پر ہے۔ آپ سے زید بن نویرہ بن حارث بن عدی بن جشم بن مجدعہ بن حارثہ نے نکاح کیا جس سے عازب پیدا ہوئے۔ نوار نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

ام عبداللہ:

آپ عازب بن حارث بن عامر بن جشم بن مجدعہ بن حارثہ کی بیٹی اور براء بن عازب کی سگی بہن ہیں اور آپ کی والدہ ام حبیبہ بنت ابی حبیبہ بن حباب بن انس بن زید (جو بنو مالک بن نجار سے ہیں) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ام خالدہ بنت ثابت بن سنان بن عبید بن الجبر (خدرہ) ہیں۔ ام عبداللہ نے مسلمان ہو کر سرورِ عالم ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

ام عبس:

آپ مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ ام سہم (خلیدہ) بنت ابی عبید بن وہب بن لوذان بن عبدوڈ بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ ہیں اور محمد اور محمود کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے ابو عبس بن جبر بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثہ نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ ام عبس نے بھی مسلمان ہو کر سرورِ کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ہند:

آپ محمود بن مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ شہوس بنت عمرو بن حرام بن

ثعلبہ سلمیٰ ہیں۔ آپ سے عمرو بن سعد بن معاذ بن نعمان بن امرئ القیس بن زید بن عبدالاشہل نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام منظور:

آپ ہند بنت محمود کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے لبید بن عقبہ بن رافع بن امرئ القیس بن زید بن عبدالاشہل نے نکاح کیا جن سے محمود بن لبید نقیہ، منصور اور میمونہ تین بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

ام عمرو:

آپ محمود بن مسلمہ بن سلمہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ امامہ بنت بشر بن دقش بن زعہ بن زعوراء بن عبدالاشہل بن حشم ہیں۔ آپ سے عبداللہ بن محمد بن مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ نے نکاح کیا جن سے عمرو اور حمید پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے زید بن سعد بن زید بن مالک بن عبد بن کعب بن عبدالاشہل نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام الربیع:

آپ اسلم بن حریش بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ سعادہ بنت رافع بن ابی عمرو بن عائد بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سلمہ بن اسلم بن حریش بدری کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے ابو حشمہ بن ساعدہ بن عامر بن عدی بن حشم بن مجدعہ بن حارثہ نے نکاح کیا جن سے ہبل، عمیرہ اور ام ضمیرہ تین بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

سہیمہ:

آپ اسلم بن حریش بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ سعادہ بنت رافع ہیں اور سلمہ بن اسلم بدری کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے حمیصہ بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

لبابہ:

آپ اسلم بن حریش بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ کی بیٹی ہیں اور سلمہ بن اسلم بدری کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے زید بن سعد بن مالک بن عبد بن کعب بن عبدالاشہل نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام عبداللہ:

آپ کا نام سلمیٰ ہے اور آپ اسلم بن حریش کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ ام خالدہ بنت خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ ہیں۔ آپ سلمہ بن اسلم بدری کی علاقائی بہن ہیں۔ آپ سے نہیک بن اساف بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

سلامہ:

آپ مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ اداہ بنت جموح بن زید بن حرام سلمیٰ ہیں۔ آپ خوبصورت مخیمہ اور احوں پسران مسعود بن کعب کی سگی بہن ہیں۔ سلامہ سے مرشدہ بن جبر بن مالک بن حویرث بن حارثہ نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

لیثی:

آپ قینلی بن قیس بن لوذان بن ثعلبہ بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ام حبیب بنت قراذ بن موہبہ بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ ہیں۔ آپ سے ابو ثابت بن عبد عمرو بن قینلی بن عمرو بن زید بن حشم بن حارثہ نے نکاح کیا پھر ابو احمد بن قیس بن لوذان بن ثعلبہ بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ نے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

لیلیٰ:

آپ رافع بن عمرو بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ ام براء بنت سلمہ بن عرفطہ بن مالک بن لوذان بن عمرو بن عوف اوسی ہیں یہ لوگ ہنوسمیہ کہلاتے ہیں۔ لیلیٰ سے جبر بن عمرو بن زید بن حشم بن حارثہ نے نکاح کیا جن سے ابو عیس بدری پیدا ہوئے۔ لیلیٰ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

اسماء:

آپ مرشدہ بن جبر بن مالک بن حویرث بن حارثہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ سلامہ بنت مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ ہیں۔ آپ سے ضحاک بن خلیفہ بن ثعلبہ بن عدی بن کعب بن عبد الأشہل نے نکاح کیا جن سے ثابت ابو جحیرہ ابو بکر عمر شیبہ (جن سے محمد بن مسلمہ نے شادی کی) بکرہ حمادہ اور صفیہ آٹھ بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

عمیرہ:

آپ اسماء بنت مرشدہ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے سوید بن نعمان بن مالک بن عامر بن مجدعہ بن حشم بن حارثہ نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔ بعض انصار کا بیان ہے کہ مرشدہ بن جبر نبی ﷺ کے ساتھ لڑائیوں میں شریک رہے۔

ام ضحاک:

آپ مسعود حارثیہ کی بیٹی ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور جنگ خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک رہیں۔ اسی طرح محمد بن عمرو اقدی ذکر کرتے ہیں لیکن میں نے انصار کے نسب میں ام ضحاک کو نہیں پایا۔

بنو ظفر (کعب بن خزرج بن عمرو [عبیت] بن مالک بن اوس) میں سے بیعت

کرنے والی خواتین اسلام

لیلیٰ:

آپ خطیم کی بیٹی اور قیس کی بہن ہیں اور آپ کی والدہ شریقۃ الدار بنت ہشہ بن حارث بن امیہ بن معاویہ بن مالک از بنی عمرو بن عوف ہیں۔ آپ سے جاہلیت میں مسعود بن اوس بن مالک بن سواد بن ظفر نے نکاح کیا۔ جس سے عمرہ اور عمیرہ دو بچے پیدا ہوئے۔ پھر وہ فوت ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیلیٰ آپ سے بیعت کرنے والی سب سے پہلی خاتون اسلام ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی دونوں بیٹیاں اور دونوں بیٹوں کی دونوں بیٹیاں بھی تھیں۔ لیلیٰ نے خود کو نبی ﷺ کو بہہ کر دیا تھا پھر بنو ظفر نے آپ سے اس معاملہ کے فسخ کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فسخ کر دیا اور لیلیٰ سے علیحدہ ہو گئے۔ لیلیٰ بڑی غیرت مند تھیں اور آپ کو اکلۃ الاسد (شیر کا نوالہ) کہا جاتا تھا۔

لیثی:

آپ بھی خطیم کی ام قیس، قریبہ بنت قیس بن قریم بن امیہ بن سنان بن کعب بن غنم بن سلمہ سے صاحبزادی ہیں۔ آپ سے عبداللہ بن نہیک بن اساف بن عدی بن زید بن ہشم بن حارث نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ لیثی نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

ام سہل:

آپ نعمان بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر کی دختر اور قتادہ بن نعمان بدری کی سگی بہن ہیں۔ اور آپ کی والدہ امیہ بنت قیس بن عمرو بن عبید بن مالک بن عمرو بن عامر بن غنم بن عدی النجار ہیں۔ آپ نے بھی اسلام لا کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔

حبیبہ:

آپ قیس بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر کی دختر ہیں۔ اور آپ کی والدہ عمیرہ بنت مسعود بن اوس بن مالک بن سواد بن ظفر ہیں۔ آپ سے معاذ بن حارث بن رفاعہ بن عفرأاز بنو مالک بن نجار نے نکاح کیا۔ جن سے عبید اللہ پیدا ہوئے۔ پھر ابو فضالہ بن ثابت بن قیس بن شماس بن مالک بن امرئ القیس بن مالک بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج نے نکاح کیا جن سے خارجہ ایک بچہ پیدا ہوا۔ حبیبہ بھی مسلمان ہو کر بیعت کے شرف سے سرفراز ہوئیں۔

عمرہ:

آپ مسعود بن اوس بن مالک بن سواد بن ظفر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ لیلیٰ بنت خطیم بن عدی بن عمرو بن سواد بن ظفر ہیں آپ سے محمد بن مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارث نے نکاح کیا جن سے عبداللہ پیدا ہوئے۔ عمرہ نے معہ

اپنی والدہ کے مشرف بہ اسلام ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔
عمیرہ:

آپ عمرہ بن مسعود کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے قیس بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر نے نکاح کیا جن سے حبیبہ مہالبیہ اور ام جندب (جن سے ثابت بن قیس نے نکاح کیا) پیدا ہوئیں، عمیرہ نے بھی معہ اپنی والدہ لیلیٰ کے مشرف بہ اسلام ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔

سہیمہ:

آپ مسعود بن اوس بن مالک بن سواد بن ظفر کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ شمس بنت عمرو بن حرام بن ثعلبہ بن حرام از بنو سلمہ ہیں۔ آپ سے آپ کے ماموں زاد بھائی جابر بن عبد اللہ بن عمرو بن حرام بن ثعلبہ بن حرام نے نکاح کیا جن سے عبدالرحمن اور ام حبیب دو بچے پیدا ہوئے۔ سہیمہ نے بھی اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

ام سلمہ:

آپ سہیمہ بنت مسعود کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے اوس بن مالک بن قیس بن محرت بن حارث از بنو مازن بن نجار نے نکاح کیا جن سے حارث پیدا ہوئے۔ ام سلمہ نے بھی اسلام قبول کر کے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

حبیبہ:

آپ بھی سہیمہ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے سنان بن عمرو بن طلق بن عمرو از بنو سلیمان بن سعد ہذیم نے جو ان کے حلیف ہیں نکاح کیا جن سے مفتح اور ام حارث دو بچے پیدا ہوئے۔ حبیبہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام جندب:

آپ بھی سہیمہ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے نصر بن حارث بن عبد رزاح بن ظفر نے نکاح کیا جن سے حارث پیدا ہوئے۔ ام جندب نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمیرہ:

آپ حارث بن عبد رزاح بن ظفر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ سودہ بنت سواد بن ہشیم بن ظفر ہیں آپ نصر بن حارث بدری کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے عدی بن حرام بن ہشیم بن ظفر نے نکاح کیا۔ عمیرہ نے بھی مسلمان ہو کر محمد بن عمر کی روایت کی رو سے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

بشیرہ:

آپ نعمان بن حارث بن عبد رزاح بن ظفر کی دختر ہیں۔ اور آپ کی والدہ ام صحر بنت شریک بن انس بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبد الاشہل ہیں۔ آپ سے کھل بن حارث بن عروہ بن عبد رزاح بن ظفر نے نکاح کیا جن سے ربیعہ اور ام حارث دو بچے پیدا ہوئے۔ بشیرہ نے بھی اسلام قبول کر کے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

امیمہ:

آپ بشیرہ بنت نعمان کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے عبید بن اوس بن مالک بن سواد بن ظفر نے نکاح کیا جن سے نعمان پیدا ہوئے۔ امیمہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

بشیرہ:

آپ ثابت بن نعمان بن حارث بن عبدالرزاق بن ظفر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ شملہ بنت حارث (أبیرق) بن عمرو بن حارث بن ہشیم بن ظفر ہیں۔ آپ سے ابوہنبلہ بن معاذ بن زرارہ بن عمرو بن عدی بن حارث بن مر بن ظفر نے نکاح کیا۔ بشیرہ نے بھی اسلام لاکر نبی ﷺ سے بیعت کی۔

عمیرہ:

آپ بشیرہ بنت ثابت کی سگی بہن ہیں۔ آپ نے بھی اسلام قبول کر کے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

عائشہ:

آپ جزء بن عمرو بن عامر بن عبدالرزاق بن ظفر کی دختر ہیں۔ آپ سے ابوالمہذر یزید بن عامر بن حدیدہ بن عمرو بن سواد از بنو سلمہ نے جو قطبہ بن عامر بن حدیدہ بدری کے بھائی ہیں نکاح کیا جن سے منذر اور عبدالرحمن پیدا ہوئے۔ عائشہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

خلیدہ:

آپ حباب بن جزء بن عمرو بن عامر بن عبدالرزاق بن ظفر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ بنت مدح بن الیمان بن جابر عیسیٰ حلیف بنی عبدالاشہل ہیں۔ آپ سے عبداللہ بن سعد بن معاذ بن نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشہل نے نکاح کیا لیکن لا ولد رہیں۔ آپ نے بھی اسلام قبول کر کے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام حارث:

آپ حارث بن عروہ بن عبدالرزاق بن ظفر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ سہلہ بنت امری القیس بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ ہیں۔ ام حارث نے بھی اسلام قبول کر کے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عیسآء:

آپ حارث بن سواد بن ہشیم بن ظفر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ قلابہ بنت صلی بن عمرو بن زید بن ہشیم بن حارث ہیں۔ آپ سے انس بن فضالہ بن عدی بن حرام بن ہشیم بن ظفر نے نکاح کیا جن سے محمد بن انس پیدا ہوئے اور محمد بن انس کے ۲۲ بیٹے اور پانچ بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ عیسآء نے بھی اسلام لاکر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

حبیبہ:

آپ ام حبیب بنت معتب بن عبید بن سواد بن ہشیم بن ظفر ہیں۔ آپ سے اسیر بن عروہ بن سواد بن ہشیم بن ظفر نے

نکاح کیا جن سے ابو ہریرہ پیدا ہوئے۔ حبیبہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

شمیلہ:

آپ حارث (ایبرق) بن عمرو بن حارث بن ہشیم بن ظفر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ اشمیلہ بنت عبدالمنزہ بن زبیر بن زید بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن حارث بن ہشیم بن ظفر کی دختر ہیں۔ آپ ابوالبابہ بن عبدالمنزہ کی بہن ہیں۔ شمیلہ سے ثابت بن نعمان بن حارث بن عبد رزاق بن ظفر نے نکاح کیا جن سے خالد اور بشیرہ دو بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

بریدہ:

آپ بشر بن حارث (ایبرق) بن عمرو بن حارث بن ہشیم بن ظفر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ امیمہ بنت عمرو بن عدی بن زید بن ہشیم بن حارث ہیں۔ آپ سے عباد بن نہیک بن اساف بن عدی بن زید بن ہشیم بن حارث نے نکاح کیا پھر ان کے بھائی ابو معقل جن سے عبد اللہ پیدا ہوئے۔ پھر بزدہ بن اسیر بن عروہ بن سواد بن ہشیم بن ظفر نے جن سے معتب پیدا ہوئے بریدہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر سرور کائنات ﷺ سے بیعت کی۔

ام سماک:

آپ فضالہ بن عدی بن حرام بن ہشیم بن ظفر کی دختر ہیں اور انس و منس کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی والدہ سوودہ بنت سوید بن حرام بن ہشیم بن ظفر ہیں۔ ام سماک نے بھی اسلام قبول فرما کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

بنو عمرو بن عوف بن مالک بن اوس میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام

الشموس:

آپ راہب بن ابو عامر (عبد عمرو) بن صفی بن نعمان بن مالک بن امہ بن ضبیعہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ عقیقہ بنت حارث از بنی واقف ہیں۔ شمس سے ثابت بن ابوالاقلح (قیس) بن عصیمہ بن مالک بن ضبیعہ نے شادی کی جن سے عاصم بدری پیدا ہوئے۔ عاصم جنگ رجع میں شہید ہوئے اور آپ کی لاش کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کی اور جمیلہ بنت ثابت بھی بیعت شدہ ہیں جن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا اور عاصم پیدا ہوئے۔ شمس نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر بیعت کی۔

حبیبہ:

آپ شمس بن عامر کی علاقائی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ سللی بنت عامر بن حدیفہ بن عامر بن عمرو بن حجابہ بن کلفہ از بنی عمرو بن عوف ہیں۔ آپ سے زید بن خطاب بن نفیل عدوی نے نکاح کیا جن سے اسماء پیدا ہوئیں پھر سعد بن خیشم نے نکاح کیا جن سے عبد اللہ پیدا ہوئے حبیبہ نے بھی مسلمان ہو کر سرکار رسالت سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

عصیمہ:

آپ ابوالقح (قیس) بن عصیمہ بن مالک بن امہ بن ضبیعہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ فارعہ بنت صفی بن نعمان بن مالک بن امت بن ضبیعہ ہیں۔ آپ سے عامر بن ابوعامر راہب نے نکاح کیا۔ عامر لا ولد رہے۔ عصیمہ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

جمیلہ:

آپ عصیمہ کی بہن ہیں اور ام عاصم بن عمرو ہیں آپ سے حضرت عمر نے نکاح کیا پھر زید بن جاریہ بن عامر بن مہج بن عطف بن ضبیعہ نے جن سے عبدالرحمن پیدا ہوئے جمیلہ نے بھی مسلمان ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔

شموس:

آپ نعمان بن عامر بن مہج بن عطف بن ضبیعہ بن زید کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ سالمہ بنت مطرف بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف ہیں۔ آپ سے ابوسفیان بن حارث بن قیس بن زید بن ضبیعہ نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی شمس نے بھی اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

تمیمہ:

آپ ابوسفیان بن حارث بن قیس بن زید بن ضبیعہ بن زید کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ شمس بنت نعمان بن عامر بن مہج بن عطف بن ضبیعہ ہیں آپ سے عبداللہ بن اہل بن عدی بن زید بن کعب بن عائشہ از بنی واقف از اوس ہیں۔ تمیمہ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

لیلیٰ:

آپ تمیمہ بنت ابوسفیان کی علاقہ بہن ہیں۔ آپ کی والدہ سلمیٰ بنت عمرو بن بھر بن عجرہ از ہذیل ہیں۔ آپ سے معاذ بن عامر بن جاریہ بن مہج بن عطف بن ضبیعہ نے نکاح کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سے بکیر بن جاریہ بن عامر بن مہج نے نکاح کیا لیلیٰ نے بھی اسلام لا کر بیعت کی۔

عائشہ:

عبداللہ بن محمد بن عمارہ نے آپ کا نام مریم بتایا ہے۔ آپ لیلیٰ بنت ابی سفیان کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے معاذ بن عامر بن جاریہ بن مہج بن عطف بن ضبیعہ نے نکاح کیا آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

لبابہ:

آپ ابولبابہ بن عبدالمنذر ہیں۔ رفاعہ بن زبیر بن زید بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ نسیمہ بنت فضالہ بن نعمان بن قیس بن عمرو بن زید بن امیہ بن زید ہیں۔ آپ سے زید بن خطاب بن نفیل نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ پھر زید جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد لبابہ سے ابوسعید بن اوس بن معلیٰ بن لوذان نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔

سے اولاد ہوئی۔ لہذا یہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

نسبیہ:

آپ سماک بن نعمان بن قیس بن عمرو بن امیہ بن زید کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ بسامہ بنت عبد اللہ بن لعیہ بن عبید بن عمرو بن زید ہیں آپ سے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ از بنی عبدالدار بن قصی نے شادی کی جن سے اولاد ہوئی پھر بجاہ بن عثمان بن عامر بن مجح بن عطف بن ضبیحہ نے نسبیہ نے بھی اسلام لا کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔

اعیہ:

آپ ساعدہ بن عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن امیہ کی دختر ہیں اور عویم بن ساعدہ بدری کی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ عمیرہ بنت سالم بن سلمہ بن امیہ بن زید بن مالک ہیں۔ آپ سے عمرو بن سراقہ بن حارثہ از بنی عدی بن نجار نے نکاح کیا۔ امیہ نے مشرف بہ اسلام ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

عمیرہ:

آپ عمیر بن ساعدہ بن عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن امیہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ امامہ بنت بکیر بن ثعلبہ بن جدیہ بن عامر بن کعب بن مالک بن غضب بن جشم بن خزرج ہیں۔ آپ سے بجاہ بن عثمان بن عامر بن مجح بن عطف بن ضبیحہ نے نکاح کیا۔ عمیرہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

حفصہ:

یعنی ام زرارہ بنت حاطب بن عمرو بن عبید بن امیہ بن زید آپ حارث بدری و ثعلبہ بدری پسران حاطب کی ہمیشہ ہیں اور ان سب کی والدہ امامہ بنت صامت بن خالد بن عطیہ بن حوطہ بن حبیب بن عمرو بن عوف ہیں۔ حفصہ نے بھی اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

سعیدہ:

آپ بشیر بن عبید بن عمرو بن عبید بن امیہ بن زید کی دختر ہیں۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمیرہ:

آپ کلثوم بن ہدم بن امرئ القیس بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف کی دختر ہیں۔ آپ سے عتبہ بن عویم بن ساعدہ بن عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن امیہ نے نکاح کیا۔ عمیرہ نے بھی اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمیرہ:

آپ ام عمرہ ہیں۔ آپ عبید بن مطرف بن حارث بن زید بن عبید بن زید کی دختر ہیں۔ آپ سے ثعلبہ بن سنان بن عامر

بن عدی بن امیہ بن بیاضہ نے نکاح کیا جن سے لبید اور عمرہ دو بچے پیدا ہوئے۔ عمیرہ نے بھی اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

بنی عبید بن زید بن مالک بن عوف میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام

ثبیہ:

آپ یعار کی بیٹی اور ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کی بیوی ہیں۔ آپ ہی نے سالم کو آزاد کیا تھا۔ پھر ابو حذیفہ نے انہیں بیٹا بنا لیا تھا۔ آپ نے بھی اسلام لا کر بقول محمد بن عمر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

سلی:

آپ ثبیہ بنت یعار کی بہن ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

النوار:

آپ حارث بن قیس بن پیشہ بن حارث بن امیہ بن معاویہ بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف کی دختر ہیں۔ آپ سے قتیلی بن عمرو بن زید بن شمس بن حارثہ نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ نوار نے بھی مسلمان ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔

کبشہ:

آپ حاطب بن قیس بن پیشہ بن حارث بن امیہ بن معاویہ بن مالک کی دختر ہیں۔ آپ سے ابو نملہ بن معاذ زرارہ ظفری نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ پھر ان کے بعد بشیر بن امیہ بن عامر بن شمس بن حارثہ اوسی نے کیا جن سے اولاد ہوئی۔

ام ثابت:

آپ جبر بن عتیک بن قیس بن پیشہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ہضہ بنت عمرو بن مالک بن سبیح ہیں۔ آپ سے عتیک بن حارث بن عتیک بن قیس بن پیشہ نے نکاح کیا۔ ام ثابت نے بھی اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمیرہ:

آپ محمد بن عقبہ بن اجمہ بن جراح بن حریش بن نجباء بن کلفہ بن عمرو بن عوف کی صاحبزادی اور منذر بن محمد بن عقبہ بدری کی سگی بہن اور آپ کی والدہ ہذیل کے آل ابی فروہ میں سے ہیں۔ آپ سے عبید بن ناقد بن صہیبہ بن اصرم بن نجباء بن کلفہ نے نکاح کیا جن سے فضالہ پیدا ہوئے۔ عمیرہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر سرکار رسالت ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

نسبہ:

آپ نیار بن حارث بن بلال بن اجمہ بن جراح کی دختر ہیں۔ آپ سے عقبہ بن عتودہ بن عقبہ بن اجمہ بن جراح نے نکاح کیا۔ نسبہ بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کر چکی ہیں۔

سمیہ:

آپ معبد بن بشیر بن اہل بن اجمہ بن جلاح کی بیٹی ہیں آپ سے عبد اللہ بن ابی احمد نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

مطیعہ:

آپ نعمان بن مالک بن حدیفہ بن عامر بن عمرو بن حجاب کی دختر ہیں۔ آپ سے جزء بن مالک بن عامر بن حدیفہ نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ آپ کا نام عاصیہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے مطیعہ سے بدل دیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

فریحہ یا قریبہ:

آپ قیس بن عمیر بن لوذان بن ثعلبہ بن حارث بن مجدعہ بن عمرو بن ششم کی دختر ہیں۔ ششم کو بخرج بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کبشہ بنت عمرو بن ششم بن وائل بن زید بن قیس بن عامرہ بن مرہ بن مالک بن اوس ازبعاورہ ہیں۔ آپ سے ابواحمد بن حنش بن رباب اسدی نے شادی کی جن سے عبد اللہ پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مشرف بن اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

حبیبہ:

آپ جبیر بن نعمان بن امیہ بن امرئ القیس کی دختر ہیں۔ امرئ القیس برک بن ثعلبہ بن عمرو بن عوف ہیں۔ آپ کی والدہ بنو عبد اللہ بن عطفان میں کی ہیں اور عبد اللہ بدری اور خوات بدری کی سگی بہن ہیں۔ حبیبہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

امّ جمیل:

آپ جلاس بن سوید شاعر بن صامت بن خالد بن عطیہ بن حوط بن حبیب بن عمرو بن عوف کی صاحبزادی ہیں۔ آپ سے سالم بن عتبہ بن سالم بن سلمہ بن امیہ بن زید ابنی عمرو نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

بنو خطمہ بن ششم بن مالک بن اوس میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام

ہند:

آپ اوس بن عدی بن امیہ بن عامر بن خطمہ کی دختر ہیں۔ خطمہ عبد اللہ بن ششم بن مالک بن اوس ہیں۔ ہند کی والدہ لیلیٰ بنت عبید بن امیہ بن عامر بن خطمہ ہیں۔ آپ سے عمرو بن ثابت بن کلفہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس نے نکاح کیا جن سے ابوحنہ بدری پیدا ہوئے۔ پھر خطمہ بن حارث بن مالک بن کعب بن نخطا از بنو سلم بن امرئ القیس بن مالک بن اوس

نے جن سے سعد بن خیشمہ بدری شہید، نقیب بنو عمرو بن عوف پیدا ہوئے۔ ہند نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

کبشہ:

آپ اوس بن عدی بن امیہ کی دختر اور ہند بنت اوس کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے ثابت بن فاکہ بن ثعلبہ بن ساعدہ بن عامر بن غیان بن عامر بن خطمہ نے شادی کی جن سے خزیمہ بن ثابت دو شہادتوں والے اور ثابت کی تمام اولاد پیدا ہوئی۔ پھر ان کے بعد مسعود بن عامر بن عدی بن حشم بن مجدعہ بن حشم بن حارثہ نے نکاح کیا جن سے قصا پیدا ہوئیں۔ جنہوں نے نبی ﷺ سے بیعت کی۔ کبشہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

لیلیٰ:

آپ اوس بن عدی بن امیہ بن عامر بن خطمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ لیلیٰ بنت عبید بن امیہ بن عامر بن خطمہ ہیں۔ آپ سے حارث بن غمیث بن رزاح خطمی نے نکاح کیا۔ جن سے حارث کی تمام اولاد ہوئی۔ لیلیٰ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

سعدی:

آپ لیلیٰ بنت اوس کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے صامت بن عدی بن قیس بن زید بن مالک الاغر (از بنو حارث) نے نکاح کیا جن سے سوید بن صامت پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے سہل بن حارث بن جعدہ (از بنو واقف) نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ سعدی نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

صفیہ:

آپ ثابت بن فاکہ بن ثعلبہ بن ساعدہ بن عامر بن غیان بن عامر بن خطمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ کبشہ بنت اوس بن عدی بن امیہ خطمی ہیں جو بیعت شدہ ہیں۔ آپ سے عبدالرحمن بن اوس بن عمرو خطمی نے نکاح کیا۔ صفیہ خزیمہ بنت ثابت دو شہادتوں والے کی سگی بہن ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

ملیکہ:

آپ ثابت بن فاکہ بن ثعلبہ بن ساعدہ بن عامر بن غیان بن عامر بن خطمہ کی دختر ہیں۔ اور آپ کی والدہ کبشہ بنت اوس بن عدی بن امیہ خطمی ہیں۔ آپ سے شعیب بن زید بن حمہ بن حریش بن لوذان بن خطمہ نے نکاح کیا ملیکہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

رفاعہ:

آپ ام قاسم بنت ثابت ہیں اور ملیکہ بنت ثابت کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے محمود بن دوح بن اسلت نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

رائعہ:

آپ بھی ملیکہ بن ثابت کی سگی ہمیشہ ہیں۔ آپ نے مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

عمارہ:

آپ عباسہ بن جویر بن عبید بن غیان بن عامر بن خطمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ لیلی بنت صبحہ اشجعیہ ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر سرورِ عالم ﷺ سے بیعت کی۔

عمیرہ:

آپ عمارہ بنت عباسہ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے اوس بن عمرو بن عبید نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ایسہ:

آپ رقیم بن حارث بن عبید بن لوذان بن خطمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ سلمیٰ بنت عمرو بن غیاث بن رزاح ہیں۔ آپ سے دحوح بن ثابت بن فاکہ عظمیٰ نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

نسیبہ:

آپ ابو طلحہ ثابت بن عصبہ بن زید بن مخلد بن حارث بن عمرو بن لوذان بن خطمہ کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ ام طلحہ بنت مخلد بن زید بن مخلط عظمیٰ ہیں۔ آپ سے عمیر قاری بن عدی نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی۔ آپ نے بھی اسلام لا کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

جعاد رہ یعنی بنو سعید بن مرہ بن مالک بن اوس بنو عبد الاشہل والوں کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام

سلمیٰ:

آپ زید بن تیم بن امیہ بن ییاضہ بن خفاف بن سعید بن مرہ بن مالک بن اوس کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ رحالہ بنت منذر بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ (ازخزرج) ہیں۔ آپ سے عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ (ازخزرج) نے نکاح کیا۔ سلمیٰ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

بنو سلم بن امری القیس بن مرّۃ بن مالک بن اوس کی بیعت کرنے

والی خواتین اسلام

خیرۃ:

آپ ابوامیہ بن حارث بن مالک بن کعب بن حناط (یا) حناط بن کعب بن حارث بن غنم بن سلم کی دختر ہیں۔ آپ سے مکہ بن حصیہ بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجرد بن حارث بن حارث نے نکاح کیا۔ خیرہ نے بھی اسلام لاکر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔
مذکورہ بالا بیعت کرنے والی خواتین اسلام قبیلہ اوس کی ہیں۔

بنو خزرج بن حارث بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر کی پھر بنو حارث بن خزرج کی

بیعت کرنے والی خواتین اسلام

مجہ:

آپ ربیع بن عمرو بن ابی زبیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاغر بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث کی دختر ہیں اور سعد بن ربیع بدری نقیب کی سگی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ ہزلیہ بنت عقبہ بن عمرو بن خندق بن عامر بن ہشم بن حارث بن خزرج ہیں۔ آپ سے ابوالدرداء عامر بن زید بن قیس بن عائشہ بن امیہ بن مالک بن عدی بن کعب بن خزرج نے شادی کی جن سے بلال پیدا ہوئے۔ مجہ نے بھی اسلام لاکر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

جمیلہ:

آپ سعد بن ربیع بن عمرو کی اکلوتی دختر ہیں اور آپ کی والدہ عمرہ بنت حزم بن زید بن لوذان (از بنو مالک بن نجار) ہیں۔ آپ کے علاوہ سعد کے کوئی اور بچہ نہ تھا۔ آپ سے زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبدعوف بن غنم بن مالک بن نجار نے نکاح کیا جن سے سعد خارجیہ بچی، اسماعیل، سلیمان، ام عثمان اور ام زید سات بچے پیدا ہوئے۔ جمیلہ کی کنیت ام سعد تھی۔

باخبار محمد بن عمر بسماح عبد الرحمن بن ابی الزناد بقول ام سعد بنت سعد ام خارجیہ بن زید: میں جنگ خندق کے وقت دو سال کی بچی تھی ہوشیار ہونے کے بعد میری والدہ مجھ سے جنگ خندق کا ذکر کیا کرتی تھیں۔ سعد بن ربیع جنگ احد میں شہید ہوئے ابھی جمیلہ پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ محمد بن عمر نے آپ کو کسبی کے باوجود بیعت کرنے والی خواتین انصاریہ میں شامل فرمایا ہے۔

باخبار محمد بن عمر از عبد الرحمن بن ابی الزناد بحديث ابراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت بسماح ام سعد بنت سعد بن ربيع: عهد فاروق میں میرے پاس زید بن ثابت نے آ کر کہا: اگر تم اپنے والد کی میراث کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ سکتی ہو کیونکہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آج حمل کو بھی وارث قرار دیا ہے ان کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے اور یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں۔

حبیبہ:

آپ خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاغر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ہزمد بنت عتبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم ہیں اور آپ کے اخیائی بھائی سعد بن ربيع بن ابی زہیر ہیں۔ آپ سے حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کیا جن سے ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ پھر خبیب بن اساف بن عتبہ بن عمرو نے نکاح کیا حبیبہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔

زینب:

آپ قیس بن شماس بن مالک بن امری القیس بن مالک الاغر کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ خولہ بنت عمرو بن قیس بن امری القیس (از بنو حارث بن خزرج) ہیں۔ آپ ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول اللہ ﷺ کی علاقائی بہن ہیں۔ آپ سے خبیب بن اساف بن عتبہ بن عمرو بن خدیج نے نکاح کیا جن سے ائیہہ پیدا ہوئیں۔ زینب نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

ام ثابت:

آپ زینب بنت قیس کی سگی بہن اور ثابت بن قیس کی علاقائی بہن ہیں۔ آپ سے ثابت بن سفیان بن عدی بن عمرو بن امری القیس نے نکاح کیا جن سے سماک پیدا ہوئے۔ ام ثابت نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمرہ:

آپ رواحہ بن ثعلبہ بن امری القیس بن عمرو بن امری القیس بن مالک الاغر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ کبشہ بنت واقد بن عمرو بن عامر بن زید مناة بن مالک بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج ہیں۔ آپ عبد اللہ بن رواحہ بدری کی حقیقی بہن ہیں۔ آپ سے بشیر بن سعد بن ثعلبہ بن جلاس بن زید بن مالک نے نکاح کیا جن سے نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ عمرو بن عامر بن زید مناة کو ابن الحنابلہ بھی کہا جاتا تھا۔ عمرہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

لیلیٰ:

آپ سماک بن ثابت بن سفیان بن عدی بن عمرو بن امری القیس بن مالک الاغر کی صاحبزادی ہیں۔ محمد بن عمر فرماتے ہیں کہ لیلیٰ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی لیکن اس کا ذکر دوسرے مورخین نہیں کرتے۔

ام ایوب:

آپ قیس بن سعد بن عمرو بن امرئ القیس بن مالک الاغر کی دختر ہیں۔ علاوہ محمد بن عمر کے ام ایوب کی بیعت کا ذکر کوئی اور مورخ نہیں کرتا۔

منذوس یاسدوس:

آپ خلد بن سوید بن ثعلبہ بن عمرو بن حارث بن امرئ القیس بن مالک الاغر کی دختر ہیں۔ علاوہ محمد بن عمر کے منذوس کی بیعت کا ذکر کوئی اور مورخ نہیں کرتا۔

امیمہ یا ایبہ:

آپ بشیر بن سعد بن ثعلبہ بن جلاس بن زید بن مالک الاغر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ عمرہ بنت رواحہ بن ثعلبہ بن امرئ القیس نعمان بن بشیر کی سگی بہن ہیں۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

ہزلیلہ:

آپ ثابت بن ثعلبہ بن جلاس بن زید بن مالک الاغر کی دختر ہیں۔ آپ سے حارث بن ثابت بن حارثہ بن ثعلبہ بن جلاس نے شادی کی۔ پھر ان کے بعد ابو مسعود عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ بن اسیرہ بن عسیرہ بن عطیہ بن جدارہ نے نکاح کیا۔ پھر عبدالرحمن بن ساعدہ بن اشیم بن جشم بن قیس بن عمرو بن امرئ القیس بن مالک (ابن حارث) نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی اسلام لاکر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

انیسہ یا نعیسہ:

آپ ثعلبہ بن زید بن قیس بن نعمان بن مالک الاغر کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ انیسہ بنت واقد بن عمرو بن الحناہ ہیں۔ آپ سے سائب بن خلد بن سوید نے نکاح کیا۔ انیسہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

کبشہ:

آپ واقد بن عمرو بن عامر بن زید مٹاۃ بن مالک الاغر بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج کی دختر ہیں اور عمرو بن عامر ابن الحناہ شاعر ہیں۔ کبشہ کی والدہ ہند بنت رہم بن طریف (ازطی) ہیں۔ کبشہ سے رواحہ بنت ثعلبہ بن امرئ القیس بن عمرو بن امرئ القیس بن مالک الاغر نے شادی کی جن سے عبداللہ بن رواحہ بدری اور عمرہ بنت رواحہ ام نعمان بن بشیر دو بچے پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے قیس بن شامس بن مالک بن امرئ القیس نے نکاح کیا جن سے ثابت بن قیس پیدا ہوئے۔ کبشہ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

ہزلیلہ:

آپ عقبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن حارث بن خزرج کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ امیمہ بنت نجیم بن اسود بن حرام ابن حناہ بن نجار ہیں۔ آپ سے ریح بن عمرو بن ابی زہیر نے نکاح کیا جن سے سعد بن ریح پیدا ہوئے۔ پھر خارجہ بن

زید بن ابوزہیر نے نکاح کیا جن سے زید بن خارجه پیدا ہوئے۔ جنہوں نے حضرت عثمان کے زمانہ میں اپنے مرنے کے بعد گفتگو کی۔ ہزیلہ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

انیسہ:

آپ خبیث بن یساف بن عقبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن ہشام بن حارث بن خزرج کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ زینب بنت قیس بن شماس بن مالک بن امری القیس ہیں۔ آپ سے زید بن خارجه بن زید بن ابی زہیر نے نکاح کیا جن سے عبداللہ محمد اور ام کلثوم تین بچے پیدا ہوئے۔ انیسہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور آپ کے ساتھ حج بھی کیا۔ باخبا عبد الملک بن عمرو ابو عامر عقدی و ہشام ابو الولید طیاسی، متحد ریث شعبہ از خبیث بن عبد الرحمن اپنی پھوپھی انیسہ سے (فرماتے ہیں آپ نبی ﷺ کے ساتھ حج میں شریک تھیں)۔ فرماتی ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانہ میں ہمارے مرد دیواروں کے سایوں کے نیچے نیچے اپنی چادروں کو سروں پر ڈالتے ہوئے آتے تھے پھر جمعہ کے بعد دو پہر کو آرام کیا کرتے تھے۔ باخبا سلیمان ابو داؤد طیاسی و ابو الولید ہشام باخبا شعبہ از خبیث بن عبد الرحمن: میں نے اپنی پھوپھی جان سے سنا فرماتی تھیں: رسول اللہ ﷺ کے دو مؤذن تھے بلال اور ابن کلتوم ان دونوں کی اذانوں میں بس اتنا ہی وقفہ تھا کہ ایک اذان دے کر اترتا تھا اور دوسرا اذان دینے کے لئے چڑھتا تھا ہم انہیں روک کر کہا کرتے تھے ذرا ٹھہرو ہمیں سحری کھالینے دو۔

باخبا سلیمان ابو داؤد طیاسی باخبا شعبہ از خبیث بن عبد الرحمن: میں نے اپنی پھوپھی جان انیسہ سے سنا فرماتی تھیں: ہم قبیلہ کی پچیاں اپنی بکریاں لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جایا کرتی تھیں آپ ان سے فرمایا کرتے تھے: کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ میں ابن عرفاء کے دو لہے کی طرح تمہیں دودھ دودھ کر دے دوں؟

ام زید:

آپ سکن بن عقبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن ہشام بن حارث بن خزرج کی دختر ہیں۔ آپ سے سراقہ بن کعب بن عبدالعزیٰ بن غزیہ (از بنو مالک بن نجار) نے نکاح کیا جن سے زید پیدا ہوئے۔ ام زید نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

قریبہ:

آپ زید بن عبد ربیع بن زید بن حارث بن خزرج کی دختر ہیں اور عبداللہ بن زید بدری کی جن کو خواب میں اذان دکھائی گئی تھی بہن ہیں۔ بتول محمد بن عمر قریبہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

کبشہ:

آپ ثابت بن حارث بن ثعلبہ بن جلاس بن امیہ بن جدارہ بن عوف بن حارث بن خزرج کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ سلامہ بنت حسن بن عبداللہ بن وہب بن بشیر بن نصر بن صحیح بن مالک بن غطریف بن عبد بن سعد ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

معاذہ:

آپ عبد اللہ بن عمرو بن بزیں بن قیس بن عدی بن امیہ بن جدارہ کی دختر ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔
امّ الحکم یا امّ حکیم:

آپ عبدالرحمن بن مسعود بن ثعلبہ بن اسیرہ بن عمیرہ بن عطیہ بن جدارہ کی دختر ہیں۔ آپ سے ابو مسعود عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ بن اسیرہ بن عمیرہ بن عطیہ بن جدارہ نے نکاح کیا۔ ام الحکم نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔
نانکھ:

آپ ربیع بن قیس بن عامر بن عباد بن الجبر (خدرہ) بن عوف بن حارث بن خزرج کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عطیہ بن خنساء بن مذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار ہیں۔ نانکھ عبد اللہ بن ربیع کی جو عقبہ اور بدر میں شریک تھے سگی بہن ہیں۔ آپ سے اوس بن خالد بن قرظ بن قیس بن وہب بن کعب بن معاویہ بن مالک بن نجار نے نکاح کیا۔ نانکھ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

فریجہ:

آپ مالک بن سنان بن ثعلبہ بن عبید بن الجبر (خدرہ) بن عوف کی بیٹی ہیں اور ابو سعید خدری، سعد بن مالک کی سگی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ انیسہ بنت ابی خارجہ (عمرو) بن قیس بن مالک بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ہیں اور قنادہ بن نعمان بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر آپ کے اخیافی بھائی ہیں۔ آپ سے سہل بن رافع بن بشیر بن عمرو بن حارث بن کعب بن زید بن حارث بن خزرج نے شادی کی۔ پھر سہل بن بشیر بن عنبسہ بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر نے نکاح کیا۔ فریجہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

باخبا عبد اللہ بن نمیر بن محمد بن یحییٰ بن سعید از سعید بن اسحق بن کعب بن عجرہ اپنی پھوپھی زینب بنت کعب سے: میں نے فریجہ سے سنا فرماتی تھیں کہ میرے شوہر مدینہ کے راستہ میں مقام طرف قدم میں قتل کر دیئے گئے۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کے گھر سے منتقل ہو کر اپنے میکہ چلی جاؤں۔ فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے دی جب میں کھڑی ہوئی تو آپ نے مجھے بلا کر فرمایا: اپنے گھر ہی میں ٹھہر جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔

باخبا یعقوب بن ابراہیم بن سعد از ابراہیم بن سعد از صالح بن کیسان از ابن شہاب: مجھے خبر پہنچی ہے کہ سعد بن اسحق بن کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب بنت کعب نے مجھے فریجہ سے خبر دی (اور بنت کعب بن عجرہ ابو سعید خدری کے نکاح میں تھیں) انہیں فریجہ نے خبر دی کہ میں بنو حارث بن خزرج کے ایک شخص کے نکاح میں تھی۔ وہ اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلے اور انہیں طرف قدم میں جا پکڑا۔ غلاموں نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہا کہ میرا شوہر قتل کر دیا گیا اور اس نے گھر میں نان و نفقہ نہیں چھوڑا اور نہ اولاد کے لئے مکان چھوڑا۔ میں نے آپ سے

درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اجازت دے دی۔ فرماتی ہیں پھر جب میں حجرے سے نکل آئی یا حجرے ہی میں تھی تو مجھے رسول اللہ ﷺ نے بلا کر فرمایا کہ اپنا قصہ پھر دہراؤ۔ میں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس گھر سے نہ ہٹوں جہاں مجھے میرے شوہر کے قتل کی خبر ملی ہے۔ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ فرماتی ہیں پھر میں نے اسی گھر میں چار ماہ دس دس گزارے۔ فرماتی ہیں پھر حضرت عثمان سے اسی قسم کا مسئلہ پوچھا گیا اور میرا حوالہ دیا گیا آپ نے مجھے بلا بھیجا۔ میں گئی تو آپ لوگوں کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے میرا واقعہ پوچھا اور یہ بھی کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے کیا حکم دیا تھا میں نے آپ کو پورا واقعہ بتا دیا۔ پھر آپ نے اس عورت کے پاس جس کا شوہر فوت ہو گیا تھا ایک قاصد بھیج کر کہلوا یا کہ اپنے گھر سے نہ ہٹیں جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔

باخباہر احمد بن عبد اللہ بن یونس، محمد بن زہیر، محمد بن سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ اپنی پھوپھی جان کی خبر سے جو ابوسعید خدری کی بہن تھیں میرے شوہر عبد رسالت میں اپنے غلاموں کو ڈھونڈنے کے لئے سفر پر گئے حتیٰ کہ انہیں آپ نے طرف قدم میں پکڑ لیا۔ لیکن غلاموں نے انہیں قتل کر دیا۔ جب مجھے ان کے قتل کی خبر ملی تو میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر کہا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے میرے شوہر کی موت کی خبر ملی گئی ہے۔ میں انصار کے ایک ایسے گھر میں ہوں جو دور ہے اور میرے شوہر نے مال نہیں چھوڑا کہ میں اس کی وارث بنوں نہ ان کا کوئی گھر ہے اور نہ کچھ کھانے کو چھوڑا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے بھائیوں کے پاس عدت گزارنے کی اجازت دے دیں۔ اس سے مجھے کافی سہولت ہوگی۔ آپ نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں خوشی خوشی جانے کے لئے کھڑی ہوئی حتیٰ کہ جب میں حجرے یا مسجد کی طرف نکلی تو آپ نے مجھے آواز دی یا آپ کے حکم سے مجھے آواز دی گئی۔ میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا: پھر اپنا قصہ بیان کرو۔ میں نے دوبارہ واقعہ دہرایا۔ فرمایا: اسی گھر میں ٹھہرو جس گھر میں تم کو تمہارے شوہر کی موت کی خبر ملی ہے۔ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ فرماتی ہیں پھر میں نے اسی گھر میں چار ماہ دس دن گزارے۔

باخباہر معن بن عیسیٰ باخباہر مالک بن انس از سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ فریہ بنت مالک بن سنان جو ابوسعید خدری کی بہن تھیں وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور آپ سے اپنے گھر والوں کے پاس بنی خدرہ میں جانے کی اجازت مانگی کیونکہ ان کے شوہر اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے تھے حتیٰ کہ جب آپ طرف قدم میں پہنچے تو ان غلاموں نے آپ کو قتل کر دیا۔ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے اجازت مانگی کہ میں اپنے میکہ چلی جائیں کیونکہ میرے شوہر نے اپنا ذاتی کوئی مکان نہیں چھوڑا تھا اور نہ کھانے پینے کا سامان چھوڑا تھا۔ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا: اچھا پھر میں آپ کے پاس سے نکلی۔ ابھی میں حجرے میں مسجد ہی میں تھی تو آپ نے مجھے آواز دی یا آپ کے حکم سے آواز دی گئی۔ پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے اپنا قصہ دہرایا اور اپنے شوہر کے قتل کی خبر کی۔ فرمایا: عدت اپنے شوہر ہی کے گھر گزارو۔ فرماتی ہیں پھر میں نے اسی گھر میں چار ماہ دس دن گزارے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مجھے بلوایا اور مجھ سے اس سلسلہ میں پوچھا۔ پھر میں نے آپ کو سارا بتایا آپ نے اسے مانا اور اسی طرح فیصلہ فرمایا۔

الرباب:

آپ حارث بن سنان بن عبید بن ابجر (خدرہ) کی دختر ہیں۔ آپ سے کلیب بن یساف بن عتبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن حارث نے شادی کی۔ رباب نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے شرف بیعت حاصل کیا۔

رَبِيع:

آپ رباب بنت حارث کی بہن ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

خَلِيدَة:

آپ ثابت بن سنان بن عبید بن ابجر کی دختر ہیں۔ آپ سے کعب بن عمرو بن الحناہ نے شادی کی۔ پھر عبداللہ بن انس بن سکین بن عتبہ بن یساف بن عتبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن حارث نے نکاح کیا۔ خلیدہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام ثابت:

آپ خلیدہ بنت ثابت کی بہن ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

کبشہ:

آپ رافع بن معاویہ بن عبید بن ابجر کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام الربیعہ بنت مالک بن عامر بن فہمیرہ بن ییاضہ ہیں۔ آپ سے معاذ بن نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشہل نے شادی کی جن سے سعد، عمرو، ایاس، اوس، عقرب اور ام حرام چھ بچے پیدا ہوئے۔ کبشہ نے بھی مسلمان ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔ آپ اپنے بیٹے سعد بن معاذ کی موت کے بعد فوت ہوئیں۔

سُعاد:

آپ کبشہ بنت رافع کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار نے نکاح کیا جن سے ابوامامہ، اسعد، نقیب، بنونجار، سعد، مسعود، رویہ اور فریجہ پانچ بچے پیدا ہوئے آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

ام حباب فریجہ:

آپ حباب بن رافع بن معاویہ بن عبید بن ابجر کی دختر ہیں۔ آپ سے مسعود بن غلدہ بن عامر بن زریق بن عامر بن خزرج نے شادی کی جن سے اولاد ہوئی۔ پھر مری بن سماک بن تھیک بن امری القیس بن زید بن عبدالاشہل نے نکاح کیا۔ ام حباب نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عقرب:

آپ سکین بن رافع بن معاویہ بن عبید بن ابجر کی دختر ہیں۔ آپ سے ثابت بن صہیب بن کرز بن عبدمنافہ بن عمرو بن غیان بن ثعلبہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

بنو ساعدہ بن کعب بن خزرج کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام

مندوس:

آپ عمرو بن حنیس بن لوذان بن عبدوڈ بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت منذر بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ ہیں۔ آپ منذر بن عمرو کی (جو بیعت عقبہ اور بدر میں شریک تھے اور ثقیب تھے اور جنگ بزمعونہ میں شہید ہوئے)۔ حقیقی بہن ہیں آپ سے مخلد بن صامت بن نیار بن لوذان بن عبدوڈ بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ نے نکاح کیا جن سے مسلمہ پیدا ہوئے۔ مندوس نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

سلمی:

آپ مندوس بنت عمرو بن حنیس اور منذر بن عمرو کی سگی بہن ہیں۔ سلمی سے عقی بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبد الاشہل نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

فریجہ:

آپ خالد بن حنیس بن لوذان بن عبدوڈ بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت ابرہ بن وہب بن عمرو بن وقش بن ثعلبہ بن طریف بن خزرج ہیں۔ آپ سے ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار نے شادی کی جن سے حسان شاعر پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ام حسان بن ثابت (فریجہ) حنیس بن لوذان بن عبدوڈ بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ کی بیٹی اور عمرو خالد پسران حنیس کی سگی بہن ہیں فریجہ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

ام شریک:

آپ خالد بن حنیس بن لوذان بن عبدوڈ بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت ابرہ بن وہب بن عمرو بن وقش بن ثعلبہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ ہیں۔ آپ سے انس بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبد الاشہل نے نکاح کیا جن سے حارث پیدا ہوئے۔ ام شریک نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

مندوس:

آپ عبادہ بن دؤیم بن حارثہ بن ابی حزیمہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ کی صاحبزادی ہیں اور سعد بن عبادہ کی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ عمرۃ الثالثہ بنت مسعود بن قیس بن عمرو بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے ساک بن ثابت بن سفیان بن عدی بن عمرو بن امری القیس بن مالک بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج نے نکاح کیا جن سے ثابت پیدا ہوئے۔ مندوس نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

لیلیٰ:

آپ مندوس بنت عبادہ کی اور سعد بن عبادہ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے خلاد بن سوید بن ثعلبہ بن عمرو بن حارثہ بن امری القیس بن مالک بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج نے نکاح کیا جن سے سائب بن خلاد پیدا ہوئے۔ لیلیٰ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

قلیبہ:

آپ عباد بن دلیم کے بھائی عبید بن دلیم کی دختر ہیں۔ آپ سے سعد بن عبادہ بن دلیم بن حارثہ نے نکاح کیا جن سے قیس اور امامہ دو بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

غزیہ:

آپ سعد بن خلیفہ بن اشرف بن ابی حزیمہ بن ثعلبہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ سلمی بنت غازیہ بن خالد بن اشرف (از قضاہ) ہیں۔ آپ سے سعد بن عبادہ بن دلیم بن حارثہ بن ابی حزیمہ نے نکاح کیا جن سے سعید بن سعد پیدا ہوئے۔ غزیہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

کبشہ یا کبیشہ:

آپ عبد عمرو بن عبید بن قبیہ بن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمرو بن خزرج بن ساعدہ کی دختر ہیں۔ آپ سے ابو جمید عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلبہ بن حارثہ بن عمرو بن خزرج بن ساعدہ نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمرہ:

آپ سعد بن مالک بن خالد بن حارثہ بن عمرو بن خزرج بن ساعدہ کی دختر ہیں۔ اور آپ کی والدہ ہند بنت عمرو (از بنو عذرہ) ہیں اور سہل بن سعد بن سعد بن مالک ساعدی کی چھوٹی بہن ہیں۔ آپ سے ہبشر بن حارث (ابیرق) بن عمرو بن حارثہ بن یثیم بن ظفر نے نکاح کیا جن سے رفاعہ پیدا ہوئے۔ عمرہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

عمرہ:

آپ سعد بن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلبہ بن حارثہ بن عمرو بن خزرج بن ساعدہ کی دختر ہیں اور سہل بن سعد ساعدی کی بہن ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

نانکہ:

آپ عمرہ بنت سعد کی بہن ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

خواتین قواقلہ یعنی بنو عوف بن خزرج کبیر کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام

قرۃ العین:

آپ عبادہ بن نضله بن مالک بن عجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ عمیرہ بنت ثعلبہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضہ بن خزرج ہیں۔ آپ سے صامت بن قیس بن اصرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج نے شادی کی جن سے عبادہ بن صامت جو بیعت عقبہ اور بدر میں شریک تھے اور نقیب تھے اور اوس اور خولہ تین بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

حبیبہ:

آپ منلیل بن ویرہ بن خالد بن عجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام زید بنت نضله بن مالک بن عجلان ہیں۔ آپ سے فروہ بن عمرو بن ورفہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ نے شادی کی جن سے عبدالرحمن پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

بشرہ:

آپ حبیبہ بنت منلیل کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے حمزہ بن عباس بن عبادہ بن نضله بن مالک بن عجلان نے شادی کی جن سے محمد حمید خدیج اور کثیم چار بچے پیدا ہوئے۔ بشرہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمرہ:

آپ نزال بن عمرو بن قریوس بن عمرو بن امیہ بن لوذان بن سالم بن عوف کی بیٹی ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

لیلیٰ:

آپ رساب بن حنیف بن زیاد بن امیہ بن زید بن سالم کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ امۃ اللہ بنت غنیمہ بن عبداللہ (از بنو ضمرہ بن بکر) ہیں۔ آپ سے عتبان بن مالک بن عمرو بن عجلان نے شادی کی جن سے عبدالرحمن پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے عبدالرحمن بن عامر بن نعمان بن زہیر بن حارث بن امر بن مجدعہ بن امر بن کعب بن واقف (سالم بن امری القیس) نے شادی کی جن سے نعمان امامہ اور ام حسین تین بچے پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے عبداللہ بن عمرو بن سوید بن حرام بن ہشیم بن ظفر نے شادی کی جن سے سعدہ بنت عبداللہ پیدا ہوئیں۔ لیلیٰ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

خولہ:

آپ صامت بن قیس بن اصرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج کی دختر اور عبادہ بدری اور اوس بدری پسران صامت کی سگی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ قرۃ العین بنت عبادہ بن نضله بن مالک بن عجلان ہیں۔ آپ سے

ابو عبد الرحمن یزید بن ثعلبہ بن حزمہ بن اصرم بن عمرو بن عمارہ (از بنو عصفیہ از بلی جو حلیف ہیں) نے شادی کی جن سے عامر اور ام عثمان دو بچے پیدا ہوئے۔ خولہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ خولہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کیا تھا۔ پھر حق تعالیٰ شانہ نے ان کے بارے میں آیت: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ ”یعنی اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے“ اتاری۔ یہ شعی کی حدیث سے ثابت ہے۔

باخبر یعلیٰ و محمد پسران عبید و فضل بن دکین از زکریا از عامر لیکن یہ غلط ہے کیونکہ جھگڑنے والی خولہ بنت ثعلبہ ہیں۔

امامہ:

آپ خولہ بنت صامت اور عبادہ بن صامت کی علاقائی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ رباب بنت مالک بن عمرو بن عزیز بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف (از اوس) ہیں۔ آپ سے جمیح بن مسعود بن عمرو بن اصرم بن عبید بن سالم بن عوف نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

خولہ:

آپ ثعلبہ بن اصرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف کی دختر ہیں۔ آپ سے اوس بن صامت بن قیس بن اصرم بن فہر عبادہ بن صامت کے بھائی نے شادی کی۔ یہی خولہ جھگڑنے والی ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

باخبر یعقوب بن ابراہیم بن سعد زہری از ابراہیم بن سعد زہری از صالح بن کیسان: ہمارے علم میں جس مسلمان نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے ظہار کیا، اوس بن صامت واقعی ہیں۔ آپ کے نکاح میں آپ کی چچا زاد بہن خولہ بنت ثعلبہ تھیں۔ لوگوں کا گمان ہے کہ اوس کے دماغ میں کچھ خلل تھا۔ ایک دن انہوں نے خولہ سے کہا: تو مجھ پر میری والدہ کی پیٹھ کی طرح ہے۔ خولہ نے کہا: اللہ کی قسم تم نے ایک بڑی بات کہی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر خولہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر اپنا اور اپنے شوہر کا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اوس کو بلوایا کہ ان سے پوچھا کہ تمہاری چچا زاد بہن کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے ان سے ظہار کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ ﷺ اب آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا: ان کے قریب نہ جانا اور نہ ان کے گھر آؤ۔ رفت رکھنا۔ جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ خولہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ ان کے پاس کچھ نہیں میں ہی ان پر خرچ کیا کرتی تھی ان میں کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی حتیٰ کہ قرآن کی آیت ﴿قد سمع الله...﴾ اتر آئی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اوس کو حکم دیا کہ ظہار کا کفارہ ادا کرو۔ اوس نے کہا: خولہ نہ ہوشیں تو میں ہلاک ہو جاتا۔

باخبر محمد بن عمر بحدیث عبد الحمید بن عمران بن ابی انس از عمران بن ابی انس: جاہلیت کے زمانہ میں دستور تھا کہ جو اپنی بیوی سے ظہار کر لیا کرتا تھا اس پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جایا کرتی تھی۔ اسلام میں سب سے پہلے جس نے ظہار کیا وہ اوس بن صامت ہیں۔ ان کے دماغ میں قدرے فتور تھا اور بعض اوقات اچھی خاصی ہوش و حواس کی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ہوش کی حالت میں اپنی بیوی خولہ سے جھگڑنے لگے۔ اور ان سے ظہار کر بیٹھے۔ پھر نادام ہو کر بولے: میرے خیال میں

اب تم مجھ پر حرام ہوگی۔ بیوی نے کہا: تم نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ظہار سے حرمت اسلام کے آنے سے پہلے ثابت ہو جایا کرتی تھی اب تم رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر آپ سے فتویٰ پوچھو۔ کہنے لگے: مجھے تو شرم آتی ہے تم آپ کے پاس جا کر پوچھ آؤ۔ شاید تم کو اچھا جواب مل جائے۔ جس سے ہماری موجودہ پریشانی دور ہو جائے۔

چنانچہ خولہ نے کپڑے پہنے پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! اوس کو آپ بیچانتے ہی ہیں وہ میری اولاد کے والد اور میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہیں کبھی کبھی جنون کا دورہ پڑا کرتا ہے جس سے وہ اپنی قدرت سے مجبور اور اپنی طاقت سے بے بس ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان گویائی سے رُک جاتی ہے۔ اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ ان کی حمایت کرنے والا کون ہے اور اگر کوئی مجھ پر ظلم کرے تو ان سے زیادہ میری حمایت کرنے والا کون ہے۔ آج انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے اور اس کی قسم جن نے آپ پر کتاب اتاری انہوں نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا بس اتنا کہا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ فرمایا: میرے خیال میں تم اوس پر حرام ہوگئی ہو۔

خولہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس سلسلہ میں جواب و سوال کئے۔ پھر کہنے لگیں: اے اللہ! میں تجھ سے اپنے انتہائی صدمہ کی اور اوس کے فراق میں اپنے انتہائی قلق کی تجھ ہی سے شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ! اپنے نبی کی زبان پر کوئی ایسی آیت اتار دے جس سے ہم اس قلق و ملال سے نجات پا جائیں۔ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے حال زار پر مجھے اور تمام گھروالوں کو ترس آیا اور ہم سب رونے لگے۔ ابھی خولہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے آپ سے باتیں کر رہی تھیں (کہ آپ پر وحی اتر آئی) جب آپ پر وحی اترتی تھی تو آپ کے خزانے نکلنے لگتے تھے۔ اور آپ کا چہرہ خاکستری ہو جاتا تھا اور آپ اپنے دانتوں میں ٹھنڈک پایا کرتے تھے اور پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: خولہ! تمہارے ہی بارے میں آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ کہنے لگیں: اے اللہ! خیر لا کیونکہ میں نے تیرے نبی سے خیر ہی طلب کی ہے۔ صدیقہ فرماتی ہیں: دیر تک رسول اللہ ﷺ سے وحی نہیں کھلی حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ کعبہ خدا نخواستہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز نہ کر جائے۔ آخر کار وحی کھلی اور آپ نے مسکرا کر فرمایا: خولہ! خولہ نے کہا: لبیک رسول اللہ! اور رسول اللہ ﷺ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر خولہ خوشی خوشی کھڑی ہو گئیں پھر آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور اوز کے بارے میں قد سمع اللہ۔ الخ نازل فرمائی ہے اور فرمایا کہ اوس سے کہو کہ ایک غلام آزاد کریں۔ خولہ نے کہا: کیسا غلام! انا کی قسم ان کے پاس غلام تو غلام میرے سوا کوئی خادم بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان سے کہو دو ماہ کے لگا تار روزے رکھیں بولیں: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ کی قسم وہ روزے رکھنے پر بھی قادر نہیں وہ تو دن بھر میں متعدد بار پانی پیتے رہتے ہیں۔ انتہائی کمزور ہیں اور ان کی بینائی بھی جاتی رہی ہے۔ ان سے تو گویا چلا پھرا بھی نہیں جاتا۔

فرمایا: اچھا تو ان سے کہو کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ بولیں: ان کے لئے یہ بھی ناممکن ہے۔ ان کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے۔ فرمایا: اچھا تو ان سے کہو کہ تم ام منذر بنت قیس کے پاس جاؤ اور ان سے تیس صاع کھجوریں لے کر سنا

مسکینوں میں پانٹ دو۔ پھر خولہ اُٹھ کر اوس کے پاس گئیں اوس دروازے پر بیٹھے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے جلدی سے بولے: خولہ! کیا خبر لائیں؟ بولیں خبر اچھی ہے اور تم برے ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے تم کو حکم فرمایا ہے کہ تم ام منذر بنت قیس کے پاس جاؤ اور ان سے آدھا سق کھجوریں لے کر انہیں ساٹھ ساکین میں بطور صدقہ کے بانٹ دو۔ خولہ فرماتی ہیں یہ سن کر اوس میرے پاس سے بھاگ کر گئے اور تیس و سق کھجوریں اپنی پشت پر لاد کر ان سے لے آئے۔ حالانکہ میرے پاس وہ پانچ صاع بھی اٹھانے کے قابل نہ تھے اور دو مد کھجور ہر مسکین کو کھلانے لگے۔

فریجہ:

آپ مالک بن دحثم بن مالک بن دحثم بن مرضہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی مالک بن حارث بن عید بن مالک بن سالم بن غنم (بن سلول) ہیں۔ آپ سے ہلال بن امیہ بن عامر بن قیس بن عبد اللہ بن عامر بن کعب بن واقف (سالم) بن امری القیس (از اوس) نے شادی کی۔ فریجہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

جمیلہ یا حبیبہ:

آپ خزیمہ بن حزمہ بن عدی بن ابی بکر بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ عمیرہ بنت عدی بن مالک بن حرام بن خدیج بن مالک بن معاویہ بن مالک (از بنو عمرو بن عوف از اوس) آپ سے عبد اللہ بن سعد بن زیاد بن عبد بن کعب بن عبد الاشہل نے شادی کی۔ جمیلہ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

ام انس:

آپ واقد بن عمرو بن زید بن مرضہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج کی دختر ہیں۔ آپ سے عمرو بن عتبہ بن ثعلبہ بن جردہ بن عدی بن عامرہ بن عدی بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج نے نکاح کیا۔ ام انس نے بھی مسلمان ہو کر سرورِ عالم ﷺ سے بیعت کی۔

بزلیجہ:

آپ ابو خارجہ بن اوس بن سکین بن عدی بن عید بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ مریم بنت عصمہ بن زید بن ثعلیب بن وبرة بن خالد بن عجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف ہیں۔ آپ سے ولید بن عبادہ بن صامت بن قیس بن اصرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم نے شادی کی۔ بزلیجہ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔



خواتین بنو حلی یعنی سالم بن غنم بن عوف بن خزرج کی بیعت کرنے والی خواتین

سالم کو ان کے بڑے پیٹ کی وجہ سے حلی (حاملہ) کہا جاتا ہے

ام مالک:

آپ ابی بن مالک بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف کی دختر اور عبد اللہ بن ابی بن سلول کی بہن ہیں۔ سلول ایک خزاعیہ عورت ہے۔ ام مالک کی والدہ سلمیٰ بنت مطروف (خالد) بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف (از اوس) ہیں۔ ام مالک نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ ام مالک سے رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بن عامر بن خزرج نے شادی کی جن سے رفاعہ بدری اور خلاہ بدری پسران رافع پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عبید بن مالک بن سالم (مرثق شاعر) ہیں۔

جمیلہ:

آپ عبد اللہ بن ابی مالک بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف کی دختر ہیں اور آپ کی ماں خولہ بنت منذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار (از بنو مغالہ) ہیں۔ آپ سے حظلہ بن ابی عامر راہب بن عبد عمرو بن صفی بن نعمان بن مالک بن امیہ بن ضبیحہ بن زید (از بنو عمرو بن عوف از اوس) نے شادی کی۔ پھر حظلہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد عبد اللہ بن حظلہ پیدا ہوئے۔ پھر جمیلہ سے ثابت بن قیس بن شناس بن مالک بن امرئ القیس بن مالک بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن عوف بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن عتبہ بن عامر بن دحشم بن مرضحہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج نے نکاح کیا۔ پھر خبیث بن یساف بن عتبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن حشم بن حارث بن خزرج نے نکاح کیا۔ جمیلہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ جمیلہ کے سگے بھائی عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی بدری ہیں۔ جمیلہ کے دو بیٹے عبد اللہ بن حظلہ اور محمد بن ثابت جنگ حرہ میں کام آئے۔ حظلہ غسیا الملائکہ ہیں۔

ملیکہ:

ملیکہ جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی کی علاقہ بہن ہیں۔ آپ کی والدہ ام خالدہ بنت عامر بن شان بن وہب بن لوذان بن عبد وڈ بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ ہیں۔ آپ سے بلال بن امیہ بن عامر بن قیس بن عبد الاعلم بن عامر بن کعب واقف (از اوس) نے شادی کی۔ ملیکہ نے بھی مسلمان ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

رملہ:

آپ بھی عبد اللہ بن ابی کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ یعنی بنت عبادہ بن نھلمہ بن مالک بن عجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف ہیں۔ رملہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

ام سعد ام سعید:

آپ رملہ بنت عبد اللہ بن ابی کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے جبیر بن ثابت بن ضحاک بن ثعلبہ بن چشم بن مالک بن سالم (حلی) بن غنم بن عوف بن خزرج نے شادی کی۔ ام سعد نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

خولہ:

آپ خولی بن عبد اللہ بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم کی دختر اور اوس بن خولی بدری کی سگی بہن ہیں۔ اوس نبی ﷺ کے غسل میت میں بھی شریک تھے۔ آپ کی والدہ جمیلہ بنت ابی بن مالک بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم ہیں۔ خولہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

فسمم:

آپ اوس بن خولی بن عبد اللہ بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم کی دختر ہیں۔ آپ سے عتبان بن مرہ از بنو اسد بن خزیرہ بنو حلی کے حلیف نے شادی کی۔ فسمم نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

زینب:

آپ سہل بن صعب بن قیس بن عمرو بن مالک بن سالم حلی کی دختر ہیں۔ آپ سے دو لیجہ بن عمرو بن قیس بن عدی بن مالک بن سالم حلی نے شادی کی۔ زینب نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

لیلی:

آپ طباه بن معیص بن چشم بن ہزم بن سالم حلی کی دختر ہیں۔ آپ سے وہب بن کلہ از بنو عبد اللہ بن غطفان آل حلی کے حلیف نے شادی کی۔ لیلی نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

خواتین بنو بیاضہ یعنی ابن عامر بن زریق بن عبد بن حارثہ بن مالک بن غضب بن

جشم بن خزرج کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام

انیسہ:

آپ عروہ بن مسعود بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن امیہ بن بیاضہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ رقیبہ بنت ثعلبہ بن مالک بن عجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج ہیں۔ آپ سے حظلہ بن مالک بن خالد بن کلیب بن

عامر بن خزمہ بن بیاضہ نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔
حلیمہ:

آپ کو جلیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ امیہ بنت عروہ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ از اوس نے نکاح کیا جن سے رافع اور قاعد پسران خدیج ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔
خالدہ:

آپ عروہ بن وذفہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ہند بنت خالد بن یساف بن عقبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن حارثہ بن خزرج ہیں۔ آپ سے ابوعمادہ سعد بن عثمان بن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق بن عامر بن خزرج نے شادی کی۔ آپ فروہ بن عمرو بدری عقبی کی علاقائی بہن ہیں۔ آپ نے بھی دیگر خواتین کی طرح مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔
کبشہ، کبیشہ:

آپ فروہ بن عامر بن وذفہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ام ولد ہیں۔ آپ سے عبدالرحمن بن سعد بن قیس بن مالک بن جحلان بن عامر بن بیاضہ نے شادی کی۔ کبشہ نے بھی مسلمان ہو کر سرکار رسالت ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔
ام شرجیل:

آپ فروہ بن عمرو بن وذفہ کی صاحبزادی ہیں۔ اور آپ کی والدہ ام ولد ہیں آپ سے یقظان بن عبید بن عقبہ بن عمرو بن عبید بن عامر بن بیاضہ نے شادی کی۔ ام شرجیل نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔
بثینہ:

آپ نعمان بن عمرو بن نعمان بن خلدہ بن عمرو بن امیہ بن عامر بن بیاضہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ حبیبہ بنت قیس بن سفیان بن عبدمناف بن اعجم بن حارث بن اورم بن غالب بن فہر ہیں اورم کا نام تیم اللات ہے اور قرشی ہیں۔ بثینہ سے محمد بن عمرو بن حزم بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

فارحہ:

آپ عصام بن عامر بن عطیہ بن بیاضہ کی دختر ہیں۔ آپ سے عمرو بن نعمان بن خلدہ بن عمرو بن امیہ بن عامر بن بیاضہ نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

امامہ:

آپ فارحہ بنت عصام کی بہن ہیں۔ آپ سے کبشہ بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

امیہ:

آپ خلیفہ بن عدی بن عمرو بن مالک بن عامر بن فہیرہ بن بیاضہ کی دختر ہیں: آپ سے فروہ بن عمرو بن وذفہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ نے شادی کی جن سے ام سعد پیدا ہوئیں۔ امیہ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

انیسہ:

آپ عبداللہ بن عمرو بن مالک بن عجلان بن عامر بن بیاضہ کی دختر ہیں۔ آپ سے عباس بن عبادہ بن نضلہ بن مالک بن عجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عامر بن عوف بن خزرج نے پھر ان کے بعد عمرو بن اوس بن عامر بن ثعلبہ بن دث بن طریف بن خزرج بن ساعدہ نے نکاح کیا۔ انیسہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

خواتین بنوزریق یعنی ابن عامر بن زریق بن عبدحارثہ بن مالک بن غضب بن ہشم
بن خزرج میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام

امامہ:

آپ عثمان بن خالدہ بن مخلص بن عامر بن زریق کی دختر اور ابو عبادہ سعد بن عثمان بدری کی سگی بہن ہیں۔ اور آپ کی والدہ ام جمیل بنت قطیبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ ہیں۔ آپ سے ثابت بن جذع بن زید بن حارث بن حرام کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ بن خزرج نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام رافع:

آپ امامہ بنت عثمان کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے خلاد بن رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

قلیہ:

آپ کی کنیت ام الحکم ہے اور آپ مطلب بن خالدہ بن مخلص بن عامر بن زریق کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت عجلان بن غنام بن عامر بن بیاضہ ہیں۔ آپ سے ربیع بن عامر بن خالدہ بن مخلص بن عامر بن زریق نے نکاح کیا۔ پھر عمرو بن خالدہ نے آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر سرور کائنات فخر موجودات ﷺ سے بیعت کی۔

حبیبہ:

آپ مسعود بن خالدہ بن عامر بن مخلص بن عامر بن زریق کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ فارعہ بنت حباب بن ربیع بن رافع بن معاویہ بن عبید بن الجبر (خدرہ) بن عوف بن حارث بن خزرج ہیں۔ آپ سے عبدالرحمن بن عمرو بن خالدہ بن عامر بن مخلص بن عامر بن زریق نے شادی کی۔ حبیبہ نے بھی مسلمان ہو کر سرکار رسالت ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

بہیہ:

آپ عمرو بن خالدہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ام الحکم فکیہ بنت مطلب ہیں۔ آپ سے نعمان بن عجلان بن نعمان بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق نے شادی کی آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام قیس:

آپ حصن بن خالدہ بن مخلد بن عامر بن زریق کی دختر اور قیس بن حصن بدری کی بہن ہیں بقول محمد بن عمار قیس نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

ام سعد:

آپ قیس بن حصن بن خالدہ بن مخلد بن عامر بن زریق کی دختر ہیں آپ کی والدہ خولہ بنت فاکہ بن قیس بن مخلد بن عامر بن زریق نے پھر ان کے بعد مسعود اکبر بن عبادہ بن ابی عبادہ سعد بن عثمان بن خالدہ بن مخلد بن عامر بن زریق نے نکاح کیا ام سعد نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

حجہ:

آپ عمرو بن حصن بن خالدہ بن مخلد بن عامر بن زریق کی دختر ہیں آپ کی والدہ حبیبہ بنت قیس بن خالدہ بن مخلد بن عامر بن زریق ہیں۔ آپ سے صفی بن اسود بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ نے نکاح کیا۔ حجہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

کبشہ:

آپ فاکہ بن قیس بن مخلد بن عامر بن زریق کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ سلمیٰ بنت أمیہ بن حارثہ بن عمرو بن خزرج (از بنو ساعدہ) ہیں۔ آپ سے مسعود بن سعد بن قیس بن خالدہ بن عامر بن زریق نے شادی کی پھر عجلان بن نعمان بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق نے، کبشہ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

لیلیٰ:

آپ ربیع بن عامر بن خالدہ بن عامر بن زریق کی دختر ہیں۔ آپ سے طفیل بن مالک بن خضاء بن سنان بن عبید (از بنو سلمہ) نے نکاح کیا۔ پھر ان کے بعد صفی بن رافع بن عتجدة بلوی حلیف بن عمرو بن عوف نے، لیلیٰ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

سقبکہ:

آپ ماعص بن قیس بن خالدہ بن عامر بن زریق کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ٹحلی بنت اوس بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم (از بنو سلمہ) ہیں۔ آپ سے ابو عبادہ سعد بن عثمان بن خالدہ بن عامر بن زریق نے شادی کی۔ آپ معاذ بدری اور عاتذ بدری پسران ماعص کی علاقائی بہن ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی۔

انیسہ:

آپ معاذ بن معص بن قیس بن خالدہ بن عامر بن زریق کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام ثابت بنت عبید بن وہب بن اشجج ہیں۔ آپ سے عامر بن عمرو بن خالدہ بن عامر بن مغلہ بن عامر بن زریق نے شادی کی انیسہ نے بھی مسلمان ہو کر نبی ﷺ سے بیعت کی۔

ام سعد:

آپ مسعود بن سعد بن قیس بن خالدہ بن عامر بن زریق کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ کیشہ بنت فاکہ بن قیس بن مخامر بن عامر بن زریق ہیں۔ ام سعد نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

ام ثابت:

آپ ام سعد بنت مسعود کی سگی بہن ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

ام اہل:

آپ بھی ام سعد بنت مسعود کی سگی بہن ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

خولہ:

آپ مالک بن بشر بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر بن زریق کی دختر ہیں۔ آپ سے زیاد بن زید بن نعمان بن خالدہ بن عامر بن زریق نے شادی کی خولہ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

خواتین بنو حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن عضب بن جشم بن خزرج میں سے

بیعت کرنے والی خواتین اسلام

انیسہ:

آپ ہلال بن معلیٰ بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن ثعلبہ بن مالک بن زید مناۃ بن حبیب بن عبد حارثہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ سلمیٰ بنت طابق بن عکیم بن عبد مناف (ازہ بن سلیم) ہیں۔ آپ سے عجلان بن نعمان بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق نے شادی کی۔ انیسہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

نسیبہ:

آپ رافع بن معلیٰ بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن ثعلبہ بن مالک بن زید مناۃ بن حبیب بن حارثہ کی دختر ہیں اور آپ کی ماں آل عبد اللہ بن غطفان سے ہیں۔ آپ سے ابوسعید بن اوس بن معلیٰ بن لوذان بن حارثہ نے شادی کی۔ نسیبہ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

خواتین بنو سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سارہ بن تزیذ بن چشم بن خزرج میں سے

بیعت کرنے والی خواتین اسلام

الشموس:

آپ عمرو بن حرام بن ثعلبہ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت قین بن قریم بن امیہ بن سنان بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ ہیں۔ آپ سے محمود بن مسلمہ بن سلمہ بن خالد (از بنو حارثہ) نے پھر مسعود بن اوس بن مالک بن سواد (از بنو ظفر) نے نکاح کیا۔ مسعود سے اولاد ہوئی آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ خیبر میں شریک تھیں۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

ہند:

آپ شمس بنت عمرو بن حرام کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے عمرو بن جموح بن زید بن حرام نے شادی کی جن سے اولاد ہوئی۔ آپ بھی جنگ خیبر میں شریک ہوئیں اور مشرف بہ اسلام ہو کر سرکار رسالت ﷺ سے بیعت کی۔

لمیس:

آپ بھی شمس بنت عمرو کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے زید بن یزید بن جذام بن سلیح بن خنساء بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ نے شادی کی۔ لمیس نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام عمرو:

آپ بھی شمس کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے ابوالیسر بن عمرو بن عماد بن عمرو بن سواد نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے بیعت کی۔

ام معاذ:

آپ عبداللہ بن عمرو بن حرام بن ثعلبہ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام حبان:

آپ عامر بن ناعی بن زید بن حرام بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور عقبہ بن عامر بدری کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے حرام بن حمیصہ بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن محمد بن حارثہ اوسی نے شادی کی آپ کی والدہ فکیہ بنت سکن بن زید بن امیہ بن سنان بن کعب بن سلمہ ہیں۔ ام حبان نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ادام:

آپ جموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ رہم بنت قین بن کعب ہیں۔

آپ سے مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدہ بن حارثہ نے نکاح کیا۔ آپ عمرو بن جموح کی جو جنگ اُحد میں شہید ہوئے سگی بہن ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ہند:

آپ عمرو بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت عمرو بن حرام بن ثعلبہ بن حرام از بنو سلمہ ہیں۔ آپ سے مجیبہ بن مسعود خارثی نے شادی کی جن سے حرام دجیہ اور ربیع تین بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

حمیمہ:

آپ حمام بن جموح بن زید کی دختر اور عمیر بن حمام شہید بدر کی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ نوار بنت عامر بن نائمی بن زید بن حرام ہیں۔ آپ سے سنان بن قیس بن اسود بن مری بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ نے نکاح کیا جن سے مسعود پیدا ہوئے۔ حمیمہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ہند:

آپ منذر بن جموح بن زید کی دختر اور حباب بن منذر بدری کی سگی بہن ہیں آپ کی والدہ شموں بنت حق بن اُمیہ بن حرام سلمی ہیں۔ آپ سے عمرو بن حمیس بن لوذان نے شادی کی جن سے منذر بدری شہید بئر معونہ پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

ام جمیل:

آپ حباب بن منذر بن جموح کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ زہنب بنت صفی بن صخر بن خنساء (از بنو عبید از بنو سلمہ) ہیں آپ سے منذر بن عمرو بن حمیس نقیب بنو ساعدہ نے شادی کی۔ ام جمیل نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام ثعلبہ:

آپ زید بن حارث بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر اور ثعلبہ بن زید جزع کی سگی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ امامہ بنت خالد بن مخلص بن عامر بن زریق ہیں۔ آپ سے عمرو بن اوس بن عائد بن عدی بن کعب بن عمرو بن اُدی بن سعد سلمہ بن سعد کے بھائی نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

ام حارث:

ام ایاس آپ ثابت بن جذع ثعلبہ بن زید بن حارث بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ امامہ بنت عثمان بن خالدہ بن مخلص بن عامر بن زریق ہیں۔ آپ سے مرداس بن مروان بن جذع ثعلبہ بن زید بن حارث نے شادی کی ام حارث نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

عائشہ:

آپ عمیر بن حارث بن ثعلبہ بن حارث بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر سرور کائنات ﷺ سے بیعت کی۔

قلبیہ:

آپ سلن بن زید بن امیہ بن سنان بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ زہرہ بنت اوس بن قین بن کعب ہیں۔ آپ سے عامر بن ناہی بن زید بن حرام سلمی نے نکاح کیا۔ قلبیہ نے بھی مسلمان ہو کر نبی ﷺ سے بیعت کی۔

قیسہ:

آپ صفی بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ نائلہ بنت قیس بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ ہیں۔ آپ سے جابر بن صخر بن امیہ بن خنساء بن عبید سلمی نے شادی کی جن سے عائشہ پیدا ہوئیں۔ پھر بشر بن براء بن معرور نے نکاح کیا جن سے عالیہ پیدا ہوئیں۔ قیسہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

زینب:

آپ قیسہ بنت صفی کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے حباب بن منذر بن جموح نے شادی کی جن سے خشرم اور منذر پیدا ہوئے زینب نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

حمیمہ:

آپ بھی زینب بنت صفی کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے براء بن معرور نے پھر زید بن حارثہ کلبی، محبوب رسول اللہ ﷺ نے نکاح کیا حمیمہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

ملیکہ:

آپ عبد اللہ بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ بسرہ بنت زید بن امیہ بن سنان بن کعب بن سلمہ ہیں۔ آپ سے مسعود بن زید بن سلجج بن خنساء بن عبید نے شادی کی جن سے ابو جہاد عبد الرحمن اور ہزلیہ تین بچے پیدا ہوئے ملیکہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ہند:

آپ براء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ حمیمہ بنت صفی بن صخر ہیں۔ آپ سے جابر بن عتیک بن قیس بن اسود سلمی نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

سلافہ:

آپ ہند بنت براء کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے ابو قحادہ بن ربیع بن بلذہ سلمی نے شادی کی جن سے عبد اللہ اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ سلافہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

رباب:

آپ بھی ہند بنت براء کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے معاذ بن حارث بن سراقہ بن خناس سلمی نے شادی کی جن سے سعد پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

ام حارث:

آپ مالک بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر اور طفیل بن مالک بدری کی سگی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ اسماء بنت قین بن کعب بن سواد سلمی ہیں۔ آپ سے ثابت بن صخر بن امیہ بن خنساء بن عبید سلمی نے شادی کی۔ ام حارث نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

اردوی:

آپ ام حارث کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے عمرو بن عدی بن سنان بن نامی بن عمرو بن سواد نے نکاح کیا جن سے خالد اور ام منج دو بچے پیدا ہوئے۔ اردوی نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

ام حارث:

آپ نعمان بن خنساء بن سنان کی دختر ہیں آپ کی والدہ خنساء بنت رباب بن نعمان بن سنان بن عبید ہیں آپ سے سواد بن رزن بن زید بن ثعلبہ بن عبید سلمی نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر نبی ﷺ سے بیعت کی۔

الربیع:

آپ طفیل بن نعمان بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ اسماء بنت قرظہ بن خنساء بن سنان ہیں۔ آپ سے ابو یحییٰ عبد اللہ بن عبد مناف بن نعمان بن سنان بن عبید نے شادی کی ربیع نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمیرہ:

آپ قرظہ بن خنساء بن سنان کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ماریہ بنت قین بن کعب بن سواد سلمی ہیں۔ آپ سے قطبہ بن عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشہل بن حارثہ بن دینار بن نجار نے شادی کی جن سے مندوس پیدا ہوئے۔ عمیرہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

اسماء:

آپ عمیرہ بنت قرظہ کی علاقہ بہن ہیں۔ آپ کی والدہ ماریہ بنت قین بن کعب بن سواد سلمی ہیں۔ آپ سے طفیل بن

نعمان بن خنساء بن سنان نے شادی کی جن سے رنج پیدا ہوئیں۔ اسماء نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر آپ ﷺ سے بیعت کی۔
ادام:

آپ اسماء بنت قرظ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے طفیل بن مالک بن خنساء نے شادی کی جن سے عبداللہ اور نعمان پیدا ہوئے۔ ادام نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

امامہ:

آپ بھی اسماء بنت قرظ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے یزید بن قیس بن مضر بن خنساء بن سنان بن عبید نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

آمنہ:

آپ بھی اسماء بنت قرظ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے اوس بن معلیٰ بن لؤذان بن حارثہ از بنو عصب بن حشم بن خزرج نے شادی کی جن سے ابوسعید پیدا ہوئے۔ آمنہ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

خنساء:

آپ رباب بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ادام بنت حرام بن ربیعہ بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ ہیں۔ آپ جابر بن عبداللہ بن رباب بدری کی پھوپھی ہیں۔ آپ سے عامر بن عدی بن سنان بن ناعی بن عمرو بن سواد نے پھر نعمان بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم نے شادی کی۔ خنساء نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

ام زید:

آپ قیس بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ادام بنت قین بن کعب بن سواد ہیں۔ آپ سے خالد بن عدی بن عمرو بن عدی بن سنان بن ناعی بن عمرو بن سواد نے شادی کی۔ ام زید نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام ثابت:

آپ حارثہ بن زید بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت مالک بن عامر (از بنو یاضہ) ہیں۔ آپ سے عبداللہ بن حُجیر اشجعی حلیف بنی عبید سلمی نے شادی کی۔ ام ثابت نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

امامہ:

آپ محرت بن زید بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ سلمی بنت ابی الداحدہ (جنت میں لٹکے ہوئے خوشہ والے) بن نعیم بن ایاس از بنو قضاء حلیف بنو عمرو بن عوف ہیں۔ آپ سے رنج بن طفیل بن مالک بن

خساء بن سنان بن عبد سلمی نے پھر ضحاک بن حارثہ بن زید بن ثعلبہ بن عبید سلمی نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔
ام عبید اللہ:

آپ سواد بن رزن بن زید بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام حارث بنت نعمان بن خساء بن سنان بن عبد سلمی ہیں آپ سے ابو محمد بن معاذ بن انس بن قیس بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن نجار نے شادی کی۔ ام عبد اللہ نے بھی مسلمان ہو کر سرکارِ دو عالم ﷺ سے بیعت کی۔

ام رزن:

آپ ام عبد اللہ بنت سواد کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے یزید بن ضحاک بن حارثہ بن زید بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب سلمی نے نکاح کیا۔ ام رزن نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

سعاد:

آپ سلمہ بن زہیر بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام قیس بنت حرام بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن ثعلبہ ہیں اور غضب بن جشم بن خزرج کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ سے جبیر بن صخر بن امیہ بن خساء بن عبید نے شادی کی۔ سعادت نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ ہی نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے پیٹ کے بچے سے بھی بیعت فرمائیں (کیونکہ وہ حاملہ تھیں) پھر ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم آزادوں کی آزاد ہو۔

عمیرہ:

آپ جبیر بن صخر بن امیہ بن خساء بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ معاذ بنت سلمہ بن زہیر بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ ہیں۔ آپ سے کعب بن مالک بن ابی کعب بن قیس بن کعب بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ نے شادی کی جن سے عبد اللہ عبید اللہ فضالہ وہب، معبد خولہ اور سعادت سنان بچے پیدا ہوئے۔ ام معبد عمیرہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور آپ سے روایت بھی کی۔
باخبر محمد بن صلت بن محمد بن اہلق از معبد بن کعب اپنی والدہ سے (جنہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی): میں نے نبی ﷺ سے سنا فرماتے تھے: کھجور و انگور ملا کر نبیذ مت بناؤ بلکہ ہر ایک کی الگ الگ نبیذ بناؤ۔

سمیکہ:

آپ جبار بن صخر بن امیہ بن خساء بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ام حارث بنت مالک بن خساء بن سنان بن عبد سلمی ہیں۔ آپ سے نعمان بن جبیر بن صخر بن امیہ بن خساء نے شادی کی۔ سمیکہ نے بھی مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے بیعت کی۔

عصیمہ:

آپ سمیکہ بنت جبار کی بہن ہیں۔ بقول محمد بن عمرو اقدی آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ہزلیہ:

آپ مسعود بن زید بن سبیح بن خنساء بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ملیکہ بنت عبداللہ بن صخر بن خنساء بن سنان سلمی ہیں۔ آپ سے عبداللہ بن انیس حلیف بن سواد نے شادی کی۔ ہزلیہ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

ام سلیم:

آپ عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کی صاحبزادی ہیں اور ابوالیسر کعب بن عمرو عقی بدری کی سگی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ نسیمہ بنت قیس بن اسود بن مری سلمی ہیں۔ آپ سے ناعی بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ نے شادی کی۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

ام منج:

آپ عمرو بن عدی بن سنان بن ناعی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور آپ کی کنیت ام شبث بھی ہے آپ کی والدہ ارووی بنت مالک بن خنساء بن سنان بن عبید سلمی ہیں۔ آپ سے ابوشبث خدیج بن سلامہ بن اوس بن عمرو بن کعب بن قراقر بن ضحیان حلیف بنی حرام نے شادی کی جن سے عقبہ کی شبث کو شبث پیدا ہوئے۔ خدیج بیعت عقبہ میں شریک تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام منج بھی تھیں۔ ام شبث بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خیبر میں شریک رہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

انیسہ:

آپ عنمہ بن عدی بن سنان بن ناعی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ جہیزہ بنت قین بن کعب سلمی ہیں آپ ثعلبہ بن عنمہ عقی بدری کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے عبداللہ بن عمرو بن حرام نے نکاح کیا۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر آپ کی بیعت سے بیعت کی۔

ام بشر:

آپ عمرو بن عنمہ بن عدی بن سنان بن ناعی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ ام زید بنت عامر بن خدیج بن سنان بن ناعی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ ہیں آپ سے عبدالرحمن بن خراش بن صمہ بن حرام نے شادی کی جن سے اولاد ہوئی۔ پھر عبداللہ بن بشر بن انس بن امیہ بن عامر بن حشم بن حارثہ بن حارث اوسی نے نکاح کیا۔ ام بشر نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

سختلی:

آپ اسود بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ حمیمہ بنت عبید بن ابی کعب بن قین بن کعب بن سواد سلمی ہیں۔ آپ سے معص بن قیس بن خالدہ بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ نے شادی کی۔ پھر عبید بن معلی بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید (از اولاد غضب بن حشم بن خزرج) نے نکاح کیا آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

ام عمرو:

آپ عمرو بن حدیدہ بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام سلیم بنت عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد سلمی ہیں۔ آپ سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمرو بن سواد نے شادی کی آپ سلیم بن عمرو بن حدیدہ عقی و بدری کی سگی بہن ہیں۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی خوشنودی حاصل کی۔

ام جمیل:

آپ قطبہ بن حدیدہ بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام عمرو بنت عمرو بن حدیدہ ہیں۔ آپ سے عثمان بن خالدہ بن زریق نے شادی کی جن سے امامہ پیدا ہوئیں۔ پھر آپ سے زید بن ثابت بن خنک از بنو مالک بن نجار نے نکاح کیا۔ پھر انس بن مالک بن نصر بن ضمیم از بنو عدی بن نجار نے۔ آپ کی والدہ اور نانی دونوں بیعت شدہ ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

سختلی:

آپ قیس بن ابی کعب بن قین بن کعب بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ناکلہ بنت سلامہ بن دقش بن زعبہ بن زوراء بن عبد الاشہل ہیں۔ آپ سے حارث بن سراقہ بن خنساء بن سنان بن عبید سلمی نے نکاح کیا۔ آپ سہل بن قیس بدری شہید احد کی سگی بہن ہیں آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمرہ:

آپ سختلی بنت قیس کی سگی بہن ہیں آپ سے زیاد بن ثعلبہ ساعدی نے نکاح کیا۔ عمرہ نے بھی مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے بیعت کی۔

قلبیہ:

آپ سکن بن زید بن امیہ بن سنان بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

خواتین بنی اری بن سعد برادر سلمہ بن سعد میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام

صعبہ:

آپ جبل بن عمرو بن اوس بن عائد بن عدی بن کعب بن عمرو بن اودی بن سعد کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت سہل (از جہدہ پھر از بنو قفہ) ہیں۔ آپ معاذ بن جبل کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی جن سے عبید پیدا ہوئے۔ صعبہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام عبد اللہ:

آپ معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائد بن عدی بن کعب بن عمر ابن اودی بن سعد کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام عمرو بنت خلاد بن عمرو بن عدی بن سنان بن نائی بن عمرو بن سواد سلمی ہیں۔ آپ سے عبد اللہ بن عامر بن مروان بن ثعلبہ بن زید بن حارث بن حرام سلمی نے نکاح کیا جن سے آمنہ پیدا ہوئیں۔ ام عبد اللہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

خواتین بنو نجار یعنی تیم اللہ بن ثعلبہ بن عمرو بن خزرج بن حارثہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر

کی پھر بنو مازن بن نجار کی بیعت کرنے والی خواتین اسلام

ام عمارہ:

آپ نسیبہ بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم از بنو مازن بن نجار ہیں۔ آپ کی والدہ رباب بنت عبد اللہ بن حبیب بن زید بن ثعلبہ بن زید مناة بن حبیب بن عبد حارثہ بن غضب بن جشم بن خزرج ہیں۔ آپ عبد اللہ بن کعب بدری کی اور ابو لیلیٰ عبد الرحمن بن کعب کی جو بڑے رونے والے تھے سگی بہن ہیں۔ آپ سے زید بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار نے شادی کی جن سے عبد اللہ اور حبیب پیدا ہوئے۔ جو نبی ﷺ کے صحابی ہیں۔ پھر آپ سے غزیہ بن عمرو بن عطیہ بن خضاء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار نے نکاح کیا جن سے تمیم اور خولہ دو بچے پیدا ہوئے۔ ام عمارہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور بیعت عقبہ والے دن موجود تھیں اور احد حدیبیہ خیبر عمرہ القضاء حنین اور جنگ یمامہ میں شریک رہیں۔ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کئی حدیثیں سنیں۔

باخبر محمد بن عمر، یثیعقوب بن محمد از عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صحصہ از ام عمارہ نسیبہ بنت کعب میں بیعت عقبہ والے دن موجود تھی اور میں نے مردوں کے ساتھ آپ سے بیعت کی تھی۔ محمد بن عمر: ام عمارہ جنگ احد میں اپنے شوہر غزیہ بن عمرو کے اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئیں اور صبح صبح مجاہدین کے ساتھ اپنی مشک لے کر زخموں کو پانی پلانے کی غرض سے نکل گئیں۔ اس دن آپ نے جنگ بھی کی اور اچھا کارنامہ انجام دیا۔ آپ کے نیزوں اور تلواروں کے بارہ زخم آئے۔ ام سعید بنت سعد بن ربیع فرماتی ہیں: میں نے ام عمارہ کے پاس جا کر کہا کہ جنگ احد کا کچھ آنکھوں دیکھا حال سناؤ۔

فرمایا: میں جنگ اُحد کے دن شروع دن ہی میں نکل گئی تھی اور میں لوگوں کا حال دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس مشک تھی جس میں پانی تھا۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچی۔ آپ صحابہ کے ساتھ تھے اور فتح دہوا مسلمانوں کے حق میں تھی۔ پھر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ کر کافروں سے لڑنے لگی اور آپ سے تیر و تلوار کے ذریعے دفاع کرنے لگی۔ حتیٰ کہ میں زخمی ہو گئی۔ ام سعید فرماتی ہیں: میں نے خود ام عمارہ کے کندھے پر زخم کا ایک گہرا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھا: ام عمارہ! تمہارے یہ چوٹ کس نے ماری تھی؟ فرمایا: جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو ابن قمیہ زور زور سے یہ کہتا ہوا آیا مجھے محمد کو بتاؤ یا تو وہ نہیں یا میں نہیں۔ اس سے مصعب بن عمیر اور چند مسلمانوں نے مزاحمت کی۔ ان مزاحمت کرنے والوں میں میں بھی تھی۔ اس نے میرے یہ زخم لگایا۔ اس کے بعد میں نے اس کے کئی چوٹیں ماریں لیکن اس ظالم کے جسم پر دہری زرہ تھی۔ میرے حملوں نے اس پر اثر نہیں کیا۔

ضمیرہ بن سعید مازنی اپنی دادی سے روایت کرتی ہیں آپ کی دادی اُحد میں زخمیوں کو پانی پلانے پر مامور تھیں۔ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: آج کے دن نسیمِ بخت کعب کا درجہ فلاں فلاں شخص سے بھی اونچا ہے۔ آپ نے اس دن انہیں سخت قسم کی لڑائی لڑتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے اپنی کمر پر کپڑا باندھ رکھا تھا۔ اس دن آپ کے ۱۳ زخم آئے۔ ضمیرہ فرماتی ہیں: میں نے دیکھا کہ ابن قمیہ نے آپ پر حملہ کر کے آپ کے کندھے کو زخمی کر دیا۔ آپ کے تمام زخموں میں یہی زخم گہرا اور کاری تھا۔ آپ نے اس کا سال بھر علاج کیا پھر رسول اللہ ﷺ کے منادی نے جنگ حراء الاسد کا اعلان کیا۔ ام عمارہ نے پکا باندھا لیکن خون نکل جانے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھیں۔ حراء الاسد میں شریک نہ ہو سکیں۔ ہم رات بھر صبح تک زخموں کو سینکتے رہے پھر جب سرور عالم ﷺ حراء الاسد سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے گھر جانے سے پہلے عبداللہ بن کعب مازنی کو ام عمارہ کے پاس بھیج کر ان کی خیریت معلوم کرائی اور عبداللہ نے آپ کو ام عمارہ کی سلامتی کی خبر پہنچائی جس سے آپ کو بڑی مسرت ہوئی۔

باخبار محمد بن عمر یاخبار عبدالجبار بن عمارہ از عمارہ بن غزیہ از ام عمارہ: میں نے دیکھا مسلمان نبی ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے آپ کے پاس دس سے بھی کم آدمی رہ گئے تھے۔ میں میرے دونوں بیٹے اور میرا شوہر رسول اللہ ﷺ کے آگے سینہ سپر بنے ہوئے تھے اور لوگ شکست خوردہ آپ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ میرے پاس ڈھال نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص کو مدد ڈھال کے بھاگتا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس سے کہا: ڈھال لڑنے والوں کو دیتا جا۔ یہ سن کر اس نے اپنی ڈھال پھینک دی۔ میں نے وہ ڈھال اٹھالی اور میں رسول اللہ ﷺ کو بچانے کے لئے وہی ڈھال استعمال کرنے لگی۔ ہمارے ساتھ یہ کھیل کا فرشہ سواروں نے کھیلا تھا۔ اگر ہماری طرح پیدل ہوتے تو ان شاء اللہ ہم ہی ان پر مسلط ہو جاتے۔ الغرض ایک شہسوار میری طرف بڑھ کر مجھ پر حملہ کرتا ہے۔ میں ڈھال پر اس کا وارو رک لیتی ہوں اور اس کی تلوار ہمارا بال بھی بکا نہیں کرتی پھر وہ مڑتا ہے میں فوراً اس کے گھوڑے کی ایڑی پر حملہ کرتی ہوں وہ اپنی پشت پر گر پڑتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ بلند آواز سے پکارتے ہیں اے ام عمارہ کے فرزند! اپنی والدہ کی خیر خبر لو۔ فرماتی ہیں پھر وہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے شہوب میں

دھکیل آتی ہوں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ از عمرو بن یحییٰ اپنی والدہ سے اور وہ عبد اللہ بن زید سے: اس دن میرے بائیں بازو میں زخم آیا۔ یہ زخم کھجور کے تنہ کی طرح ایک لمبے شخص نے لگایا مگر وہ میری طرف مائل نہیں ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ اس سے خون کسی صورت سے بند ہی نہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زخم پر پٹی باندھ لو پھر میری طرف آتی ہیں آپ کے پاس پٹیاں ہیں۔ جو آپ نے تیار کر کے ازار بند میں نوم رکھی ہیں۔ آپ میرے زخم پر پٹی باندھ دیتی ہیں۔ نبی ﷺ کھڑے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میری والدہ مجھ سے فرماتی ہیں بیٹا کھڑے ہو جاؤ اور کافروں سے جنگ کرو۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں ام عمارہ! تمہاری طرف کس میں طاقت ہے؟ فرماتی ہیں: پھر وہ شخص آتا ہے جس نے میرے بچہ پر حملہ کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں یہ ہے تمہارے بیٹے پر حملہ کرنے والا۔ فرماتی ہیں: میں اس کے سامنے جا کر اس کی ٹانگ پر تلوار مارتی ہوں پھر وہ گٹھنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے اس وقت رسول اللہ ﷺ کو مسکراتا ہوا دیکھا۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں اور آپ نے فرمایا: ام عمارہ! تم نے بدلہ لے لیا۔ پھر ہم نے اسلحہ سے حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: الحمد للہ! حق تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی اور دشمن سے تمہاری آنکھ ٹھنڈی کی اور تم کو تمہاری آنکھوں سے انتقام دکھایا۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ از عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی صحصہ از حارث بن عبد اللہ بسماح عبد اللہ بن زید بن عاصم: میں جنگ احد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک تھا۔ پھر جب لوگ آپ کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تو میں اور میری والدہ آپ سے دفاع کے لئے آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ نے پوچھا تم فرزند ام عمارہ ہو؟ میں بولا: جی ہاں۔ فرمایا برسائے۔ میں نے ایک مشرک شہسوار پر ایک پتھر کھینچ کر مارا لیکن پتھر اس کے گھوڑے کی آنکھ پر لگا اور گھوڑا بے قرار ہو کر معہ سوار کے گر گیا پھر میں نے تابوت توڑ اس پر اتنے پتھر برسائے کہ پتھروں کا ڈھیر ہو گیا۔ نبی ﷺ دیکھ کر مسکرا رہے تھے آپ نے میری والدہ کے کندھے کے زخم کو دیکھ کر فرمایا۔ اپنی والدہ کی خیر خبر لو۔ ان کے زخم پر پٹی باندھو۔ اے خاندان والو! تمہارے خاندان کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تمہاری والدہ کا مقام فلاں فلاں کے مقام سے بہتر ہے۔ اے خاندان والو! اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہارے عربی (والد کے شوہر) کا مقام فلاں فلاں کے مقام سے بہتر ہے۔ اے خاندان والو! اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے میری والدہ نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ فرمایا: اے اللہ! انہیں جنت میں میرے رفیق بنا۔ فرماتی ہیں (اس دعا کے بعد) مجھے دنیا کی کسی مصیبت کی پروا نہیں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث یعقوب بن محمد از موسیٰ بن ضمیرہ بن سعید از ضمیرہ بن سعید: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ چادریں لائی گئیں ان میں ایک چادر عمدہ اور فراخ تھی۔ کسی نے کہا: اس چادر کی اتنی اتنی قیمت ہے اگر آپ یہ عبد اللہ بن عمر کی بیوی صفیہ بنت ابی عبیدہ کو بھجوادیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ یہ صفیہ کی رخصتی سے قبل کا واقعہ ہے۔ فرمایا: میں اسے اس کو بھجواؤں گا جو اس کی صفیہ سے زیادہ حق دار ہے۔ یعنی ام عمارہ کو میں نے احد کے دن رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے: جب بھی میں نے اپنے دائیں یا بائیں دیکھا ام عمارہ ہی کو دیکھا کہ وہ سینہ سپر بنی ہوئی میری حفاظت میں لڑ رہی ہیں۔

باخبار محمد بن عمر از معاذ بن محمد بن عمرو بن حصن نجاری از خبیب بن عبد الرحمن بن خبیب بن یاف از لیلی بنت سعد از ام عمارہ: ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ بیمار پرسی کے لئے تشریف لائے میں نے آپ کے سامنے کھانا رکھا۔ آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا اور فرمایا: آؤ تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ میرا روزہ ہے۔ فرمایا: جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کے حق میں فرشتے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جب تک کھانے والا کھا کر فارغ نہ ہو۔

باخبار وکیع بن جراح از شعبہ از خبیب بن زید انصاری از لیلی از ام عمارہ: ہمارے گھر سرور عالم ﷺ تشریف لائے ہم نے آپ کے آگے کھانا رکھا حاضرین میں سے کسی کا روزہ بھی تھا فرمایا جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کے حق میں فرشتے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔

باخبار سلیمان بن ابی داؤد طیالسی باخبار شعبہ از خبیب بن زید: میں اس مجلس میں حاضر تھا جس میں لیلی اپنی دادی ام عمارہ انصاریہ نجاریہ سے بیان فرما رہی تھیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے: روزہ دار کے لئے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ (کھانے سے) فارغ نہ ہو جائیں یا بیٹ نہ بھریں۔

باخبار محمد بن عمر بحدیث منذر بن سعید مولیٰ بنی زہیر از محمد بن یحییٰ بن حبان: جنگ احد میں ام عمارہ کے بارہ زخم آئے تھے اور جنگ یمامہ میں آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا اور گیارہ زخم ہاتھ کے علاوہ تھے۔ آپ مدینہ میں زخمی آئی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم آپ کے پاس آ کر آپ کی خیریت معلوم کرتے تھے۔ اس زمانہ میں آپ خلیفہ تھے فرماتے تھے ام عمارہ نے تین شخصوں سے نکاح کیا اور آپ کی تینوں سے اولاد ہے۔ غزیہ سے تمیم بن غزیہ زید بن عاصم سے خبیب جن کو مسلمیہ کذاب نے بوٹی بوٹی کیا اور عبد اللہ بن زید جو جنگ حرہ میں کام آئے اور تیسری بیوی نسیمہ ہیں آپ کی اولاد دلا ولد فوت ہوئی۔

فاطمہ:

آپ منقذ بن عمرو بن مالک بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام ولد ہیں آپ سے داؤد بن ابی داؤد عمیر بن عامر بن مالک بن خنساء بن مبذول نے نکاح کیا جن سے اولاد ہوئی فاطمہ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

زینب:

آپ حباب بن حارث بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ سے قیس بن عمرو بن اہل بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مازن بن نجار نے نکاح کیا جن سے سعید بن قیس پیدا ہوئے۔ زینب نے بھی مشرف بد اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

جمیلہ:

آپ ابو حصصہ (عمرو) بن زید بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ انیسہ بنت عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار ہیں۔ آپ سے عبادہ بن صامت بن قیس بن اصرم بن فہر

بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن خزرج نے شادی کی جن سے ولید بن عبادہ پیدا ہوئے۔ پھر ربیع بن سراقہ بن عمرو بن زید بن عبدہ بن عامر بن عدی بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج نے نکاح کیا جن سے عبداللہ محمد اور بیٹہ تین بچے پیدا ہوئے پھر خلدہ بن ابی خالد بن قیس بن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق خزرجی نے نکاح کیا۔ جمیلہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔
نائلہ:

آپ عبید بن حرم بن عمرو بن جعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ رضیہ بنت اوس بن خالد بن جعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار ہیں آپ سے عمر بن حزم بن زید بن لوزان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی جن سے عبدالرحمن پیدا ہوئے نائلہ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

اُشیلہ:

آپ حارث بن ثعلبہ بن صحر بن حرام بن امیہ بن عامر بن مازن بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زید مناة بن عمرو بن مازن غسانی ہیں۔ اُشیلہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔
شقیقہ:

آپ مالک بن قیس بن محرث بن حارث بن ثعلبہ بن مازن بن نجار کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ سہمیہ بنت عویمیر بن اشقر بن خساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار ہیں۔ آپ سے حارث بن سراقہ بن حارث بن عدی بن مالک بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نے شادی کی جن سے عبداللہ اور ام عبیدہ دو بچے پیدا ہوئے۔ شقیقہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

کیشہ:

آپ شقیقہ بنت مالک کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے ثعلبہ بن عمرو بن محسن بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول بن مالک بن نجار نے نکاح کیا۔ پھر حباب بن حارث بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار نے نکاح کیا جن سے زینب پیدا ہوئیں جنہوں نے آپ سے بیعت کی کیشہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

شموس:

آپ بھی شقیقہ بنت مالک کی سگی بہن ہیں اور آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام سلیطہ نجاریہ:

آپ ام قیس بنت عبید بن زیاد بن ثعلبہ بن خساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار ہیں۔ آپ کی والدہ ام عبداللہ بنت ثبل بن حارث بن عوف (ازسکاسک) ہیں آپ سے ابوسلیطہ بن ابی حارثہ (عمرو) بن قیس بن مالک بن عدی بن نجار نے شادی کی جن سے سلیطہ اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔ ام سلیطہ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی اور آپ جنگ

خیبر و حنین میں شریک ہوئیں۔

خواتین بنی عدی بن نجار میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام

نووار:

آپ مالک بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی دختر ہیں آپ کی والدہ سلمی بنت عامر بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار ہیں آپ سے ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن عدی بن نجار نے شادی کی جن سے زید اور یزید پیدا ہوئے پھر عمارہ بن حزم بن زید بن لوذان نے نکاح کیا جن سے مالک درج پیدا ہوئے۔ نووار نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن علی بن حمید از نواری بنت مالک ام زید بن ثابت زید کی پیدائش سے پہلے جبکہ مجھے زید کے حمل کی وجہ سے تکلیف تھی میں نے کعبہ پر ریشمی سبز اور زرد چادریں اور دیہاتیوں کے بچے ہوئے مصلے اور کپڑے کے ٹکڑے بالوں کے دیکھے۔

باخبار محمد بن عمر، محمد بن علی بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ: مجھے اس نے بتایا جس نے نووار سے سافر ماتی تھیں: مسجد کے ارد گرد کے تمام گھروں میں میرا گھر وسیع تھا شروع ہی سے بلال میرے گھر کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ پھر بلال مسجد کی پشت پر اذان دینے لگے مسجد کی چھت پر آپ کی اذان کے لئے ایک بلند شے بنا دی گئی تھی۔

باخبار عمرو بن ہشام، محمد بن سعدی: ثابت بن عبید کا گمان ہے کہ زید بن ثابت نے میری والدہ کے جنازے کی نماز میں چار تکبیریں کہیں۔

ام عبید:

آپ سراقہ بن حارث بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی دختر ہیں اور حارثہ بن سراقہ بدری شہید کی سگی بہن ہیں آپ کی والدہ ام حارثہ ربیع بنت نصر بن مضمض بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ہیں۔ آپ سے رافع بن زید بن عدی بن قیس بن قطن بن خدش بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نے شادی کی پھر تمیم بن غزیہ بن عمرو بن عطیہ بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار نے نکاح کیا۔ ام عبید معہ اپنی والدہ کے مشرف بہ اسلام ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

انیسہ:

آپ ابو حارثہ عمرو بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم سعدی بن نجار کی دختر ہیں اور ابوسلیطہ اسرہ بن عمرو بدری کی سگی بہن ہیں آپ کی والدہ آمنہ بنت اوس بن حجرہ (ازہلی) حلیف بن عوف بن خزرج ہیں۔ آپ سے نعمان بن عامر بن سواد

بن ظفر اوسی نے شادی کی جن سے قتادہ بدری اور ام سہل دو بچے پیدا ہوئے پھر مالک بن سنان بن عبید بن ثعلبہ بن عبید بن ابجر (خدرہ) بن عوف بن حارث بن خزرج نے نکاح کیا جن سے ابوسعید خدری اور فریجہ پیدا ہوئیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام سہل:

بنت عمرو ابوجاہل بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ہیں آپ کی والدہ آمنہ بنت اوس بن عمرہ (ازبلی) حلیف بنوعوف بن خزرج ہیں۔ آپ سے محرز بن عامر بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نے شادی کی ام سہل نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

ام منذر:

آپ قیس بن عمرو بن عبید بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی دختر ہیں اور سلیط بن قیس بدری شہید جنگ جسر ابی عبید کی سگی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ رغیبہ بنت زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے قیس بن صعصعہ بن وہب بن عدی بن مالک بن عدی بن غنم بن عدی بن نجار نے شادی کی جن سے منذر پیدا ہوئے۔ ام منذر نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور آپ سے روایت بھی کرتی ہیں۔

باخبار یحییٰ بن عباد، محمد بن فضیح، بحدیث ایوب بن عبدالرحمن از یعقوب بن ابی یعقوب از ام منذر بنت قیس عدویہ جو رسول اللہ ﷺ کی خالہ ہیں فرماتی ہیں: ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ معہ علی کے میرے گھر تشریف لائے، علی بیماری کی وجہ سے نحیف و لاغر تھے ہمارے گھر میں خوشے لکے ہوئے تھے رسول اللہ ﷺ ان میں سے دانے توڑ کر کھانے لگے اور آپ کے ساتھ علی بھی کھانے لگے۔ لیکن آپ نے علی سے کہا تم نہ کھاؤ کیونکہ تم لاغر ہو چنانچہ علی بیٹھ گئے اور آپ دانے توڑ کر کھانے لگے۔ میں نے آپ کے لئے چقندر اور جو سے طعام تیار کیا اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے لا رکھا۔ آپ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اس میں سے کھاؤ یہ تمہارے موافق آئے گا۔

ام سلیم:

آپ ام منذر بنت قیس کی بہن ہیں، بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمیرہ:

آپ بھی ام منذر بنت قیس کی بہن ہیں۔ آپ نے بھی بقول محمد بن عمر مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

ثیبیہ:

آپ سلیط بن قیس بن عمرو بن عبید بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ثعلبہ بنت صمد بن عمرو بن عبید بن عمرو بن مبذول بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے عبداللہ بن صعصعہ بن وہب بن عدی بن مالک بن

عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نے شادی کی جن سے عبدالرحمن سالمہ اور میمونہ تین بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

اسماء:

آپ محرز بن عامر بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام ہبل بنت ابی خارجہ عمرو بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ہیں۔ آپ سے ابو بشیر قیس بن عبید بن حرب بن عمرو بن جعد بن عوف بن میزول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار نے شادی کی جن سے بشیر اور جعد پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

کلتیم:

آپ اسماء بنت محرز کی سگی بہن ہیں آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام حارثہ:

آپ کا نام زینب ہے۔ آپ نصر بن مضمض بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت زید بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے سراقہ بن حارث بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نے شادی کی جن سے حارثہ بدری شہید بدر پیدا ہوئے۔ اور ام عمیر بھی آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام حکیم:

آپ ام حارثہ بنت نصر کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے عمرو بن ثعلبہ بن وہب بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نے شادی کی جن سے ابو حکیم عبدالرحمن اور ام حکیم سہلہ بنت ثعلبہ پیدا ہوئیں۔ ام حکیم نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام سلیم:

آپ ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی دختر ہیں۔ انہیں کوغمیصاء یا رمیصاء کہا جاتا ہے۔ بعض ان کا نام سہلہ، بعض رمیلہ، بعض انیفہ اور بعض رمیصہ بتاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ملیکہ بنت مالک بن عدی بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے مالک بن نصر بن مضمض بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نے شادی کی جن سے انس بن مالک پیدا ہوئے۔ پھر ابو طلحہ زید بن اہل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار نے نکاح کیا۔ جن سے عبداللہ اور ابو عمیر پیدا ہوئے۔ ام سلیم نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ جنگ حنین میں شریک تھیں جب کہ عبداللہ بن ابی طلحہ کا حمل بھی تھا اس سے قبل جنگ احد میں شریک ہو چکی تھیں اور زخیوں کو پانی پلانے پر اور ان کی مرہم پٹی پر مامور تھیں۔

باخبار ابو اسامہ حماد بن اسامہ باخبار ام عون از محمد جنگ احد میں ام سلیم رسول اللہ ﷺ کے پاس تھیں اور آپ کے پاس

خنجر تھا۔

باخبا محمد بن عمر بحدیث سلیمان بن بلال از عمارہ بن غزیہ: ام سلیم حنین میں خنجر لئے ہوئے اور کمر میں پیکا باندھے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے پاس تھیں۔ اس دن آپ کو عبد اللہ بن ابی طلحہ کا حمل بھی تھا۔

باخبا یزید بن ہارون و عوفان بن مسلم باخبا رحماد بن سلمہ از ثابت از انس: جنگ حنین میں ام سلیم کے پاس خنجر تھا۔ ابو طلحہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ ام سلیم ہیں اور ان کے پاس خنجر ہے۔ کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے اپنے پاس یہ خنجر اس لئے رکھا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے تو میں اس سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں۔ طلقاء (چھوڑے ہوئے لوگ) کو قتل کر دوں اور ان کی گردنیں اڑا دوں۔ جن کی وجہ سے آپ کو شکست کا سامنا دیکھنا پڑا۔ رسول اللہ ﷺ نے مسکرا کر فرمایا: ام سلیم! ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اچھا ہی کیا۔

باخبا عمرو بن عاصم بخدیث ہمام از اسحق بن عبد اللہ اپنی دادی ام سلیم سے: میں رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آئی۔ ان کے باپ موجود نہ تھے پھر وہ آگئے اور کہنے لگے: کیا تم بے دین ہو گئی ہو؟ میں نے کہا: میں بے دین نہیں ہوئی البتہ اس شخص (پیغمبر اسلام) پر ایمان لے آئی ہوں۔ فرماتی ہیں میں انس کو اشارہ کر کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سکھانے لگی۔ انس اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ پڑھنے لگے۔ انس کے باپ بولے: میرے بیٹے کو تو نہ بگاڑو۔ میں نے کہا: میں اسے بگاڑ نہیں رہی۔ فرماتی ہیں: پھر مالک (انس کے باپ) گھر سے باہر چلے گئے اور انہیں ان کے کسی دشمن نے قتل کر دیا۔ جب مجھے ان کے قتل کی خبر ملی تو میں نے کہا: اب میں لامحالہ انس کا دودھ نہیں چھڑاؤں گی حتیٰ کہ انس اپنی خوشی سے سینہ منہ میں لینا چھوڑ دے اور میں نکاح نہیں کروں گی جب تک انس مجھے نکاح کی اجازت نہیں دیں گے اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میری ماں نے میرا حق ادا کر دیا۔ پھر جب انس نے دودھ پینا بند کر دیا تو میرے پاس مشرک ابو طلحہ کا پیام آیا میں نے انکار کر دیا۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا: بھلا تائیے تو سہی آپ جو پتھروں کو پوجتے ہیں تو کیا یہ آپ کو نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ اور بڑھئی نے آپ کو لکڑی کا جو ایک مجسمہ بنا کر دیا ہے کیا اس سے آپ کو نفع یا نقصان پہنچتا ہے۔ فرماتی ہیں: میرے اس سوال نے ان پر گہرا اثر کیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگے تم نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک ہے (ان بے جانوں سے نفع کی توقع کی جاسکتی ہے اور نہ نقصان کی) اور اب میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا: اب میں آپ سے نکاح کرنے پر راضی ہوں اور آپ کا مسلمان ہو جانا ہی میرا مہر ہے۔

باخبا خالد بن مخلد بخدیث محمد بن موی از عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی طلحہ از انس بن مالک: ابو طلحہ نے ام سلیم پر پیام ڈالا۔ ام سلیم نے کہا: میں ان (پیغمبر اسلام) پر ایمان لے آئی ہوں اور میں نے اقرار کر لیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ بھی مسلمان ہو جائیں تو میں آپ سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو دین تم نے اختیار کر لیا ہے وہی میرا دین ہے۔ چنانچہ ام سلیم نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کا اسلام ہی اپنا مہر مقرر کیا۔

باخبا اسماعیل بن عبد اللہ بن ابی اویس بخدیث محمد بن موی از عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی طلحہ: ابو طلحہ نے ام سلیم بنت ملحان پر پیام ڈالا۔ ام سلیم کہا کرتی تھیں: میں نکاح نہیں کروں گی جب تک انس بالغ نہ ہو جائیں اور مجلسوں میں بیٹھنے کے قابل

نہ ہو جائیں اور یہ اقرار نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو میری طرف سے اچھا صلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے میری پرورش کا پورا پورا حق ادا فرما دیا۔ ام سلیم سے ابو طلحہ نے کہا کہ انس مجالس میں گفتگو کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ام سلیم نے کہا: اگر تم دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا عہد کرو تو میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں یا تو تم مسلمان ہو جاؤ یا میرے اسلام کو چھپاؤ کیونکہ میں پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئی ہوں۔ ابو طلحہ نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں پھر دونوں میں مہر ابو طلحہ کا اسلام ہی ٹھہرا۔

باخبا محمد بن فضل از عبد الرحمن بن اسحاق از حسین بن ابی سفیان از انس بن مالک ایک دفعہ نبی ﷺ ام سلیم کے گھر تشریف لائے اور آپ نے وہاں نفل نماز پڑھی اور فرمایا: ام سلیم! جب تم فرض نماز پڑھ چکو تو دس بار سبحان اللہ دس بار الحمد للہ اور دس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ پھر جو کچھ مانگو گی تم سے کہا جائے گا: ہاں! ہاں! ہاں! یعنی تمہاری ہر مراد پوری کی جائے گی۔

باخبا عرفان بن مسلم متحد یرث سلیمان بن مغیرہ متحد یرث ثابت از انس: ابو طلحہ ام سلیم پر پیام ڈالنے کے لئے آئے۔ ام سلیم نے کہا: مجھے مشرک سے شادی کرنا لائق نہیں۔ ابو طلحہ! کیا تم کو معلوم نہیں کہ جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو انہیں آل فلاں کا غلام جو بڑھتی ہے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور اگر تم اسے آگ میں جلاؤ تو یہ آگ میں جل کر جھسم ہو جاتا ہے۔ اس نصیحت نے ابو طلحہ کے دل پر اثر کیا اور ابو طلحہ نے شرک و بت پرستی سے توبہ کی جب کبھی ابو طلحہ ام سلیم کے پاس آئے تھے آپ ان سے یہی بات کہا کرتی تھیں۔ ایک دن آ کر کہنے لگے تم مجھ پر اسلام پیش کیا کرتی ہو لو آج میں اسلام قبول کرتا ہوں پھر دونوں کا نکاح ہو گیا اور ابو طلحہ کا اسلام ہی مہر مقرر ہوا۔

باخبا عرفان بن مسلم متحد یرث حماد بن سلمہ از ثابت از ام سلیم: ابو طلحہ! کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جس معبود کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ محض ایک درخت ہے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے اور بنو فلاں کا حبشی غلام اسے تراش کر بنا دیتا ہے۔ بولے ہاں بات تو یہی ہے۔ فرمایا: کیا آپ کو ایک درخت کے آگے جو زمین سے پیدا ہوا ہے اور جسے ایک حبشی نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے سجدہ کرنے سے شرم نہیں آتی۔ آپ کلمہ شہادتین پڑھ لیں میں آپ سے نکاح کر لوں گی اور اس کے سوا کچھ اور مہر بھی مقرر نہ کروں گی۔ ابو طلحہ نے کہا: مجھے غور کر لینے دو اس وقت تو ابو طلحہ چلے گئے پھر غور کرنے کے بعد آئے اور کلمہ شہادتین پڑھ لیا۔ ام سلیم نے کہا: انس! اٹھو اور ابو طلحہ کا نکاح کراؤ۔

باخبا مسلم بن ابراہیم باخبا شعیب بن سعید متحد یرث قتادہ از انس بن مالک: کبھی کبھی نبی ﷺ ام سلیم کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ پھر آپ نماز کے وقت ہمارے فرش پر جو ایک چٹائی تھی اور جس پر پانی چھڑک لیا جاتا تھا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

باخبا مسلم بن ابراہیم باخبا ربیع بن عبد اللہ بن جارد و ہندی، بحدیث جارود بحدیث انس بن مالک: نبی ﷺ میری والدہ ام سلیم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ آپ کو تحفہ کے طور پر جو تیار کیا کرتی تھیں پیش کر دیا کرتی تھیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی ایک دن نبی ﷺ ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا: ام سلیم! کیا بات ہے میں تمہارے بیٹے ابو عمیر کو دلگیر دیکھ رہا ہوں؟ والدہ نے جواب دیا: اے اللہ کے نبی ﷺ! اس کا مولد مر گیا جس سے وہ کھلا کرتا تھا۔ پھر نبی ﷺ ابو عمیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس سے پوچھتے ہیں: ابو عمیر! تمہارا مولد کیا ہوا؟

باخبار عمرو بن عاصم، باخبار ہمام، متحد یث اسحاق بن عبداللہ از انس بن مالک: نبی ﷺ جز امہات المؤمنین کے گھروں کے ام سلیم کے گھر کے علاوہ کسی کے گھر آیا جانا نہیں کرتے تھے۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: مجھے ان پر ترس آتا ہے ان کے بھائی جو میرے ساتھ تھے جنگ میں شہید ہو گئے۔

باخبار عبداللہ بن جعفر ثقی، متحد یث عبید اللہ بن عمرو بن ایوب از محمد بن سیرین از ام سلیم: رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں دو پہر کو آرام فرمایا کرتے تھے میں آپ کے لئے چڑے کا گدا بچھا دیا کرتی تھی جس پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو پسینہ آیا کرتا تھا میں اسے خوشبو کی ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی۔ محمد کہتے ہیں میں نے ام سلیم سے وہ شیشی مانگ لی آپ نے مجھے وہ بہہ کر دی ایوب کہتے ہیں: میں نے محمد سے مانگ لی اور انہوں نے مجھے وہ شیشی بہہ کر دی جو اب تک میرے پاس ہے پھر جب محمد فوت ہوئے تو اسی شیشی کی خوشبو آپ کو لگائی گئی۔ محمد کو یہ بات پسند تھی کہ میت کو سسک کی خوشبو لگائی جائے (سسک ایک قسم کی خوشبو بنائی جاتی تھی جس کا جزو اعظم مشک ہوتی تھی)۔

باخبار عبداللہ بن جعفر، متحد یث عبید اللہ بن عمرو از عبدالکریم از براء بن زید نبی ﷺ ام سلیم کے گھر میں دو پہر کو چڑے کے ایک گدے پر سوتے۔ آپ کو سوتے ہیں پسینہ آیا پھر آپ اس حال میں بیدار ہوئے کہ ام سلیم آپ کا پسینہ پونچھ پونچھ کر جمع کر رہی تھیں۔ پوچھا: اسے کیا کرو گی؟ بولیں: میں اس سے برکت حاصل کروں گی جو آپ سے نکلی ہے۔

باخبار عبداللہ بن جعفر، متحد یث عبید اللہ بن عمرو از عبدالکریم از براء بن زید از انس بن مالک: نبی ﷺ ام سلیم کے گھر تشریف لائے گھر میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ نے اسے لے کر اس کے منہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ ام سلیم نے مشکیزہ کا منہ کاٹ لیا اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا (کیونکہ اسے رسول اللہ ﷺ کے مبارک ہونٹ لگے تھے)۔

باخبار ابو عاصم نبیل از ابن جریج از عبدالکریم بن مالک جزری بخبر براء نواسہ انس از انس بن مالک: نبی ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے گھر میں پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر مشکیزے کے منہ سے پانی پیا پھر ام سلیم کھڑی ہوئیں اور مشکیزہ کا منہ کاٹ کر محفوظ کر لیا۔

باخبار عرفان بن مسلم، متحد یث حماد بن سلمہ باخبار ثابت از انس: جب نبی ﷺ نے منیٰ میں اپنا سر منڈوانے کا ارادہ فرمایا تو ابو طلحہ نے آپ کے بالوں کا کچھ حصہ پکڑ لیا جام نے وہ حصہ بھی موٹا پھر آپ وہ بال ام سلیم کے پاس لے آئے ام سلیم نے اپنی سسک (خوشبو) میں وہ بال شامل کر لئے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے گھر آ کر دو پہر کو گدے پر سویا کرتے تھے آپ کو بڑا پسینہ آیا کرتا تھا ایک دن آ کر آپ نے آرام فرمایا میں نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیا۔ آپ جاگ گئے اور پوچھنے لگے: ام سلیم! اس کا کیا کرو گی؟ بولیں: میں آپ کا تمام پسینہ اپنی خوشبو میں ملاؤں گی۔

باخبار محمد بن عبداللہ انصاری، متحد یث حمید از انس: ایک دن نبی ﷺ ام سلیم کے گھر تشریف لائے ام سلیم نے آپ کے سامنے کھجوریں اور گھی لا کر رکھا۔ فرمایا: مشکیزے میں گھی لوٹا دو اور برتن میں کھجوریں رکھ دو کیونکہ میرا روزہ ہے۔ پھر آپ نے گھر کے ایک گوشہ میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور آپ نے ام سلیم کے لئے اور ان کے گھر والوں کے لئے دُعا کی۔ ام سلیم نے کہا: یا

رسول اللہ! میرا ایک خاص و مقرب بھی ہے۔ پوچھا: وہ کون ہے؟ بولیں: آپ کا خادم انس۔ انس کہتے ہیں پھر آپ نے دین و دنیا کی بھلائی کی ہر دو عالمیرے لئے مانگی۔ پھر کہا: اے اللہ! اسے مال و اولاد دے اور ان میں اسے برکت عطا فرما۔ انس فرماتے ہیں: میں انصار میں سے زیادہ مالدار مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ میں آنے تک میری صلب سے ۱۲۹ بچے دفن کئے جا چکے تھے۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری بخدیث حمید از انس: ام سلیم نے رسول اللہ ﷺ کے پاس میرے ہاتھ تازہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھیجا میں نے آپ کو گھر میں نہیں پایا آپ اپنے آزاد کردہ غلام کے جو درزی وغیرہ تھا پاس تھے اور کام میں اس کا ہاتھ بنا رہے تھے اور وہ آپ کے لئے گوشت اور کدو کا ٹرید تیار کر رہا تھا۔ آپ نے کھانے کے لئے مجھے بھی بلا لیا۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ آپ کدو شوق سے کھاتے ہیں تو میں کدو کے قتلے آپ کے سامنے کرنے لگا۔ پھر جب آپ گھرواپس آئے تو میں نے کھجوروں کی زمبیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ ان میں سے کھانے لگے اور بانٹنے لگے حتیٰ کہ تمام کھجوریں بانٹ دیں۔

باخبار عفان بن مسلم بخدیث ہمام بخدیث قتادہ از انس: ام سلیم نے میرے ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس تازہ کھجوروں کی ایک زمبیل بھیجی آپ نے ان میں سے ایک مٹھی بھر کر کھجوریں اپنی کسی بیوی کے پاس بھیجیں اور خود بھی بڑے شوق و خواہش کے ساتھ کھائیں۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری بخدیث حمید از انس: نبی ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں گیا تو اپنے آگے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ اتنے میں میں نے غمیصاء (ام سلیم) بنت ملحان کو دیکھا۔

باخبار عفان بن مسلم و سلیمان بن حرب بخدیث حماد بن سلمہ از ثابت از انس: نبی ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں گیا تو میں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ رمیصاء بنت ملحان ہیں۔ عفان نے رمیصاء اور سلیمان نے غمیصاء کہا ہے۔

باخبار فضل بن دکین بخدیث معقل بن عبید اللہ از عطاء از ام سلیم انصاریہ: مجھ سے نبی ﷺ نے فرمایا کیا بات ہے ام سلیم نے اس سال ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی ﷺ! میرے شوہر کے پاس اپنی کھینچنے والے دو اونٹ ہیں۔ ایک پر تو وہ خود حج کو چلے گئے تھے اور دوسرا پانی کھینچنے کے لئے چھوڑ گئے تھے کہ ان کے کھجوروں کے باغ کی آبپاشی ہوتی رہے۔ فرمایا جب رمضان (یا) روزوں کا مہینہ آئے تو تم اس میں عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ (ثواب میں) حج کی مانند ہے یا حج کے قائم مقام ہے۔

باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس بخدیث ابوشہاب از ابن ابی لیلیٰ از عطاء از ابو عباس: ام سلیم نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ابوظہر معا اپنے بیٹے کے اپنے اونٹ پر حج کو چلے گئے اور ہمیں چھوڑ گئے۔ فرمایا: رمضان میں عمرہ تم کو میرے ساتھ حج کا کام دے گا۔

باخبار عبد الوہاب بن عطاء باخبار سلیمان بن یحییٰ از انس: ام سلیم نبی ﷺ کی عورتوں کے ساتھ تھیں امہات المؤمنین کے

اونٹ ایک ساربان ہانک رہا تھا۔ پھر امہات المؤمنین کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: انجھہ! ذرا آہستہ ہانک کیونکہ تیرے اونٹوں پر شیشے ہیں۔

باخبار حسن بن موسیٰ بخدیث زہیر از سلیمان تمیمی از انس بن مالک از ام سلیم: سابق حدیث کے ہم معنی۔

باخبار عبداللہ بن جعفر رقی، بخدیث عبید اللہ بن عمرو از ایوب از ابوقلابہ از انس: میں نے انجھہ کو دیکھا وہ نبی ﷺ کا ساربان تھا اور آپ کے ساتھ ام سلیم بھی تھیں۔ نبی ﷺ فرما رہے تھے انجھہ! اللہ تجھ پر رحم فرمائے آہستہ ہانک کیونکہ سوار یوں پر شیشے ہیں۔

بخدیث یحییٰ بن عباد بخدیث عمارہ بن زاذان بخدیث ثابت بنانی از انس: ابوطلمحہ کا ایک بیٹا ابوعمیر بھی تھا۔ نبی ﷺ ابوعمیر کے سامنے آ کر فرماتے ابوعمیر تمہارا تعمیر (مولانا) کیا ہوا۔ فرماتے ہیں پھر وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ ابوطلمحہ اپنے باغ میں کام میں مصروف تھے اور غیر حاضر تھے۔ بچہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے غسل دیا، کھانا پکا اور خوشبو لگائی اور اس پر کپڑا ڈال کر گھر کے ایک کونہ میں اس کی چار پائی رکھوا دی اور تاکید کر دی کہ ابوطلمحہ کو بچہ کے مرنے کی کوئی شخص اطلاع نہ کرے میں ہی مناسب وقت پر خبر کروں گی۔ پھر ابوطلمحہ آئے ام سلیم نے ان کے لئے خوشبو لگائی اور بناؤ سنگھار کیا اور ان کے سامنے کھانا لاکر رکھا۔ ابوطلمحہ نے پوچھا: ابوعمیر کا کیا حال ہے؟ بولیں آپ کھانا کھائیں اسے آرام ہے۔ ابوطلمحہ نے اطمینان سے کھانا کھایا اور رات کو مہستری بھی کی۔ پھر ام سلیم نے کہا: ابوطلمحہ! اگر کوئی کسی سے مانگ کر کوئی چیز لے لے پھر چیز والے اس سے وہ چیز مانگیں تو کیا وہ چیز انہیں دے دی جائے یا نہ دی جائے؟ بولے: دے دی جائے۔ بولیں: ابوعمیر پر صبر کیجئے۔ یہ سن کر ابوطلمحہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ام سلیم کی تمام باتوں کا آپ سے ذکر کیا۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ تم دونوں کو گزشتہ رات میں برکت عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اسی شب آپ کے ابوطلمحہ سے عبداللہ کا حمل ٹھہر گیا۔ پھر جب عبداللہ کے پیدا ہونے کے بعد ساتواں دن آیا تو ام سلیم نے کہا بچہ کو اور کھجوروں کی زمبیل کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤ۔ آپ کھجور چبا کر بچہ کے تالو پر مل دیں گے اور نام بھی بتادیں گے۔ فرماتے ہیں میں بچہ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا آپ نے اپنے دونوں پیر پھیلا دیئے اور ٹانگوں پر بچہ کو لٹا لیا اور ایک کھجور چبائی پھر بچہ کے منہ میں دے دی۔ بچہ اسے چوسنے لگا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: انصار کو کھجوروں سے بڑی محبت ہے۔

باخبار خالد بن مخلد بخدیث محمد بن موسیٰ بخدیث عبداللہ بن عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے چچا انس بن مالک سے: میری والدہ ام سلیم کے بچہ پیدا ہوا آپ نے بچہ کو میرے ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا۔ میں نے کہا یہ میرا بھائی ہے اور اسے میری والدہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے بچہ کو لے لیا اور ایک کھجور چاب کر اس کے تالو پر مل دی پچاسے چوسنے لگا۔ آپ نے فرمایا: انصار کو کھجوروں سے محبت ہے۔

باخبار محمد بن عبداللہ انصاری و عبداللہ بن بکر سمعی بخدیث حمید از انس: ام سلیم کا ابوطلمحہ سے ایک بیٹا بیمار ہوا اور ابوطلمحہ مسجد میں تھے کہ بچہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے اسے نہلا دھلا کر اور کھنا کر تیار کر کے رکھ دیا اور سب سے کہہ دیا کہ کوئی اس کی موت کی ابوطلمحہ کو خبر نہ کرے ابوطلمحہ مسجد سے واپس آئے اور ام سلیم نے حسب معمول ان کے لئے شام کا کھانا تیار کیا اور ان کے سامنے کھانا

رکھ دیا۔ ابوطلحہ نے پوچھا: بچہ کا کیا حال ہے؟ بولیں اب پہلے سے بہتر ہے۔ پھر ابوطلحہ نے مع اپنے تمام ساتھ والوں کے کھانا کھایا۔ پھر ام سلیم نے ابوطلحہ کی تمام خدمات انجام دیں اور ابوطلحہ نے ان سے ہمسٹری بھی کی۔ اخیر شرب میں ام سلیم نے کہا: ابوطلحہ! تم کو فلاں لوگوں کی خبر نہیں۔ انہوں نے کسی سے ایک چیز مانگ کر لی تھی اس سے فائدہ اٹھایا پھر جب وہ چیز ان سے طلب کی گئی تو وہ اسے دیتے ہوئے گھبرانے لگے۔ ابوطلحہ نے کہا: وہ منصف نہیں۔ بولیں: تمہارا فلاں بیٹا اللہ سے مانگا ہوا تھا اللہ نے اپنی چیز واپس لے لی۔ ابوطلحہ نے یہ خبر سن کر ان اللہ پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور صبح کو رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا تمہاری رات میں اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ اسی شب ام سلیم کو ابوطلحہ سے عبد اللہ کا حمل ٹھہر گیا اور نو ماہ کے بعد رات کو ولادت ہوئی۔ ام سلیم نے خود بچہ کی تالو پر کھجور چاب کر ملنے کو اچھا نہ جانا اور رسول اللہ ﷺ سے بچہ کے تالو پر کھجور کا ملوایا جانا اچھا سمجھا۔ چنانچہ انہوں نے بچہ کو انس کے ہاتھ مع عمدہ کھجوروں کے بھجوا دیا۔ اس وقت آپ اونٹوں کی اصلاح کر رہے تھے اور ان کے داغ لگا رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! آج رات ام سلیم کے بیٹا پیدا ہوا ہے اور انہوں نے خود تحنیک اچھی نہیں سمجھی اس لئے بچہ کو تحنیک کے لئے آپ کے پاس بھجوا دیا ہے۔ پوچھا: کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا: ہاں! عمدہ قسم کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے ایک کھجور لے کر اسے خوب چبائی پھر وہ بچہ کے منہ میں دے دی۔ بچہ اسے چوستے لگا۔ فرمایا: انصار کو کھجوروں سے محبت ہے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! اس کا نام تجویز فرمادیتے۔ فرمایا: اس کا نام عبد اللہ ہے۔

باخبار عفان بن مسلم محمد ریث حماد بن سلمہ باخبار ثابت بنانی از انس: ابوطلحہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے کہا کوئی اس کی موت کی خبر ابوطلحہ کو نہ دے میں خود دے دوں گی۔ آپ نے میت پر کپڑا ڈال دیا پھر جب ابوطلحہ آئے تو آپ نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر ام سلیم نے آپ کی خاطر خوشبو لگائی۔ ابوطلحہ نے ام سلیم سے صحبت کی اسی شب کو آپ کو لڑکے کا حمل ٹھہر گیا۔ ام سلیم نے ابوطلحہ سے کہا کہ فلاں نے فلاں سے ایک چیز مانگ کر لی تھی پھر چیز والوں نے آدمی بھیجا کہ ہماری چیز واپس کرو لیکن لینے والوں نے اس چیز کو لوٹانے سے انکار کر دیا۔ ابوطلحہ نے کہا ایسا کرنا نہیں چاہئے تھا۔ مانگ کر لی ہوئی چیز ادا کرنی پڑتی ہے۔ بولیں: تمہارا بیٹا اللہ سے مانگا ہوا تھا اللہ نے اسے واپس لے لیا ہے۔ یہ سن کر ابوطلحہ نے انا اللہ پڑھی۔ انس کہتے ہیں پھر اس کی نبی ﷺ کو خبر دی گئی آپ نے فرمایا: اللہ انہیں ان کی رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ ام سلیم حاملہ ہو گئیں۔ پھر انہوں نے وضع حمل کے بعد بچہ کو میرے ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا میں کھجوریں لے کر عمدہ بچہ کے رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا۔ آپ کھلے اور اڑھے ہوئے تھے اور اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ پوچھا: کیا تیرے پاس کھجوریں ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے چند کھجوریں لے کر انہیں چبایا پھر اپنا العاب دہن بچہ کا منہ کھول کر اس کے منہ میں دے دیا۔ بچہ چوستے لگا۔ فرمایا: انصار کو کھجوروں سے محبت ہے۔ پھر آپ نے بچہ کے تالو پر چبائی ہوئی کھجور ملی اور اس کا نام عبد اللہ رکھا۔ انصار میں عبد اللہ سے افضل کوئی بچہ ثابت نہیں ہوا۔

باخبار یزید بن ہارون باخبار عبد اللہ بن عون از انس بن سیرین از انس بن مالک: ابوطلحہ کا ایک بیٹا بیمار تھا پھر ابوطلحہ گھر سے چلے گئے اور پیچھے بچہ فوت ہو گیا۔ جب ابوطلحہ گھر آئے تو پوچھا: میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہا: اسے اب سکون

ہے۔ پھر ام سلیم نے ابو طلحہ کے سامنے رات کا کھانا رکھا اور انہوں نے کھایا۔ پھر ان سے ہمبستری کی۔ فارغ ہونے کے بعد ام سلیم نے کہا: بچہ کو دفن کرو صبح کو ابو طلحہ نے سارا ماجرا نبی ﷺ کے سامنے پیش کیا۔ پوچھا: کیا تم نے رات میں ہمبستری کی ہے؟ بولے: جی ہاں۔ فرمایا: اے اللہ! ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ پھر ام سلیم کے بیٹا پیدا ہوا۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا: بچہ کو احتیاط سے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤ میں بچہ کو آپ ﷺ کے پاس لے آیا اور ام سلیم نے میرے ساتھ کھجوریں بھی کر دی تھیں۔ نبی ﷺ نے بچہ کو لے کر پوچھا: کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا: کھجوریں ہیں۔ نبی ﷺ نے چند کھجوریں لے کر انہیں چنایا پھر چنائی ہوئی کھجور بچہ کے منہ میں دے دی اور اس کے تالو پر مل دی اور اس کا نام عبداللہ تجویز فرمایا۔

باخباہر خالد بن خالد، یث عبد اللہ بن عمر از ام یحییٰ انصاریہ از انس بن مالک: رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن ابو طلحہ کے تالو پر تین عمدہ قسم کی کھجوریں چاب کر مل دیں۔ آپ نے انہیں خوب چنایا جب وہ ریزہ ریزہ ہو گئیں تو انہیں بچہ کے منہ میں دے دیا اور تالو پر مل دیں۔ بچہ چوسنے لگا۔ نبی ﷺ نے فرمایا انصار کو کھجوروں سے محبت ہے۔

باخباہر اسماعیل بن عبد اللہ بن ابی اویس، یث محمد بن موسیٰ بن ابی عبد اللہ از عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی طلحہ از انس بن مالک: ام سلیم کے بچھلی شب میں عبد اللہ پیدا ہوئے۔ ابو طلحہ نے کہا: میرے جاگنے تک بچہ کو یونہی رہنے دینا۔ پھر صبح کو میں نے بچہ کو نہلایا اور اسے انس کے ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیج دیا۔ بولیں: اپنے بھائی کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جا۔ انس نبی ﷺ کہتے ہیں میں بچہ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے گیا۔ آپ تہ بند باندھے ہوئے اور پھاڑ والئے ہوئے کھڑے تھے۔ پوچھا: انس! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ میرا بھائی ہے۔ میری والدہ نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ پھر بچہ کو رسول اللہ ﷺ نے لے لیا اور کھجور منگوائی اور اسے خوب چاب کر بچہ کے تالو پر مل دی۔ بچہ اسے چوسنے لگا۔ نبی ﷺ انس پڑے اور فرمایا انصار کو کھجور سے (پیداہشی) محبت ہے۔

باخباہر سعید بن منصور یث ابوالاحوص از سعید بن مسروق از عباہ بن رفاعہ: ام سلیم ابو طلحہ کے نکاح میں تھیں ابو طلحہ سے ان کے ایک بچہ پیدا ہوا پھر وہ بیمار ہو گیا۔ ابو طلحہ رسول اللہ ﷺ سے ملنے گئے ان کے پیچھے بچہ فوت ہو گیا۔ ماں نے اس پر کپڑا ڈال کر ایک کونہ میں رکھ دیا پھر ابو طلحہ نے گھر آ کر پوچھا: میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ بولیں: اچھا ہے۔ پھر ام سلیم ابو طلحہ کی خدمت میں تحفہ لائیں جسے وہ ان کو دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے اس میں سے کھایا پھر ام سلیم نے ابو طلحہ سے وہ خواہش کی جو خواہش بیوی اپنے شوہر سے کیا کرتی ہے۔ آخر ابو طلحہ نے اس سے ہمبستری کی۔ فارغ ہو کر کہنے لگیں: ہمارے پڑوسیوں نے ایسی بات کی ہے جو میں نے کبھی دیکھی نہیں ان کے پاس کسی کی کوئی چیز منگی ہوئی تھی مالکوں نے اسے مانگا تو انہوں نے اسے لوٹانے سے انکار کر دیا۔ بولے: انہوں نے بہت برا کیا۔ بولیں: یہ حال تمہارا ہے تمہارا بیٹا اللہ سے مانگا ہوا تھا آج اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بولے: اللہ کی قسم! آج رات تم صبر پر مجھ پر غالب نہ آؤ گی۔ صبح کو ابو طلحہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر آپ کو خبر کی آپ نے دو عافرمادی کہ اے اللہ ان دونوں کو آج کی رات میں برکت عطا فرما۔ پھر ام سلیم کے بیٹا پیدا ہوا۔ عباہ یہ کہتے ہیں: میں نے اس بچہ کے سات بیٹے دیکھے۔ ہر ایک قرآن پاک ختم کر چکا تھا۔

ام حرام:

آپ ام سلیم بنت ملحان کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے عبادہ بن صامت بن قیس بن اصرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج نے شادی کی جن سے محمد پیدا ہوئے۔ پھر ان کے بعد عمرو بن قیس بن زید بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار نے نکاح کیا جن سے قیس اور عبد اللہ پیدا ہوئے۔ ام حرام نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

باخبا معن بن عیسیٰ بن محمد بن یثمد بن مالک بن انس از اسحق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ از انس بن مالک: ام حرام عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔

باخبا عرفان بن مسلم بن محمد بن حماد بن سلمہ باخبا یحییٰ بن سعید از محمد بن یحییٰ بن حبان از انس بن مالک از ام حرام: ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے دو پہر کو میرے گھر میں آرام فرمایا پھر آپ جاگے اور ہنسنے لگے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی ﷺ میرے والدین آپ پر قربان ہوں آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا: میری امت کے کچھ لوگ اس سمندر پر اس طرح سوار ہوں گے جیسے تختوں پر بادشاہ آرام سے بیٹھتے ہیں۔ فرماتی ہیں: میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! آپ اللہ سے دُعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا: تم ان میں سے ہو۔ فرماتی ہیں پھر آپ ﷺ سو گئے اور دوبارہ آنکھ کھلی تو آپ ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! آپ کیوں ہنستے ہیں؟ فرمایا: میری امت کے کچھ لوگ سمندر پر اس طرح سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! اللہ سے دُعا فرمادیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا: تم تو پہلوں میں شامل ہو۔ انس کہتے ہیں پھر ام حرام اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ جہاد پر روانہ ہوئیں اور راستہ میں انہیں ان کی سواری نے کچل دیا جس سے وہ فوت ہو گئیں۔ عرفان کہتے ہیں: میرے خیال میں آپ نے فرمایا اس سمندر کی پشت پر سوار ہوں گے۔

محمد بن سلیمان بن حرب بن محمد بن حماد بن زید از یحییٰ بن سعید از محمد بن یحییٰ بن حبان از انس بن مالک: محمد بن یحییٰ بن ملحان از نبی ﷺ: سابق حدیث کے ہم معنی اور یہ زیادہ ہے ام حرام کے قریب فخر لایا گیا تاکہ آپ اس پر سوار ہوں نچرنے انہیں گرا دیا جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور فوت ہو گئیں۔

ام عبد اللہ:

آپ بھی ام سلیم کی بہن ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام بردہ:

آپ کا نام خولہ ہے۔ آپ منذر بن زید بن لبید بن خدش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ زینب بنت سفیان بن قیس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ہیں۔ آپ سے براء بن اوس بن جعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ نے حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ ﷺ کو دودھ پلایا تھا۔

خولہ:

آپ قیس بن سکن بن قیس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی دختر ہیں آپ کی والدہ ام خولہ بنت سفیان بن قیس بن زعوراء بن حرام بن جندب از بنو عدی بن نجار ہیں۔ آپ سے ہشام بن عامر بن امیہ بن زید بن حساس بن مالک از بنو عدی بن نجار نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

خواتین بنو دینار بنو نجار میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام

سعیدہ:

آپ کی کنیت ام الرباع ہے۔ آپ عبد عمرو بن مسعود بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ سمیراء بنت قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار ہیں۔ آپ سے ابو الیسر کعب بن عمرو بن عبادہ بن عمرو بن سواد بن غنم از بنو سلمہ از خزرج نے شادی کی۔ پھر کعب بن زید بن قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار نے نکاح کیا جن سے عبداللہ اور جلیلہ پیدا ہوئیں۔ آپ نعمان بدری اور ضحاک بدری پر ان عبد عمرو کی سگی بہن ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

مندوس:

آپ قطبہ بن عبد عمرو بن مسعود بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار بن نجار کی دختر ہیں آپ کی والدہ عمیرہ بنت قرط بن خنساء بن شان بن عبید بن عدی از بنو سلمہ ہیں۔ آپ سے عمارہ بن حباب بن سعد بن قیس بن عمرو بن زید بن عمرو بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار نے شادی کی جن سے ابو عمرو پیدا ہوئے۔ پھر عبداللہ بن کعب بن زید بن قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار نے نکاح کیا جن سے عقبہ اور ام سعد پیدا ہوئیں۔ پھر عبداللہ بن ابی سلیط اسیرہ بن عمرو بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نے نکاح کیا جن سے مروان پیدا ہوئے۔ مندوس نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

ہزلیلہ:

آپ سعید بن سمیل بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار کی دختر ہیں۔ آپ سے شبات بن خدیج بن اوس بن قراقر بن ضحیان حلیف بنی حرام نے شادی کی۔ ہزلیلہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

سمیراء:

آپ قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ سلمیٰ بنت اسود بن حرام بن عمرو بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے عبد عمرو بن مسعود بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار بن نجار

نے شادی کی جن سے نعمان بدری اور شحاک بدری پیدا ہوئے۔ اور قطبہ بھی جو جنگ بزمعونہ میں شہید ہوئے اور ام رباح بھی جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ پھر آپ سے حارث بن ثعلبہ بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار بن نجار نے نکاح کیا جن سے سلم بدری اور شہید جنگ احد پیدا ہوئے اور ام حارثہ بھی جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ سُمیراء نے بھی مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے بیعت کی۔

ام حارثہ:

آپ حارث بن ثعلبہ بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ سمیراء بنت قیس ہیں۔ آپ سے عمرو بن غزیہ بن عمرو بن ثعلبہ بن خضاء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار نے شادی کی جن سے حارث اور عبدالرحمن پیدا ہوئے۔ پھر حارث بن خزیمہ بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار بن نجار نے نکاح کیا جن سے سیمہ پیدا ہوئیں۔ ام حارثہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا دائمی شرف حاصل کیا۔

خواتین بنو مالک بن نجار میں سے بیعت کرنے والی خواتین اسلام

فارعہ:

آپ کو فریوہ بھی کہتے ہیں۔ آپ زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ سعاد بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن ابجر بن عوف بن حارث بن خزیمہ ہیں۔ آپ ابو امامہ اسعد بن زرارہ ثقیب کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے قیس بن فہد بن قیس بن ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی۔ فارعہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

زعبیہ:

آپ فارعہ بنت زرارہ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے غرد (خالد) بن حساس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نے شادی کی۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر سرکار رسالت ﷺ سے بیعت کا دائمی شرف حاصل کیا۔

حبیبہ:

آپ اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ عمیرہ بنت سہل بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے کھل بن حنیف بن واہب بن حکیم بن ثعلبہ بن حارث بن مجدعہ بن عمرو بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف اوسی نے شادی کی جن سے ابو امامہ بن سہل پیدا ہوئے۔ سہل انہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے۔ آپ نے ان کا نام سہل اور کنیت ابو امامہ تجویز فرمائی۔ حبیبہ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

کبشہ:

آپ حبیبہ بنت اسعد کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے عبد اللہ بن ابی حبیبہ بن ازعر بن زید بن عطف بن ضعیبہ بن زید ابن بنو

عمر بن عوف نے شادی کی ان سے آپ کا نکاح رسول اللہ ﷺ نے کرایا۔ آپ اسعد کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

فارغہ یا فریجہ:

آپ بھی حبیبہ بنت اسعد کی سگی بہن ہیں اور اسعد کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ جب آپ بالغ ہو گئیں تو آپ پر عبید بن جابر بن مالک بن عدی بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار نے پیام ڈالا۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا۔ رخصتی کے وقت آپ نے برائیوں سے کہا:

اتیناکم اتیناکم فحبرنا نحببکم۔

”ہم آئے ہم آئے ہمیں سلام کرو ہم تم کو تمہارے سلاموں کا جواب دیں گے۔“

ولو لا الحنطة السمراء لم تحلل بوا دیکم ولو لا الذهب الاحمر ما جئناکم

”اگر گیہوں نہ ہوتا تو ہم تمہارے دیہاتوں میں نہ آتے اور اگر سرخ سونا نہ ہوتا تو ہم تمہارے پاس نہ آتے۔“

پھر فریجہ عبید کے پاس بھیج دی گئیں اور حمل ٹھہر گیا اور عبدالملک بن عبید پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد عبید آپ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے اور بولے یا رسول اللہ ﷺ! آپ ان کے لئے کوئی نام بتادیں۔ آپ نے عبدالملک نام رکھا اور برکت کی دعا فرمائی۔ فریجہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

عمیرہ:

آپ مسعود بن زرارہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ جیسا کہ مؤرخین ذکر کرتے ہیں مخزومیہ قریشیہ ہیں۔ آپ سے عاتقہ بن عمرو بن عوف بن مالک بن مبدول از بنو مالک بن نجار نے شادی کی۔ عمیرہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

سودہ:

آپ حارث بن نعمان بن نفع بن زید بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام خالد بن خالد بن عیش بن قیس بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے عبداللہ بن حرام بن قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل بن حارث بن دینار بن نجار نے شادی کی۔ سودہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمرہ:

آپ سودہ بنت حارث کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے قیس بن عمرو بن سہل بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی۔ پھر عثمان بن سہل بن حنفیہ بن واہب بن حکیم بن ثعلبہ بن حارث بن مجدعہ بن عمرو بن حنشل از بنو عمرو بن عوف نے نکاح کیا۔ عمرہ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کا شرف دائمی حاصل کیا۔

ام ہشام:

آپ بھی سودہ بنت حارثہ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے عمارہ بن حجاب بن سعد بن قیس بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار نے شادی کی۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

باخبا محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ از عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از یحییٰ بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ از ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان: رسول اللہ ﷺ ہمارے پڑوسی تھے اور سال بھر تک یا اس سے کچھ کم ہمارا اور آپ کا تنورا ایک ہی رہا۔

باخبا عبد اللہ بن نمیر باخبا محمد بن اسحق از عبد اللہ بن ابی بکر از یحییٰ بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ از ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان: ہم سال بھر یا اس سے کچھ زیادہ مدت تک رسول اللہ ﷺ کے پاس رہے ہمارا اور آپ کا تنورا ایک ہی تھا۔ میں نے سورہ ق رسول اللہ ﷺ ہی کی زبان سے یاد کی آپ جمعہ کے جمعہ خطبہ میں اسے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن نمیر نے ام ہاشم کہا ہے حالانکہ آپ ام ہشام ہیں۔

جمعہ:

آپ عبید بن ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ رعاة بنت عدی بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے نعمان بن نفع بن زید بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی جن سے حارثہ بن نعمان بدری پیدا ہوئے۔ پھر حباب بن ارقم بن عوف بن وہب بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار نے نکاح کیا جن سے حارث پیدا ہوئے۔ جمعہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عفراء:

آپ جمعہ بنت عبید کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے حارث بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی جس سے معاذ بدری، معوذ بدری اور عوف بدری پیدا ہوئے۔ عفراء نے بھی مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے بیعت کی۔

خولہ:

آپ بھی جمعہ بنت عبید کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے صامت بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق بن عامر خزرجی نے نکاح کیا جن سے معاویہ پیدا ہوئے۔ خولہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

خولہ:

آپ کو خویلیہ اور ام محمد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ قیس بن قیس بن قیس بن ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ فریجہ بنت زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی نے شادی کی جن سے یعلیٰ عمارہ اور دو بیچیاں جنہوں نے سن بلوغت نہیں پایا پیدا ہوئیں۔ پھر آپ سے حنظلہ بن نعمان بن عمرو بن مالک بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق نے نکاح کیا جن سے محمد پیدا ہوئے۔ خولہ نے بھی

مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا دائمی شرف حاصل کیا۔

رضیہ:

آپ سہل بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ عمرہ بنت مسعود بن قیس بن عمرو بن زید مناۃ از بنو مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے رافع بن ابی عمرو بن عائذ بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی رضیہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر سرکار رسالت ﷺ سے بیعت کی سعادت لوٹی۔

ام الریح:

آپ عبد بن نعمان بن وہب بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ سے کدیم بن عدی بن حارث بن عمرو بن زید مناۃ از بنو مالک بن نجار نے شادی کی ام الریح نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

حبیبہ:

آپ سہل بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ عمرہ بنت مسعود بن قیس بن عمرو بن زید مناۃ از بنو مالک بن نجار ہیں۔

باخباہ شام بن محمد از حماد بن زید از یحییٰ بن سعید: نبی ﷺ نے حبیبہ بنت سہل سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا (حبیبہ میری پھوپھی ہیں) پھر آپ کو انصاریہ خواتین کی غیرت یاد آئی اور آپ نے یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ عورتوں کے سلسلہ میں انصار کو صدمہ پہنچائیں پھر حبیبہ سے ثابت بن قیس بن شماس بن مالک بن امری القیس بن مالک بن ثعلبہ از بنو حارث بن خزرج نے نکاح کیا۔ حبیبہ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی سعادت لوٹی۔

باخباہ یزید بن ہارون باخباہ یحییٰ بن سعید از عمرہ بنت عبدالرحمن حبیبہ بنت سہل سے ثابت بن قیس بن شماس نے شادی کی۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی ان سے شادی کرنے کا قصد کیا تھا۔ یہ بچی تھیں ثابت نے ان کو مارا پھر یہ اندھیرے ہی میں رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر شکایت کرنے کے لئے پہنچ گئیں اور کہنے لگیں یا تو میں نہ رہوں گی یا ثابت نہ رہیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے ثابت سے فرمایا جو کچھ تم نے اسے دیا ہے اس کو واپس لے لو لہذا حبیبہ نے ثابت کو ان کا پورا عطیہ لوٹا کر خلع لے لیا اور میکہ چلی گئیں۔

باخباہ عارم بن فضل، متحد یرث حماد بن زید از یحییٰ بن سعید بن قیس بن عمرو بن سہل: حبیبہ بنت سہل کے نکاح میں تھیں، ثابت قدرے سخت مزاج تھے۔ ایک دن وہ صبح اندھیرے میں نبی ﷺ کے دروازے پر آئیں جب نبی ﷺ ابھر تشریف لائے تو پوچھا: کون ہے؟ بولیں: میں ہوں حبیبہ۔ فرمایا: کیا بات ہے؟ بولیں: میں ثابت کے پاس نہیں رہوں گی۔ اس وقت ثابت آپ کے پاس آئے نبی ﷺ نے ثابت سے فرمایا ان سے واپس لے لو۔ بولیں: یا رسول اللہ جو کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے وہ جوں کا توں میرے پاس موجود ہے۔ آخر کار وہ دیا ہوا مال حبیبہ نے ثابت کے پاس بھیج دیا اور اپنے میکہ میں ٹھہر گئیں۔ پھر ان سے ابی بن کعب نے نکاح کر لیا۔ نبی ﷺ نے بھی ان سے نکاح کرنے کا قصد کیا تھا لیکن انصاریہ کی غیرت کی وجہ سے آپ نے ان سے نکاح

مناسب نہ سمجھا اور آپ نے انصار کو ان کی عورتوں کے بارے میں صدمہ پہنچانا مکروہ سمجھا۔

باخبار محمد بن عبد اللہ انصاری، متحد یرث ابان بن صمدہ، بسماع محمد بن سیرین (آپ یزید بن ابوبکر سے ملاقات کے لئے قید خانہ میں تشریف لائے تھے) بحديث حبیبہ: میں نبی ﷺ کے گھر میں تھی پھر نبی ﷺ گھر کے اندر تشریف لا کر بیٹھ گئے اور فرمایا: جن دو مسلمانوں کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں (اور وہ ان پر صبر کریں) تو انہیں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین جنت میں نہیں جائیں گے۔ ابن سیرین کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ دوسری باریا تیسری بار ان سے کہا جائے گا تم اور تمہارے والدین سب جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورت سے پوچھا: کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے؟ بولیں: ہاں۔ ابن سعد کہتے ہیں ابن سیرین یہ روایت حبیبہ سے اسی طرح لائے ہیں اور کسی کی طرف اس کی نسبت نہیں کی۔ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ حبیبہ یہی بنت سہل ہیں یا کوئی اور ہیں۔

عمیرہ:

آپ سہل بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ امیہ بنت عمرو بن حارث بن قیس بن دث بن ثعلبہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ ہیں۔ آپ سے ابوامامہ اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی جن سے فریہ کبشہ اور حبیبہ پیدا ہوئیں۔ جنہوں نے مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام ثابت رملہ:

آپ حارث بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ کبشہ بنت ثابت بن نعمان بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے معاذ بن حارث بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی۔ رملہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

الریح:

آپ مَعُوذ بن حارث بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام یزید بنت قیس بن زعمراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ہیں۔ آپ سے ایاس بن بکیر لیشی نے شادی کی جن سے محمد بن ایاس پیدا ہوئے۔ ریح نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔

باخبار موسیٰ بن اسماعیل متحد یرث حماد بن سلمہ از ابو حسین خالد بن ذکوان: ہم ریح کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا: میری شادی کے دن میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ میرے اس بستر کی جگہ بیٹھ گئے۔ میرے پاس دو بچیاں تھیں جو ڈھول بجا بجا کر اپنے ان باپوں کا جو جنگ بدر میں قتل کر ڈالے گئے تھے مرثیہ پڑھ رہی تھیں۔ یہ بچیاں ان اشعار میں یہ بھی گانے لگیں: و فینا لیبی یعلم ما فی غد یعنی ہم میں ایک نبی ہیں جو آنے والی کل کی بات جانتے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: یہ مصرعہ

مت پڑھو (یعنی میں عالم الغیب نہیں یہ صفت اللہ کی ہے)۔

باخبار خالد بن مخلد بحدیث اسحاق بن حازم از عبد اللہ بن محمد بن عقیل از ربیع بنت معوذ بن عفرء انصاری: میں نے اپنے شوہر سے کہا: میں تم کو اپنا تمام مال دے کر خلع حاصل کر لوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا آخر کار میں بجز اپنے کرتے کے سب کچھ انہیں دے دیا انہوں نے مجھے عثمان کے پاس بلا کر مجھ سے جھگڑا کیا۔ حضرت عثمان نے فیصلہ کیا کہ ان کے لئے ان کی شرط ہے آخر کار میں نے کرتہ بھی انہیں دے دیا۔

باخبار یحییٰ بن عباد بحدیث فلیح بن سلیمان بحدیث عبد اللہ بن محمد بن عقیل از ربیع بنت معوذ بن عفرء: میرے اور میرے چچا زاد بھائی (شوہر) کے درمیان کچھ تیزم تازی ہو گئی میں نے ان سے کہا: میں اپنی تمام چیزیں تمہیں دے دوں گی تم مجھے جدا کر دو۔ انہوں نے کہا: مجھے منظور ہے۔ فرماتی ہیں: اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے ہر چیز لے لی حتیٰ کہ میرا بستری بھی لے لیا۔ پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب کہ آپ محصور تھے آئی اور آپ سے واقعہ بیان کیا۔ فرمایا: شرط کے مطابق ہوگا آپ نے میرے شوہر سے فرمایا کہ ان سے ان کی ہر مملوکہ چیز لے لو حتیٰ کہ اگر چاہو تو ان کی چوٹی بھی لے لو۔

عمیرہ:

آپ ربیع بن معوذ کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے ابو حسن بن عبد عمرو از بنو مازن بن نجار نے شادی کی جن سے عمارہ، عمرو سر یہ تین بچے پیدا ہوئے۔ عمیرہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

عمرہ:

آپ حزم بن زید بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار کی صاحبزادی ہیں اور عمارہ، عمر معمر پسران حزم کی سگی بہن ہیں۔ ان سب کی والدہ خالدہ بنت انس بن سنان بن وہب بن لوذان ساعدی ہیں۔ آپ سے سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی زہیر بن مالک از بنو حارثہ بن خزرج نے شادی کی۔ عمرہ نے بھی مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے بیعت کی۔

عمیرہ:

آپ ربیع بن نعمان بن یساف بن نضله بن عمرو بن عوف بن مالک بن نجار کی دختر ہیں اور آپ کی ماں ام ولد ہیں۔ عمیرہ نے بھی مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے بیعت کی۔

عمرہ:

آپ ابو ایوب خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبہ بن عبد مناف بن عبد عوف بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام ایوب بنت قیس بن سعد بن قیس بن عمرو بن امری القیس از بنو حارثہ بن خزرج ہیں۔ آپ سے صفوان بن اوس بن جابر بن قرظ بن قیس بن وہب بن کعب بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن نجار نے شادی کی۔ جن سے خالد بن صفوان پیدا ہوئے۔ عمرہ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

کبشہ:

آپ ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ سخطی بنت حارثہ بن لوزان بن عبدوہ ساعدی ہیں۔ آپ سے عمرو بن مھسن بن عمرو بن عتیک از بنو مالک بن نجار نے شادی کی جن سے ثعلبہ ابو عمرہ اور ابو حبیہ پسران عمرو پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے حارث بن ثعلبہ بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار نے نکاح کیا جن سے ام ثابت (رملہ) پیدا ہوئیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی پھر آپ سے حارثہ بن نعمان بن نفع از بنو مالک بن نجار نے نکاح کیا کبشہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

لبنی:

آپ کبشہ بنت ثابت کی سگی بہن ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمرۃ الاولی:

آپ مسعود بن قیس بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ عمیرہ بنت عمرو بن حرام بن عمر بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے زید بن مالک بن عبدوہ بن کعب بن عبد الاشہل نے شادی کی جن سے سعد بدری پیدا ہوئے اور ثابت بن زید بھی عمرہ نے مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمرۃ الثانیہ:

آپ عمرۃ الاولی کی سگی بہن ہیں آپ سے اوس بن زید بن ثعلبہ بن غنم نے شادی کی جن سے ابو محمد مسعود پیدا ہوئے۔ پھر سہل بن ثعلبہ بن حارث بن زید از بنو مالک بن نجار نے نکاح کیا جن سے عمرو اور عیہ دو بچے ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

عمرۃ الثالثہ:

آپ بھی عمرۃ الاولی کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے ثابت بن منذر بن حرام نے شادی کی جن سے ابو قیس ابی بن ثابت بدری پیدا ہوئے جو حسان بن ثابت کے علاقے بھائی ہیں۔ آپ نے بھی مشرف بہ اسلام ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔

عمرۃ الرابعہ:

آپ بھی عمرۃ الاولی کی سگی بہن ہیں۔ آپ سے عبادہ بن دلیم بن حارثہ بن ابی حزیمہ ساعدی نے شادی کی جن سے سعد بن عبادہ پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رحمت عالم ﷺ سے بیعت کی جب رسول اللہ ﷺ غزوہ دومتہ الجندل کے لئے تشریف لے گئے تو عمرۃ الرابعہ آپ کے پیچھے ربیع الاول ۵ھ میں وفات پا گئیں۔ سعد بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ پھر جب نبی ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے عمرہ کی قبر پر جا کر نماز پڑھی۔

عمرة الحامسة:

آپ بھی عمرة الاولى کی سگی بہن ہیں۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر سرور عالم ﷺ سے بیعت کی۔

ضباعہ:

آپ عمرو بن محسن بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول عامر بن مالک بن نجار کی دختر ہیں اور ثعلبہ بن عمرو بدری کی سگی بہن اور ابو عمرو بشیر کی اخیانی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ عمرہ بنت ہزال بن عمرو بن قریوس ہیں۔ آپ سے عبید بن عمیر بن وہب بن عبد الاشہل بن حارثہ بن دینار بن نجار نے شادی کی۔ ضباعہ نے بھی مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے بیعت کی۔

ام ثابت:

آپ ثعلبہ بن عمرو بن محسن بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول عامر بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ کبشہ بنت مالک بن قیس بن محارب بن حارث بن ثعلبہ بن مازن بن نجار ہیں۔ آپ سے علاء بن عمرو بن ربیع بن حارث بن عامر بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی۔ آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام سہل، ام ثابت:

آپ سہل بن عتیک بن نعمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول عامر بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ امیمہ بنت عقبہ بن عمرو بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ بن حارث ہیں۔ آپ سے سنان بن حارث بن علقمہ بن عمرو بن ثقف کعب بن مالک بن مبذول بن مالک بن نجار نے شادی کی جن سے اولاد ہوئی۔ پھر عبد اللہ بن زید بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مالک بن نجار ہیں۔ ام سہل نے مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام سعد:

آپ کبشہ بنت ثابت بن عتیک بن نعمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول عامر بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ معاذہ بنت انس بن قیس بن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن حارث ہیں۔ آپ سے یزید بن ابوالیسر کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد سلمی نے شادی کی جن سے سعید، عبد الرحمن اور ام کثیر تین بچے ہوئے۔ کبشہ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام جمیل:

آپ ابو انزم بن عتیک بن نعمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول عامر بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ اور آپ کی والدہ خباب بن ارت کی صاحبزادی ہیں۔ آپ سے سعید بن عبید بن عمیر بن وہب بن عبد الاشہل بن حارثہ بن دینار نے شادی کی جن سے عبد اللہ خالد، جمیل اور عبیدہ پیدا ہوئے۔ ام جمیل نے بھی مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے بیعت کی۔

ام سماک، دُبیہ:

آپ ثابت بن خالد بن نعمان بن خنساء بن غسیرہ بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ

ادام بنت عمرو بن معاویہ از بنومرہ ہیں۔ آپ سے یزید بن ثابت بن ضحاک از بنوما لک بن نجار نے شادی کی جن سے عمارۃ پیدا ہوئیں۔ امساک نے مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام سلمہ سعاد:

آپ رافع بن ابی عمرو بن عائد بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ رقیہ بنت ہبل بن ثعلبہ بن حارث از بنوما لک بن نجار ہیں۔ آپ سے اسلم بن حریش بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حارث اوسی نے شادی کی جن سے سلمہ بن اسلم بدری پیدا ہوئے۔ ام سلمہ سعاد نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

ام خالد:

آپ خالد بن یعیش بن قیس بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام ثابت بنت ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالک بن عدی از بنو عدی بن نجار ہیں۔ آپ سے حارثہ بن نعمان بن نفع بن زید از بنوما لک بن نجار نے شادی کی جن سے عبداللہ عبدالرحمن سودہ عمرہ اور ام ہشام پیدا ہوئیں۔ ام خالد نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی دائمی سعادت حاصل کی۔

ام سلیم:

آپ خالد بن طعمہ بن حکیم بن اسود بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے قیس بن فہد از بنوما لک بن نجار نے شادی کی جن سے سلیم پیدا ہوئے۔ ام سلیم نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

رقیہ:

آپ ثابت بن خالد بن نعمان از بنوما لک بن نجار کی دختر ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر بیعت کی۔

ام زید:

آپ عمرو بن حرام بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ بقول محمد بن عمر آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ محمد بن عمر نے لکھا ہے کہ آپ صاحبۃ الجمل ہیں۔

ام عطیہ انصاریہ:

آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کر کے دائمی سعادت لوٹی۔ آپ کے ساتھ لڑائیوں میں شامل رہیں اور آپ سے روایت بھی کرتی ہیں۔

باخبار یزید بن ہارون واسحق بن یوسف ارزق و محمد بن عبداللہ انصاری بخدیث ہشام بن حسان از حصہ بنت سیرین از ام عطیہ: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سات لڑائیوں میں شریک ہوئی ہوں۔ میں مجاہدین اسلام کا کھانا تیار کیا کرتی تھی اور ان کے خیموں کی نگرانی زخمیوں کی دیکھ بھال اور مریضوں کی خیر خیر میرے ہی ذمہ رہتی تھی۔

باخبار ابو معاویہ ضریر بخدیث عاصم احوال از حصہ از ام عطیہ: جب زینب بنت رسول اللہ ﷺ فوت ہوئیں تو ہم سے

نبی ﷺ نے فرمایا: انہیں طاق غسل دینا یعنی تین یا پانچ بار اور پانچویں غسل میں کافور یا کچھ کافور ملا دینا اور غسل سے فارغ ہو کر مجھے اطلاع دینا پھر ہم نے غسل سے فارغ ہو کر آپ کو اطلاع دی آپ ﷺ نے ہمیں اپنا تہبند دے کر فرمایا: اسے ان کے جسم سے ملا ہوا رکھنا یعنی اندرونی چادر اسی کو بنانا۔

باخبر یزید بن ہارون و اسحق ارزق و روح بن عبادہ از ہشام بن حسان از حفصہ بحدیث ام عطیہ: رسول اللہ ﷺ کی ایک بچی نے وفات پائی۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم کیا کہ ہم انہیں طاق تین یا پانچ دفعہ یا اگر مناسب سمجھیں تو اس سے زیادہ بار غسل دیں اور پانی اور پیری کے پتوں سے غسل دیں اور پچھلے غسل کے پانی میں کافور یا قدرے کافور ملا لیں اور فارغ ہو کر آپ کو اطلاع دیں۔ فرماتی ہیں ہم نے فارغ ہو کر آپ ﷺ کو اطلاع دی۔ آپ ﷺ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا اسے اندرونی چادر بناؤ تاکہ یہ ان کے جسم سے ملا رہے۔ یزید ذوالی حدیث میں ہے ہم نے ان کے دائیں بائیں اور درمیانی بالوں کی تین لٹیں گوندھیں اور درمیان لٹ بچھلی ڈال دی (یا تینوں لٹیں بچھے ڈال دیں)۔

باخبر ضحاک بن خالد ابو عاصم نبیل از ابو الجراح و جابر بن صبح از ام شراحیل مولیٰ ام عطیہ: علی بن ابی طالب ام عطیہ کے گھر میں دو پہر کو سویا کرتے تھے فرماتی ہیں میں آپ کے بغل کے بال ورس (سرخ رنگ والی گھاس) میں رنگین اکھاڑا کرتی تھی۔

خسساء:

آپ خدام انصاریہ کی دختر ہیں آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت و روایت کی۔

باخبر وکع بن جراح و فضل بن دکین و محمد بن عبد اللہ اسدی از سفیان از ابو الجوحیرت ذرقی از نافع بن جبیر: خسساء بیوہ ہو گئیں۔ پھر ان کے والد نے کسی سے ان کا زبردستی نکاح کر دیا پھر آپ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میرے والد نے مجھے خبر کئے بغیر فلاں سے میرا نکاح کر دیا۔ فرمایا: بلا تمہاری مرضی کے ان کو نکاح کرانے کا حق نہیں۔ تم جس سے چاہو نکاح کر لو۔ فضل والی حدیث میں ہے پھر آپ نے اس نکاح کو ادا کر دیا پھر خسساء نے ابوالبابہ بن عبد الممنر سے نکاح کیا۔

باخبر معن بن عیسیٰ بحدیث مالک بن انس از عبد الرحمن بن قاسم از قاسم از عبد الرحمن و مجمع پسران یزید بن جاریہ انصاری از خسساء: ان کے والد نے جب کہ یہ شبیہ تھیں ان کا نکاح کر دیا جسے انہوں نے ناپسند کیا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر شکایت کی آپ نے والد کا رایا ہوا نکاح رد کر دیا۔ مالک نے کہا: آپ نے خسساء کا نکاح رد کر دیا۔

باخبر احمد بن حمید عبدی از معمر از سعید بن عبد الرحمن حبشی: خسساء انیس بن قتادہ انصاری کے نکاح میں تھیں۔ انیس جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ پھر خسساء کے والد نے ان کا نکاح ایک شخص سے کر دیا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر شکایت کی کہ میرے والد نے ان کا نکاح ایک شخص سے کر دیا حالانکہ مجھے میرے بچے کے بچا سے محبت ہے۔ فرماتے ہیں پھر نبی ﷺ نے ان کے نکاح کا انہیں اختیار دے دیا۔

ام ورقہ:

آپ عبد اللہ بن حارث کی صاحبزادی ہیں آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت و روایت کی۔

باخبار فضل بن دكين، متحد يث وليد بن عبد الله بن جميع اپنی دادی سے اور وہ ام ورقہ سے (نبی ﷺ ام ورقہ کے گھر آتے جاتے تھے اور انہیں شہیدہ کہا کرتے تھے): آپ کو کافی قرآن یاد تھا جب رسول اللہ ﷺ غزوہ بدر کے لئے جا رہے تھے تو ام ورقہ نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں تاکہ زخمیوں اور بیماروں کی دیکھ بھال کروں؟ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے جواب دیا تھا: اللہ تعالیٰ تم کو شہادت نصیب فرمائے گا اسی لئے آپ ام ورقہ کو شہیدہ کہا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں حکم فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں اور ان کی امامت کے فرائض انجام دیں۔ آپ کا ایک مؤذن تھا اور آپ اپنے گھر والوں کے لئے امامت کے فرائض انجام دیا کرتی تھیں حتیٰ کہ آپ کے ایک غلام اور ایک لونڈی نے جن کو آپ نے مدبر کر دیا تھا آپ کو عہد عمر میں قتل کر دیا اور دونوں بھاگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ آیا۔ آپ نے ان دونوں کو پھانسی دے دی۔ یہ مدینہ میں سب سے پہلے مجرم تھے جن کو پھانسی دی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کی سچی پیشینگوئی ظاہر ہو گئی۔ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے آؤ ہم شہیدہ سے ملاقات کرنے کے لئے چلیں۔
تمیمہ بنت وہب:

باخبار معن بن عیسیٰ متحد يث مالک بن انس از مسور بن رفاعه قرظی از زبیر بن عبد الرحمن بن زبیر: رفاعه بن سموک نے عہد رسالت میں تمیمہ کو تین طلاقیں دے دیں پھر انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا لیکن عبد الرحمن صحت کے قابل نہ تھے۔ تمیمہ نے عبد الرحمن سے الگ ہونا چاہا اور پھر رفاعہ سے نکاح کرنا چاہا اور رسول اللہ ﷺ سے فتویٰ پوچھا۔ آپ نے رفاعہ سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا اب وہ تمہارے لئے حلال نہیں جب تک تم عبد الرحمن کا شہدہ نہ چکھ لو۔
ام مبشر انصاریہ یا ام بشیر:

آپ زید بن حارثہ کی بیوی ہیں آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت و روایت کی اور آپ سے جابر بن عبد اللہ راوی ہیں۔

باخبار محمد بن عبید اللہ طنفسی، متحد يث اعشى از ابوسفیان از جابر از ام بشیر انصاریہ: میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، میں اپنے نخلستان میں تھی۔ آپ نے پوچھا: یہ باغ کس نے لگایا ہے؟ مسلمان نے یا کافر نے؟ میں نے کہا: مسلمان نے۔ فرمایا: جو مسلمان باغ لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے پھر اس میں کچھ انسان یا پرندہ یا درندہ کھا لیتا ہے تو یقیناً وہ اس کے لئے ہمزہ صدقہ کے ہوتا ہے۔

باخبار حجاج بن محمد از ابن جریج، متحد يث ابو الرزیر، بسام جابر بن عبد اللہ بخیر ام مبشر: میں نے نبی ﷺ سے سنا آپ حصہ ۱۰۰۰ کے پاس فرماتے تھے اصحاب بیعت رضوان میں سے ان شاء اللہ کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حصہ ۱۰۰۰ بولیں: کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے انہیں ڈانٹا تو حصہ ۱۰۰۰ نے کہا: و ان منکم الا و اردھا (یعنی تم میں ہر کوئی جہنم میں جانے والا ہے) کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: آگے یہ بھی تو ہے پھر ارباب تقویٰ کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو جہنم میں گھنٹوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔

ام العلاء انصاریہ:

آپ نے بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور روایت بھی کی۔ یہ وہی ام العلاء ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ انصار نے مہاجرین میں رغبت کی حتیٰ کہ ان کے بارے میں قرعہ ڈالا گیا۔ پھر قرعہ میں ہمارے لئے عثمان بن مظعون کا نام نکلا۔ ام العلاء سرور عالم ﷺ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئیں۔

عمیرہ بن حصین:

باخبار یعلیٰ بن عبیدطافسی، متحد یث یحییٰ بن سعید از بشیر بن یسار از حصین بن حصین اپنی پھوپھی سے: میں اپنے کسی کام کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی پھر جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو آپ ﷺ نے پوچھا: تمہارا شوہر ہے؟ میں نے کہا: ہاں! ہے۔ پوچھا تمہارا اس کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ میں نے کہا: میں تو اس سے تنگ آ گئی ہوں۔ فرمایا: اس کے ساتھ اپنے سلوک پر غور کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے جنت و جہنم ہے۔

ام بجید:

باخبار ہشام ابو الولید طیلسی، متحد یث لیث بن سعد، متحد یث سعید بن ابی سعید از عبد الرحمن بن بجید: میری دادی ام بجید نے مجھ سے بیان کیا (آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کر لی تھی) کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! اگر کوئی فقیر میرے دروازے پر آئے اور میرے پاس کچھ دینے کو نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا: اگر جلا ہوا کھر ہی ہو تو وہی اسے پکڑ دو۔

باخبار عفان بن مسلم، متحد یث حماد بن سلمہ از محمد بن اسحاق از سعید بن ابی سعید از عبد الرحمن بن بجید از ام بجید: رسول اللہ ﷺ ہمارے یہاں بنو عمرو بن عوف میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے آپ کے لئے ایک پیالہ میں ستوتیار کیا۔ پھر جب آپ تشریف لے آئے تو میں نے وہ ستوا آپ کو پلا دیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میرے پاس ساکلی آتا ہے اور میرے پاس بعض شے ہوتی ہے مگر میں اسے نہیں دیتی۔ فرمایا: مسکین کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھ دو اگر چہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔

ام ہانی انصاریہ:

باخبار حسن بن موسیٰ از ابن لہیعہ: متحد یث ابوالاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، سماع ذرہ بنت معاذ از ام ہانی انصاریہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کیا ہم مرنے کے بعد ایک دوسرے کی زیارت کریں گے اور بعض بعض کو دیکھے گا؟ فرمایا: روئیں پرندے ہیں جو جنت کے درختوں میں چرتے رہتے ہیں جب تک کہ قیامت کے دن ہر روح اپنے جسم میں داخل نہ ہو جائے۔

حواء، عمرو بن معاذ انصاری کی دادی:

باخبار سعید بن منصور، متحد یث حفص بن میسرہ، متحد یث زید بن اسلم از عمرو بن معاذ انصاری اپنی دادی حواء سے: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: ساکلی کو نہ لو ناؤ، اگر چہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔

وہ خواتین اسلام جو رسول اللہ ﷺ سے روایت نہیں کرتیں بلکہ اپنے شوہروں وغیرہ

سے روایت کرتی ہیں

زینب:

آپ ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ ام المؤمنین ام سلمہ بنت ابوامیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہیں۔ آپ سے عبداللہ بن زعمہ بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی نے شادی کی جن سے عبدالرحمن بن یزید و حبیب ابوسلمہ، کبیر ابو عبیدہ، قریبہ ام کلثوم اور ام سلمہ نو بچے ہوئے۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق نے زینب بنت ابی سلمہ کو دودھ پلایا تھا آپ کا نام برہ تھا رسول اللہ ﷺ نے اسے زینب سے بدل دیا تھا۔ زینب اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں اور عروہ بن زبیر سے راوی ہیں کیونکہ زینب آپ کی رضاعی بہن ہیں۔

باخباہ شام ابوالولید طیاہی، محمد ریث لیث بن سعد از یزید بن ابی حبیب از محمد بن عمرو بن عطاء: میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا پھر مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس نام سے منع فرمایا ہے میرا نام بھی برہ تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی پاکی آپ بیان نہ کرو اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کون نیکو کار ہے میرے والدین نے کہا: ہم ان کا کیا نام رکھیں؟ فرمایا: ان کا نام زینب رکھ لو۔

باخباہ معن بن عیسیٰ، محمد ریث مالک بن انس از محمد بن ابی حرمہ مولیٰ عبدالرحمن بن ابی سفیان بن حویطب: زینب بنت ام سلمہ فوت ہوئیں طارق امیر تھے زینب کا جنازہ صبح کی نماز کے بعد لایا گیا اور قہقہ میں رکھ دیا گیا۔ طارق صبح کی نماز اذاعہ میرے میں پڑھایا کرتے تھے ابن ابی حرمہ فرماتے ہیں پھر عبداللہ بن عمر نے ان کے وارثوں سے کہا یا تو اب تم لوگ اپنے جنازے پر نماز پڑھ لو یا ابھی نہ پڑھو جب تک سورج بلند نہ ہو جائے۔

ام کلثوم:

آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امرئ القیس بن مالک الاغر بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج ہیں۔ آپ سے طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم نے شادی کی جن سے زکریا یوسف (جو کسنی ہی میں فوت ہو گئے تھے) اور عائشہ تین بچے پیدا ہوئے پھر ان کے شوہر طلحہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔

باخباہ اسلم بن یوسف، محمد ریث عبدالملک از عطاء: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی بہن ام کلثوم کو جب کہ ان کے شوہر طلحہ شہید ہو گئے تھے مکہ لے گئیں۔

باخباہ سلیمان بن حرب از جریر بن حازم از عطاء: عائشہ نے اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ ان کی عدت ہی میں حج کیا۔

باخباہ سلیمان بن حرب، محمد ریث حماد بن زید بسماح جریر بن حازم و بحدیث ایوب: صدیقہ نے انہیں ان کے شوہروں کی

طرف منتقل کر دیا۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: پھر ام کلثوم سے عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے نکاح کیا جن سے ابراہیم احول، موسیٰ، ام حمید اور ام عثمان چار بچے ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ، سالم بن عبداللہ بن عمر کو ام کلثوم کے پاس بھیجا کہ وہ سالم کو دودھ پلا دیں تاکہ سالم ان کے پاس آجاسکیں۔ ام کلثوم نے سالم کو تین بار دودھ پلایا پھر بیمار ہو گئیں۔

ام کلثوم:

آپ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دختر ہیں اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی ہیں۔ آپ سے حضرت عمر نے آپ کی کمسنی ہی میں شادی کی اور حضرت عمر کی شہادت تک ام کلثوم عمر ہی کے نکاح میں رہیں۔ عمر سے آپ کے زید اور قید دو بچے پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے عون بن جعفر بن ابی طالب نے نکاح کیا پھر عون کے بھائی محمد بن جعفر نے پھر عبداللہ بن جعفر نے آپ کی بہن زینب بنت علی کے مرنے کے بعد آپ سے نکاح کیا پھر ام کلثوم فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے اسماء بنت عمیس سے شرم آتی ہے کیونکہ ان کے دونوں بیٹے میرے پاس فوت ہوئے اور مجھے اس تیسرے کا بھی ڈر ہے۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے سامنے آپ نے وفات پائی۔ لیکن تینوں میں سے کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔

باخبار انس بن عیاض لیشی از جعفر بن محمد از محمد: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کے لئے پیام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے جعفر کے بیٹوں ہی کے لئے اپنی بیٹیاں روک رکھی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا: علی! آپ ام کلثوم کا مجھ سے نکاح کر دیں۔ اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو میری طرح ام کلثوم سے حسن صحبت کا منتظر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: اچھا تو مجھے منظور ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین کی مجلس میں (جو قبر و منبر کے درمیان تھی اور جہاں علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے) تشریف لائے۔ جب دنیا کے کسی گوشہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چیز آتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان حضرات کے پاس آ کر اس کی خبر دیتے تھے اور اس کے بارے میں انہیں حضرات سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان اکابر سے جا کر کہا مجھے شادی کی مبارکبادی دو۔ سب نے مبارکبادی دی اور پوچھا امیر المومنین آپ کی کس سے شادی ہوئی۔ بولے: بنت علی بن ابی طالب سے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ ان سے حدیث بیان کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب و سبب کٹ جائے گا البتہ میرا نسب و سبب باقی رہے گا۔ میں آپ کے ساتھ رہا اور اب آپ سے میرا نسب بھی جڑ گیا۔

باخبار و کعب بن جراح از ہشام بن سعد از عطاء خراسانی: عمر نے ام کلثوم کا مہر چالیس ہزار مقرر کیا۔

محمد بن عمرو وغیرہ کہتے ہیں: جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ام کلثوم کا پیام بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: امیر المومنین ابھی تو وہ بچی ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں بلکہ جو بات ہے ہمیں معلوم ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم کو حکم دیا کہ نہا دھو کر اور بن سنور کر تیار ہو جاؤ اور یہ تشدد چادر امیر المومنین کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو میرے والد نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چادر پسند ہو تو لے لیجئے اور اگر ناپسند ہو تو واپس فرما دیجئے پھر

جب ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور اپنے والد کا پیغام پہنچایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تم کو اور تمہارے والد کو برکت عطا فرمائے، ہمیں پسند ہے پھر ام کلثوم نے واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: امیر المؤمنین نے چادر کھول کر نہیں دیکھی۔ البتہ مجھے غور سے دیکھا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح ام کلثوم سے کر دیا جن سے ایک بچہ زید پیدا ہوا۔

باخبار کعب بن جراح از اسماعیل بن ابی خالد از عامر: ایک ہی دن زید بن عمر اور ام کلثوم بنت علی فوت ہوئیں۔ ابن عمر نے دونوں کی جنازے کی نماز پڑھائی زید کا جنازہ اپنے قریب رکھا اور ام کلثوم کا جنازہ زید کے جنازے سے آگے قبلہ کی طرف رکھا اور دونوں پر چار بکیریں کیں۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ: باخبار اسرائیل از ابو حصین از عامر از ابن عمر: حسب سابق روایت ہے۔

باخبار کعب بن جراح از زید بن حبیب از شععی: ہم مثل اور مزید یہ کہ آپ کے پیچھے حسن، حسین پسران علی اور محمد بن حنفیہ اور عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن جعفر تھے۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ باخبار اسرائیل از جابر از عامر از عبد اللہ بن عمر: ابن عمر نے زید بن عمر پر چار بکیریں کیں اور آپ کے پیچھے حسن اور حسین تھے اگر آپ کو علم ہوتا کہ زیادہ بکیروں کا اختیار ہے تو زیادہ کہہ دیتے۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ باخبار اسرائیل از سدی از عبد اللہ بھی: میں ابن عمر کے پاس موجود تھا آپ نے ام کلثوم اور زید کی ایک ساتھ نماز پڑھائی اور امام کے متصل زید کا جنازہ رکھا۔ حسن اور حسین بھی موجود تھے۔

باخبار کعب بن جراح از حماد بن سلمہ از عمارہ بن ابی عمارہ مولیٰ بنی ہاشم: اس دن ان کے ساتھ میں بھی موجود تھا دونوں کی سعید بن العاص نے نماز پڑھائی تھی اس زمانہ میں سعید لوگوں پر امیر تھے اور آپ کے پیچھے اسی (۸۰) صحابہ کرام تھے۔

باخبار جعفر بن عون بن جریج از نافع: ام کلثوم کا جنازہ اور ان کے بیٹے زید کا جنازہ رکھا گیا اس دن امام سعید بن العاص تھے۔

باخبار عبد اللہ بن نمیر متحد بیٹ اسماعیل بن ابی خالد از عامر: ابن عمر نے اپنے بھائی زید کی اور ام کلثوم بنت علی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دونوں کے جنازے آگے پیچھے ایک لائن میں رکھے ہوئے تھے اور زید کا جنازہ امام کے متصل تھا۔

آپ ام کلثوم بنت علی کی سگی بہن ہیں آپ سے عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب نے شادی کی جن سے علی، عون، اکبر، عباس، راورام کلثوم پانچ بچے ہوئے۔

باخبار محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک از ابن ابی ذئب: بحدیث عبد الرحمن بن مہران: عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب نے نب بنت علی سے اور ان کے ساتھ لیلیٰ زوجہ علی سے نکاح کیا اور دونوں ان کے نکاح میں جمع تھیں۔

آپ ام کلثوم بنت علی کی علاتی بہن ہیں اور آپ کی والدہ ام ولد ہیں۔ آپ سے محمد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب

نے نکاح کیا جن سے حمیدہ پیدا ہوئیں پھر آپ سے سعید بن اسود بن ابی البختری بن ہشام بن حارث بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی نے نکاح کیا جن سے برزہ اور خالد پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے منذر بن عبیدہ بن زبیر بن عوام نے نکاح کیا جن سے عثمان اور کبرہ پیدا ہوئے۔ فاطمہ زندہ رہیں اور انہوں نے فاطمہ سے روایت کی۔

باخبار فضل بن دکین، محمد یث حکم بن عبد الرحمن بن ابی نعم، بحدیث فاطمہ علی بن ابی طالب: میرے والد نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا: جس نے مسلمان یا مومن شخص آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کا ہر عضو آزاد کئے جانے والے کے ہر عضو کے بدلے آزاد فرمادیتا ہے۔

باخبار احمد بن عبد اللہ بن یونس، محمد یث زہیر، محمد یث عروہ بن عبد اللہ بن قشیر: میں فاطمہ بنت علی کے گھر گیا تو میں نے آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو دو بھاری کنگن دیکھے اور ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی اور گردن میں خرمرہوں کا ہار دیکھا۔ پھر میں نے ان سے اس سلسلہ میں پوچھا تو فرمایا: عورت مرد کی مشابہت نہیں کرتی۔

باخبار عبد اللہ بن جعفر رقی، محمد یث عبید اللہ بن عمرو از عبد الکریم از عیسیٰ بن عثمان: میں فاطمہ بنت علی کے پاس تھا پھر آپ کے پاس ایک شخص آکر آپ کے والد کی تعریف کرتا ہے آپ ایک مٹھی راگھ لے کر اس کے چہرے کی طرف اڑا دیتی ہیں۔

ام قسم:

آپ عباس کی دختر ہیں حدیث میں اسی طرح ہے لیکن ہم عباس بن عبد المطلب کی ام قسم نامی کوئی بیٹی نہیں پاتے۔

باخبار اسباط بن محمد از ابراہیم بن اسماعیل انصاری از عبد الکریم از ام قسم بنت عباس: ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور ہم چودہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ فرمایا: یہ کیا کھیل ہے؟ میں نے کہا: ہمارا روزہ ہے اس لئے ہم نے چاہا اسی کھیل سے دل بہلا کر دن گزار لیں۔ فرمایا: کیا میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو نہ بھیجوں جو تمہارے لئے اخروٹ خرید کر آئے اور تم ان سے کھیل لو اور یہ کھیل چھوڑ دو۔ میں نے کہا: ضرور بھیجے۔ فرماتی ہیں پھر آپ نے ایک شخص کو بھیجا جو ہمارے اخروٹ خرید کر لایا۔ پھر گھر والوں نے کھلونے چھوڑ دیئے۔

عائشہ:

آپ طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ زین بنت حارث بن زہیر بن شراحیل بن خباب از بنو قیس بن ثعلبہ بن عکابہ بن صعصعہ بن علی بن بکر بن وائل ہیں۔ عائشہ اپنے والد سعد سے اور چند ام المومنین سے روایت کرتی ہیں اور آپ سے لوگ روایت کرتے ہیں۔ آپ نے کافی عمر پائی۔

باخبار عارم بن فضل، محمد یث حماد بن زید از ایوب از عائشہ بنت سعد: میں نے چھ امہات المومنین کو دیکھا ہے میں نے ان میں سے کسی پر سفید کپڑا نہیں دیکھا میں زیورات پہن کر ان کے پاس آیا جو تھی اور ان زیورات پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں کرتی تھیں۔ پوچھا گیا: کیا زیورات تھے؟ فرمایا: سونے کے ہار اور سونے

کئے ہوئے زیورات تھے اور کسی نے مجھے ان پر نہیں ٹوکا۔

باخبار عفان بن مسلم بخدیث دہیب بخدیث ایوب: میں عائشہ بنت سعد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا: میں نے چھ اہمات المؤمنین کو دیکھا جن پر میں نے عصر میں رنگے ہوئے کپڑے دیکھے میں نے کبھی ان پر سفید کپڑے نہیں دیکھے میں ان کے پاس آتی جاتی تھی ان میں سے کوئی مجھے اپنی گود میں بٹھالیا کرتی تھیں اور برکت کی دعائیں دیا کرتی تھیں حالانکہ میں سونے کے زیورات سے آراستہ ہوتی تھی۔ ایوب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا: آپ پر کیا زیورات ہوتے تھے؟ فرمایا: سونے کے اور سونے سے ملحق کئے ہوئے زیورات۔

باخبار معن بن عیسیٰ بخدیث عبیدہ بنت نابل: عائشہ بنت سعد خنصر کی برابر والی دو انگلیوں میں دو چاندی کی انگوٹھیاں پہنے رہتی تھیں اور جب وضو کرتی تھیں تو انہیں ہلایا کرتی تھیں۔

باخبار عبدالعزیز بن عبداللہ اوسی: بخدیث ابراہیم بن سعد: میں نے عائشہ بنت سعد کو کئی بار دیکھا آپ عشاء کی نماز میں عصر میں رنگے ہوئے (سرخ) کپڑوں میں حاضر ہوتی تھیں۔

باخبار کثیر بن ہشام بخدیث جعفر بن براقان بسام حبیب بن ابی مرزوق: میں نے ایک مدنی خاتون کو دیکھا ان کے ساتھ اور بھی خواتین تھیں ان کے ہاتھ میں شمع تھی اور مسجد سے جا رہی تھیں۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا: یہ سعد بنت ابی وقاص کی صاحبزادی ہیں۔

عائشہ:

آپ قدامہ بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن حجاج کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت سفیان بن حارث بن امیہ بن فضل بن متقف بن عقیف بن کلیب بن حبشہ بن سلول خزاعیہ ہیں۔ آپ سے ابراہیم بن محمد بن حاطب بن حارث بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن حجاج نے شادی کی جن سے قدامہ اور عثمان عالم کوئی پیدا ہوئے۔ آپ قدرے فحش گو تھے اور محمد اور ابراہیم بھی پیدا ہوئے۔ عائشہ بنت قدامہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں۔

حفصہ:

آپ عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ قرینہ صغریٰ بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر کی غیر موجودگی میں منذر بن زبیر بن عوام سے کرا دیا تھا پھر جب عبدالرحمن آئے تو انہوں نے نکاح لوٹا دیا۔ پھر جب عبدالرحمن کی طرف اختیار لوٹا دیا گیا تو آپ نے انہیں سے نکاح کرا دیا جن سے عبدالرحمن ابراہیم قرینہ تین بچے پیدا ہوئے پھر منذر کے بعد آپ سے حسین بن علی بن ابی طالب نے نکاح کر لیا۔ حفصہ اپنے والد سے اپنی پھوپھی عائشہ صدیقہ سے اور اپنی خالہ ام المؤمنین ام سلمہ سے بسام روایت کرتی ہیں۔

اسماء:

آپ حفصہ بنت عبدالرحمن کی علاقائی بہن ہیں اور آپ کی والدہ ام ولد ہیں۔ آپ سے قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق نے

شادی کی جن سے عبدالرحمن ام فروہ جو جعفر بن محمد بن علی بن حسین کی والدہ ہیں۔ ام حکیم اور عبدہ چار بچے پیدا ہوئے، اسماء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ از اسامہ بن زید از عبدالرحمن بن قاسم اپنی والدہ اسماء بنت عبدالرحمن سے اور وہ عائشہ سے رسول اللہ ﷺ ایک سفر سے تشریف لائے، میں نے آپ کے لئے ایک قالین خریدنا تھا جس میں تصویریں تھیں اور اسے میں نے اپنے کمرے کی الماری پر پردے کے لئے لٹکا دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور پردے کی طرف سے میں نے آپ کے چہرے سے کراہت محسوس کی۔ پھر آپ نے اسے علیحدہ کر کے فرمایا کیا تم دیوار پر پردے لٹکاتی ہو؟ فرماتی ہیں پھر میں اس قالین کو کاٹ کر دو تکیہ بنا دیئے پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کو ان میں سے ایک تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔

صفیہ:

آپ شبیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بن عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار بن قصی کی دختر ہیں۔ صفیہ کو ام مخیر بھی کہا جاتا تھا آپ کی والدہ عثمان کی والدہ ہیں۔ یعنی بڑہ بنت سفیان بن سعید بن قانف بن اوقص سلمیٰ ہیں۔ آپ سے عبداللہ بن خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیہ نے شادی کی جن سے اولاد ہوئی۔ صفیہ امہات المؤمنین وغیرہ سے روایت کرتی ہیں اور بہت سے لوگ ان سے کثرت سے روایت کرتے ہیں۔

زینب بنت مہاجر احمسیہ:

باخبار ابواسامہ از جالد از عبداللہ بن جابر احمسی اپنی پھوپھی زینب بنت مہاجر سے: میں ایک عورت کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوئی، پھر میں نے ایک خیمہ گاڑ لیا اور کسی سے کلام نہ کرنے کی نذر مان لی۔ پھر ایک شخص نے آ کر اور خیمہ کے دروازے کھڑے ہو کر کہا: السلام علیکم! میری ساتھ والی عورت نے اسے سلام کا جواب دیا۔ اس نے پوچھا جن کو میں نے سلام کہا تھا انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ خاموش ہیں اور انہوں نے بات نہ کرنے کی نذر مان لی ہے۔ فرمایا: اسے عورت کلام کر کیونکہ یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ فرماتی ہیں میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ فرمایا: میں ایک مہاجر ہوں۔ میں نے کہا: آپ کن مہاجروں میں سے ہیں؟ فرمایا: قریش سے۔ میں نے کہا: قریش کے کس قبیلہ سے؟ فرمایا: ہم قریظہ سے سوال کرنے والی ہو۔ میں ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا: اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ہمارا جاہلیت کا زمانہ تازہ تازہ ہے اور ہم میں سے بعض بعض سے بے خوف نہیں۔ اب اللہ اسلام لے آیا ہے یہ کب تک ہمارے لئے باقی رہے گا؟ فرمایا: جب تک تمہارا امام صحیح رہیں گے۔ میں نے پوچھا: امام کون ہیں؟ فرمایا: کیا تمہاری قوم میں شرفاء نہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ میں نے کہا: ہاں! ہیں۔ فرمایا: یہی امام ہیں۔

میہ:

آپ محرز کی دختر ہیں اور بنو حارث بن کعب کی ایک عورت ہیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ بصرے کی تھیر باخبار یزید بن ہارون وعفان بن مسلم بن محمد بن سلیم بن حیان، بحدیث موسیٰ بن قطن از میہ: میں نے عمر بن خطاب سے

سے سنا فرماتے تھے اس ورثہ (اونٹ) کو چھوڑ دو اس کی روزیاں نہ کھاؤ اور ان کے پٹے ان کی گردنوں ہی میں چھوڑ دو۔
مُسکبہ:

آپ یوسف بن ماہک کی والدہ ہیں اور حضرت عثمان سے روایت کرتی ہیں۔

باخباہر اسماعیل بن ابراہیم اسدی باخباہر ایوب از شخبے از یوسف بن ماہک اپنی والدہ مسکبہ سے: ایک عورت عدت کی حالت میں اپنے میکہ میں ملنے کے لئے گئی۔ وہاں اس کے دروزہ شروع ہو گئے۔ ان کے گھر والوں نے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ اللہ کی قسم میں بلا کسی پس و پیش حجاب کے ان کے سامنے چلی گئی اور میں نے اس کے بارے میں ان سے فتویٰ پوچھا۔ فرمایا: اس سے کہہ دو کہ اسی حال میں اپنے گھر چلی جائیں۔
سُہبہ:

آپ عمیر کی دختر ہیں اور شیبانیہ ہیں۔

باخباہر عبد اللہ بن نمیر از سعید بن ابی عمرو بہ از قاده از ابوالسج: حکم بن ایوب نے مجھے سُہبہ کے پاس بھیجا۔ بولیں: مجھے میرے شوہر کی موت کی خبر قنادیل سے صہبی بن قسیل نے بھیجی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عباس بن طریف قیس سے نکاح کر لیا۔ پھر میرا سابق شوہر بھی آ گیا۔ اب ہمارا مقدمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ آپ نے جھانک کر ہم سے فرمایا: میں اس حال (محصور ہونے کے حال) میں تمہارا کس طرح فیصلہ کروں؟ لوگ بولے: ہم آپ کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ فرمایا: پہلے شوہر کو مہر میں یا عورت میں اختیار ہے۔ چاہے تو مہر واپس لے لے اور چاہے تو عورت کو واپس لے لے لیکن اس نے مہر واپس لے لیا۔ دو ہزار مجھ سے لئے اور دو ہزار میرے پچھلے شوہر سے لئے۔ ان کی ایک ام ولد تھی جس نے نکاح کر لیا تھا اور صاحب اولاد کثیرہ تھی۔ اسے اور اس کی اولاد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے مالک پر لوٹا دیا اور ان کے باپ سے کہہ دیا کہ وہ جب چاہیں اپنی اولاد کو آزاد کرالے۔

اُمّ حکیم بنت قارظ، اہلبیہ عبد الرحمن بن عوف:

باخباہر محمد بن اسماعیل بن ابی فدیك از ابن ابی ذئب از سعید بن خالد و قارظ بن شیبہ: ام حکیم نے عبد الرحمن سے کہا مجھ پر کئی آدمیوں نے پیام ڈالا ہے آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ بولے: کیا تم مجھے اپنے نکاح کا اختیار دیتی ہو؟ بولیں: ہاں۔ فرمایا: میں نے تم سے نکاح کر دیا ہے۔ ابن ابی ذئب کہتے ہیں پھر ان کا نکاح نافذ ہو گیا۔

صفیہ:

آپ ابو سعید بن مسعود بن عمرو بن عمیر بن عوف بن عتدہ بن غیرہ بن عوف بن قس بن قس بن قس کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ عاتکہ بنت اسید بن ابی العیص بن امیہ ہیں اور نانی زینب بنت ابی عمرو بن امیہ ہیں آپ سے عہد عمر میں عبد اللہ بن عمر بن خطاب نے نکاح کیا جن سے ابو بکر ابو سعیدہ و اقد عبد اللہ عمر حفصہ سوہہ سات بچے ہوئے۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حفصہ بنت عمر سے روایت کرتی ہیں۔ آپ مختار بن ابی عبیدہ کی بہن ہیں۔

باخبار خالد بن مخلد بن بکلی متحد یث عبد اللہ بن عمر ازناغ از ابن عمر مجھ سے عمر رضی اللہ عنہ نے صفیہ بنت ابی عبید کا چار سو درہم مہر مقرر کرایا اور میں نے مزید دو سو ان کے علم کے بغیر دے دیئے۔

باخبار انس بن عیاض لیشی از موسیٰ بن عقبہ ازناغ بخر صفیہ بنت ابی عبید: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں سورہ کہف پڑھتا ہوا سنا۔

باخبار محمد بن عمر از عبد اللہ عمری ازناغ بسماح صفیہ: عمر نے کئی دفعہ مجھے اتانا مارا کہ میری بدھی گتھ گئی۔ ایک دفعہ آپ نے مجھے کھٹھی سے مارا۔

باخبار یحییٰ بن عباد متحد یث فلیح ازناغ: صفیہ بوڑھی تھیں اور صفامروہ کے درمیان سعی سواری پر کیا کرتی تھیں۔

ام سلمہ:

آپ مختار بن ابی عبید بن مسعود بن عمرو بن عمیر بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن قسی ثقفی کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام ولید بنت عمیر بن ربیع بن عوف بن جابر بن سفیان بن عبد یامیل بن سالم بن مالک بن حطیط ہیں۔ آپ سے عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر بن خطاب نے نکاح کیا جن سے عمر بن عبد اللہ پیدا ہوئے۔

باخبار یحییٰ بن عباد متحد یث فلیح ازناغ: مختار بن ابی عبید کی دختر عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر کے نکاح میں تھیں۔ ان کے ہاں مزولفہ کی شب میں ولادت ہوئی۔ صفیہ بنت ابی عبید نے نگرانی کی۔ آپ ان کی پھوپھی تھیں۔ حتیٰ کہ یہ لوگ ذی الحج کی دسویں تاریخ کو مٹی میں سورج ڈوبنے کے بعد پچھنے نہیں عبد اللہ نے حکم دیا کہ رمی جمرہ کر کے طواف افاضہ کے لئے مکہ جائیں۔

فاطمہ:

آپ امام حسین کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ ام الملتح بنت طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم ہیں۔ آپ سے آپ کے چچا زاد بھائی حسن بن حسن بن علی نے نکاح کیا جن سے عبد اللہ ابراہیم حسن زینب چار بچے ہوئے۔ پھر ان کے مرنے کے بعد عبد اللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان نے نکاح کیا۔ عبد اللہ سے آپ کا نکاح آپ کے بیٹے عبد اللہ بن حسن نے آپ کے حکم سے کرایا جن سے قاسم اور محمد دیاج (اتنے خوبصورت تھے کہ ان کا لقب دیاج ”ریشم“ پڑ گیا) پیدا ہوئے اور رقیہ بھی عبد اللہ بن عمرو کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے مطرف بھی کہا جاتا تھا پھر آپ کے دوسرے شوہر بھی فوت ہو گئے۔

باخبار محمد بن عمر متحد یث عبد اللہ بن محمد بن ابی یحییٰ: یزید بن عبد الملک نے عبد الرحمن بن ضحاک بن قیس فہری کو مدینہ کا حاکم بنایا پھر انہوں نے فاطمہ بنت حسین پر پیام ڈالا۔ بولیں: اب میرا نکاح کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں اپنے ان بچوں ہی میں مصروف رہتی ہوں اور جس بات سے انہیں اندیشہ تھا اسے ظاہر کرنے سے آپ نے گریز کیا اور کہنے لگا: اللہ کی قسم اگر تم مجھ سے نکاح نہ کرو گی تو میں تمہارے بڑے بیٹے کو شراب کی سزا میں کوڑے لگواؤں گا یعنی عبد اللہ بن حسن کو۔ ابھی عبد الرحمن اسی حال میں تھا اور مدینہ کی عدالت پر ابن ہر حر تھے کہ یزید بن عبد الملک نے ابن ہر حر کو لکھا کہ میرے پاس آ کر حساب کر جاؤ۔ ابن ہر حر جاتے وقت فاطمہ کو رخصت کرنے کے لئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ فرماتی ہیں: امیر المؤمنین سے ابن

ضحاک کے کروت بیان کر دینا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے اور مجھے کیسی کیسی دھمکیاں دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ یزید کے پاس ایک خط بھیج دیا جس میں انہوں نے اپنی قرابت کا ذکر کیا اور ابن ضحاک کی تفصیل سے شکایت لکھی۔ ابن ہر مرنے یزید کو ان کا پیام پہنچا دیا اور یزید نے ان کا خط بھی پڑھا اور بھنا کر تخت سے اتر پڑا اور بید کی لکڑی کو زمین پر مار کر کہنے لگا: ابن ضحاک نے ایک ایسے شخص سے جرات کی جس کی آواز میرے پاس میرے بستر پر آئی۔ پھر کاغذ منگوا کر عبد الواحد بن عبد اللہ نصری کو لکھا اس وقت وہ طائف کے حاکم تھے: میں نے تم کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا ہے مدینہ جا کر ابن ضحاک سے چالیس ہزار بطور تادان کے وصول کرو اور اسے اتنی سزا دو کہ میں اپنے فرش پر اس کی آوازیں لوں۔ ابن ضحاک کو بھی خبر مل گئی اور شام کی طرف بھاگ گیا اور مسلمہ بن عبد الملک کے پاس پناہ لی۔ مسلمہ نے یزید سے اسے بطور ہبہ کے مانگا لیکن یزید نے انکار کر دیا اور کہا: اس نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ آخر کار مسلمہ نے اسے نصری کے پاس مدینہ بھیج دیا۔ نصری نے اس سے چالیس ہزار درہم وصول کئے اور اسے سزا دی اور کھل کا جبہ پہنا کر اسے بازاروں میں گھمایا۔

باخبار عبید اللہ بن موسیٰ باخبار اسرائیل از جابر ایک محورت سے جو فاطمہ بنت حسین سے روایت کرتی ہیں: فاطمہ دھاگوں کی گرہوں پر سبحان اللہ پڑھا کرتی تھیں۔ فاطمہ بنت حسین سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔

سیکنہ:

آپ فاطمہ بنت حسین کی علاقائی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ رباب بنت امری القیس بن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علی بن ہبل بن عبد اللہ بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عدزہ بن زید اللات بن رفیدہ بن ثور بن کلب ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے مصعب بن زبیر بن عوام نے شادی کی جن سے فاطمہ پیدا ہوئیں۔ پھر آپ سے ان کے قتل ہو جانے کے بعد عبد اللہ بن عثمان بن عبد اللہ بن حکیم بن حرام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی نے نکاح کیا جن سے عثمان بن عفان بن عثمان بن عفان نے نکاح کیا۔ یہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف زہری نے نکاح کیا۔ آپ نے انہیں نکاح کا اختیار دے دیا تھا۔ پھر انہوں نے خود ہی نکاح کر لیا۔ آپ ان کے پاس تین ماہ ٹھہریں پھر ہشام بن عبد الملک نے اپنے مدینہ والے حاکم کو لکھا کہ دونوں میں تفریق کرادے۔ اس نے دونوں میں تفریق کرادی۔ بعض علماء کہتے ہیں زید فوت ہو گئے تھے۔ پھر آپ سے اصغ بن عبد العزیز بن مروان نے نکاح کر لیا۔

باخبار ابوالسائب کلبی: مخمر خلف زہری: جب سیکنہ فوت ہوئیں تو مدینہ کے خالد بن عبد اللہ بن حارث بن حکم حاکم تھے۔ آپ نے فرمایا: میرا انتظار کرنا حتیٰ کہ میں سیکنہ کا جنازہ پڑھاؤں اور آپ جنت البقیع چلے گئے اور ظہر تک واپس نہیں آئے۔ لوگوں کو ڈر ہوا کہیں جنازے میں تغیر نہ آجائے اور تیس دینار کا جنازے کے لئے کا فور خریدنا پڑا۔ پھر جب خالد واپس آئے تو آپ کے حکم سے جنازے کی نماز شبہ بن نصح نے پڑھائی۔

ام عثمان:

آپ عبید اللہ بن عبد اللہ بن سراقہ بن معتمر بن انس بن اذہ بن رباح بن عبد اللہ بن قرقظ بن رزاح بن عمران بن کعب

کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ زینب بنت عمر بن خطاب ہیں۔ ہم نے حدیث میں پایا کہ آپ حضرت حصہ سے روایت کرتی ہیں۔

ام محمد:

آپ قیس بن مخرمہ بن مطلب بن عبد مناف بن قصی کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ دتہ بنت عتبہ بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشہل ہیں۔ آپ ام المومنین ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں: بعض بتوسلہ اس حال میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔

ام محمد:

آپ یزید بن مہاجر بن قنفذ بن عمیر بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت مالک بن عبد بن خولان ہیں۔ آپ ام المومنین ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا: عورت پورے کرتے اور دوپٹے میں نماز پڑھے۔

باخبار اسماعیل بن ابراہیم بن علیہ از عبد الرحمن بن اسحاق از محمد بن یزید بن مہاجر اپنی والدہ سے: میں نے حضرت ام سلمہ سے کہا: عورت کن کپڑوں میں نماز پڑھے؟ فرمایا: دوپٹہ میں اور اس کرتے میں جو اس کے پیروں کے ظاہری حصہ کو چھپالے۔

ام الحسن البصری:

آپ بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے ام سلمہ کو کرتے اور دوپٹہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

باخبار روح بن عبادہ متحدیث اسامہ بن زید اپنی والدہ سے: میں نے حسن بصری کی والدہ کو عورتوں میں وعظ فرماتے ہوئے دیکھا۔

فاطمہ:

آپ منذر بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی کی بیٹی ہیں اور آپ کی ماں ام ولد ہیں۔ آپ سے ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام نے شادی کی جن سے عروہ اور محمد پیدا ہوئے۔ فاطمہ اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر صدیق سے روایت کرتی ہیں۔

ام سلمہ:

آپ حذیفہ بن یمان عسی حلیف بنی عبدالاشہل کی دختر ہیں اور اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کو شک والے دن میں رمضان کے روزے سے منع فرمایا کرتے تھے۔

ام سعد:

آپ سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاغر بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث

بن خرزج کی دختر ہیں۔ آپ کا نام جمیلہ ہے۔ آپ کی والدہ خلدہ بنت انس بن سنان بن وہب بن لوذان بن عبدوؤ ساعدی ہیں۔ سعد بن ربیع جنگ اجد میں شہید ہوئے خلدہ حاملہ تھیں سعد کی شہادت کے چند ماہ بعد جمیلہ پیدا ہوئیں۔ جمیلہ سے زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی جن سے سعدؓ، سلیمان، یحییٰ، اسماعیل، عثمان اور ام زید سات بچے ہوئے۔

باخبار ابو عامر عبد الملک بن عمر و عقدتہ یث محمد بن صالح تمار: متحد یث حمید بن نافع از ام سعد بنت سعد بن ربیع: میں اور زید بن ثابت ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ آپ زید کی بیوی تھیں۔

باخبار معن بن عیسیٰ: متحد یث مالک از زید بن سائب: میں نے ام سعد اہلیہ زید کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھی دانت کے دو ٹکڑے ہیں اور ہاتھی دانت ہی کی انگوٹھی ہے۔

کبشہ:

آپ کعب بن مالک بن ابی کعب بن قین بن کعب بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ صفیہ یحییٰ ہیں۔ آپ سے ثابت بن ابی قتادہ بن ربیع النزاری سلمی نے شادی کی اور آپ کی جو بچی آپ سے روایت کرتی ہیں وہ حمیدہ بنت عبید بن رفاعہ بن رافع زرقی حمیدہ سے اسحق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ حدیث مالک بن انس سے روایت کرتے ہیں۔

باخبار محمد بن عمر: باخبار مالک بن انس از اسحق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ از حمیدہ بنت عبید بن رفاعہ بن رافع بن مالک زرقی اپنی والدہ کبشہ بنت کعب سے: ابو قتادہ ہم سے ملنے آئے پھر آپ نے وضو کے لئے پانی منگوا یا۔ پانی حاضر کر دیا گیا اتنے میں ایک بلی آگئی۔ آپ نے اس کے لئے پانی کا برتن جھکا دیا۔ بلی نے پانی پیا پھر ابو قتادہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: بات یہ ہے کہ بلیاں ناپاک نہیں کیونکہ بے اور بلیاں تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔

زینب:

آپ عبید بن جابر بن مالک بن عدی بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ فارحہ (فریجہ) بنت سعد بن زرارہ بن عدس بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار ہیں۔ آپ سے انس بن مالک نے شادی کی۔

باخبار عبد اللہ بن ادریس: باخبار محمد بن عمارہ از زینب بنت عبید بن جابر اہلیہ انس بن مالک: ابو امامہ (اسعد بن زرارہ) نے میری والدہ اور خالہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے وصیت کی پھر آپ کے پاس سونے اور موتیوں کے (جن کو رعاث کہا جاتا تھا) ہار آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان ہاروں میں سے میری والدہ اور خالہ کو بھی دیئے۔ میں نے وہ زیورات اپنے گھر میں دیکھے تھے۔

زینب:

آپ کعب بن عجرہ کی دختر ہیں اور فریجہ بنت مالک بن سنان ہاشمیہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں فریجہ کا نبی ﷺ سے سماح ثابت ہے۔

ام عمرو:

آپ خوات بن جبیر بن نعمان بن امیہ بن امری القیس بن ثعلبہ بن عمرو بن عوف بن مالک اوسی کی دختر ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار یحییٰ بن عباد، محمد بن فضیل از خوات بن صالح اپنی پھوپھی ام عمرو بنت خوات بن جبیر سے: ایک انصاری خاتون صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی میں ان کے پاس تھی اس نے کہا کہ میری بیٹی کو ایک سخت مرض لاحق ہو گیا ہے اس کے بال گر جاتے ہیں کنگھی کرنے کی مجال نہیں حالانکہ وہ دلہن بنائے جانے والی ہے۔ کیا میں اس کے بالوں میں بال ملا دوں تاکہ کنگھی کر سکوں؟ فرمایا: نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بال ملانے والی اور ملوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

ام حفص:

آپ عبید بن عازب بن حارث بن عدی بن حشم بن محمد بن حارث بن حارث بن اوس کی دختر ہیں اور اپنے چچا براء بن عازب سے روایت کرتی ہیں۔ باخبار بکر بن عبدالرحمن بن محمد بن یحییٰ بن مختار از محمد بن یحییٰ ابن ابی الیاس از ام حفص بنت عبید اپنے چچا براء بن عازب سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے میرا نام رکھ لیا وہ میری کنیت نہ رکھے۔

حفصہ:

آپ انس بن مالک بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی دختر ہیں۔ باخبار محمد بن مصعب قرظانی: بحدیث ام مریم حفصہ بصریہ: میں نے حفصہ سے سنا فرماتی تھیں: ہمارے والد ہمیں سونے کے زیورات اور ریشمین کپڑے پہتاتے تھے۔

عمرہ:

آپ عبدالرحمن بن اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ سالمہ بنت حکیم بن ہاشم بن قوالہ ہیں۔ آپ سے عبدالرحمن بن حارث بن نعمان بن نفع بن زید بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار نے شادی کی جن سے ابوالرجال محمد بن عبدالرحمن پیدا ہوئے۔ زہری عمرہ سے روایت کرتے ہیں نیز عمرہ سے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم اور یحییٰ بن سعید انصاری وغیرہ بھی روایت کرتے ہیں۔ عمرہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتی ہیں آپ صاحب علم تھیں۔

باخبار یزید بن ہارون از یحییٰ بن سعید از عبداللہ بن دینار: عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد بن حزم کو لکھا غور کر کے احادیث رسول اللہ ﷺ کو یا گزشتہ سنت کو یا حدیث عمرہ کو لکھو کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے کا اور علماء کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے۔ باخبار ابو عاصم نبیل از محمد بن عمارہ از عبداللہ بن ابی بکر از عمرہ بنت عبدالرحمن: (عمرہ اور عمرہ کی بہنیں صدیقہ کی زیر تربیت اور ان کے پاس رہا کرتی تھیں) ہمارے پاس زیورات تھے۔

باخبار فضل بن دکین و عمرہ بن یثیم: بحدیث ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از عمرہ بنت عبدالرحمن (اپنے

جھپٹوں سے) مجھے باغ میں میری قبر کے لئے جگہ دے دو۔ ان کا باغ بقیع سے ملا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں: میں نے صدیقہ سے سنا فرماتی تھیں مرنے کے بعد مردے کی ہڈی توڑنا اسی طرح ہے جس طرح زندگی میں توڑنا ہے۔

باخباہ ہشام ابوالولید طرابلسی بخدیث شعبہ از محمد بن عبدالرحمن: مجھ سے عمرہ نے کہا: اپنی زمین میں سے مجھے ذرا سی جگہ دے دے کہ میں اس میں دفن کی جاؤں کیونکہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا آپ فرماتی تھیں میت کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے۔

ہند:

آپ معتقل بن یسار بصری کی دختر ہیں اور اپنے والد سے روایت کرتی ہیں۔

عدیسیہ:

آپ اہبان بن صفی غفاری کی دختر ہیں اور اپنے والد سے جو صحابی تھے روایت کرتی ہیں۔

باخباہ اسماعیل بن ابراہیم بخدیث عبداللہ بن عبید از عدیسیہ بنت اہبان بن صفی غفاری صحابی: حضرت علی میرے والد صاحب کے پاس تشریف لائے اور آپ کو اپنے لشکر میں شامل کرنا چاہا میرے والد نے فرمایا میرے دوست نے اور آپ کے چچا زاد بھائی نے حکم فرمایا ہے کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو تو میں لکڑی کی تلوار بنا لوں۔ میں نے لکڑی کی تلوار تیار کر لی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں وہی تلوار لے کر آپ کی فوج میں شامل ہو جاؤں۔ آخر کار علی نے آپ کو چھوڑ دیا۔

امیمہ دختر نجار:

آپ نے امہات المؤمنین کو پایا اور ان سے روایت کی۔

باخباہ رجاء بن محمد وضحاہ بن مخلد از ابن جریج: بخبر حکیمہ بنت ابی حکیم اپنی والدہ امیمہ بنت نجار سے: امہات المؤمنین کے پاس درس و دعفران میں رنگی ہوئی دھجیاں ہوتی تھیں جن سے احرام باندھنے سے قبل لگے ہوئے بال پیشانیوں پر باندھ لیا کرتی تھیں اور اسی حال میں عرفات میں قیام فرمایا کرتی تھیں۔

صحیرہ بنت جحیف، بصریہ:

آپ ام المؤمنین صفیہ بنت حمی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے گھڑے کی نیند کے بارے میں روایت کرتی

ہیں۔

جمانہ بنت مسیب بن نجیہ الفزاری:

آپ سے حدیفہ بن یمان نے شادی کی اور آپ حدیفہ سے روایت بھی کرتی ہیں۔

باخباہ خلد بن یحییٰ بخدیث عمرو بن دینار: باخباہ حنظلہ بن سبرہ بن مسیب بن نجیہ فزاری: میری پھوپھی جان جمانہ بنت مسیب حدیفہ بن یمان کے نکاح میں تھیں۔ آپ رمضان میں صبح کی نماز پڑھ کر ان کے لحاف میں ان سے گرم ہونے کے لئے گھس جاتے تھے اور ان کی طرف چہرے کے بجائے پشت کر لیا کرتے تھے۔

ہند بنت حارث فراسیہ:

آپ نے امہات المؤمنین کو پایا اور ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں اور آپ کا صفیہ بنت عبدالمطلب سے سماع بھی ثابت ہے۔ زہری ہند سے روایت کرتے ہیں۔

ناکلہ بنت فرافصہ حنفیہ:

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں نماز پڑھائی اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔

ریطہ حنفیہ:

آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار یزید بن ہارون: باخبار سفیان از میسرہ از ریطہ حنفیہ: ہمیں صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جماعت سے نماز پڑھائی اور درمیان میں کھڑی ہوئیں۔

معاذہ عدویہ بنت عبداللہ اہلبصرہ صلیہ بن اشیم بصریہ:

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور آپ سے روایت بھی کرتی ہیں۔

باخبار یزید بن ہارون: باخبار جعفر بن کیسان: میں نے معاذہ کو بیروں کے بل پر بیٹھے ہوئے اور دونوں ٹانگوں اور پیٹھ پر کپڑا لپیٹے ہوئے دیکھا اور ان کے چاروں طرف عورتیں تھیں۔

ام الراسخ رباب بنت صلیح:

آپ سلمان بن عامر سے روایت کرتی ہیں اور آپ سے حفصہ بنت سیرین روایت کرتی ہیں۔

ام الہذیل، حفصہ بنت سیرین:

آپ محمد بن سیرین کی بہن ہیں اور سلمان بن عامر، عطیہ انصاریہ اور ابوالعالیہ سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار بکار بن محمد (از اولاد محمد بن سیرین): حفصہ بنت سیرین، سیرین و صفیہ کے تمام بچوں میں سب سے بڑی تھیں۔

صفیہ کی اولاد میں محمد، یحییٰ، حفصہ، کریمہ اور ام سلیم ہیں۔

باخبار فضل بن دکین: باخبار حفص بن غیاث از عاصم احوال از حفصہ بنت سیرین: مجھ سے انس بن مالک نے پوچھا: تم

کس بیماری میں مرنا پسند کرتی ہو؟ میں نے کہا: طاعون میں۔ فرمایا: اس لئے کہ وہ ہر مسلمان کی شہادت ہے۔

باخبار فضل بن دکین متحدیث حریث بن سائب: ہم حفصہ کے جنازے میں شامل تھے حسن بصری نے پوچھا: تمہارے

صاحب (محمد بن سیرین) کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وضو کر رہے ہیں۔ فرمایا: کیا پانی کے گھڑے سے؟

حجیرہ:

آپ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھائی۔ آپ سے عماد بنی روایت کرتے

ہیں۔ باخبار سفیان از عمار دہنی از حیرہ: ام سلمہ نے ہمیں عصر کی نماز جماعت سے پڑھائی اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔
ام الحجاج، عائشہ بنت عجرہ، جدلیہ:

باخبار کعب از جراح از قیس بنی مسلم از ام الحجاج جدلیہ: میں صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس سرخ خیمہ میں خیمہ کی تقات کے پیچھے تھی کہ اشتر نخعی آ کر پوچھتے ہیں: ام المومنین اس شخص (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) کے قتل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ فرمایا: اللہ کی پناہ کہ میں مسلمانوں کے امام کی خونریزی کا حکم دوں حدیث طویل ہے۔
صہباء بنت کریم:

باخبار کعب بن جراح از حسن بن علی از صہباء بنت کریم: میں نے صدیقہ سے پوچھا: اگر بیوی حیض کی حالت میں ہو تو شوہر کے لئے اس سے کیا چیز حلال ہے؟ فرمایا: بجز صحبت کے ہر چیز حلال ہے۔
ام موسیٰ:

آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں اور آپ سے مغیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔
ام خداش:

آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں۔
باخبار اسماعیل بن ابراہیم از سلمان تمیمی از ام خداش: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ شراب کے سرکہ کو سامان کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔
ام ذرہ:

باخبار ابو معاویہ از ہشام بن عروہ از محمد بن مکرر از ام ذرہ از عائشہ: اس مال کے بارے میں جسے صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس عبد اللہ بن زبیر نے بھیجا تھا آپ نے وہ تمام مال تقسیم کر دیا۔
باخبار عقان بن مسلم بخدیث حماد بن سلمہ از زید بن اسلم: بخدیث ام ذرہ: میں صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سر پران کے احرام میں مشک و عنبر کا طلا دیا کرتی تھی۔
ام بکرہ اسلمیہ:

باخبار عبد اللہ بن نمیر از ہشام بن عروہ از عروہ از جہان مولیٰ اسلم از ام بکرہ اسلمیہ: میں عبد اللہ بن اسید کے نکاح میں تھی پھر میں نے ان سے خلع حاصل کر لیا۔ پھر ہم دونوں نادوم ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے فتویٰ پوچھا۔ فرمایا: خلع ایک طلاق ہے لہذا یہ کہ تم نے جیسی نیت کی ویسی طلاق پڑے گی تم رجوع کر سکتے ہو۔
ام طلق:

باخبار ابو امامہ: بخدیث علی بن مسعدہ: بخدیث ابن رومی: میں ام طلق کے گھر گیا ان کے گھر کی چھت نیچی تھی میں نے کہا: ام طلق! تمہارے گھر کی چھت کس قدر نیچی ہے؟ فرمایا: عمر نے اپنے عاملوں کو لکھا تھا کہ اپنی عمارتیں اونچی نہ بناؤ جب تم اپنی عمارتیں

اونچی بنانے لگو گے تو وہ تمہارا بدترین زمانہ ہوگا۔

ام شعیب عبدیہ بصریہ:

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار ہشام ابوالولید طیلسی و عازم بن فضل: متحد یرث حماد بن سلمہ: باخبار ام شعیب: میں نے صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بال سیاہ کرنے کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا: مجھے بھی تمنا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی شے ہوتی جس سے میں اپنے بال سیاہ کر لیتی۔

عالیہ:

آپ ابیہ بن شراحیل کی دختر ابواسحق سمیعی کی بیوی ہیں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں ان سے سوالات کئے اور ان سے سماع حاصل کیا۔

باخبار یحییٰ بن عباد متحد یرث یونس بن ابی اسحق اپنی والدہ عالیہ سے: میں نے ام حجبہ کے ساتھ حج کیا پھر ہم دونوں صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو سلام کیا، آپ سے مسائل پوچھے اور آپ سے حدیثیں سنیں۔ فرماتی ہیں: میں نے صدیقہ رضی اللہ عنہا پر گلابی کرت اور سیاہ دوپٹہ دیکھا۔ پھر جب ہم واپس ہونے لگیں تو صدیقہ نے ہم سے کہا: تم میں سے ہر عورت پر حرام ہے کہ (چھپ کر) اور کان لگا کر اپنے شوہر کی باتیں سنے۔

ابلیہ ابوالسفر:

آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار ابواسامہ از مجالد ابوالسفر اپنی بیوی سے: میں نے صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عورت کے سر میں مشطہ (ایک قسم کی کنگھی) کے بارے میں جس میں شراب ہو پوچھا تو آپ نے مجھے اس سے زوردار الفاظ میں منع فرمادیا۔

ام حجبہ:

آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسائل پوچھے اور ان سے حدیثیں سنیں۔ آپ سے ابواسحق سمیعی روایت کرتے ہیں۔

عائذہ اسدیہ:

آپ نے ابن مسعود سے حدیثیں سنیں اور ان سے ایک حدیث روایت بھی کرتی ہیں۔ یعنی ابواسامہ از سفیان ثوری: بخبر واصل، بحدیث عائذہ (اور عائذہ کی تعریف کی) میں نے ابن مسعود سے اس حال میں کہ آپ مردوں اور عورتوں سے پھلانگ رہے تھے یہ فرماتے ہوئے سنا: لوگو! کان کھول کر سن لو تم میں سے جو کسی مرد کو یا عورت کو پائے تو دیکھو طریقہ پہلا ہی لازم پکڑو دیکھو روش پہلی ہی اختیار کر لو کیونکہ ہم آج فطرت پر ہیں۔

عمرہ بنت طیح:

آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار یعلیٰ و محمد پسران عبید: متحد ریث عمرو بن شوزب از عمرہ: میں اپنی لونڈی کو لے کر بازار گئی اور ہم نے ٹوکری میں ایک مچھلی خریدی جس کا منہ اور دم دونوں ٹوکری سے نکلے ہوئے تھے۔ پھر علی ہمارے پاس سے گزرے اور پوچھا: یہ کتنے کو خریدی؟ یہ بہت ہے اور عمدہ ہے اسے بچے پیٹ بھر کر کھائیں گے۔
مریم بنت طارق:

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار یعلیٰ و محمد پسران عبید: متحد ریث ابو حبان اپنے والد سے اور وہ مریم سے: میں نے انصار خواتین کے ساتھ حج کیا۔ اس حج میں میں صدیقہ سے ملنے گئی۔ عورتیں ان برتنوں کے بارے میں جن میں نبیذ بنائی جاتی ہے آپ سے پوچھنے لگیں۔ فرمایا: اے خواتین اسلام! تم نے مجھ سے ان برتنوں کے بارے میں پوچھا ہے جو عہد رسالت میں عام نہ تھے۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور جو چیز تم میں سے کسی میں نشہ پیدا کر دے اس سے بچو۔ اور اگر دانوں کا پانی نشہ آور ہو تو اس سے بھی بچو کیونکہ ہر نشہ آور شے حرام ہے (حدیث طویل ہے) محمد بن عبید فرماتے ہیں: ابو حبان نے فرمایا: یاد رکھو! میرے والد نے مجھ سے یہ حدیث اس وقت بیان کی جب مریم بنت طارق زندہ تھیں۔

جسرہ بنت دجاجہ عامریہ کو فیہ:

آپ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بسماح از عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔

باخبار احمد بن عبداللہ بن یونس، متحد ریث ابو بکر بن عیاش از قدامہ عامری از جسرہ بنت دجاجہ عامریہ: میں نے تقریباً چالیس عمرے کئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رنڈہ میں دیکھا۔
لیلیٰ بنت سعد:

آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور ان سے روایت بھی کرتی ہیں۔

باخبار اسماعیل بن ابراہیم اسدی از ابن جریج بخبر لیلیٰ بنت سعد: میں نے صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ آپ کرتے دوپٹہ اور تہ بند باندھے ہوئے نماز پڑھ رہی تھیں۔
ام محمد برکہ بن سائب بن برکہ ملی:

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں اور آپ سے آپ کے فرزند محمد بن سائب روایت کرتے ہیں۔

عمرہ بنت قیس بن عدویہ بصریہ:

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں، آپ سے مسائل پوچھے، آپ سے حدیثیں سنیں اور آپ سے روایت بھی کرتی

ہیں۔

باخبار یزید بن ہارون متحد ریث جعفر بن کیسان، متحد ریث عمرہ بنت قیس عدویہ: میں نے صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں

حاضر ہو کر طاعون سے بھاگنے کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: طاعون سے بھاگنا لڑائی سے بھاگنے کے مترادف ہے۔

ظبیہ بنت معلل:

آپ صدیقہ سے روایت کرتی ہیں۔

باخبا ریزید بن ہارون تحدیث فضیل بن مزوق از ظبیہ بنت معلل: میں صدیقہ سے ملنے گئی کہ ایک سائل آ گیا۔ آپ نے اسے انگوڑ کا ایک دانہ دے دیا۔ پھر آپ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا: میرے خیال میں تم اس پر تعجب کر رہی ہو یقیناً مانو اس میں بہت سے ذرات کا وزن ہے۔

ام عبدالرحمن دقرہ:

آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کی آپ سے حدیثیں سنیں اور آپ سے روایت بھی کرتی ہیں۔

ام علقمہ، مولاة عائشہ:

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں اور آپ سے آپ کے فرزند علقمہ بن ابی علقمہ حدیثوں کا کافی مجموعہ روایت کرتے ہیں۔

کبشہ بنت ابی مریم:

آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔

باخبا ر عثمان بن عمرو تحدیث ثابت بن عمارہ از ریطہ از کبشہ: لوگوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشروبات کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا: میں تم سے وہ چیزیں بیان کرتی ہوں جن سے رسول اللہ ﷺ ازواج مطہرات کو منع فرمایا کرتے تھے۔ آپ ہمیں کھجوروں کو منقوتوں کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور گھٹلی کو پکانے سے بھی۔

صافیہ:

آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حنی سے روایت کرتی ہیں۔

باخبا ریزید بن ہارون از حماد بن سلمہ از صافیہ: حماد نے صافیہ سے سنا فرماتی ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حنی کو دیکھا کہ آپ نے امام کے نکلنے سے قبل چار رکعت نماز پڑھی اور امام کے ساتھ جمعہ کی دو رکعتیں پڑھیں۔

ام حبیب بنت ذویب بن قیس عزیہ:

آپ اپنے بھتیجا صفی سے اور وہ صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حنی سے روایت کرتی ہیں۔

باخبا ر انس بن عیاض از عبدالرحمن بن حرمہ از ام حبیب (آپ ایک اسلمی کے نکاح میں تھیں) پھر پھر ام المؤمنین صفیہ کے بھتیجا کے نکاح میں آ گئیں۔ عبدالرحمن کہتے ہیں: پھر ہمیں ام حبیب نے ایک صاع بہہ کیا اور انہوں نے میرے بھتیجا صفیہ سے اور انہوں نے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا صاع ہے۔ انس فرماتے ہیں میں نے اس کا اندازہ لگایا

تو اسے ہشام والے مد سے ڈیڑھ ماہ کا پایا۔

طفیلہ مولا ؓ ولید بن عبد اللہ بن جمح:

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں اور آپ سے ولید بن عبد اللہ جمح روایت کرتے ہیں۔

ام عیسیٰ بن عبد الرحمن سلمی:

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور آپ سے عیسیٰ بن عبد الرحمن سلمی روایت کرتے ہیں۔

ابنہ رقیقہ ام عبد ربہ بن حکم:

آپ اپنی والدہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار ضحاک بن خالد، محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن یحییٰ بن کعب ثقفی از عبد ربہ بن حکم: مجھے میری والدہ ابنتہ رقیقہ نے بتایا کہ ان کی والدہ نے انہیں خبر دی کہ جب رسول اللہ ﷺ طائف تشریف لائے تو تعاون کے لئے ہمارے پاس آئے میں نے آپ کو ستویا لائے۔ فرماتی ہیں مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم ان کے بت کی عبادت نہ کیا کرو اور نہ اس کے لئے نماز پڑھا کرو میں نے کہا: پھر تو وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ فرمایا: جب وہ تم کو عبادت کرنے کو کہیں تو تم یوں کہہ دیا کرو میرا رب وہی ہے جو اس بت کا رب ہے اور نماز پڑھتے وقت اس بت کی طرف پشت کر لیا کرو۔ پھر رسول اللہ ﷺ ان کے پاس سے چلے گئے پھر مجھے میرے بھائیوں سفیان اور وہب پسران قیس بن ابان نے بتایا کہ ثقیف مشرف بہ اسلام ہو کر سرور عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی ﷺ نے ان سے پوچھا تم دونوں کی ماں کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا وہ اسی حال میں فوت ہو گئیں جس حال میں آپ نے انہیں چھوڑا تھا۔ فرمایا: پھر تو تمہاری ماں مسلمان ہو گئی تھیں۔

تمملک کوفیہ:

آپ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اور آپ سے ابوالحق سمعی روایت کرتے ہیں۔

باخبار حسن بن موسیٰ محمد بن زبیر از ابوالحق از حملک: میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا فرمایا جب تو روٹی میں چھری

رکھے (اسے کاٹنے کا ارادہ کر لے) تو بسم اللہ پڑھ کے کھالے۔

غزلیہ:

آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔

باخبار حسن بن موسیٰ محمد بن زبیر، محمد بن یحییٰ بن ابی ظبیان، غزلیہ نے ان سے بیان کیا کہ میں ام المؤمنین کے پاس

تھی کہ ایک نوجوان لونڈی دو بدھیاں پہنے ہوئے آتی ہیں (بقول قابوس تموں کی بدھیاں تھیں) فرماتی ہیں: میں نے کہا: ام

المؤمنین! آپ اسے پردہ کا حکم کیوں نہیں فرماتیں؟ فرمایا: ابھی یہ بالغ نہیں ہوئی بلوغت کے بعد بے حیائی نہیں دوسرے یہ لونڈی

ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں۔

صفیہ بنت زیاد:

آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔

باخبا محمد بن عمر بن محمد بن ابی ذئب از صفیہ بنت زیاد: مجھے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا جبکہ میں اپنے حیض کے کپڑے دھو رہی تھی۔ فرمایا: ہم ایسا نہیں کیا کرتے تھے ہم تو بس اچھی طرح سے کھرچ لیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں: میں نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے سنا فرماتی تھیں حائضہ کے پینے میں کوئی حرج نہیں۔

قمیرہ، اہلیہ مسروق:

آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔

کبشہ بنت حارث، اہلیہ شریح:

باخبا روکیع از سفیان از داؤد و جاہ از عامر از شریح: میں نے کبشہ کو طلاق دی اور بطور متعہ کے پانسو درہم دیئے۔

ام اسماعیل بنت ابی خالد ہمشیرہ سکیئہ:

دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئیں اور آپ سے حدیثیں سنیں۔

باخبا عبداللہ بن نمیر از اسماعیل بن ابی خالد اپنی والدہ اور اپنی بہن سے: یہ دونوں ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ سے ایک عورت نے پوچھا: کیا احرام کی حالت میں اپنا منہ ڈھانپ سکتی ہوں؟ آپ نے اپنے سینے سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیا یعنی چہرہ کھلا رکھو۔

باخبا محمد بن عبید طنافسی از اسماعیل بن ابی خالد اپنی والدہ سے اور ہمشیرہ سکیئہ سے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو گلابی کرتے اور سیاہ دوپٹہ میں دیکھا۔

زینب اہلیہ قیس بن ابی حازم:

آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں اور آپ سے آپ کے شوہر قیس بن ابی حازم روایت کرتے

ہیں۔

جدہ صالح بن حیان:

آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت جحی سے روایت کرتی ہیں۔

باخبا یحییٰ بن عبید بن محمد بن صالح بن حیان اپنی دادی سے: مجھ پر اس دن سے کوئی سخت دن نہیں آیا جس دن مدینہ میں مٹی کی دل آیا مجھے صفیہ رضی اللہ عنہا بنت جحی نے حکم دیا کہ میں مٹیوں کو روغن زیتون میں بھون کر لاؤں تاکہ انہیں وہ کھائیں۔

الرباب:

آپ عثمان بن حکیم بن عباد بن حنیف کی دادی ہیں۔

باخباہر یعلیٰ بن عبیدطافسی بخدیث عثمان بن حکیم اپنی دادی رباب سے: عثمان بن حنیف نے کہا: اے لونڈی! مجھے جانماز اٹھا دے۔ بولی میں نماز نہیں پڑھتی۔ فرمایا: تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آخر اس نے آپ کو جانماز پکڑا دی پھر آپ نے کھڑے ہو کر ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ کی چادر مسجد کے پاس کھٹھی پر لٹکی ہوئی تھی۔

سہلی بنت کعب اسدیہ:

آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لفظ (گری پڑی چیز) کے بارے میں ایک حدیث روایت کرتی ہیں۔ یعنی حدیث عبید اللہ بن موسیٰ بن اسرائیل۔

ام کلثوم:

آپ سالم بن عبید اللہ بن عمر بن خطاب کی اہلیہ ہیں۔

باخباہر معن بن عیسیٰ بخدیث خالد بن ابی بکر: میں نے ام کلثوم پر عصفر میں رنگے ہوئے کپڑے دیکھے۔

ام قیس:

آپ عمرو بن میمون بن مہران کی دادی ہیں اور مسروق سے روایت کرتی ہیں۔

باخباہر یزید بن ہارون از عمرو بن میمون از میمون اپنی دادی ام قیس سے: میں مسروق کے پاس سے زنجیروں کے ساتھ گزری اور میرے ساتھ ساتھ بیل تھے جن پر پیڑ اور اخروٹ لدے ہوئے تھے۔ پوچھا: تم کیا ہو؟ میں نے کہا: میں ایک مکاتبہ لونڈی ہوں۔ فرمایا: اسے چھوڑ دو کیونکہ کتابت کے مالک میں زکوٰۃ نہیں۔

فاطمہ بنت محمد:

آپ عبداللہ بن ابی بکر کی بیوی ہیں۔

باخباہر یعلیٰ بن عبید از ابن اسحق از عبداللہ بن ابی بکر اپنی بیوی فاطمہ بنت محمد سے (جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیر تربیت تھیں) ایک قرشی خاتون نے عمرہ کے پاس ایک ڈبہ بھیجا جس میں روٹی تھی اور اس میں زرد دھبے تھے۔ پوچھا جب عورت کو اس قسم کے دھبے آنے لگیں تو کیا وہ حیض سے پاک ہو جاتی ہے؟ فرمایا: نہیں جب تک خالص سفیدی نہ دیکھ لے۔

ندبہ، مولاۃ ابن عباس:

آپ عروہ سے روایت کرتی ہیں یعلیٰ بن عبید فرماتے ہیں: بخدیث عثمان بن حکم از ندبہ مولاۃ ابن عباس رضی اللہ عنہا: جب عروہ بن زبیر حج کے لئے روانہ ہوتے اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی ہوتیں اور دیگر گھروالے بھی تو آپ انہیں حکم فرماتے کہ شرط کر لیں۔

میمونہ:

آپ عبداللہ بن معقل بن مقرر مزی کی دختر ہیں اور اپنے والد سے ابو اسامہ والی حدیث بیان کرتی ہیں۔ محمد بن سعد فرماتے ہیں: میں نے یہ حدیث ان سے اور وہ عبداللہ بن ولید سے اور وہ میمونہ سے کہ ان کے والد سے منقول کے نقوع

www.islamiurdubook.blogspot.com

کے بارے میں پوچھا گیا اور انہوں نے اسے مکروہ بتایا، نہیں سنی۔

ام ثور:

آپ سے جابر بھی روایت کرتے ہیں اور آپ اپنے شوہر بشر سے روایت کرتی ہیں کہ بشر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے۔

ہنیدہ:

آپ ابراہیم نخعی کی اہلیہ ہیں آپ سے شعب بن حجاب روایت کرتے ہیں۔

ملیکہ:

آپ نعمان بن قیس کی خالہ ہیں جن سے محمد بن فضیل غزو ان روایت کرتے ہیں اور آپ سے نعمان بن قیس یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عیدہ سے منذر کے بارے میں پوچھا۔

حجر:

آپ قرط کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی دختر رقیقہ ہیں۔

رقیقہ:

آپ عبدالرحمن کی صاحبزادی ہیں۔

باخبار اسباط بن محمد بن موسیٰ بن عبیدہ ربذی بحدیث رقیقہ بنت عبدالرحمن اپنی والدہ حجر بنت قرط سے: مقام ابراہیم آسمان سے اتارا گیا تھا۔

حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چند دنوں کی محنت شاقہ کے بعد اس نے الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی آٹھویں جلد کا ترجمہ مکمل کرادیا۔

بمزل می رسد جو یائے کام آہستہ آہستہ

اب اللہ تعالیٰ جل مجدہ سے دُعا ہے کہ وہ اسے شرف قبولیت بخشے اور مترجم و ناشر دونوں کے گناہوں سے تجاوز فرمائے۔ اے آخرت کا ذریعہ بنائے اور قارئین کرام کو اپنی رحمت سے نوازے۔ (آمین)

اللهم اغفر لکاتبه و لهن سعی فيه و للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات بحرمه النبی الکریم علیه

الصلوة و التسليم

